


Provincial Assembly of West Pakistan Debates

1ST MAY, 1968

2nd Safar-ul-Muzaffar, 1388 A.H.

Vol. VII—No. 1

OFFICIAL REPORT



CONTENTS

Wednesday, the 1st May, 1968

	Page
Recitation from the Holy Qur'an	1
Starred Questions and Answers	2
Answers to Starred Questions laid on the Table	40
Unstarred Questions and Answers	58
Reference to—	
<i>Late Nawab Amir Muhammad Khan of Kala Bagh</i>	59
<i>Late Chaudhri Ghulam Abbas</i>	59
<i>Late Sufi Abdul Hamid Khan</i>	60
<i>Late Mian Muhammad Amin Kanjoon</i>	60
<i>Late Mr. Muhammad Hashim Gazdar</i>	61
<i>Late Mr. Abdul Majid Jatoi</i>	61
<i>Late Allama I. I Kazi</i>	61
<i>Late Allama Hafiz Kifayat Hussain</i>	62
Panel of Chairmen	73
Hours of Sittings of the Assembly	73
Adjournment Motions—	74
<i>Construction of a cinema house in the vicinity of two mosques in Nazimabad No. 1, Karachi</i>	74

Price: Rs.

PROVINCIAL ASSEMBLY OF WEST PAKISTAN

SEVENTH SESSION OF THE SECOND PROVINCIAL ASSEMBLY
OF WEST PAKISTAN

Wednesday, the 1st May, 1968

چهار شنبہ - ۲ صفر المظفر ۱۳۸۸ھ

The Assembly met at the Assembly Chamber, Lahore at 8-00 a.m. of the clock. Mr. Speaker, Chaudhri Muhammad Anwar, in the Chair.

Recitation from the Holy Qur'an by Qari Ali Hussain Siddiqi (Qari of the Assembly) and its translation.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُورٰى بَيْنَهُمْ وَاَوْسَارًا زَيْنُهُمْ يَبْتَغُونَ وَاَلَّذِينَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ
وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا مَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاجْرٌ وَعَلَى
اللّٰهِ وَاِنَّهُ لَكَبِیْرُ الْعَظِیْمِۙ وَاَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلِيْمًاۙ مَا كَلِمَتُهُمْ
مِّنْ سَبِيْلٍ وَّاِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِیْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِی الْاَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ وَاَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ
عَزْمٌ مِّنَ الْاُمُوْرِ

رپ ۲۵ - ص ۲۲ - ع ۵ - آیات ۲۸ تا ۳۲ -

اور جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نازاؤا کرتے ہیں اور اپنے
سارے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے انکو عطا کیا ہے۔ اس میں سے چھچھ کاموں میں خرچ
کرتے ہیں۔ اور جو ایسے لوگ ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو تو مناسب طریقے سے بدلالتے ہیں۔ اور برائی کا بدلہ
تو بالکل اسی کے مانند برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کرے تو اس کا بدلہ اللہ کھینچے ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد استقامت سے تو
ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناانصافی
و بناوٹ پھیلاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنکو دردناک عذاب ہوگا۔ اور جو برداشت کر جائے اور درگزر کر دے تو یہ
بڑے عرصے و ہمت کے کام ہیں۔
وما علینا الا البلاغ

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker : The Question Hour. Mr. Zain Noorani

AMOUNT COLLECTED FROM ZAMINDARS OF KARACHI AS MUSLIM
CESS

*9987. Mr. Zain Noorani : Will the Minister for Revenue please refer to answer to my Short Notice Question No. 6257, given on the floor of the House on 4th July 1967 and state the total amount collected from the Zamindars of Karachi district from 1952 to 1967 yearwise as MUSLIM CESS at the rate of 6 paisas per rupee ?

Parliamentary Secretary (Agha Sadr-ud-Din Khan Durrani) :

Serial No.	Year	Amount of Muslim Education Cess collected
		Rs.
1.	1952-53	9,196.78
2.	1953-54	8,283.07
3.	1954-55	8,569.52
4.	1955-56	11,838.11
5.	1956-57	13,261.63
6.	1957-58	11,553.38
7.	1958-59	13,721.09
8.	1959-60	17,085.75
9.	1960-61	12,802.88
10.	1961-62	17,797.64
11.	1962-63	16,737.48
12.	1963-64	16,389.67
13.	1964-65	17,933.42
14.	1965-66	18,477.24
15.	1966-67	10,087.45

Mr. Zain Noorani : In what fund or under what head of account is this amount of two lakhs three thousand and thirty five being kept by the Government ?

Minister of Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan) : Will he repeat his question ?

Mr. Zain Noorani : Under what head of account or in what fund— or whether it is the suspense fund or any other head—is this fund of two lakhs three thousand and thirty five, realised from Karachi, being kept by the Government ?

Minister of Revenue : Under the Revenue Head.

Mr. Zain Noorani : During the answer to this question on the 4th of July an assurance was given by the Minister that he would consider having this amount utilised for the benefit of the people of the area from which it was realised. May I know what progress has been made in this regard ?

Minister of Revenue : Sir I don't think I had said that it will be spent for the welfare of the people. In fact the amount is to be spent by the Education Department. This question, if at all, relates to the Education Department.

Mr. Speaker : Was the assurance given by the Minister of Revenue or the Minister of Education ?

Mr. Zain Noorani : It was given by the Minister of Revenue when I suggested on 4th of July whether it will be considered sympathetically. The Minister of Education does not come into the picture because this, as admitted by the Minister of Revenue, was an unauthorised cess, which has no legal standing and no proper purpose, for which it is going to be utilized, had been laid down. If it is to be used by the Education Department there should be an assurance given in this House that the money will be placed at the disposal of the Education Department. After all, what is going to happen to this money, which is lying in suspense. Something has got to be done.

Minister of Revenue : I think I had replied last time that this cess was credited to Head '7—Land Revenue', but it was for the Education authorities to reply how the money of Muslim Cess will be utilized. It was not to be utilized by the Revenue Department for any purpose.

Mr. Zain Noorani : Can I take this to mean that this amount would be made available to the Education Department ?

Minister of Revenue : I don't know Sir. This will have to be locked into. I can't say anything now ; I can't make any commitment on behalf of the Government.

Mr. Speaker : The Member wants to know as to how this fund will be utilized.

Minister of Revenue : Actually, Sir, we have been trying to find out something more about this but we have failed. There is no record in any Office, we have made enquiries from all departments. That is why I say, Sir, that we cannot make any commitment. We will pursue the matter and try to collect more information about it. As soon as it is available, we will place it before the House.

Mr. Zain Noorani : Sir, this is two and a half months Session, and if you will permit, when they are ready with the facts of the matter, they can come up again. But on the 4th of July same position was prevailing that it will be considered sympathetically. Today the position is the same. It would help us if this question comes up again.

Minister of Revenue : I will try.

CONSOLIDATION OF REVENUE ESTATES

*9996. Mr. Zain Noorani : Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) the total number of Revenue Estates that have been consolidated in the year 1967 along with the total acreage of the same ;

(b) the total number of plots consolidated as per (a) above along with the Division-wise break-up of the same ?

Parliamentary Secretary (Agha Sadr-ud-Din Khan Durrani) : The requisite reply is as under :—

(a) (i) Total number of Revenue Estates consolidated.	602
(ii) Total area consolidated	11,03,550
(b) (i) Total number of plots consolidated ...	1,38,654
(ii) Division-wise break up—	
(1) Lahore	... 42,855 plots.
(2) Rawalpindi	... 23,788 plots.
(3) Sargodha	... 51,665 plots.
(4) Multan	... 46,075 plots.
(5) Peshawar	... 18,807 plots.
(6) D. I. Khan	... 5,386 plots.
(7) Bahawalpur	... 78 plots.

Mr. Zain Noorani : Sir, with the work of consolidation, as stated in this Table, being completed, is it a fact that the work of consolidation in these areas has now been completed ?

Minister of Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan) : The fact that so many dehs have been completed means that the work has been completed.

Mr. Zain Noorani : Does it imply that no more consolidation work remains in these areas ?

Minister of Revenue : In regard to dehs, which have been shown as completed, it means that the work has been completed.

 BOGUS ALLOTMENT OF LAND IN THATTA

*10007. Mr. Zain Noorani : Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that in the month of October, 1967 case of bogus and fictitious allotment of land and grant of taccavi loans in Thatta have been brought to the notice of the Government ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, whether it is a fact that two Mukhtiarkars, one Head Munshi, two Tapedars, and one Supervising Tapedar were found to be involved in these bogus and fraudulent allotments ;

(c) if answer to (b) above be in the affirmative, what action has the Government taken in the matter or intends to take ?

Parliamentary Secretary (Agha Sadr-ud-Din Khan Durtani) : (a) Yes

(b) Yes ; but only one Mukhtiarkar is involved.

(c) A case has been registered against the accused official by the Anti-Corruption Establishment in Thatta District and investigation is in progress.

حاجی سردار عطا محمد - کیا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب اس
مختار کار کا نام بتا سکتے ہیں ؟

وزیر مال (مسٹر غلام سرور خان) - اس کا نام ولی محمد ہے ۔

حاجی سردار عطا محمد - یہ مقدمہ کس کی عدالت میں داخل
کیا گیا ہے ؟

وزیر مال - یہ مقدمہ ابھی کسی کی عدالت میں نہیں پہنچا ہے ۔
اس کی اینٹی کرپشن کے پاس investigation ہو رہی ہے ۔

Mr. Zain Noorani : Sir I only want a clarification regarding the language. My question said: "if answer to (a) above be in the affirmative, whether it is a fact that two Mukhtiarkars, one Head Munshi, two Tapedars, and one supervising Tapedar were found to be involved in these bogus and fraudulent allotments;" The answer says: "Yes ; but only one Mukhtiarkar is involved." Does it mean that only one man is involved or others also are involved?

Minister of Revenue : I agree that the reply is a bit ambiguous. I will clarify. Actually all were involved, except instead of two Mukhtiarkars only one was involved ; the rest were all involved.

Mr. Zain Noorani : What is the latest position about the enquiry ?

Minister of Revenue : It is in the investigation stage.

ملک محمد اسلم خان - کیا وزیر صاحب یہ بتا سکیں گے کہ کل کتنی زمین الاٹ ہوئی ہے اور اس میں کتنی زمین ہوگس طریقہ سے الاٹ ہوئی ہے -

وزیر مال - زمین کے متعلق میرے پاس فیگرز نہیں ہیں اگر آپ نیا سوال دے دیں تو میں زمین کے متعلق بتا دوں گا -

Mr. Zain Noorani : Are you aware of the amount involved by way of taccavi loans?

Minister of Revenue : No. I can't tell you the amount. I can, however, tell you this much that in addition to the amount of the land, each man was given one thousand rupees in the form of taccavi.

RECOVERY OF LAND REVENUE

***10054. Chaudhri Muhammad Idrees :** Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) the total amount of land revenue assessed to be recovered in each district of the Province during Kharif 1966 and Rabi 1967 along with the amount actually realised and the amount still to be recovered ;

(b) the name of each defaulter against whom more than Rs. 2,000 is outstanding as arrears of land revenue in respect of the above said two crops and steps taken by Government for the recovery of the said amount ?

Parliamentary Secretary (Agha Sadr-ud-Din Khan Durrani) : (a) and (b) Statements containing the information are laid on the Table.*

چودھری محمد ادریس - جناب میں محترم وزیر مال کی توجہ اس statement کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا کہ بہت کافی رقم زمینداروں کی طرف واجب الادا ہے اور یہ خاص طور سے دو تین اضلاع یعنی پشاور، حیدرآباد اور ٹھٹہ کے زمینداروں کے ذمہ باقی ہے اور سابقہ پنجاب کے ایک ضلع کے سوا باقی کسی زمیندار کے ذمہ یہ روپیہ باقی نہیں ہے اگر سابقہ پنجاب کے زمینداروں سے

روپیہ وصول ہو سکتا ہے تو باقی اور ضلعوں سے آپ نے روپیہ وصول کرنے کے لئے کیا کارروائی کی ہے ؟

وزیر مال (مسٹر غلام سرور خان) - جس چیز کے متعلق جو جو کارروائی کی گئی ہے وہ متعلقہ کالم میں دی گئی ہے لیکن یہ کہ پنجاب کے زمینداروں سے روپیہ وصول ہو چکا ہے اور باقی سے وصول نہیں ہوا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں گزشتہ چند سالوں میں فصلات اچھی نہیں ہوئی ہیں اور بعض جگہوں پر دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لینڈ ریونیو کے عملہ نے سرکاری مالیہ کے وصول کرنے میں سستی سے کام لیا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں بعض علاقوں میں فصلات اچھی نہیں ہوئی ہیں اور بعض علاقوں میں اچھی ہوئی ہیں -

مسٹر حمزہ - کیا جناب وزیر مال بتا سکتے ہیں کہ محکمہ مال کے پاس واجبات کی وصولی کے لئے بہت وسیع اختیارات ہیں اور پھر آپ کے پاس ایک طریقہ واجبات کی وصولی کا وہ بھی ہے جو غلام مصطفیٰ کھر کے ساتھ آپ نے استعمال کیا تھا - لہذا آپ نے وہی طریقہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے مالیہ ادا نہیں کیا - کیوں نہیں استعمال کیا ؟

وزیر مال - آخری کام میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے cases میں یہ طریقہ استعمال کیا گیا ہے -

چودھری محمد نواز - کیا وزیر مال صاحب اس رقم کی طرف توجہ فرمائیں گے جو بقایا جات سے متعلق ہے اور کیا وہ یہ فرمائیں گے کہ ان بقایا جات کے وصول کرنے میں کتنی مدت درکار ہو گی ؟

وزیر مال - مدت کا بتانا قدرے مشکل ہوگا لیکن ہم کوشش کر

رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم وصول کر لیں -

چوہدری محمد ادريس - کیا وزیر موصوف ہاؤس کو یقین دہانی کرائیں گے کہ وہ زمینداروں سے اس وصولی کے متعلق کسی قسم کا نرمی کا برتاؤ نہیں کریں گے ؟

وزیر مال - آپ چاہتے ہیں کہ سختی کی جائے لیکن حمزہ صاحب فرماتے ہیں کہ سختی نہ کی جائے بہر حال جیسے مناسب ہو گا کارروائی کی جائے گی -

چوہدری محمد نواز - حمزہ صاحب نے ایسا نہیں کہا -

مسٹر حمزہ - بعض اوقات سیاسی وجوہات کی بنا پر کارروائی نہیں کی جاتی - اس ضمن میں ایک زندہ مثال غلام مصطفیٰ کھر کی ہے - میں دریافت کرتا ہوں کہ کیا وزیر موصوف یہ علاج ان کے خلاف استعمال کریں گے یا نہیں ؟

Mr. Speaker : This is repetition of the previous supplementary. Next question.

TACCAVI LOANS

***10055. Chaudhri Muhammad Idrees :** Will the Minister for Revenue be pleased to state : -

(a) the amount sanctioned for giving taccavi loans during 1966-67 in each district of the Province ;

(b) the amount out of that mentioned in (a) above, advanced in each district during the said year and the amount, if any, remained undistributed therefrom along with reasons therefor ?

Parliamentary Secretary (Agha Sadr-ud-Din Khan Durrani) : (a) The amount sanctioned for giving taccavi loans during the year 1966-67 by the Commissioner concerned in each district of the Province is given in the Statement No. 11 placed on the Table of the House.*

* Please see Appendix II at the end.

(b) the amount expended in each district and the amount remained undischarged along with reasons therefor are shown in the Statement No. II placed on the Table of the House.*

RECORDS OF RIGHTS

*10067. **Chaudhri Muhammad Idrees** : Will the Minister for Revenue be pleased to state the names of such tehsils as well as estates in the Province where Records of Rights were not available on 31st October 1967 ?

Parliamentary Secretary (Agha Sadr-ud-Din Khan Durrani) : Statement containing the requisite information is placed on the Table of the House.*

TRANSFER OF EVACUEE PROPERTY

*10068. **Chaudhri Muhammad Idrees** : Will the Minister for Rehabilitation be pleased to state the number of Appeals or Revision Applications as on 31st October 1967 pertaining to the transfer of evacuee property, which are lying pending with different Settlement Authorities in the Province for want of decision along with the time by which decision will be taken on them ?

Parliamentary Secretary (Agha Sadr-ud-Din Khan Durrani) : 3767 cases were pending on 31st October 1967 in respect of the transfer of evacuee property with different Settlement Authorities. No target date for the disposal of the judicial cases can be fixed. However, efforts are being made for early disposal of the pending cases.

*Please see Appendix II at the end.

*Please see Appendix III at the end

چودھری محمد ادریس - جناب والا - میں وزیر مال صاحب کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ کئی ایسے cases ہیں جو کئی سالوں سے pending پڑے ہیں - میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کیا پرانے cases آپ کے محکمہ نے dispose of کر دیئے ہیں ؟

وزیر مال (مسٹر غلام سرور خان) - ہم اس سلسلے میں ضرور کوشش کریں گے -

TRANSFERRING EVACUEE PROPERTY

*10069. **Chaudhri Muhammad Idrees** : Will the Minister for Rehabilitation be pleased to state the number of evacuee houses, shops and other property, in each District of the Province, which remained to be transferred on 30th October 1967 ?

Parliamentary Secretary (Agha Sadr-ud-Din Khan Durrani) : A statement showing the required information is laid on the Table of the House.

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF EVACUEE PROPERTIES REMAINED TO BE DISPOSED OF AS ON 30TH OCTOBER 1967

Station	Houses	Shops	Other Properties
Abbottabad	158	57	34
Bahawalpur	10	..	42
Bannu	104	18	29
Bahawalnagar	17	..	2,259
Campbellpur	38	13	5
D. G. Khan	32	36	425
D. I. Khan	439	324	288
Dadu	1,608	1,288	1,634
Gujrat	548	219	57
Gujranwala	188

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

11

<i>Station</i>	<i>Houses</i>	<i>Shops</i>	<i>Other Properties</i>
Hyderabad ..	3,094	548	1,552
Jacobabad ..	213	168	51
Jhang ..	61	105	92
Jhelum ..	37	18	328
Kohat ..	2	2	1
Karachi
Khairpur	248
Lahore ..	48	69	1,094
Larkana ..	3,154	1,346	747
Lyallpur ..	1,058	20	4,243
Mardan ..	4	15	5
Multan ..	125	37	7,595
Muzaffargarh ..	96	35	270
Mianwali ..	3	3	55
Mirpurkhas ..	1,116	6	594
Nawabshah ..	2,097	793	642
Peshawar ..	214	112	99
Quetta
R. Y. Khan ..	260	78	912
Rawalpindi ..	290	81	467
Sheikhupura ..	11	10	5
Sialkot ..	177	52	48
Sahiwal ..	1,161	88	67
Sargodha ..	1	..	52
Sukkur ..	2,153	976	205

Station	Houses	Shops	Other Properties
Sanghar ..	537	164	270
Shikarpur ..	2,116	584	2,841
Thatta ..	464	270	1,836

چوڑھری محمد نواز - کیا وزیر موصوف فرمائیں گے کہ جو لسٹ انہوں نے اس میں دی ہے - اس کو اگر دیکھا جائے تو سابق سندھ کے جو اضلاع ہیں مثلاً دادو - خیرپور - لاڑکانہ - میرپور خاص - نواب شاہ - سکھر - ٹھٹہ - ان اضلاع میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیٹلمنٹ کا کام نہیں ہوا اور وہاں کے تمام کے تمام cases pending ہیں - میں دریافت کرتا ہوں کہ کیا وجوہات ہیں کہ آج تک یہ کام ان اضلاع میں پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا ؟

وزیر مال (مسٹر غلام سرور خان) - اگر آپ علیحدہ علیحدہ ضلع کے متعلق انفارمیشن چاہتے ہیں تو میں اس کے متعلق تفصیل حاصل کر کے بنا سکوں گا۔ یہاں لسٹ تو دی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ تفصیل کے متعلق انفارمیشن چاہتے ہیں تو میں کارروائی کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن بہت سے cases میں الاٹمنٹ ہو چکی تھی اور جنہوں نے اس کی قیمت ادا نہیں کی یا اس کی قیمت ادا کرنے سے قاصر رہے تو اس بنا پر ان کے خلاف نئے مقدمات بن گئے اس لیے ان cases میں اضافہ ہو گیا اور اس کے علاوہ بعض unattractive properties بھی تھیں جن کی وجہ سے cases کی تعداد میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ بہت سے فیصلے ہو چکے ہیں۔ اب میرے خیال میں جو کام ہے وہ زیادہ نہیں اور وہ ہو جائے گا مگر دراصل بات یہ ہے کہ ہر انے cases نے نئی شکل اختیار کی اس لیے pendency زیادہ ہو گئی۔

بابو محمد رفیق - جناب والا - میں وزیر مال صاحب کی توجہ اس

طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے statement دی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں سبی کا نام ہی نہیں ہے۔ وہاں کی پراپرٹی ابھی تک dispose of نہیں ہوئی تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔

وزیر مال - شاید وہاں cases pending نہ ہوں۔

بابو محمد رفیق - میں جناب والا عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سبی کی پراپرٹی کے dispose of کرنے کا بندوبست کریں۔

وزیر مال - میں پتہ چلاؤں گا۔

قاضی محمد اعظم عباسی - ساھیوال میں بھی مکانات کے کئی cases pending ہیں۔ ان کی طرف کیوں توجہ نہیں دی گئی؟

چودھری محمد نواز - میرا خیال ہے سبی کے بجائے ساھیوال کا لفظ لکھ دیا گیا ہے۔

وزیر مال - میں پتہ کر کے تفصیل سے عرض کر دوں گا۔

GRANT OF FULL PROPRIETARY RIGHTS TO ALLOTTEES OF LAND OWNED
BY MUSLIM LAND LORDES BUT HELD BY NON-MUSLIM
OCCUPANCY TENANTS

*10078. Chaudhri Muhammad Sarwar Khan: Will the Minister for Revenue and Rehabilitation please refer to answer to starred question No. 7975, given on the floor of the House on 27th September 1967, and state:—

(a) whether it is a fact that the proposal for the grant of full proprietary rights to the allottees of land owned by Muslim landlords but held by non-Muslim occupancy tenants was originally taken in hand in 1951;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, reasons for this inordinate delay in granting full proprietary rights to such allottees

alongwith exact date by which the allottees of such land will be given full proprietary rights ?

Parliamentary Secretary (Agha Sadr-ud-Din Khan Durrani) : (a) No.

(b) The Central Government were in the first instance requested in May 1959 to issue a Gazette Notification exempting the land held by evacuee occupancy tenants but owned by non-evacuee landlords from the purview of the Pakistan (Administration of Evacuee Property) Act, 1957 so that the provisions of Section 114 of the Punjab Tenancy Act and Sections 4 and (4)A of the North Western Province Act could be made applicable to such lands also. The Central Government, after careful consideration, replied in 1962 that since all evacuee agricultural land had already been acquired for the compensation pool under the Displaced Persons (Land Settlement) Act 1958, the relevant provisions of the Pakistan (Administration of Evacuee Property) Act, 1957 had become inoperative. Thereafter, the Central Government has not been in the picture. It was not considered necessary to pursue the matter further, as full proprietary rights had not been conferred under the Displaced Persons (Land Settlement) Act, 1958 even upon the claimant allottees of evacuee agricultural land other than the allottees of land held by evacuee occupancy tenants. Full proprietary rights were conferred in the aforesaid cases as a result of the amendment in the Displaced Persons (Land Settlement) Act, 1958, carried out on 24th December, 1964. Thereafter, the question of amending the Punjab Tenancy Act of 1887 and N.-W. F. P. Tenancy Act of 1850 has been under discussion between the concerned Departments of the Provincial Government and the case will shortly be submitted to the Council of Ministers for orders. It is not possible to give the date of finalisation of the matter at this stage. It should, however, be possible to obtain a decision by the end of the year.

ALLOTMENT OF LAND IN TEHSIL SHAKARGARH

*10129. Mr. Hamza : Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that agricultural land and abadi of village Khanpur Afghan, Tehsil Shakargarh, District Sialkot was washed away by river Ravi in 1955 ;

(b) whether it is a fact that the land owners of the said village have not so far been given any alternative land ;

(c) whether it is a fact that some of the land out of that mentioned in (a) above has been reclaimed due to the diversion of the said river ;

(d) whether it is a fact that the reclaimed land mentioned in (c) above has been allotted to the military personnel ; if so, the total area allotted to the military personnel ;

(e) if answer to (c) and (d) above be in the affirmative, reasons for not giving the said reclaimed land to original owners and whether Government intend to do so now or allot them alternative land?

Parliamentary Secretary (Agha Sadr ud-Din Khan Durrani) : (a) Yes.

(b) No. Some of them were granted land under the Rehabilitation Settlement Scheme in other villages.

(c) Yes. 231 acres.

(d) Yes. An area of 106 acres has been allotted to the displaced persons against their verified claims and 125 acres to the Military Personnel by the Border Area Allotment Committee.

(e) The land reclaimed being within 5 miles belt of the Indo-Pak Border, its allotment by the Border Area Allotment Committee cannot be disturbed, at this stage. As far the original land owners are concerned, as many as 29 have been settled on alternative land and the rest are being provided alternative land.

مسٹر حمزہ - آپ نے جواب کے آخری حصہ میں فرمایا ہے کہ ان بدقسمت کاشتکاروں میں سے ۲۹ کو متبادل اراضی دے دی گئی ہے - کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ باقی کتنے ہیں جنہیں اراضی نہیں دی گئی -

وزیر مال (مسٹر غلام سرور خان) - کل آدمی ۲۰۸ تھے جن کا رقبہ متاثر ہوا تھا - ان میں سے ۲۹ کو متبادل اراضی دے دی گئی ہے - باقی رہتے ہیں -

مسٹر حمزہ - کاشتکاروں کی زمینیں ۱۹۵۵ء میں دریا برد ہو گئی تھیں - بہت عرصہ سے دریا نے رخ بدل لیا ہے - اور یہ زمین دوبارہ حاصل ہو گئی ہے - کیا وجہ ہے کہ اتنا لمبا عرصہ گذر جانے کے باوجود ان ۲۰۸ چھوٹے کاشت کاروں کو اب تک متبادل اراضی نہیں دی گئی - وہ کب تک اور انتظار کریں گے ؟

وزیر مال - آپ کے سوال کے جواب میں آچکا ہے کہ جو زمین برآمد ہو چکی ہے اس میں سے جو بارڈر کے ۵ میل کے اندر ہے وہ نوجیوں کو الاٹ ہو چکی ہے اس لئے اب ان سے واپس نہیں لی جا سکتی

باقی کے متعلق کوشش کر رہے ہیں - کچھ کو مل چکی ہے - باقی کو انشاء اللہ مل جائے گی -

میاں محمد شفیع - کیا وزیر موصوف یہ فرمائیں گے کیا یہ گورنمنٹ کی واضح پالیسی ہے کہ جن لوگوں کی زمین دریا برد ہو ان کو دوسری جگہ پر زمین دی جائے؟

وزیر مال - یہ پالیسی نہیں ہے - یہ وہ زمین ہے جو دریا برد ہو کر پھر بر آمد ہو گئی ہے - یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہرگز نہیں ہے - نہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے -

حاجی سردار عطا محمد - تیرہ برس میں ۲۰۸ ہیں سے ۲۹ کو زمین الاٹ ہوئی ہے - باقی ۱۷۹ کو کب تک زمین فراہم کریں گے؟

وزیر مال - میں پہلے ایک ضمنی سوال کے جواب میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حکومت کی پالیسی ہرگز نہیں ہے - گورنمنٹ پابند نہیں ہے کہ کسی کی زمین دریا برد ہو جائے تو اسے دوسری زمین دے - چونکہ یہاں صورت دوسری قسم کی ہے اس لئے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے - جونہی زمین میسر ہوگی انہیں دے دی جائے گی -

رانا پھول محمد خان - کیا یہ امر واقعہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے حکومت ایسی زمین جو سرکاری ملکیت تھی ان لوگوں کو دیتی تھی جن کی زمین دریا برد ہو جاتی تھی؟

وزیر مال - میں سوال سمجھ نہیں سکا - اسے ذرا دہرا دیں -

مسٹر سپیکر - وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آیا پہلے گورنمنٹ کی یہ پالیسی تھی کہ جن لوگوں کی زمین دریا برد ہو جائے انہیں متبادل

زمین دی جائے ؟

وزیر مال - از راہ ہمدردی کیا ہو گا - ورنہ بطور پالیسی حکومت اس کی پابند نہیں ہے -

چودھری محمد سرور خان - کیا وزیر صاحب ریونیو بورڈ سے وضاحت طلب کریں گے ؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ لوگ جن کی زمین دریا برد ہو جائے ان کی ذمہ داری حکومت پر ہے اور وزیر صاحب نے اس ہاؤس میں یہ commitment بھی کیا ہے -

وزیر مال - اگر ہے تو میں پتہ کر کے بتا سکوں گا -

مسٹر حمزہ - یہ بد قسمت لوگ جن کی زمین دریا برد ہو گئی تھی - اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زمین دے دی ہے - دریا نے اپنا رخ بدل لیا ہے - مگر آپ انہیں ان کی وہ زمین جو برآمد ہو چکی ہے اور جو ان کے باپ دادا ہی جائداد ہے انہیں بالنتیجے کے لئے تیار نہیں ہیں - آپ کے ہاتھ کیوں بندھے ہوئے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں ؟

وزیر مال - میں نے عرض کیا ہے میری ہمدردی ان کے ساتھ ہے - میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کی زمین کسی اور کو نہیں دینی چاہئیے تھی مگر چونکہ دے دی گئی ہے اس لئے اس میں شاید مشکلات ہوں - اس لئے گورنمنٹ ان کے لئے کچھ متبادل رقبہ فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے -

چودھری محمد سرور خان - کیا یہ مناسب نہیں کہ وہ رقبہ جات جو ان کی منکیت میں اور کسی دوسرے کو دے دیئے گئے ہیں - وہ آپ بھر ان کو واپس کر دیں ؟

مسٹر سپیکر - اس کا جواب دیا جا چکا ہے -

حاجی سردار عطا محمد - آپ ان دو ، تین ، پانچ ایکڑ کے مالکان کو متبادل زمین نہیں دیتے مگر دو سو چالیس ایکڑ ہر ایک سیکرٹری کو اور منسٹر کو دیتے ہیں - یہ کیا حساب ہے اور کونسا پروگرام ہے آپ کا ؟

وزیر مال - میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے -

ملک محمد اسلم خان - آپ نے جواب کے حصہ (ای) میں فرمایا ہے کہ جو زمین دریا برد ہو گئی تھی اور اب مل گئی ہے اسے

"Border Area Allotment Committee, cannot be disturbed at this stage".

Does it mean that it can be disturbed on some other stage?

کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جب فوجی اس زمین کو آباد کر لیں گے تو اس کے بعد اسے disturb کر کے لوگوں کو دیں گے - جواب میں تو لکھا ہے کہ

"It cannot be disturbed at this stage".

تو میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سٹیج تو نہیں ہوگی جس پر آپ الاٹمنٹ کو disturb نہیں کریں گے تو پھر وہ کونسی سٹیج ہوگی جس پر آپ الاٹمنٹ کو disturb کریں گے اور زمینیں دوبارہ ان لوگوں کو دیں گے -

وزیر مال - ائر کوئی سٹیج آئی تو -

COMPENSATION FOR KABULI LAND IN KALRI LAKE

*10160. Mr. Hamza : Will the Minister for Revenue be pleased to refer to my starred question No. 8641 replied on the floor of the House on 30th October, 1967 and state :-

(a) the reasons why the claim for the land was entertained practically after ten years ;

(b) why were the claimants paid interest to the tune of Rs. 4,34,583 when they had themselves filed claims in 1966 ;

(c) the name of official responsible for the delay in making payment due to which huge amount was paid in the form of interest ;

(d) the findings of the inquiry held on the complaint of Muhammad Soomar Soomro be placed on the Table of the House ?

Parliamentary Secretary (Agha Sadr-ud-Din Khan Durrani) : The matter is being enquired into by the Governor's Inspection Team. Unless the enquiry is completed and the report received, it is not possible to give any further information.

مسٹر حمزہ - کیا جناب وزیر موصوف مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ گورنر انسپکشن ٹیم کی انکوائری رپورٹ کب تک انہیں موصول ہو جائے گی ؟

وزیر مال (مسٹر غلام سرور خان) - وہ تو میں بتا نہیں سکتا۔ حمزہ صاحب کی خواہش تھی کہ انکوائری کر دی جائے وہ ہو رہی ہے۔ جب رپورٹ آ جائے گی ہم اس سے ان کو آگاہ کر دیں گے۔

مسٹر حمزہ - کیا آپ اس معاملے کی اہمیت کے پیش نظر اس انکوائری کو جلد از جلد مکمل کرانے کے لئے گورنرز انسپکشن ٹیم کو ہدایت جاری نہیں کر سکتے ؟

وزیر مال - ہم کوشش کریں گے۔ ہم ان کے نوٹوں میں یہ بات لائیں گے کہ وہ جس قدر جلد ہو سکے اس انکوائری کو مکمل کریں۔

ALLOTMENT OF LAND TO INHABITANTS OF TRIBAL AREAS IN G. M.
BARRAGE AREA

*10185. **Haji Ghulam Khan Shinwari :** Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Government have allotted land to the inhabitants of the Tribal Areas in G. M. Barrage area ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, whether the inhabitants of the Khyber Agency have also been allotted land in the said area ; if so, the conditions governing the allotment of the said land ;

(c) whether the prices of the above said land are to be recovered in lump-sum or in easy instalments ;

(d) in case the prices of the said land are to be realised in easy instalments, the date on which the first instalment will be due ;

(e) whether the said land was levelled and arrangements for its irrigation were made before its allotment to the said persons ; if not, reasons for not making the said land cultivable before allotting it to the said persons ?

Parliamentary Secretary (Agha Sadr ud-Din Khan Durrani) : (a) Yes.

(b) Yes. 14 tribesmen of Khyber Agency have been allotted 449 acres of land at the normal scale of 32 acres each. The land has been sold to them at the rate of Rs. 250 per acre.

(c) Price of land is to be recovered in easy instalments i.e. 40 half yearly instalments.

(d) 10th May, 1967.

(e) Yes.

حاجی گلاب خان شنواری - اگر زمین ہموار نہ ہو کاشت کے قابل نہ بھی ہو کیا تب بھی ٹیکس وصول کیا جائے گا ؟

وزیر مال (مسٹر غلام سرور خان) - یہ تو آچکا ہے زمین ہموار کر کے دی جاتی ہے غیر ہموار زمین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا -

حاجی گلاب خان شنواری - آپ نے جواب کے آخری حصہ میں فرمایا ہے "جی ہاں" - مگر جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس زمین کو پہلے ہموار نہیں کیا گیا - کیا آپ تحقیقات کر کے مناسب کارروائی عمل میں لائیں گے ؟

وزیر مال - میں نے عرض کیا ہے کہ زمین ہموار کر کے ہی دی جا سکتی ہے اگر معزز ممبر کو کسی خاص کیس میں شک ہو تو وہ ہمارے نوٹس میں لائیں انکوٹری کر کے ان کو رپورٹ سے آگاہ کر دیا

جائے گا۔

سردار منظور احمد خان قیصرانی - کیا جناب وزیر مال صاحب یہ فرمائیں گے کہ ڈیرہ غازی خان کے ٹرائل ایریا کے متعلق بھی اس قسم کی کوئی سکیم ہے ؟

Mr. Speaker : The Member should give a fresh notice for that.

APPOINTMENT OF TEHSILDARS

*10217. Sahibzada Noor Hassan : Will the Minister for Revenue be pleased to state the year-wise number of posts of Naib-Tehsildars advertised during 1965-66, 1966-67 and 1967-68 in the Province and the district-wise number of candidates selected for appointment against the said posts during each year ?

Parliamentary Secretary (Agha Sadr-ud-Din Khan Durrani) : (i) The following posts were advertised :—

1965-66	1966-67	1967-68
8	25	33

(ii) Districtwise selection of candidates

Division	District	1965-66	1966-67	1967-68
Rawalpindi	Jhelum	2	1	Nil
	Rawalpindi	3
	Campbellpur	1
Lahore	Lahore	4
	Sheikhupura	2
	Gujranwala	2
	Sialkot	1

Note—One post of Sialkot district is still vacant.

Multan	Multan	..	7	..
	Sahiwal	..	6	..
	Muzaffargarh	..	1	..
	D. G. Khan	..	1	..

Karachi	.. Lasbela	2
Quetta	.. Quetta-Pishin			8	7
	Sibi	2	3
	Loralai	1	2
	Zhob	2	3
	Chagai	2

رانا پھول محمد خان - جناب والا - کیا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب یہ فرمائیں گے کہ انہوں نے اپنے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ضلع لاہور سے ۳ امیدوار منتخب کر لئے گئے ہیں - کیا یہ درست نہیں ہے کہ ضلع لاہور سے دیہی علاقہ کی بجائے لاہور کے شہری امیدواروں کو لیا گیا ہے ؟

وزیر مال (مسٹر غلام سرور خان) - جناب والا - اس میں شہری اور دیہی آبادی کی پابندی ہرگز نہیں ہے - ترجیح ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کی back ground اچھی ہو خواہ وہ دیہی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں یا شہری علاقے سے تعلق رکھتے ہوں -

چودھری محمد سرور خان - کیا جناب منسٹر صاحب یہ فرمائیں گے کہ اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ سیالکوٹ سے ۱۹۶۵-۶۶ اور ۱۹۶۶-۶۷ میں کوئی آدمی بھی بھرتی نہیں کیا گیا - اب آخری سال یعنی ۱۹۶۷-۶۸ میں ضلع سیالکوٹ سے دو آدمی لئے گئے ہیں لیکن ایک اسامی ابھی تک پر نہیں ہوئی - کیا آپ وہ وجوہات بتا سکتے ہیں جن کی بنا پر سیالکوٹ کے آدمیوں کی بھرتی بند کر دی گئی ہے - کیا آپ کو اس ضلع سے کوئی تعلیم یافتہ آدمی نہیں ملا ؟

وزیر مال - جناب والا - میں پتہ کر کے بتا سکتا ہوں - ہو سکتا ہے درخواستیں آئی ہوں ان میں ایک کو منتخب کر لیا گیا ہو باقیوں کو لہ لیا گیا ہو -

Mr. Speaker : This is a very pertinent supplementary arising out of this answer particularly when the Minister had remarked that one post of Sialkot district was still vacant.

وزیر مال - جناب والا - میں سردست تو نہیں بتا سکتا ہوں -

Mr Speaker : But this information should have been provided by the Department to the Minister.

وزیر مال - جناب والا - اس کے متعلق پھر جواب دے دوں گا -

چودھری محمد ادریس - جناب والا - میں وزیر مال صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نائب تحصیلدار کی اساسی division-wise پر کی جاتی ہے یا district-wise پر کی جاتی ہے ؟

وزیر مال - جناب والا - میں ان کا سوال نہیں سمجھ سکا -

مسٹر سپیکر - خان صاحب وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ نائب تحصیلدار کی اساسیاں district-wise ہوتی ہیں یا division-wise ہوتی ہیں - اگر division-wise سیٹیں تھیں تو پھر ضلع سیالکوٹ کی اساسیاں لاہور ڈویژن میں کیوں نہیں دکھائی گئیں ؟

وزیر مال - جناب والا - ہو سکتا ہے کہ کمشنر صاحب نے district-wise اساسیاں تقسیم کر لی ہوں تاکہ ایک ہی ضلع سے تمام اساسیاں پر نہ ہو جائیں -

خان اجون خان جدون - جناب والا - کیا میں وزیر مال صاحب سے دریافت کر سکتا ہوں کہ پچھلے تین سال سے پشاور ڈویژن سے نائب تحصیلدار کیوں بھرتی نہیں کیے گئے - کیا وہاں سارے اسیدوار نکمے تھے ؟

وزیر مال - وہاں جگہ نہ ہو گی یا اساسیاں پر کی جا چکی ہوں گی -

ملک قادر بخش - کیا جناب وزیر مال صاحب از راہ کرم ملتان

ڈویژن کے متعلق بتا سکتے ہیں کہ آیا یہ امر واقعہ ہے کہ ۱۹۶۶-۶۷ء میں ۱۵ نشستوں میں سے مظفر گڑھ کی ایک نشست تھی اور وہ بھی اُسے نہیں ملی؟ کیا یہ پالیسی ہے کہ لاہور ڈویژن میں جگہیں خالی ہیں تو ۱۰ نشستوں میں سے ۸ ضلع لاہور کو دے دی جائیں۔ اور ملتان ڈویژن میں ۱۵ میں سے ۷ ضلع ملتان کو مل جائیں؟

Is that the policy of the Government ?

۱۵ نشستوں میں سے ایک نشست ضلع مظفر گڑھ کو ملی ہے۔

simply because we are backward.

وزیر مال - شاید آبادی کے لحاظ سے تقسیم کی ہیں۔

ملک قادر بخش - کیا ملتان کے ہی لوگ قابل ہیں اور کہیں سے اس کرائیفیکیشن کے آدمی نہیں ملے ہیں؟

ملک محمد اختر - پوائنٹ آف آرڈر - جناب والا - ملک قادر بخش صاحب کا موازنہ کیا جائے کہ ان میں سے کون قابل ہے؟
وزیر زراعت و خوراک - میں آپ کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔
(تمہقہ)

Mr. Speaker : This is not a point of order.

Malik Qadir Bakhsb : I may tell my friend that it is bringing a bad name to the Government.

ملتان کے ہی qualified graduates کی سفارشات ہوئی ہیں اس لئے
ملتان سے لئے گئے ہیں؟

وزیر مال - جناب والا - میں نے نہیں کہا ہے نہ ہی کوئی اور یہ کہنے کو تیار ہوگا کہ ملتان کا بی۔ اے ایم اے مظفر گڑھ کے ضلع کے بی۔ اے یا ایم۔ اے سے زیادہ قابل ہے۔ شاید آبادی کے لحاظ سے کمشنر

صاحب نے اپنے اپنے ضلع کا کوٹہ مقرر کر دیا ہے ۔

ملک قادر بخش - جناب والا - یہ چیز ہمیں منظور ہے ۔

رانا پھول محمد خان - جناب والا - آبادی کے لحاظ سے کوئی

کوٹہ مقرر نہیں کیا گیا ہے ۔

Mr. Speaker : The answer should be definite—whether it is the policy of the Government? Whether the Commissioners have allocated the quota to the different districts on the basis of population or not?

Minister of Revenue : It is not the policy of the Government.

یہ باندی نہیں ہے کہ کسی خاص ضلع میں سے اتنے لئے جائیں

گے ویسے

for the sake of convenience, for the sake of giving a share to each and every area the Commissioners usually adopt this method.

مسٹر حمزہ - جناب والا - اگر میں جناب وزیر مال صاحب سے یہ سوال کروں کہ جب نائب تحصیلدار بھرتی کئے جاتے ہیں تو کمشنر صاحبان دیہی یا شہری علاقوں میں تخصیص کرتے ہیں لیکن چناؤ کے وقت بیشتر وہ افراد خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے لئے جاتے ہیں جو نوکر شاہی کے مہروں کے - رشتہ دار یا بڑے زمینداروں کے عزیز ہوتے ہیں ۔

وزیر مال - جناب والا - یہ سلیکشن پوسٹ موقی ہے - سلیکشن

اتھارٹی سب کو consider کرتی ہے - ان کی qualification ان کا family status

ان کی personality سب چیزوں کو consider کرتی ہے ۔

رانا پھول محمد خان - کیا جناب وزیر مال صاحب یہ فرمائیں

گے کہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ نائب تحصیلدار کی بھرتی کے وقت

کوٹہ مقرر ہوتا تھا - اگر کسی نائب تحصیلدار کو دیہات میں تعینات

کیا جائے تو دیہی امیدوار زیادہ کامیاب رہ سکتا ہے ؟

مسٹر سپیکر - اس سوال کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے - یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ جو امیدوار نائب تحصیلدار لیا جائے اس کا دیہی علاقہ سے تعلق ہو -

رانا پھول محمد خان - جناب والا - کیا یہ درست نہیں ہے کہ لاہور میں دیہی آبادی کو ترجیح نہیں دی گئی ہے بلکہ شہری امیدواروں کو منتخب کیا گیا ہے ؟

وزیر مال - جناب والا - اس کے متعلق مجھے علم نہیں کہ لاہور سے کون کون سے امیدوار لئے گئے ہیں -

Mr. Speaker : The Member should give a fresh notice for that.

چودھری محمد ادریس - جناب والا - میں وزیر مال صاحب کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ سرگودھا ڈویژن میں آج نائب تحصیلداروں کی بھرتی کے لئے انٹرویو ہو رہے ہیں - کیا ہمیں یہ یقین دہانی کرائیں گے کہ تمام سیشن ایک ضلع ہی کو نہ دے دی جائیں بلکہ چاروں اضلاع کو آپ دیکھیں تاکہ ہر ایک ضلع کو نمائندگی مل جائے -

وزیر مال - وہ ہر ایک ضلع کے امیدواروں کا انٹرویو کر رہے ہیں -

چودھری محمد ادریس - جناب والا - وزیر صاحب کو یہ یقین دہانی کرنی چاہئے کہ چاروں اضلاع کو نمائندگی مل جائے کسی ایک ضلع کو نہ ملے ؟

وزیر مال - یہ divisional basis پر بھرتی ہوتی ہے کسی ایک ضلع

کی بھرتی نہیں ہوتی - میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ

for the sake of convenience, for the sake pleasing all regions or areas.

وہ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں اور اپنے اپنے ضلع کو حصہ دیتے ہیں -

مجھے یقین ہے کہ کمشنر صاحب نے ایسا کیا ہو گا -

مسٹر محمود اعظم فاروقی - جناب والا - جناب وزیر مال نے

اپنے جواب میں ارشاد فرمایا ہے کہ نائب تحصیلداروں کے انتخاب میں

جن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے ان میں تعلیمی قابلیت کے ساتھ ساتھ

خاندانی پس منظر کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے - میں تو اس کا مطلب

سمجھنے سے قاصر ہوں - کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اگر کسی وزیر

کا لڑکا ہو تو اس کو منتخب کر لیا جائے اور اگر کسی پرانے سیاستدان

کا لڑکا ہو تو اس کو نہ لیا جائے اگر امیر ہو تو اس کو لے لیا جائے

اور اگر غریب ہو تو اس کو نہ لیا جائے - کیا اس کا مطلب یہی ہے ؟

وزیر مال - اس کا مطلب یہ ہے کہ امیدوار کو زمیندار ہونا چاہیے

اسے زمیندار خاندان سے متعلق ہونا چاہیے تاکہ وہ زمینداروں کی تکالیف کو

سمجھ سکے -

Malik Qadir Bakhsh : Will the Minister give an assurance ; it will be so kind of him ; he may kindly send for the fifteen cases from the Multan Division—seven from Multan, six from Sahiwal, one from Muzaffargarh and one from D. G Khan—and examine himself and give assurance to this House that the selection was honest, good and the only one which has been made. Will he send for all these cases and give an assurance ? It will bring good name to the Government. This is what President Ayub Khan stands for, this is what General Muhammad Musa stands for ; it is justice for all. And we want an assurance from the gentleman. Will he give that assurance.

Minister of Revenue : I will find out and place the facts before the House.

Malik Qadir Bakhsh : I have not heard him Sir.

Mr. Speaker : He has given an assurance.

Minister of Revenue : I will find out the facts.

مسٹر حمزہ - یہ لوگ ہر ایک کیلئے انصاف تو اس وقت کہتے ہیں جب یہ ریٹائر ہو جائیں یا وزارت سے برطرف ہو جائیں اس وقت لوگوں کے لئے انصاف کا تقاضا کرتے ہیں لیکن جب اس وقت اقتدار ہوتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو تحصیلدار بنا لیتے ہیں۔

ملک قادر بخش یہ بالکل غلط ہے۔ جب میرا لڑکا ہوا تھا تو میں وزیر نہیں بنا تھا۔ وہ میرے وزیر بننے سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔

He should withdraw. I am the only person who did not hold a permit, I am the only person who does not hold 'Safarish' X X X X X X*

Mr. Speaker: The remarks made by Malik Qadir Bakhsh in the last sentence are expunged from the proceedings

Malik Qadir Bakhsh: I am sorry, Sir, but he should know whom he is addressing.

بابو محمد رفیق - کیا جناب وزیر صاحب یہ بتلائیں گے کہ کوئٹہ ڈویژن میں ژوب اور لورا لائی کو سب سے کم حصہ دینے کی وجوہات کیا ہیں؟

مسٹر سپیکر - بابو صاحب - از راہ کرم آپ اپنا سوال دہرا دیں۔

بابو محمد رفیق - میں یہ دریافت کرنا چاہتا تھا کہ کوئٹہ ڈویژن میں کوئٹہ اور پشین کو سب سے زیادہ اور لورالائی اور ژوب کو سب سے کم حصہ کیوں دیا گیا ہے؟

مسٹر سپیکر - بابو صاحب - جناب وزیر صاحب بار بار اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ سب کچھ ضلعی سطح پر نہیں بلکہ ڈویژن کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔

بابو محمد رفیق - جناب سپیکر - میں بھی ملک صاحب کے الفاظ کی پر زور تائید کرتا ہوں کہ جو دور افتادہ اور پسماندہ علاقے ہیں ان کو کم حصہ دیا جاتا ہے اور جو ڈویژن کا صدر مقام ہوتا ہے اسے زیادہ حصہ دیا جاتا ہے - جو لوگ باہر سے آتے ہیں اور جن کی سفارشات نہیں ہوتی ہیں - وہ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں تو کیا اس بات کی یقین دہانی کرائیں گے کہ یہ انتخابات آپ ضلعی سطح پر کریں گے ؟

Mr. Speaker : Next question.

حاجی سردار عطا محمد - پوائنٹ آف آرڈر - جناب سپیکر - چونکہ میں ایسی نشست پر بیٹھا ہوا ہوں کہ جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے اور میں نے بارہا کوشش بھی کی کہ میں اس سوال کے متعلق کوئی ضمنی سوال پوچھوں لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی - آپ مجھے بھی اس مسئلے کے متعلق کچھ دریافت کرنے کی اجازت دیں -

مسٹر سپیکر - حاجی صاحب - آپ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہیں بلکہ آپ میری نظروں کے سامنے ہیں -

حاجی سردار عطا محمد - تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے ضمنی سوال پوچھنے کا طریقہ نہیں آتا -

مسٹر سپیکر - آپ اپنا سوال پوچھیں -

حاجی سردار عطا محمد - میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ سٹاٹہ سارے صوبے سے متعلق ہے تو کیا سابق صوبہ سندھ بھی صوبہ مغربی پاکستان میں شامل ہے یا نہیں - یا آپ صرف پنجاب کو ہی اس صوبے کا حصہ سمجھتے ہیں ؟

وزیر مال - جناب سپیکر - یہ ایسا نہیں ہے بلکہ سندھ بھی مغربی پاکستان کا حصہ ہے -

حاجی سردار عطا محمد - تو کیا آپ کو سندھ سے کوئی لائق ہاری مپسر نہیں آتا - کیا وہاں سے آپ کو کوئی لائق چیڑاسی بھی نہیں ملتا اور نہ کوئی لائق نڈب تحصیل دار ہی آپ کو مل سکتا ہے - آپ وہاں سے تحصیل داروں کا انتخاب کیوں نہیں کرتے - اس کا سبب کیا ہے ؟

Mr. Speaker : This is a very general question.

CLASS I AND CLASS II OFFICERS UNDER THE ADMINISTRATIVE CONTROL OF THE REVENUE DEPARTMENT RETIRED AND GRANTED EXTENSION IN SERVICE

*10275. Mr. Hamza : Will the Minister of Revenue be pleased to state the names and designations of Class I and Class II Officers under the Administrative Control of the Revenue Department who were (i) retired and (ii) granted extensions in service for time to time, after attaining the age of retirement ; from 1st January 1963 to 31st December 1967 along-with reasons for the grant of extension each time ?

Parliamentary Secretary (Agha Sadr-ud-Din Khan Durrani): No Class I and Class II Officers are under the administrative control of the Revenue Department and the question of their retirement and grant of extension in service by the Revenue Department does not arise.

MUSLIM IMMIGRANTS FROM BHARAT SETTLED IN DISTRICTS OF THARPARKAR, SANGHAR AND KHAIRPUR

*10295. Haji Sardar Atta Muhammad : Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) the number of Muslims who migrated from India to Districts of Tharparkar, Sanghar and Khairpur after September 1965 War alongwith the number of those out of them who were settled in each village of the said Districts ;

(b) whether any land has been allotted to the said persons for their livelihood and residential purposes ; if so, the acreage of land so allotted in each taluka of each of the said Districts and the conditions under which it was allotted ?

Parliamentary Secretary (Agha Sadr-ud-Din Khan Durrani): (a) (i) Number of Muslims who migrated from India to the following districts :—

Tharparkar	Sanghar	Khairpur
17,730	2,442	1,327

(ii) Number of those who settled in each village of the said districts (see Appendix 'A')—

Tharparkar	Sanghar	Khairpur
17,730	2,442	1,327

(b) (i) Yes. In Tharparkar District, the immigrants have been allotted evacuee or State land at the rate of 12 acres per family on yaksala lease as given in Appendix 'A' but no land has been allotted to the immigrants who entered Sanghar and Khairpur districts.

APPENDIX 'A'

The requisite information is given below :—

Name of District	Acreage of land Rs. Acres	Taiuka	Conditions
Tharparkar	24,945.11	Chachro	Yaksala lease.
	1,315.20	Mithi	Ditto
	3,606.33	Nagarparkar	Ditto
	10,671.34	Umerkot	Ditto
	36.00	Digri	Ditto
	<u>40,575.18</u>		

Sanghar—No land was allotted due to non-availability.

Khairpur—Efforts are being made to allot land to the evictees.

حاجی سردار عطا محمد - جناب سپیکر - میں آپ کی وساطت سے ایک بار پھر پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا جواب اردو میں پڑھیں۔ کیونکہ میں سندھی ہوں اور انگریزی نہیں جانتا۔

پارلیمنٹری سیکرٹری - جناب سپیکر - اگر آپ ارشاد فرمائیں تو

میں جواب سندھی میں پڑھ دیتا ہوں ۔

مسٹر سپیکر - حاجی صاحب - چونکہ جواب چھپا ہوا ہے - اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ خود جواب پڑھ لیں اور اگر کوئی ضمنی سوال پوچھنا چاہیں تو اس کے بعد پوچھ لیں ۔

وزیر مال (مسٹر غلام سرور خان) - جناب سپیکر - اگر جواب پڑھنے کی اجازت دے دیں تو بہتر ہوگا ۔

مسٹر سپیکر - خان صاحب - میں نے تو اس لئے عرض کیا ہے کہ چونکہ جواب میں اعداد و شمار درج ہیں - اس لئے بہتر ہوتا کہ وہ ان کو پڑھ کر اپنا ضمنی سوال پوچھ لیتے ۔

حاجی سردار عطا محمد - جناب سپیکر - میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ انہوں نے خیرپور کے متعلق فرمایا ہے کہ بھارت سے ملک بدر ہو کر جو لوگ خیرپور میں آباد ہوئے ہیں ان کے لئے کوشش جاری ہے تو اس "کوشش جاری ہے" کا کیا مقصد ہے ؟

وزیر مال - جناب سپیکر - جواب تو بالکل واضح ہے کہ چونکہ تھریڈز کے زمینیں موجود تھیں اس لئے وہاں پر آباد ہونے والوں کو زمینیں دے دی گئی ہیں - لیکن چونکہ سانگھڑ میں زمینیں نہیں تھیں اس لیے وہاں پر آباد ہونے والوں کو نہیں دی جا سکیں - اور شاید خیرپور میں زمینیں موجود ہیں اس لیے جونہی ہمیں وہاں پر زمینیں دستیاب ہوں گی ، وہاں پر آباد ہونے والوں کو دے دی جائیں گی ۔

حاجی سردار عطا محمد - جناب سپیکر - جن لوگوں کو یہ زمینیں یک سالہ شرائط پر ٹھیکے پر دی گئی ہیں اس پر تو ان کا گزارہ نہیں ہو سکتا - تو کیا ان لوگوں کو یہ زمینیں مستقل طور پر الاٹ کر

دی جائیں گی ؟

وزیر مال - اگر ممکن ہوگا تو انہیں مستقل طور پر بھی الاٹ کر دی جائیں گی -

حاجی سردار عطا محمد - جناب سپیکر - "اگر ممکن ہوگا" سے ان کا مطلب کیا ہے؟ میری دانست میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا -

وزیر مال - اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو مستقل الاٹ کی جا سکتی ہو تو کر دی جائے گی اور اگر نہ کی جا سکتی ہو تو نہیں کی جائے گی -

GRANT OF LAND TO *EX-MILITARY PERSONNEL* IN BORDER AREAS

*10296. *Haji Sardar Atta Muhammad* : Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether there is any scheme under the consideration of the Provincial Government to evacuate the non-Muslims settled in the areas situated within the range between 5 to 10 miles from Indo-Pak Border and to settle *ex-Military* personnel in the said areas ; if so, the details of the said scheme and the date by which it will be implemented ;

(b) whether it is a fact that the District Soldiers Board, Tharparkar has applied to the Deputy Commissioner, Tharparkar for the grant of land in the area near the Indian Border in Parkar Area, Taluka Nagarparkar under the Land Colonisation Scheme ;

(c) if answer to (b) above be in the affirmative, (i) the date of receipt of the said application and (ii) the time by which decision will be taken in the matter ?

Parliamentary Secretary (*Agha Sadr-ud-Din Khan Durrani*) : (a) No.

(b) No.

(c) In view of (a) and (b) above, the question does not arise.

**SCHOOLS AND TRAINING COLLEGES FOR TAPEDARS FUNCTIONING IN
HYDERABAD DIVISION**

***10307. Haji Sardar Atta Muhammad :** Will the Minister for Revenue be pleased to state :---

(a) the number of Schools and Training Colleges for Tapedars functioning at present in Hyderabad Division alongwith the location of each ;

(b) the number of candidates of each district of the said division who qualified from the said Schools and Colleges during 1966-67 and 1967-68 ;

(c) the number of candidates, out of those mentioned in (b) above, who have been employed so far ;

(d) whether the appointments of the said qualified candidates as Tapedars are made according to the order of their passing the prescribed examinations from the said Schools and Colleges ;

(e) if answer to (d) above be in the negative, the reasons for not recruiting the said candidates as Tapedars on the said basis ?

Parliamentary Secretary (Agha Sadr-ud-Din Khan Durrani) : (a) One Tapedar Training School at Pithoro in Tharparkar district.

(b) (i) Number of candidates who qualified from this School during the year, 1966-67 is as under—

Serial No.	Name of District	No. of candidates
1	Hyderabad	4
2	Dadu	1
3	Thatta	5
4	Tharparkar	3

(ii) Examination result of the course for 1967-68 has not yet been declared.

(c) None

(d) Yes.

(e) Does not arise.

حاجی سردار عطا محمد - جناب سپیکر - میں پھر یہ درخواست کروں گا کہ اس سوال کا جواب اردو میں پڑھا جائے۔

مسٹر سپیکر - آغا صاحب - کیا آپ کے پاس اس سوال کا جواب اردو میں لکھا ہوا موجود نہیں ہے -

پارلیمنٹری سیکرٹری - جی نہیں - میرے پاس اردو میں لکھا ہوا نہیں ہے -

مسٹر سپیکر - خان صاحب - آپ کے پاس اس کا اردو ترجمہ ہو گا -

وزیر مال (مسٹر غلام سرور خان) (الف) ضلع تھرپارکر میں نثارو کے مقام پر ایک ٹیپدار ٹریننگ سکول کام کر رہا ہے -

(ب) ان امیدواروں کی تعداد جنہوں نے اس سکول سے ۱۹۶۷-۶۸ سے ۱۹۶۷-۶۸ کے دوران اسناد حاصل کیں حسب ذیل ہیں :-

(i) نام ضلع	تعداد امیدواران
(۱) حیدر آباد	۴
(۲) دادو	۱
(۳) ٹھٹھہ	۵
(۴) تھرپارکر	۳

(ii) ۱۹۶۷-۶۸ کے امتحانات کے نتائج ابھی تک نہیں نکلے -

(ج) کوئی نہیں -

(د) جی ہاں -

(ه) سوال پیدا ہی نہیں ہوتا -

DECLARATION OF FOUR BARANI TALUKAS IN THAR SUB-DIVISION AS FAMINE STRIKEN AREAS

***10324. Hāji Sardar Atta Muhammad :** Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Government declared four Barani Talukas in Thar Sub-Division as famine stricken areas in 1967 ; if so, the date on which the said areas were so declared ;

(b) whether it is a fact that during the famine conditions in the said talukas shops were opened by Union Councils in the said areas to provide foodstuffs to the public at cheaper rates ;

(c) whether it is a fact that a number of complaints were made by the public to the authorities concerned against the persons who were running the said shops ;

(d) if answer to (c) above be in the affirmative, (i) the number of persons against whom the public complaints were received (ii) the dates on which they were received and (iii) whether any inquiry was held into the said complaints ; if so, the outcome of that inquiry ?

Parliamentary Secretary (Agha Sadr-ud-Din Khan Durrani) : (a) On account of the scarcity conditions prevailing in 1966, the following areas of Tharparkar District were declared as calamity-affected areas, on the dates shown against each :—

<i>Areas</i>	<i>Date of declaration</i>
(i) Talukas Chachro, Mithi, Nagarparkar and Diplo.	11th October 1966.
(ii) Tappas, Kiplore and Dinore of Taluka Umer Kot.	23rd December 1966.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) (i) Three, (ii) 8th February, 16th February and 4th March, 1967, (iii) The papers were consigned after proper enquiry. In the first two cases, the allegations were denied by the alleged signatories.

حاجی سردار عطا محمد - کیا وزیر موصوف مجھے بتائیں گے

کہ یہ تحقیقات کس کی معرفت کرائی گئی ہے ؟ جنہوں نے غبن کیا تھا

ان کی معرفت یا آپ نے کوئی سپیشل کمیٹی مقرر کی تھی ؟

وزیر مال (مسٹر غلام سرور خان) - مناسب تحقیقات کرائی جا

رہی ہے -

حاجی سردار عطا محمد - مناسب تحقیقات آپ کس چیز کو کہتے ہیں ؟

IMMIGRANTS SETTLED IN HYDERABAD AND KHAIRPUR DIVISIONS

*10356. **Haji Sardar Atta Muhammad**: Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether Government is aware of the news published in several newspapers of Hyderabad and Karachi Divisions on 11th, 12th and 13th November, 1967, regarding influx of refugees from Bharat ;

(b) whether it is a fact that after September 1965 War several Muslim refugees from Bharat settled in Hyderabad and Khairpur Divisions ; if so, the nature of facilities provided to them by the Provincial Government ;

(c) the number of refugees settled by the Provincial Government in each Taluka and District of Hyderabad and Khairpur Divisions who migrated from Bharat during the months of September, October, November and December 1967 ?

Parliamentary Secretary (Agha Sadr-ud-Din Khan Durrani): (a) It is correct that such news appeared in *Daily Dawn* and *Jang*, dated 12th November, 1967.

(b) Yes. It is a fact that after September, 1965 War some Indian Muslim evictees have settled in Sanghar and Mirpurkhas of Hyderabad Division and in Khairpur and Sukkur of Khairpur Division. They were provided with some clothes and foodgrains. Now some refugees have engaged themselves as haris and labourers with local zamindars. Some refugees have been settled temporarily in villages which were vacated by evacuees or around villages where evacuee or State land as well as water facilities were available and each family of evictees was allotted 12 acres of agricultural land on yaksala lease basis to earn their livelihood. Taccavi has been granted in deserving cases.

(c) No refugee entered Hyderabad and Khairpur Divisions during the period September to December, 1967.

حاجی سردار عطا محمد - کیا وزیر موصوف کو علم ہے کہ کچھ مہاجرین ایسے ہیں جن کے پاس بہت تھوڑی زمین ہے اور وہ مزدوروں کا کام کر رہے ہیں کیا آپ نے ان کے بچوں کو اناج وغیرہ مہیا کرنے کا کوئی انتظام کیا ہے ؟

وزیر مال (مسٹر غلام سرور خان) - انتظامات کئے جا رہے ہیں -

رانا پھول محمد خان - کیا وزیر موصوف از راہ کرم بیان فرمائیں گے کہ ان مہاجرین کو آباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا اسی طرح مزدوری کا پھندا ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا یا ان کی آباد کاری کا کام زیر غور ہے ؟

وزیر مال - اس سوال کا جواب پہلے مکمل طور پر آچکا ہے - میں نے عرض کیا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں جہاں وہ آباد ہیں - وہیں انہیں مستقل طور پر بسا دیا جائے گا -

RECRUITMENT OF TEHSILDARS AND NAIB-TEHSILDARS

*10434. Khan Gul Hameed Khan : Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether Government intend to recruit Tehsildars and Naib-Tehsildars in the former Punjab area in the near future ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, whether any quota has been fixed for recruitment from Sargodha Division ; if so, the number of personnel to be recruited from the said Division ?

Parliamentary Secretary (Agha Sadr-ud-Din Khan Durrani) : (a)

(i) Tahsildars ... No.

(ii) Naib-Tahsildars ... Yes, in Sargodha Division only.

(b) (i) Question does not arise.

(ii) Yes. There are at present 12 vacancies of Naib-Tahsildars Candidates in the Sargodha Division and all these vacancies will be filled up from the *bona fide* residents of Sargodha Division.

خان گل حمید خان - کیا یہ مناسب نہیں کہ ضلعی کونٹا کے

مطابق یہ اسمیاں پر کی جائیں ؟

وزیر مال (مسٹر غلام سرور خان) - جناب والا - اس کا جواب تو

میں عرض کر چکا ہوں کہ نائب تحصیلداروں کی تقرری divisional basis پر ہوتی ہے۔ ضلعی کوٹا کی ضرورت نہیں اگرچہ مناسب تو یہی ہے کہ ضلعی کوٹا کا خیال رکھا جاتا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کمشنر صاحب نے ضرورت کے مطابق ضلع وار posts مختص کی تھیں یا نہیں۔

خان گل حمید خان۔ آپ یہ فرمائیں کہ کیا یہ مناسب نہیں کہ ضلعی کوٹا کے مطابق یہ اسمیاں پر کی جائیں۔ چونکہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس لئے کیا آپ ہدایات جاری کریں گے؟

وزیر مال۔ اگر یہ district basis 'cadre پر ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ضلع سے ایک مقررہ تعداد لی جائے۔

چودھری محمد ادریس۔ کیا آپ اس پر غور فرمائیں گے کہ جن اضلاع میں سے پہلے کوئی اسمی پر نہیں کی گئی ان اضلاع میں سے نائب تحصیلدار لئے جائیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہو گا؟

مسٹر محمود اعظم فاروقی۔ جناب والا۔ محترم وزیر صاحب کے جواب میں بڑی confusion ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ایسی اسمیاں divisional basis پر پر کی جاتی ہیں district basis پر نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ہے کہ کمشنر صاحبان نے ہر ضلع کے لئے کوٹا مقرر کر دیا ہے کیونکہ ان کو اضلاع پر اختیار ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا یہ بات حکومت کی پالیسی کے خلاف نہیں۔ پھر اگر اضلاع کے مطابق اسمیاں تقسیم کی جائیں گی تو تحصیل اور گاؤں کے مطابق کیوں نہیں کرتے؟

وزیر مال۔ مجھے تعجب ہے کہ اتنی لمبی چوڑی بحث کے بعد بھی وہ حکومت کی پالیسی کو نہیں سمجھ سکے۔ میں یہ عرض کروں گا

کہ اصل میں ہر ڈویژن کا cadre ہوتا ہے فرض کیا جائے کہ دس آدمی کسی ڈویژن سے لئے جائیں گے تو کمشنر صاحب اسے ضلع وار تقسیم کر دیتے ہیں کسی ضلع میں سے دو کسی میں سے چار یا پانچ اور کسی ضلع میں سے کوئی بھی نہیں لیتے۔ یہ جو بارہ seats ہیں یہ merit پر fill کی جاؤں گی کمشنر صاحب ڈویژن کے ہیڈ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اضلاع میں مناسب تقسیم کر دیتے ہیں۔ تاکہ ہر ضلع کی نمائندگی ہو سکے۔

چودھری محمد ادریس۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تمام اسمیاں merit پر پر کی جائیں گی تو کیا آپ اس بات کی assurance دیں گے کہ یہ بارہ اسمیاں سرگودھا ڈویژن میں سے merit پر لی جائیں گی۔

وزیر مال۔ یقیناً merit پر ہوں گی۔

Mr. Speaker: The Question Hour is over now. Will the Parliamentary Secretary please place rest of the answers to the questions on the Table of the House?

Parliamentary Secretary (Revenue): Sir, I beg to place the rest of the answers to the questions on the Table of the Assembly.

ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE

PROPRIETARY RIGHTS TO ALLOTTEES OF LAND HELD BY EVACUEE OCCUPANCY TENANTS BUT OWNED BY MUSLIM LANDLORDS

*10444. **Khan Ajoon Khan Jadoon:** Will the Minister for Rehabilitation please refer to the answer to question No. 7975 given on the floor of the House on 27th September 1967 and state:—

(a) the exact date since the proposal for giving full proprietary rights to the allottees of land held by evacuee occupancy tenants but owned by Muslim landlords has been under the consideration of Government and the approximate time by which the decision is likely to be taken thereon;

(b) whether it is a fact that the Provincial Government has asked the Central Government to give its consent to the said proposal; if so, the date of reminders sent to the Central Government in this respect, if any;

(c) whether the Central Government has sent its consent ; if so, the details thereof ?

Minister for Rehabilitation (Mr. Ghulam Sarwar Khan): (a), (b) and (c) The Central Government were, in the first instance, requested in May, 1959, to issue a Gazette Notification exempting the lands held by evacuee occupancy tenants but owned by non-evacuee land lords from the purview of the Pakistan (Administration of Evacuee Property) Act, 1957, so that the provisions of Section 114 of the Punjab Tenancy Act and Sections 4 and 4(A) of the North-Western Province Act could be made applicable to such lands also. The Central Government, after careful consideration, replied in 1962 that since all evacuee agricultural land had already been acquired for the compensation pool under the Displaced Persons (Land Settlement) Act, 1958, the relevant provision of the Pakistan (Administration of Evacuee Property) Act, 1957 had become inoperative. Thereafter, the Central Government had not been in the picture. It was not considered necessary to pursue the matter further, as full proprietary rights had not been conferred under the Displaced Persons (Land Settlement) Act, 1958, upon the claimant allottees of lands held by evacuee occupancy tenants. Full proprietary rights were conferred in the aforesaid cases as a result of the amendment in the Displaced Persons (Land Settlement) Act, 1958, carried out on 24th December 1964. Thereafter, the question of suitably amending the Punjab Tenancy Act of 1887 and N. W. F. P. Tenancy Act of 1950 has been under discussion between the concerned Department of the Provincial Government and the case will shortly be submitted to the Council of Ministers for orders.

SENIORITY LIST OF NAIB-TEHSILDARS

***10445. Khan Ajoon Khan Jadoon :** Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether any Ranking List of Naib-Tehsildars has been maintained in the office of the Commissioner, Lahore Division if so, a copy thereof be laid on the Table of the House and whether the said List has been prepared according to the seniority ;

(b) whether the character rolls of candidates for appointment to the posts of Naib-Tehsildars have been called for by Commissioner, Lahore Division from the Deputy Commissioners, Sheikhpura, Sialkot Lahore and Gujranwala this year ; if so, the district-wise names of the candidates alongwith their length of service, experience and academic qualifications ;

(c) whether the seniority and qualifications of Qanungos were kept in view by the Deputy Commissioner concerned while sending their character rolls to the said Commissioner for their appointment to the posts of Naib-Tehsildars ;

(d) the names of Qanungos in the said districts who were senior but not recommended for the said appointments ?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan): (a) Yes. A copy of the Ranking List is laid on the table of the House.* It is prepared

*Please see Appendix IV at the end.

according to seniority-cum-record for appointment as Officiating Naib-Tehsildars on purely temporary basis.

(b) Yes. The requisite List is laid on the table of the House.*

(c) Yes. The rolls of the candidates have been sent by Deputy Commissioners in accordance with Rule 5 of the West Pakistan Tahsildari/Naib-Tahsildari Service Rules, 1962, read with Rule 2(13) of the Rules *ibid.*

(d) Statement is laid down on the table of the House.*

ABSORPTION OF NAIB-TEHSILDARS (SETTLEMENT) IN PESHAWAR
DIVISION

*10460. Syed Inayat Ali Shah: Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that some time ago Government issued a letter to the Commissioner, Peshawar Division, Peshawar asking him to intimate as to how many Naib-Tehsildars (Settlement) could be absorbed by him in the permanent cadre of Naib-Tehsildars ; if so, a copy of the said letter be placed on the Table of the House ;

(b) whether it is a fact that the said Commissioner in reply to the said communication wrote letters to the Secretary, Revenue, Board of Revenue and the Additional Chief Secretary to Government of West Pakistan, Services and General Administration Department informing them that 5 posts in the permanent cadre of Naib-Tehsildars had been earmarked for the absorption of the above-mentioned officials and endorsed copies of the said letter to the Deputy Commissioners and the Political Agents under his control ; if so, the copies of both the letters be placed on the Table of the House ;

(c) whether the Deputy Commissioner, Mardan made recommendations of some persons of Settlement Wing for absorption in the light of (b) above ; if so, contents thereof ;

(d) whether any of the Naib-Tehsildars (Settlement) in the Peshawar Division has been absorbed against the five posts mentioned in (b) above, if not, reasons therefor ?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan): (a) Yes. The Services and General Administration Department had not addressed the Commissioner, Peshawar Division directly. But instructions were issued to all Administrative Secretaries/Heads of Attached Departments. It is not necessary to place a copy of the instructions on the Table of the House.

(b) Yes. The Commissioner informed the Additional Chief Secretary

*Please see Appendix IV at the end.

only. It is not necessary to place a copy of the reference on the Table of the House.

(c) Yes. The Deputy Commissioner, Mardan had recommended the name of Mr. Muhammad Saleem Khan, Additional Naib-Tehsildar, Mardan, only.

(d) No. Not found suitable.

GRANTING EXTENSION IN SERVICE TO OFFICERS OF REHABILITATION DEPARTMENT

*10462. Mr. Hamza: Will the Minister of Revenue be pleased to state the names and designations of Class I and Class II Officers under the administrative control of the Rehabilitation Department who were (i) retired, and (ii) granted extensions in service from time to time after attaining the age of retirement from 1st January 1967 to 31st December 1967 alongwith reasons for granting extension each time?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan): The names and designation of Class I and Class II Officers of the Settlement and Rehabilitation Organisation who were (i) retired and (ii) granted extension in service from time to time after attaining the age of retirement from 1st January 1967 to 31st December 1967 are given below:—

Retired Class I Officer

Ch. Nazir Ahmad, Deputy Settlement Commissioner with powers of Additional Settlement Commissioner (Transport), Headquarter's Office, Lahore.

Granted extension in service Class I Officers

Mr. S. M. Azhar, Additional Settlement Commissioner with powers of S. C. Karachi 9th February 1967 to 31st December 1968.

Class II Officers

Nil

Class II Officers

1. Mr. G. H. Habib, Assistant Accounts Officer—
 - (a) From 1st October 1966 to 30th September 1967.
 - (b) From 1st October 1967 to 18th April 1967.
2. Agha Suitan Humayun, District Rehabilitation Officer, Border Area Committee—
 - (a) From 1st October 1966 to 30th September 1967.
 - (b) From 1st October 1967 to 30th September 1968.

Reasons for granting extension in service to the above mentioned officers are as follows :—

- (i) shortage of experienced officers ;
- (ii) to utilize the experience of the retiring officers in the interest of public service ;
- (iii) to accelerate the pace of recovery of arrears of transfer price of evacuee property ;
- (iv) to ensure smooth functioning of Settlement Centres.

SHEEP BREEDING SCHEME

***10503. Chaudhri Idd Muhammad :** Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the West Pakistan Cabinet in its meeting held on December 6, 1967 decided to discontinue the Sheep Breeding Scheme in the Thal Area ;

(b) if answer to (a) above be in affirmative, (i) the cause of the decision (ii) the acreage of land that was given for the purpose of Sheep-Breeding in the said area ; and for what purpose the said recovered land will now be used ;

(c) whether it is a fact that the decision stated in (a) above would effect the meat prices badly and it would cause the more rise in meat prices ; if so, what steps Government intend to take in this respect ?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan) : (a) Yes.

(b) (i) Failure of the scheme.

(ii) 195 acres. This land will be auctioned.

(c) Since the scheme has already proved an utter failure, this question does not arise.

AUCTIONING OF STATE LAND

***10504. Chaudhri Idd Muhammad :** Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Council of Ministers during its meeting, held on 6th December, 1967, decided to lease out or put to auction all commanded and uncommanded state land in the former Punjab and Bahawalpur area ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, (i) the acreage of commanded and uncommanded state land in the said areas ; and (ii) when

the said decision would be implemented, and in case this decision has already been implemented, the acreage of land as has been leased out or auctioned upto now ?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan): (a) Yes, it has been decided to lease out, by open auction, all available State land in the Colony districts of old Punjab and Bahawalpur State areas.

(b) (i) The acreage of commanded and uncommanded State land to be leased out in the above mentioned areas under these orders is as follows :—

	A. K. M.
Commanded	... 248,831 0 12
Uncommanded	... 316,512 2 4

(ii) The implementation of this decision is in hand and will be completed before the next sowing season.

LEASING OUT "CHARAGHAS"

***10505. Chaudhri Idd Muhammad :** Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Provincial Cabinet decided on 6th December, 1967 that "Charaghas" in the Province should be leased out for five years in lots of 12.5 acres each ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, the number of "Charaghas" in the Province alongwith the areas as have since been leased out or auctioned upto now ?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan): (a) Yes. But the period of lease of such areas is 3 years.

(b) Generally every village/chak in Colony districts of former Punjab and Bahawalpur has a Charagah around it. In these colony districts there is an area measuring 125,153 acres as charagah in 3,886 villages/chaks.

2. The new scheme aiming at the leasing out of such areas for the three years is under implementation in the districts, and, therefore, figures about the total area leased out therefrom cannot be given at this stage.

ALLOTMENT OF LAND TO 'LAMBARDARS' AND 'MOEENS'

***10506. Chaudhri Idd Muhammad :** Will the the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the West Pakistan Cabinet decided on 6th December, 1967 to allot some acres of land to 'Lambardars' and 'Moeens' in the Province ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, whether the 'Lambardars' and 'Moeens' would be given the proprietary rights; if not, the terms and conditions prescribed by Government for the allotment of land to them?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan): (a) No.

(b) Question does not arise.

— — —

LEASING OUT LANDS IN THE RIVERAIN AREAS OF FORMER SIND

*10507. Chaudhri Idd Muhammad: Will the Minister for Revenue be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that the Provincial Cabinet decided on 6th December, 1967 that lands in the Riverain areas of former Sind be leased out for cultivation to meet the food shortage;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, (i) the acreage of such land alongwith the names of Talukas and Districts in which it is situated; and (ii) what would be the terms and conditions of lease?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan): (a) The decisions by the Cabinet for the purpose of leasing out lands in the Riverain areas of former Sind were actually taken earlier and not on 6th December, 1967.

<i>Name of District</i>	<i>Area to be leased out in acres</i>
(b) (i) Hyderabad	11,265-14
Thatta	15,000-00
Dadu	93,805-00
Nawabshah	115,958-00
Khairpur	16,282-00
Larkana	26,658-28
Jacobabad	96,402-06
Sukkur	4,502-26

(ii) The terms and conditions of the leases may kindly be seen at Appendix "A".

Appendix "A" showing the general instructions and terms and conditions on which lands are to be leased out:—

A—LONG TERM LEASES

(i) Kacha and Barani State land should be leased out after the Deputy Commissioners have satisfied all rights of Darya Khurdi Khas Mokai and Harap.

(ii) Where the area is less than economic holding, each lot should be, as far as possible, equal to the subsistence holding i.e., 16 acres and where the area is more than subsistence holding, the lots should be formed of 64 acres each.

(iii) Separate lots should be prepared for Kacha and Barani States and.

(iv) The period of lease in respect of lots of Kacha land would be 5 years, renewable for another term of 5 years.

(v) In the case of Barani areas, the period of lease may be for a period ranging from 5 to 10 years.

(vi) Minimum lease money to be charged in respect of such leases, will be approved by the Commissioner prior to the disposal of the lots formed for this purpose.

(vii) The lots will be leased out by the Deputy Commissioners by auction after due publicity.

(viii) No right of first refusal shall be allowed in respect of these leases.

(ix) The lessee shall not cut any tree growing on the land, without prior permission of the Collector, in which cash price of such trees will be charged from the lessee.

(x) In case the land leased out is subsequently granted to any other person in satisfaction of his rights before the expiry of the lease period, the lessee shall be entitled to the crop sown by him in addition to compensation, if any, to be paid to him by the subsequent grantee on account of substantial improvement made by him.

(xi) At least 60 per cent of the area shall be sown with food-grain crops.

(xii) The land will be used for agricultural purposes only.

(xiii) The lease will be liable to be cancelled, before the expiry of the period of lease, if the land is required for a public purpose or for breach of any terms and conditions listed above and the lessee shall not claim any compensation in respect of expenditure incurred by him.

B—TUBE WELLS LEASES

(i) As far as possible, tube-well lots will be formed of 128 acres each.

(ii) Lease will be granted for a period of 10 years, renewable for another term of the same period.

(iii) The tube-well lessee shall instal tube-well within a period of one year from the commencement of the lease, failing which the lease shall be cancelled.

(iv) In case the sub-soil water is subsequently found to be unfit for agricultural purposes, the lessee shall surrender the area without claiming any compensation, but the lessee will be entitled to remove any super-structure and machinery installed by him. The land so surrendered will be leased out on long term basis in accordance with the terms and conditions mentioned at "A" above.

(v) The same as mentioned under A-(i), (iii), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) (xii) and (xiii).

APPOINTMENT OF READERS IN WEST PAKISTAN, BOARD OF REVENUE

*10578. Mr. Hamza : Will the Minister for Revenue be pleased to state : -

(a) whether it is a fact that the appointments of Readers in the West Pakistan Board of Revenue are not made in accordance with clauses (i) and (ii) of Appendix to Rules 3.5 (3) and (7) (i) of the West Pakistan Board of Revenue, Ministerial Service Rules, 1962 ;

(b) the names of officials appointed as Readers in the Board of Revenue, during the years, 1966 and 1967 ;

(c) whether the officials mentioned in (b) above fulfilled the conditions of the said Rules ; if not, reasons for their appointment ;

(d) whether it is a fact that the officials adversely affected by the said appointments made representations to the Board of Revenue ; if so, the decision taken, if any ?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan): (a) No. The appointment to the post of Readers are made in accordance with rule 5 (i) (b) read with serial No. 2 of the Appendix to the West Pakistan Board of Revenue Ministerial Service Rules, 1962.

(b) (i) Mr. Muhammad Ahsan Faruqi. Appointed on 24th August 1966.

(ii) Mr. Anzar Hussain Zaidi. Appointment on 6th October

(c) Part I—Yes. 1966.

Part II—Does not arise.

(d) No official was adversely affected. However, Rana Muhammad Sharif has been making representations. The Board of Revenue examined his case thoroughly but did not find him eligible for appointment under the rules quoted in (a) above.

LAND GIVEN ON LEASE TO NON-PAKISTANIS

*10580. **Chaudhri Muhammad Nawaz** : Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that crown land in Chak No. 86/9L and 87/9L, Tehsil and District Sahiwal, was given on lease for establishing Seed Farm to Messrs Mical Novel Conovel and Henry Conovel, sons of Col. Conovel of Sahiwal, on 25th October 1965 at a rate of Rs. 26.19 per acre ;

(b) whether it is a fact that the lessees mentioned above are not Nationals of Pakistan but are serving in the Military Service in U. K. ; if so, reasons for giving lease to such persons?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan) : (a) Yes.

(b) The lessees are British Nationals, but it is not known whether they are in Military Service there. The lease was originally granted in 1915 for a period of 20 years and was then renewed from time to time, keeping in view the excellent work done by the lessees in developing the land into a high standard Agricultural Farm. The present lease period ends on 25th of October, 1975.

GOVERNMENT DUES OUTSTANDING AGAINST MESSRS SADAR DIN AND HAIDER KHAN, SONS OF RAJA KHAN OF TEHSIL NANKANA SAHIB

*10581. **Chaudhri Muhammad Sarwar Khan** : Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Messrs Sardar Din and Haider Khan, sons of Raja Khan of Tehil Nankana Sahib, District Sheikhupura have to pay large amounts to the Government on account of land revenue and Taccavi Loans ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, (i) the actual amount outstanding against each and (ii) the action taken or intended to be taken against both of them ?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan) : (a) Yes.

(b) (i)	Amount outstanding Rs.
Sadar Din	... 1,25,100.47
Haider Khan	... 80,789.73
Under stay by High Court	... 10,455 76
Balance due from Haider Khan	... <u>70,343.97</u>

(b) (ii) Coercive measures being adopted for the recovery of the amounts involved.

ALLOTMENT OF AGRICULTURAL LAND TO LANDLESS CULTIVATORS

*10676. Rai Mansab Ali Khan Kharal: Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether there is any scheme under the consideration of Government to allot state agricultural land to the landless cultivators and to recover its price in easy instalments;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, the time by which this scheme will be implemented?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan): (a) No such scheme is under consideration.

(b) In view of (a) above, the question does not arise.

REHABILITATION OF DISPLACED PERSONS IN BORDER AREAS

*10976. Mian Muhammad Shafi: Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether the rehabilitation of the displaced persons in the Border areas affected by September, 1965 War in Lahore and Sialkot Districts has been carried out;

(b) the details of War-affected areas in the said Districts where rehabilitation work has not been completed upto now?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan): (a) Yes.

(b) Does not arise.

AGRICULTURAL LAND IN BARRAGE AREA

*10977. Mian Muhammad Shafi: Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) the acreage and location of unallotted agricultural land in each new barrage area;

(b) the procedure prescribed for the allotment of the said land to agriculturists who cultivate the lands themselves?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan):

<i>Name of the Project</i>	<i>District</i>	<i>Acreage</i>	<i>Rs.</i>
(a) Guddu Barrage	... Sukkar	... 1,78,483·28	
	Jacobabad	... 1,01,217 08	
	Total	... 2,79,700·36	

Ghulam Muhammad Barrage.	...	Hyderabad and Thatta.	...	1,45,971
Taunsa Barrage	...	Muzaffargarh and Dera Ghazi Khan	...	4,11,235
Sukkur Barrage	...	Hyderabad	...	15,661
		Sanghar	...	28,552
		Mirpurkhas	...	37,039
		Dadu	...	28,054
		Larkana	...	91,792
		Sukkur	...	11,104
		Jacobabad	...	22,719
		Khairpur	...	25,762
		Nawabshah	...	12,130
		Total	...	<u>2,72,813</u>

(b) Ghulam Muhammad, Guddu and Sukkur Barrages.

Persons who are self-cultivators are given land from the allocation of area in respect of Haris (Peasants) made in these projects, on application to the Colonization Officer/Revenue Officer with a documentary proof of eligibility when area under this category is released for disposal by the Project Authorities.

Taunsa Barrage

The proposals for disposal of land in this Project are still under consideration of Government.

TACCAVI LOANS

*11056. Pir Ali Gohar Chishti : Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Government is providing Taccavi loans liberally to the cultivators as an incentive to intensify the Grow More Food Campaign in the Province ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, the total amount placed at the disposal of Commissioners and Deputy Commissioners of the Province for distribution during 1967-68 and the terms and conditions of the Taccavi Loan ;

(c) whether Government is satisfied that the amount was spent on the grant of loans to deserving cultivators ?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan) : (a) Yes.

(b) Out of the funds received from the Finance Department Rs. 1,10,95,000 have been placed at the disposal of the Commissioners for allocation to the Deputy Commissioners in their Division for granting Taccavi Loans to the cultivators. The Division and District-wise allocations are detailed in the Settlement I placed on the table of the House. The terms and conditions of Taccavi Loans are detailed in Settlement II placed on the table of the House.*

(c) Yes.

— — —

ALLOTMENT OF AGRICULTURAL LAND TO FAMILIES OF "SHAHEEDS"
OF SEPTEMBER, 1965 WAR

*11112. Pir Ali Gohar Chishti : Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Government has decided to give agricultural land to families of "Shaheeds" of September, 1965 War;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, (i) the areas in which the agricultural land has been given or proposed to be given along with the terms of allotment; (ii) the acreage of land reserved for the said families alongwith the acreage actually allotted to them upto now; and (iii) the number of the said families which have taken possession of the land alongwith the number of those which have not yet taken possession thereof and the approximate time by which possession of land is likely to be handed over to them ?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan) : (a) No. Only the heirs of the Shaheed Galantry Awardees were granted land.

(b) (i) Question does not arise.

(ii) Question does not arise.

(iii) Question does not arise.

— — —

ARREARS OF LAND REVENUE

*11116. Pir Ali Gohar Chishti : Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) the names and full addresses of the persons against whom land revenue exceeding rupees fifty thousand is outstanding ;

* Please see Appendix V at the end.

(b) the steps taken or intended to be taken for the recovery of the said Land Revenue from the defaulters ?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwer Khan) : (a) and (b) A statement containing the information is laid on the table.*

ARREARS OF TACCAVI LOAN

*11119. Pir Ali Gohar Chishti : Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) the names of the persons with full addresses against whom the 'Taccavi' Loan amounting to more than rupees twenty thousand is due ;

(b) the steps taken or proposed to be taken for the recovery of the said amount ?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan) : (a) A statement showing the names of such persons is placed at the table of the House.

(b) Necessary notices for the recovery of the Taccavi loans due from the defaulters / sureties of the loanees, are reported to have been issued by the Revenue Officers. In case they do not pay the dues further suitable measures will be taken according to Law by the District Authorities.

Government have, however, decided that collection of Taccavi Loans be postponed for two months in view of the fact that wheat is being harvested and the defaulters will not be able to pay back till it is harvested and sold.

STATEMENT

S. No. *The names of the persons with full addresses against whom the Taccavi Loan amounting to more than rupees twenty thousand is due.*

1. Mst. Zohara Begum, widow of Agha Nisar Ali Khan, resident of Bhakkar, Tehsil and District, Mianwali.
2. Nawabzada Sardar Ata Muhammad Khan Leghari of Choti Zarin, D.G. Khan District.
3. Mr. Dur Muhammad Khan Osto, Zamindar Taluka Jacobabad (Khairpur Division.)
4. Mir Wali Muhammad, son of Mir Haji Khuda Bux, self and on behalf of his brother Mir Ali Nawaz Talpur, T. Bago (Tando Bago) District Hyderabad, Hyderabad Division.
5. Mir Wali Muhammad, son of Haji Khuda Bakhsh, on behalf of Mst. Amna, widow of Mir Ali Nawaz and Mir Shahid Ahmad son

*Please see Appendix VI at the end.

of Mir Wali Muhammad, Tando Bago, District Hyderabad, Hyderabad Division.

6. Mir Haji Muhammad Khan, son of Mir Khuda Bux Talpur, Tando Bago, District Hyderabad (Hyderabad Division), self and on behalf of his son, Mir Khuda Bux.
7. Syed Haji Makbool Shah, son of K.S. Ali Bux Shah, Tando Bago, District Hyderabad.
8. Mir Wali Muhammad, son of Mir Abba'ali Khan, resident of Tando Jam Muhammad, Taluka Mirpur Khas, Hyderabad District.
9. Haji Muhammad Yusuf, son of Abdul Rehman Jarwar, Tando Bago, Hyderabad District.
10. Haji Muhammad Yusuf, son of Abdul Rehman Jarwar, Taluka Matli, Hyderabad District.
11. Dr. Sultan Ahmad, son of Hyder Khan Junejo, resident of Badin Taluka, Hyderabad District.
12. M. Jumo, son of Shafi Abro, resident of Taluka Badin, Hyderabad District.
13. Syed Miran Muhammad Shah, son of Zainul Abdeen Shah, Civil Lines, Hyderabad District.
14. Kazi Ahmad, son of Muhammad, Advocate, Hyderabad (Taluka Hyderabad).
15. Mr. Kunwar Abdul Hameed Khan, Zamindar, Taluka Thatta, District Thatta.
16. Mr. Jamal Khan Laghari, Zamindar, Taluka Sujawal, Thatta District.
17. Mr. Abdullah Khan Gul Muhammad, Taluka Sujawal, Thatta District, General Attorney of Mst. Jana and Hawa.
18. Mr. Khair Bux Khan Laghari, Zamindar, Taluka Sujawal, Thatta District.
19. Mr. Fazal Muhammad Khan, Zamindar, Taluka Sujawal, Thatta District.
20. Mr. Rasul Bux Khan -do- -do-
21. Mr. Ghulam Dastagir Memon, Zamindar, Taluka Mirpur Bathoro, Thatta District.
22. Mr. Fida Hussain Khawajo -do- -do-

23.	Mr. Muhammad Issa Khawajo	-do-	-do-
24.	Haji Khuda Bux Memon	-do-	-do-
25.	Mr. Noor Muhammad PaliJo	-do-	-do-
26.	Mr. Pir Muhammad Haji Ahmad	-do-	-do-

— — —

**CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL HOUSES FOR GOVERNMENT EMPLOYEES
AT BATGRAM**

***11279. Khan Malang Khan:** Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that a new Sub-Division has been created in Hazara district with its Headquarter at Batgram ;

(b) whether it is a fact that the Government have not so far constructed residential houses for Assistant Commissioner, Extra Assistant Commissioner, Tehsildars and other staff of the above said sub-Division ;

(c) if answer to (a) above be in the affirmative, the likely date by which residential Houses for Government employees would be constructed at Batgram?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The matter is under active consideration.

— — —

**TEMPORARY APPOINTMENT OF RENT CLERKS IN THE OFFICE OF DEPUTY
COMMISSIONER, DERA GHAZI KHAN**

***11393. Sardar Manzoor Ahmad Khan Qaisrani:** Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that five Rent Clerks were temporarily appointed in the office of the Deputy Commissioner, Dera Ghazi Khan for the period from 1st June 1964 to 7th August 1965 ; if so, (i) the names of these Clerks ; and (ii) the authority who sanctioned these posts ;

(b) whether the said Clerks have been paid their salary for the said period ; if not, reasons therefor and the time still required for payment of their salaries ?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan) : (a) Yes.

(i) Mr. Allah Diwaya, Rent Clerk, D. R. A's Branch.

Mr. Muhammad Nawaz Shirani, Rent Clerk, Taunsa.

Mr. Khan Muhammad, Rent Clerk, Jampur.

Mr. Rehmat Ullah, Rent Clerk, Rajanpur.

Mr. Gul Muhammad, Rent Clerk, D. G. Khan.

(ii) Deputy Commissioner, Dera Ghazi Khan.

(b) No. The staff was engaged by the Deputy Commissioner, Dera Ghazi Khan in the public interest for the recovery on account of Cash Rent on evacuee property which is the responsibility of the Central Government. The matter has remained under correspondence with the Chief Settlement and Rehabilitation Commissioner and the Finance Department for a long time. However to save the clerks from hardship due to the non-receipt of their salaries, the matter has again been taken up with the Finance Department and it is expected that Finance Department's sanction would be received shortly.

— — —

RELIEF PROVIDED TO FLOOD AFFECTED RESIDENTS OF VILLAGES KORA
BHUTNA AND BHINDA LASHKAR

*11470. Sahibzada Noor Hassan: Will the Minister for Revenue please refer to answer to starred question No. 9301 given on the floor of the House on 18th October 1967 and state:—

(a) whether it is a fact that gratuitous relief has not so far been provided to the residents of villages Kora Bhutna and Bhinda Lashkar out of the amount placed at the disposal of Commissioner, Bahawalpur Division;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, reasons, therefor?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan): (a) Village Kora Bhutna and Bhinda Lashkar (Basti Lashkar Khan) parts of village Abdullah Akuka have been provided with gratuitous relief in the shape of free wheat. No gratuitous relief in cash has yet been distributed as final assessment of losses was not made.

(b) The allocation of Rs. 20,000 has already been exhausted and another allocation of Rs. 20,000 has been placed at the disposal of the Commissioner, Bahawalpur Division.

The gratuitous relief in cash could not be distributed earlier because when the assessment of losses was being made of village Kora Bhutna and Bhinda Lashkar the Ghaggar flood water entered in Pakistan Territory. However, an amount of Rs. 2,000 has been placed at the disposal of the Sub-Divisional Magistrate, Christian with the instructions that the gratuitous relief should be distributed during this month positively.

— — —

**PATWARIS AND QANUNGOS WORKING IN THE SETTLEMENT DEPARTMENT
IN BATGRAM, DISTRICT HAZARA**

***11486. Khan Malang Khan :** Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Patwaris and Qanungos working in the Settlement Department in Batgram, District Hazara have not been paid their salaries since 1st December 1967 ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, the time by which their salaries will be paid to them ?

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan) : (a) On completion of the Operations the staff was disbanded on 30th November, 1967. The question of payment of their salaries therefore does not arise.

(b) Does not arise.

LAND LEFT IN INDIA BY REFUGEES FROM EAST PUNJAB

***11613. Rana Phool Muhammad Khan :** Will the Minister for Rehabilitation be pleased to state :—

(a) acreage of land left in India by the refugees from East Punjab and States ;

(b) total acreage of land left in West Pakistan by Non-Muslim migrants to India ;

(c) district-wise acreage of land out of that referred to in (b) above which has been allotted to refugee claimants alongwith the acreage not yet so allotted ?

Minister for Rehabilitation (Mr. Ghulam Sarwar Khan) : (a), (b) and (c). It is not in the public interest to lay the required information on the Table of the House.

VERIFICATION OF CLAIMS BY CENTRAL RECORD OFFICE

***11616. Rana Phool Muhammad Khan :** Will the Minister for Rehabilitation be pleased to state :—

(a) total acreage of land in respect of which the claims submitted by refugees have been verified by the Central Record Office upto 1st April, 1968 ;

(b) acreage of land shown to have been left by Muslims in the records received from East Punjab and the States in India ;

(c) total acreage of land shown in the record mentioned in (b) above in respect of which claims have not been preferred or verified ?

Minister for Rehabilitation (Mr. Ghulam Sarwar Khan) : (a), (b) and (c). It is not in the public interest to lay the required information on the Table of the House.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

GRANT OF LAND TO GOVERNMENT SERVANTS IN WEST PAKISTAN

419. Khawaja Muhammad Safdar: Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) the total acreage of land granted since January, 1960 to (i) Provincial Government Servants ; (ii) Central/Civil Government Servants ; (iii) Army, Navy and Air Force Officers and other ranks in West Pakistan ;

(b) the total area granted to Provincial Government Servants of the following categories :—

(i) drawing salary up to Rs. 99 per month ; (ii) drawing salary from Rs. 100 to Rs. 499 ; (iii) drawing salary from Rs. 500 to Rs. 999 ; drawing salary from Rs. 1,000 to Rs. 14,99 ; (v) drawing salary from Rs. 1,500 to Rs. 1,999 and (vi) drawing salary of Rs. 2,000 or above ;

Minister for Revenue (Mr. Ghulam Sarwar Khan) : (a)—

(i) 37914-33 acres.

(ii) 10417-30 acres.

(iii) 56191-12 acres.

(b) (i) 1356-29 acres.

(ii) 6473-38 acres.

(iii) 6236-00 acres.

(iv) 5884-22 acres.

(v) 4270-37 acres.

(vi) 13692-27 acres.

REFERENCE TO LATE NAWAB AMIR MUHAMMAD KHAN
OF KALA BAGH

وزیر زراعت و خوراک (ملک خدا بخش) - جناب والا - گذشتہ اجلاس کے بعد کئی ممتاز رہنما - ممبران اسمبلی اور جید عالمان دین کا انتقال ہوا - اس لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ان کے متعلق اس معزز ایوان کی طرف سے تحاریک تعزیت پیش کروں - آپ مجھے اجازت دیں کہ پیشتر اس کے کہ میں ان کے متعلق کچھ عرض کروں میں آپ کی خدمت میں وہ تحاریک پیش کر دوں - پہلی تحریک نواب امیر محمد خان کے متعلق ہے -

یہ اسمبلی نواب امیر محمد خان آف کالا باغ سابق گورنر صوبہ مغربی پاکستان کی بے وقت موت پر اپنے دلی رنج و غم کا اظہار کرتی ہے اور نواب صاحب مرحوم نے اس صوبہ کی جو بیش قیمت خدمات سر انجام دی ہیں انہیں خراج تجسین پیش کرتی ہے اور مرحوم کے پس ماندگان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ خداوند تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے - اس تعزیتی قرار داد کی ایک نقل بیگم امیر محمد خان کو اسمبلی کی طرف سے ارسال کی جائے -

REFERENCE TO LATE CHAUDHRI GHULAM ABBAS

وزیر زراعت و خوراک - جناب والا - دوسری تحریک چودھری غلام عباس کے متعلق ہے -

یہ اسمبلی مقتدر کشمیری رہنما چودھری غلام عباس کی وفات حسرت آیات پر گہرے رنج و غم کا اظہار

کرتی ہے۔ مرحوم نے اہالیان کشمیر کی جنگ آزادی کے سلسلہ میں جو گران قدر خدمات سر انجام دیں یہ اسمبلی ان کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہوئے دعا کرتی ہے کہ انہوں نے جس جد و جہد کے لئے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی خداوند تعالیٰ اسے بار آور کرے۔

یہ اسمبلی مرحوم کے پس ماندگان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتی ہے۔ خداوند کریم انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔

REFERENCE TO LATE SUFI ABDUL HAMID KHAN

وزیر زراعت و خوراک - جناب والا - تیسری تحریک صوفی عبدالحمید خان کے متعلق ہے۔

یہ اسمبلی سابق وزیر خوراک (مغربی پنجاب) و سابق ممبر صوبائی اسمبلی مغربی پاکستان صوفی عبدالحمید خان کی وفات حسرت آیات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتی ہے اور ان کے پس ماندگان سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتی ہے۔ خداوند کریم مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔

REFERENCE TO LATE MIAN MUHAMMAD AMIN KANJOON

وزیر زراعت و خوراک - جناب والا - اس کے بعد میں میاں محمد امین کانجون سابق ایم۔ پی۔ اے کے متعلق عرض کروں گا۔

یہ اسمبلی میاں محمد امین کانجون سابق ایم۔ پی۔ اے کی وفات پر دلی رنج و غم کا اظہار کرتی ہے اور دعا

کرتی ہے کہ خداوند تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے پس ماندگان کو صبر کی توفیق دے۔

REFERENCE TO LATE MR. MUHAMMAD HASHIM GAZDAR

وزیر زراعت و خوراک - جناب والا - پانچویں تحریک مسٹر محمد ہاشم گزدر کے متعلق ہے۔

یہ اسمبلی مسٹر محمد ہاشم گزدر سابق ممبر صوبائی اسمبلی مغربی پاکستان کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتی ہے اور حصول پاکستان کے سلسلے میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ خداوند تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور ان کے پس ماندگان کو صبر کی توفیق دے۔

REFERENCE TO LATE Mr. ABDUL MAJID JATOI

وزیر زراعت و خوراک - جناب والا - چھٹی تحریک مسٹر عبدالمجید جتوئی کے متعلق ہے۔

یہ اسمبلی مسٹر عبدالمجید جتوئی سابق ممبر صوبائی اسمبلی مغربی پاکستان کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ خداوند تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔

REFERENCE TO LATE ALLAMA I. I. KAZI

وزیر زراعت و خوراک - جناب والا - ایک اور قرار داد علامہ آئی آئی قاضی کے متعلق ہے۔

بہ اسمبلی علامہ آئی آئی قاضی کی وفات حسرت آیات پر
دلی رنج و غم کا اظہار کرتی ہے۔ علامہ موصوف
مغربی پاکستان کے نامور فرزند اور ماهر تعلیم تھے۔
یہ اسمبلی دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار
رحمت میں ممتاز جگہ عطا فرمائے اور ان کے پس
ماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔

REFERENCE TO LATE ALLAMA HAFIZ KIFAYAT HUSSAIN

وزیر زراعت و خوراک - جناب والا - آخری قرار داد علامہ
حافظ کفایت حسین صاحب کے متعلق ہے۔

یہ اسمبلی علامہ حافظ کفایت حسین صاحب کی
وفات حسرت آیات پر دلی رنج و غم کا اظہار
کرتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم
کو اپنے جوار رحمت میں ممتاز جگہ عطا فرمائے
اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا
فرمائے۔

جناب والا۔ یہ میرا اندوہناک فرض تھا کہ میں ان بزرگوں کی وفات
حسرت آیات کے متعلق یہ قراردادیں ایوان میں پیش کروں۔ یہاں پر
مجھے ایک شعر پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔

صبح کو طالران خوش العان
پڑھتے ہیں کل من علیہا فان

دنیا کو فنا ہے اور دنیا کی بے ثباتی اور انسان کی بے چارگی و مجبوری
اظہار من الشمس ہے۔ میں سب سے پہلے نوابزادہ مرحوم و مغفور کے
متعلق کچھ عرض کروں گا۔ نوابزادہ مرحوم ایک منفرد شخصیت کے

مالک تھے۔ ان کا تجربہ وسیع تھا انہوں نے اپنی صوابدید کے مطابق اس صوبے کی بہترین خدمات کرنے کی کوشش کی۔ میرے ان کے ساتھ نہایت ہی نیازمندانہ تعلقات تھے۔ میں ان کو تقریباً ۳-۳۵ سال سے جانتا ہوں۔ مرحوم بے حد خوابیوں کے مالک تھے۔ ان کی اس بے وقت موت اور بالخصوص جن حالات میں ان کی موت واقع ہوئی ہے اس نے اس صدمہ کو زیادہ شدید اور گہرا کر دیا۔ مرحوم کی وفات سے میں کیا بلکہ اسمبلی کے ہر معزز رکن کا ایک رفیق ان سے جدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں۔ میں اسمبلی سے درخواست کروں گا کہ قائد حزب اختلاف اور جناب والا کے ارشادات کے بعد میری اس تجویز کو منظور فرمایا جائے۔ اس کے بعد میں صرف ایک مصرعہ عرض کروں گا کہ

موت ہر شاہ و گدا کے خواب کی تعبیر ہے

دوسری تحریک میں نے چودھری غلام عباس صاحب کے متعلق پیش کی ہے چودھری غلام عباس کی شخصیت سے پاکستان کا ہر فرد واقف ہے انہوں نے ساری عمر کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی میں نمایاں اور ممتاز حصہ لے کر تاریخ میں اپنا ایک مقام پیدا کر لیا۔ مجھے ان سے ذاتی نیاز کا شرف حاصل نہیں تھا لیکن ان کی ذاتی شرافت و نجابت، ان کا خلوص، ان کی حب الوطنی اور بے لوث خدمت تاریخ کا سرمایہ رہیں گی۔ میں ان کے متعلق اپنی معروضات اس شعر پر ختم کروں گا۔

مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں

یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں

اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں ممتاز جگہ عطا فرمائے اور ان کی روح کو تسکین کا سامان مہیا کرے اور کشمیری عوام کی

جدوجہد آزادی نتیجہ خیز ثابت ہو اور ان کی آرزوئیں بار آور ہوں۔
میں آپ کی خدمت میں التماس کروں گا کہ قائد حزب اختلاف اور جناب
والا کے ارشادات کے بعد ان کے پسماندگان سے ہماری دلی ہمدردی فرما
دی جائے اور اس قرارداد کو معزز ایوان منظور کر لے۔

تیسری قرارداد جناب والا۔ میں نے اپنے محترم دوست صوفی عبدالحمید
خان سابق وزیر خوراک کے متعلق پیش کی تھی۔ صوفی صاحب ایک
متمدن۔ شریف انفس۔ خاندانی۔ پرانی وضع کے ایک نہایت ہی قابل قدر انسان
بلکہ بزرگ تھے۔ سیری ان کی واقفیت گزشتہ ۳۰۔۴۰ سال سے ہے۔
مرحوم نے ہمیشہ مجھ سے شفقت اور مہربانی فرمائی اور اس معزز ایوان
کا ممبر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے نہایت ہی قابل قدر خدمات انجام
دیں۔ مرحوم صدر صوبائی مسلم لیگ رہے ہیں اور انہوں نے مسلم لیگ
کی تنظیم میں خاصی دلچسپی لی۔ مرحوم کی وفات سے ملک کو بہت
نقصان پہنچا ہے میں استدعا کروں گا کہ قائد حزب اختلاف اور جناب والا
کے ارشادات کے بعد ان کے پسماندگان سے اس اسمبلی کا اظہار ہمدردی
بلکہ دلی ہمدردی فرما دیا جائے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں
ممتاز جگہ عطا فرمائے۔

چوتھی قرارداد میں نے میان محمد امین کانبجوں سابق ممبر اسمبلی کے متعلق
پیش کی تھی۔ مرحوم ملتان کے ایک نہایت ہی بااثر شریف خاندان سے
تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے علاقہ کی فلاح و بہبود کے لئے نہایت ہی
گراں قدر خدمات سرانجام دیں مرحوم مجھے اپنے بھائیوں کی طرح عزیز
تھے اور ملتان کی فضا میں ان کی وفات سے ایک خلا پیدا ہو گیا ہے مگر
اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کسی کو کیا دخل ہو سکتا ہے لہذا میں آپ سے
درخواست کروں گا کہ اسمبلی کے ارشادات اور قائد حزب اختلاف اور
جناب والا کے ارشادات ان کے پسماندگان تک پہنچا دئے جائیں۔ ہماری

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں ممتاز مقام عطا فرمائے ۔
 جناب والا ۔ ایک اور قرارداد جو میں نے پیش کی تھی وہ مسٹر محمد
 ہاشم گزدر سابق ممبر صوبائی اسمبلی کے متعلق تھی ۔ مسٹر ہاشم گزدر
 کے نام ناسی سے کون واقف نہیں ۔ وہ خاموش اور درد مند ، محنت کرنے
 والے بے حد قابل قدر انسان تھے ۔ انہوں نے آخری عمر میں مسلمانوں کی
 تعلیم کے لیے گراں قدر خدمات سرانجام دیں ۔ مجھے یاد ہے جناب والا
 کہ ان کی وفات سے چند روز پہلے مجھے ان سے ملنے کا شرف حاصل ہوا ۔
 میرے ان سے مراسم نیازمندانہ تھے اور وہ مدرسہ جس کے وہ انچارج تھے
 اس کی وہ تکمیل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے ۔ ان کی خدمات حصول پاکستان
 کے لیے کون نہیں جانتا اور وہ کیسے بھلائی جا سکتی ہیں لہذا میری
 استدعا ہے کہ اسمبلی کے جذبات آپ کی اور قائد حزب اختلاف کی اجازت
 سے ان کے پسماندگان تک پہنچا دیے جائیں ۔

جناب والا ۔ ایک اور قرارداد میں نے پیش کی تھی ۔ وہ ہمارے ایک
 نہایت ہی قابل قدر بزرگ حاجی عبدالجمید جتوئی سابق ممبر اسمبلی جن کو
 اس ایوان کے اکثر ممبران ذاتی طور پر جانتے ہیں وہ نہایت محنتی اور
 جوشیلے انسان تھے اور اپنے حلقے کی خدمت کرنے کی خواہش رکھتے تھے ۔
 ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں ممتاز جگہ عطا
 فرمائے اور اسمبلی کے جذبات ان کے پسماندگان تک پہنچا دیے جائیں ۔

ایک اور قرارداد جو میں نے پیش کی تھی وہ علامہ آئی آئی قاضی کے
 متعلق تھی ۔ وہ بہت ہی بلند پایہ عالم بنکھ مفکر اور ایک منفرد ہستی
 کے مالک تھے ۔ ان کی وفات جن حالات میں ہوئی ہمیں اس سے سخت
 صدمہ ہوا ہے ۔ ہمارے مغربی پاکستان سے ایک نہایت ہی قابل قدر
 شخصیت چھن گئی ہے ۔ ان کے علم کی گہرائی اور بلندی اپنی جگہ ایک
 خاص مقام رکھتی ہیں ۔ علامہ مرحوم نے تعلیم کے میدان میں پیش بہا
 خدمات سرانجام دیں ۔ میں التماس کرتا ہوں کہ اسمبلی کے جذبات ان کے
 پسماندگان تک پہنچا دیے جائیں ۔

آخر میں میں نے علامہ حافظ کفایت حسین صاحب مشہور مجتہد کے متعلق قرارداد پیش کی تھی۔ علامہ موصوف عالم دین اور متوازن طبیعت کے مالک تھے۔ دین پر بڑی گہری سوچ کرتے والے تھے اور موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق دین کو صحیح طور پر پیش کرنے والے ایک نہایت ہی کامیاب مقرر اور کامیاب انسان تھے۔ مرحوم کی وفات سے ہمارے مغربی پاکستان میں ایک ایسا خلا پیدا ہوا ہے کہ جس کا پورا ہونا بہت مشکل ہوگا۔ میں آپ سے استدعا کروں گا کہ آپ از راہ نوازش اس ایوان کے جذبات کو مرحوم و مغفور کے پسماندگان تک پہنچانے کی تکلیف یا سعادت حاصل کریں۔

جناب والا۔ یہ چند گذارشات تھیں جو میں نے آپ کی اور اس معزز ایوان کی اجازت سے ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ان مرحوم ہستیوں کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کی۔ دنیا فانی ہے۔ ناپائیدار ہے۔ ہر شخص نے جانا ہے مگر عمارا فرض ہے کہ ہم ان بزرگوں کی خدمات کی قدر کرتے ہوئے اپنے دلی جذبات کو آپ کی وساطت سے ان کے پسماندگان تک پہنچا دیں۔ میں اور میری پارٹی مشکور ہوگی اگر از راہ نوازش یہ قراردادیں معزز ایوان کی منظوری کے بعد پسماندگان تک پہنچا دی جائیں۔ شکریہ۔

خواجہ محمد صفدر (سیالکوٹ - ۱)۔ جناب والا۔ میں ذاتی طور پر اور اپنے رفقاکار کی جانب سے تمام تحاریک کے سلسلہ میں جو کہ جناب قائد ایوان نے اس ایوان میں پیش کیں ان کی ہم نوائی کرتا ہوں۔ جناب والا۔ جن معزز اور محترم ہستیوں کے متعلق یہ قراردادیں پیش کی گئی ہیں ان میں بعض نواب بھی تھے اور بعض درویش بھی۔ لیکن موت کے سامنے نواب۔ درویش اور بادشاہ یا فقیر سب مساوی ہیں۔ انگریزی میں کچھ اشعار ہیں جو اس طرح پر ہیں۔

Sceptre and crown must tumb'e down ;
And in the dust be equal made
with scythe and spade.

جناب قائد ملت چودھری غلام عباس سے میرے ایک عرصہ سے نیازمندانہ تعلقات تھے میری ان سے ملاقات ۱۹۴۵ء میں پہلی بار ہوئی جب وہ پاکستان کے انتخابات کے سلسلے میں ہماری مدد کے لیے وقتاً فوقتاً سیالکوٹ تشریف لاتے رہے۔ تب سے ان کی موت تک میں ان کو سیاسی طور پر اپنا رہبر اور پیشوا سمجھتا رہا۔ وہ نہایت ہی مخلص انسان تھے۔ ساری عمر صعوبتوں اور مصیبتوں میں گزاری لیکن کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہ کیا۔ انہوں نے کشمیری مسلمانوں کو پاکستان کا نعرہ بخشا۔ کشمیری مسلمانوں میں وہ واحد انسان تھے جو نہ صرف اس حق میں تھے کہ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کا موقعہ دیا جائے بلکہ خود بھی وہ اس کے سب سے بڑے داعی تھے کہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائیں۔ ان کی خدمات جلیلہ جو انہوں نے کشمیری مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے زندگی بھر کیں اس سلسلہ میں ان کی مساعی اور پیہم اور متواتر کوشش تاریخ کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے ان کی زندگی میں ان کی قدر نہ کی مگر وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب کہ اس ملک میں اور اس سے باہر ان کو وہ بلند مرتبہ نصیب ہوگا جس کے وہ حق دار تھے۔ جناب والا۔ قائد ملت مرحوم کو بہترین خراج عقیدت ادا کرنے کا طریقہ میری رائے میں یہ ہے کہ جس مشن کی تکمیل کے لیے وہ ساری عمر سرگرم عمل رہے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی اس مشن کو پورا کرنے کے لیے آج ہم عہد کریں کہ کشمیر کو پاکستان کا ایک حصہ بنانے کی سعی اور جد و جہد کو جو آج میری رائے میں انتہائی سست ہو چکی ہے تیز کریں۔ اس سے بہتر اور کوئی خراج عقیدت نہیں ہو سکتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائیں۔

جناب نواب امیر محمد خان کو میں ۱۹۵۱ء سے جب کہ وہ اور میں اس اسمبلی کے رکن بنے تھے جانتا ہوں ہر انسان کی طرح ان میں خوبیوں بھی تھیں اور خامیاں بھی وہ اپنی دوستی اور اپنی دشمنی دونوں میں انتہائی حد تک جاتے تھے لیکن جس عبرت ناک انجام کو وہ پہنچے اس سے

ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ انہیں غریقِ رحمت کرے۔ ایک بات مجھے افسوس سے کہنی پڑتی ہے جو لوگ ان کے اقتدار کے زمانے میں ان کے آگے پیچھے رہتے تھے۔۔۔ جب ان کا یہ عبرت ناک انجام ہوا جو خدا کرے کسی کا نہ ہو تو اس گورنمنٹ نے جس کے وہ سربراہ تھے۔ اور ایک عرصہ تک سربراہ رہے ان کے قاتلوں کے خلاف مقدمہ کی تفتیش بھی مناسب طور پر نہیں کی۔ یہاں تک کہ ہوم ڈیپارٹمنٹ کے ترجمان کے ذریعے سے اخبار میں یہ بات شائع کی گئی کہ کیونکہ ان کے ورثاء۔۔۔ ان کا خاندان یہ چاہتا ہے کہ قاتل کے خلاف مقدمہ نہ چلایا جائے۔ اس لیے لاء ڈیپارٹمنٹ سے جناب ہوم منسٹر نے یہ استفسار کرنا مناسب سمجھا ہے کہ یہ مقدمہ چلایا جائے یا نہ چلایا جائے۔ مجھے افسوس ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہوم منسٹر صاحب کو، جو کہ نہایت تجربہ کار اور پرانے وکیل ہیں، یہ علم نہ تھا کہ آیا مقدمہ چلایا جا سکتا ہے کہ نہیں۔۔۔ علم تو انہیں یقیناً تھا مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہیں کون سی مجبوری تھی اور انہوں نے کیوں لا ڈیپارٹمنٹ سے یہ پوچھا کہ وہ شخص جس کے خلاف قتل کا الزام تھا اسے چھوڑ دیا جائے اور اس کے خلاف مقدمہ نہ چلایا جائے اور اس قتل کو خاندانی تنازعہ کہنا کہاں تک درست تھا کسی متنازعہ مسئلہ پر بحث کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ وقت آنے پر میں اس معاملہ کے اس پہلو کو ان کے سامنے واضح طور پر پیش کروں گا کہ آخر وہ بات کیا ہے۔ جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے اس مقدمہ قتل میں اسقدر غفلت برقی جناب نواب صاحب مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریقِ رحمت کرے۔

جناب قائد ایوان نے میرے نہایت ہی واجب الاحترام اور میرے نہایت ہی مقتدر رہنما جناب صوفی عبدالحمید خان صاحب کی وفات پر تعزیتی قرارداد پیش کی ہے محترم صوفی صاحب ان گئے چنے بزرگوں میں سے تھے جنہوں نے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چودھری چھوٹو رام آنجہانی کے گڑھ میں نعرہ حق بلند کیا اور مسلم لیگ کی تحریک کو کامیاب بنایا۔ انہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے انتہائی

جد و جہد کی اور وہ اس زمانے میں ہمارے صنوعہ اول کے رہنما شمار کیے جاتے تھے۔ انہوں نے تمام عمر دین داری اور پریزیڈنسی میں بسر کی آخری عمر میں مذہبی اور ملی شفتگی کی بنا پر انہوں نے اپنی ذاتی زمین پر جامعہ حمیدیہ قائم کیا اور اپنی جائداد کا کثیر حصہ اس کیلئے وقف کیا اور اس درسگاہ کیلئے ایک نہایت شاندار عمارت تعمیر کی اسی مقام پر وہ آج دفن ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریقِ رحمت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل دے۔

میرے نہایت ہی عزیز دوست اور ساتھی حاجی عبدالمجید جتوئی حج بیت اللہ کی غرض سے تشریف لے گئے تھے مجھے ان کا آخری خط مدینہ منورہ سے موصول ہوا اس میں انہوں نے لکھا تھا ”میں مکہ معظمہ جا رہا ہوں اور اب مجھے خط وہیں لکھنا“ مگر پیشتر اس کے کہ میں انہیں خط لکھتا ان کی وفات کی اطلاع مجھے مل چکی تھی۔ نہایت نیک بزرگ تھے، نہایت ہی مخلص ساتھی اور نہایت ہی اچھے دوست تھے۔ ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ ملک کے مفاد کو پیش رکھتے ہوئے وہ اپنے علاقے کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کے علاقے سے بیسیوں نہیں بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ خطوط ان کے پاس آتے تھے اور وہ اپنا یہ فرض سمجھتے تھے کہ وہ ان سب خطوط کے مطابق جد و جہد بھی کریں اور خطوط لکھنے والوں کو ان کے جواب بھی دیں۔ اسی طرح مسٹر محمد ہاشم گزدر ہمارے ان بزرگ رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑے چڑھ کر حصہ لیا اگرچہ ٹریننگ کے اعتبار سے وہ ایک انجینیئر تھے لیکن انہوں نے اپنی ساری عمر پارلیمنٹوں میں گزاری۔ متحدہ ہندوستان کی اسمبلی کے بھی ممبر تھے پاکستان کی مجلس آئین ساز کے بھی ممبر تھے ون یونٹ اسمبلی کے بھی رکن ہوئے اور انہوں نے آخری دم تک قوم کی بہتری اور برتری کے لیے جد و جہد جاری رکھی۔ اگرچہ آخری چند برسوں میں انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی لیکن ان کا دل اس سیاسی جماعت کے لیے تڑپتا رہا جس میں انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ گزارا تھا۔

مسٹر آئی آئی قاضی کی خدمت میں مجھے صرف ایک بار حاضر ہونے

کا اتفاق ہوا ان کے متعلق میری معلومات اس سے زیادہ نہیں ہیں کہ وہ ایک عظیم مفکر تھے اور انہوں نے اس صوبہ کے لیے بیش بہا علمی خدمات سرانجام دیں۔ ان کے اٹھ جانے سے یہ صوبہ ہی نہیں بلکہ ہماری قوم اپنے ایک عظیم سپوت سے تہی دامن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریقِ رحمت کرے۔

علامہ حافظ کفایت حسین کو ذاتی طور پر جاننے کا مجھے شرف حاصل تھا۔ مجھے کئی بار ان کی فصیح و بلیغ تقاریر اور خطبات سننے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ وہ علم کا سمندر تھے۔ مگر اس کے ساتھ وسیع نظری بھی رکھتے تھے وہ اختلافی مسائل میں کم پڑتے تھے اور جہاں کہیں اختلافی مسائل پیدا ہوئے انہوں نے ان کو حتی المقدور رفع کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔

میاں محمد امین کالجوں سابقہ اسمبلی میں ہمارے ساتھ تھے مرئجان مرئج بزرگ تھے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں جناب قائد ایوان کی جملہ تحریرات کی تائید کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کی ایک ایک نقل متعلقہ مرحومین کے پسماندگان کو بھیج دیں اور ان سے ہم سب کی جانب سے تعزیت فرمائیں۔

وزیر زراعت و خوراک (ملک خدا بخش)۔ پیشتر اس کے کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ میں یہ کہنا بھول گیا تھا کہ دعائے مغفرت کے بعد ان سب بھائیوں کے احترام میں پندرہ منٹ کے لیے ایوان کی کارروائی ملتوی کی جائے۔

مسٹر حمزہ۔ اتنی معزز اور تنظیم ہستیاں دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم سارے دن کے لیے ایوان کی کارروائی ملتوی کر دیں۔

وزیر زراعت و خوراک۔ قائد حزب اختلاف نے مجھ سے اس بارے اتفاق فرمایا تھا۔

مسٹر حمزہ - قائد صاحب کے فرمان کے پیش نظر یہ حقیر انسان بھی کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ لوگ برسراقتدار تھے تو ہم میں سے بعض انہیں سجدہ کرنا پھر سمجھتے تھے۔ اگر سب کی نہیں تو کسی ایک کی لاج رکھتے ہوئے آج تمام دن کے لئے کارروائی ملتوی کر دی جائے۔ میں صرف عرض کر سکتا ہوں اسے ماننا یا نہ ماننا آپ کے اختیار میں ہے۔

Minister for Home (Kazi Fazlullah Ubedullah) : Mr. Speaker Sir, I am sorry to say a few words in reply to the remarks made by my friend the Leader of the Opposition. I strongly repudiate the allegation that the Government of West Pakistan tried to hush-up the investigation which was carried on in the matter of the death of Nawab Amir Mohammad Khan of Kala Bagh. I respectfully submit that my friend probably does not know that I had very friendly relations with the late Nawab Sahib. In fact, he has one of my best friends whom I knew for the last 15 years and his death was a great personal loss to me. I was greatly shocked when I learnt the circumstances under which his death occurred and, I conveyed my feelings to his son saying that not only I had lost a personal friend but the Province had also lost a great administrator.

Sir, as far as the allegation of my friend the Leader of the Opposition that the Government of West Pakistan did not take interest in the investigation and wanted to hush up the matter, is concerned, I say that it is not a fact at all. In fact, the police was immediately sent by a special plane to Mianwali. An Officer of the Crimes Branch was deputed who carried on the investigation for several days. Unfortunately, the difficulty in this case was that almost everybody was interested in the accused who happened to be the son of late Nawab Sahib. Even his mother and brothers were interested in protecting him. The evidence collected by the Officer of the Crimes Branch showed as if the accused had acted in 'self-defence' and that's why the I. G. of Police, as far as I remember, sent the matter to the Law Department to seek their advice whether the case should be cancelled in view of that evidence. I have checked this position from my friend the Minister for Law. So Sir, I repudiate the allegation of my friend that I tried to save the offender. In fact, nothing of the sort has been done. The Law Department was consulted who advised that the matter should go to the Court and it actually did go to the Court and it was subjudice. I think it was my duty as a friend and a Member of the Government to repudiate the allegation of my friend the Leader of the Opposition.

As far as the position regarding the condolence in respect of my deceased friend is concerned, I associate myself with the feeling expressed by the Leader of the House and the Leader of the Opposition.

مسٹر سپیکر - ملک امیر محمد خان آف کالا باغ اس صوبہ کی ممتاز شخصیتوں میں سے تھے۔ وہ ایک نہایت ہی اعلیٰ منتظم تھے۔ زراعت

کا کاروبار ہو یا پی آئی ڈی سی یا صوبہ کی گورنری ان کی انتظامی صلاحیتیں ہر جگہ نمایاں رہیں۔ زراعت کے میدان میں بالخصوص ان کا علم اور تجربہ بہت وسیع تھا۔ اور بالعموم انہوں نے صوبہ میں زراعت کی ترقی کے لئے بہت کام کیا۔ وہ ایک مخلص دوست تھے۔ وہ اپنے خیالات اور ارادے کے مالک تھے۔ گورنری کے زمانہ سے بہت قبل وہ اس ایوان کے ممبر رہ چکے تھے۔ ان کے رفقا اور دوستوں کو اب تک یاد ہے کہ وہ نہایت ہی معاملہ فہم تھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت اور جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔

چودھری غلام عباس مرحوم ایسی شخصیت تھے جن کا نام تاریخ کشمیر میں ہمیشہ قائم رہے گا۔ ان کی خدمات کشمیری قوم کے لئے بالخصوص اور مسلمانوں کے لئے بالعموم کبھی فراموش نہیں کی جا سکتیں انہوں نے تمام عمر کشمیر کی آزادی کے لئے وقف کر رکھی تھی اور اسی جدوجہد میں انہوں نے اپنی زندگی کا آخری وقت گزارا۔ ان کی زندگی ہر مسلمان کے لئے نمونہ تھی۔ وہ قوم کے ایک عظیم سپاہی تھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔

حاجی عبدالحمید جتوئی اس معزز ایوان کے ممبر رہ چکے ہیں۔ وہ اپنے علاقہ کے لئے یہاں جو جدوجہد کیا کرتے تھے ان سے وہ ممبران واقف ہیں جو گزشتہ ایوان کے ممبر تھے۔ وہ ہمیشہ نہایت جوش اور ولولے سے اپنے علاقہ کی نمائندگی کرتے تھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔

صوفی عبدالحمید پنجاب کے علاقے کے ایک عظیم لیڈر تھے۔ وہ مسلم لیگ کے سربراہ رہے ہیں۔ انہوں نے اس ایوان میں بھی بحیثیت وزیر اور اس ایوان کا رکن ہونے کی حیثیت سے قابل قدر خدمات سرانجام دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔

مسٹر محمد امین کانجو اس ایوان کے رکن رہ چکے ہیں۔ مجھے ان کے

ساتھ ۱۹۶۲ء میں بیٹھنے کا بھی موقعہ ملتا رہا ہے۔ ہم بحیثیت رکن اسمبلی ایک ہی بیچ پر بیٹھا کرتے تھے۔ میں ان کی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ نہایت ہی مہنساں تھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔

علامہ آئی۔ آئی قاضی ایک نہایت ہی بڑے عالم اور مفکر تھے۔ ان کی موت سے یہ صوبہ ایک مفکر سے محروم ہو گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔

حافظ کفایت حسین صاحب ایک عظیم عالم تھے۔ ان کی موت سے یہ صوبہ ایک عظیم علم دین سے محروم ہو گیا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔

مسٹر محمد ہاشم گزدر جس طرح کہ جناب قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف نے فرمایا ہے اس ایوان کے ممبر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے جو خدمات سرانجام دی ہیں وہ بھی فراموش نہیں کی جا سکتیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔

جیسا کہ قائد ایوان نے تجویز فرمایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام قرار دانوں کی ایوان میں کوئی مخالفت نہیں ہے اور یہ تمام قرار دادیں اتفاق رائے سے منظور کی جاتی ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر ان تمام مرحومین کے لئے دعائے مغفرت کریں۔

(اس مرحلہ پر جملہ حاضرین نے دعائے مغفرت پڑھی)

مسٹر سپیکر۔ ان مرحومین کے احترام کے لئے جیسا کہ قائد ایوان نے تجویز کیا ہے ایوان کی کارروائی ۱۵ منٹ کے لئے ملتوی کی جاتی ہے۔

The Assembly then adjourned for fifteen minutes.

The Assembly met at 10. 22 a.m. Mr. Speaker in the Chair.

PANEL OF CHAIRMEN

Mr. Speaker: There are two announcements.

Secretary: As required by Rule 5 of the National Assembly of Pakistan Rules of Procedure; as adopted for regulating the procedure of the

Provincial Assembly of West Pakistan, the Speaker of the Provincial Assembly has been pleased to nominate the following Members of the Assembly to form the Panel of Chairmen in order of priority for the Budget Session of the Provincial Assembly :—

1. Malik Miraj Khalid.
2. Mr. Muhammad Aslam Khan Khattak.
3. Mr. Zain Noorani .
4. Malik Muhammad Akhtar.

HOURS OF SITTINGS OF THE ASSEMBLY

Secretary : In pursuance of Rule 17 of the National Assembly of Pakistan Rules of Procedure, as adopted for regulating the procedure of the Provincial Assembly of West Pakistan, Mr. Speaker has been pleased to direct that with effect on and from 1st May, 1968, the Assembly will meet on all week days except, Saturdays, Sundays and holidays.

In pursuance of Rule 18 of the said Rules, Mr. Speaker has been pleased to direct that the sittings of the Assembly will ordinarily commence at 8.00 A.M. each day and conclude at 12.30 P. M. on Fridays and 1-30 P. M. on other days.

The Speaker has further been pleased to direct that in case of an afternoon Session, the Assembly would meet at 5.30 P. M.

ADJOURNMENT MOTIONS

CONSTRUCTION OF A CINEMA-HOUSE IN THE VICINITY OF TWO MOSQUES IN NAZIMABAD NO. 1, KARACHI

Mr. Speaker : We will now take up adjournment motions and the first one is by Mr. Mahmood Azam Farooqi.

Mr. Mahmood Azam Farooqi : I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and urgent public importance, namely, the unrest prevailing among the people of Karachi, due to the commencement of the construction of a cinema house on plot No. 1-K/2 (commercial) in Nazimabad No. 1 Karachi, which apart from being in the midst of residential area, is situated at a distance of less than 200 yards from two neighbouring mosques.

Minister for Excise (Syed Ahmad Saeed Kirmani) : Opposed.

Malik Muhammad Akhtar : There is a similar motion given notice of by me.

Mr. Speaker : The Member may also move his motion.

FAILURE OF THE DISTRICT ADMINISTRATION, KARACHI TO STOP THE CONSTRUCTION OF A CINEMA IN NAZIMABAD NO. 1, KARACHI

Malik Muhammad Akhtar : I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely the district Administration Karachi has failed to implement the direction of the Provincial Government to stop construction of cinema at Nazimabad No. 1. Within 200 yards of the cinema under construction there are two mosques. The news has perturbed the minds of the people of West Pakistan.

Minister for Excise : This motion is also opposed.

Mr. Speaker : Yes, please.

Minister for Finance, Excise and Taxation (Syed Ahmad Saeed Kirmani) : Sir, I oppose the motions on two grounds ; firstly, these are not of recent occurrence. A No Objection Certificate was issued for the construction of the said Cinema House on this site in the year 1960.

Mr. Speaker : 1960 ?

Minister for Finance, Excise and Taxation : Yes Sir, long before the birth of this Legislature. Only recently the No Objection Certificate already granted, was revalidated because of the change in the relevant rules otherwise this certificate was granted to the applicant in the year 1960. It is 8 years old story now.

Mr. Speaker : And since then, no construction has taken place ?

Minister for Finance, Excise and Taxation : I am not sure whether the construction is complete or not but the fact remains that the Provincial Government granted the No Objection Certificate to the applicant in the year 1960, and from that point of view, the matter is not of recent occurrence. As such, it may be thrown out.

Secondly Sir, coming to the factual side of the motion, the motion suffers from mis-statement. The site on which the Cinema House is to be raised, or has been raised, is not situated at the distance of less than 200 yards from the two neighbouring mosques. This is factually incorrect. The rules provide that while granting a No Objection Certificate for the construction of a Cinema House, it should be considered whether the proposed construction of the Cinema House falls within the radius of 200 yards of any mosque, school, college or hospital. But here it is not. But supposing it falls, the permission still can be given. There is no prohibition and all that the rules say is only this that it should be considered whether the proposed construction falls within a distance of 200 yards of the mosque or college or school or not. But in the present case, it is beyond 200 yards. It is about 600 yards from the mosques which have been referred to in the adjournment motions. On this ground too, I oppose the motions and request that these be thrown out.

مسٹر محمود اعظم فاروقی (کراچی - ۸) - جناب والا - پہلے

تو جو جناب وزیر صاحب نے فرمایا ہے کہ اس سینما کا no objection سرٹیفیکیٹ

۱۹۶۰ء میں جاری ہوا تھا اور اس وجہ سے یہ recent occurrence نہیں ہے اس کے لئے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ no objection سرٹیفیکیٹ کا کوئی گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا ہے اور نہ اسکا ہوا۔ آپ نے خاموشی سے اجازت دے دی ہے اس طرح سے ہمیں یا عوام کے لئے یہ بات قابل قبول نہیں ہو گی کہ یہ سرٹیفیکیٹ باقاعدہ جاری ہوا ہے۔ ہمیں تو اس وقت معلوم ہوا جب اس کی تعمیر شروع ہوئی اور اس کی بنیادیں کھدنا شروع ہوئیں۔ یہ پچھلی اسمبلی کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس پر کے۔ ایم۔ سی نے اعتراض کیا اور کے۔ ڈی۔ اے نے بھی اعتراض کیا۔ یہ recent occurrence اس لئے بھی ہے کہ no objection کی اطلاع جب تک عوام کو اخبارات کے ذریعہ یا گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے نہ دی جائے کہ no objection باقاعدہ issue ہوا ہے عوام کے لئے یہ تازہ واقعہ ہو گا۔ ظاہر ہے کہ جب سینما کی تعمیر شروع ہوئی تھی تب ہی عوام کو معلوم ہوا کہ یہاں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو قانون کے خلاف ہے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ یہ سینما دو سو گز سے زیادہ فاصلہ پر ہے آپ فرماتے ہیں کہ قانون میں اس کی گنجائش ہے کہ مسجد سے دو سو گز کے فاصلے پر ہونے کے باوجود حکومت اجازت دے سکتی ہے میں عرض کروں گا کہ اگر ایسا قانون ہے تو اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے لیکن حکومت کے ایک ترجمان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ کسی مسجد کے دو سو گز کے radius کے اندر کوئی سینما بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اگر اس قانون میں کوئی ایسا مقام موجود ہے کہ مسجد سے دو سو گز کے فاصلے پر پاکستان میں مسجد بنائی جا سکتی ہے تو پھر یہ غور کرنا پڑے گا کہ ایسا قانون بنانے والے لوگوں کے دلوں میں اسلام کا اور اس ملک کے رہنے والے لوگوں کے جذبات کا احترام ہے یا نہیں ہے۔ جہاں تک اس واقعہ کا تعلق ہے

وزیر متعلقہ لاہور میں بیٹھے ہوئے فرما رہے ہیں میں نے خود جا کر دونوں مسجدوں کے درمیان کا فاصلہ دیکھا ہے ازر واقعات کی حیثیت سے میرے پاس ایک جاری کردہ سرٹیفیکیٹ موجود ہے جسے میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ جناب والا۔ یہ سرٹیفیکیٹ فاصلے کے متعلق جاری کیا گیا ہے اور اور جن صاحب نے جاری کیا ہے ان کی qualifications یہ ہیں۔

G. S. Quresh B. L. (Civil) A. F. A. E. (Pak) Consulting Engineer and Surveyor formerly X. En. (Capital) Land Manager and Architect K. M. C.

ان qualifications سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس قدر اہل ہیں اور ان میں کتنی صلاحیت ہے وہ فرما رہے ہیں

“Certified that the distance between the Qudsia Mosque and plot No. 1-K. 2 (Commerical Nazimabad, is less than 500 ft. and the construction of cinema is, therefore, objectionable due to proximity of the mosque being within 600 ft. radius.”

اگر وزیر موصوف فٹ کو گز سمجھتے ہیں یا آپ کا گز ایک فٹ کا ہوتا ہے تو یقیناً اسکا فاصلہ دو سو گز سے زیادہ ہے اور اگر ایک گز تین فٹ کا ہوتا ہے تو یہ مسجد سینما سے ۶ سو فٹ سے کم کے radius کے فاصلہ میں داخل ہے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ یہ واقعہ پرانا ہے تو میں عرض کروں گا کہ یہ پرانا نہیں ہے بلکہ جیسے ہی علم میں آیا اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔

Malik Muhammad Akhtar (Lahore - II): Sir, I regret that the Minister concerned has not been given correct information. As far as the situation is concerned, the best judge can be Mr. Mahmood Azam Farooqi who is a Member of the House and who belongs to Karachi. He has also produced a document saying that the mosques are within 200 yards of the proposed cinema site. Secondly, Sir, I again regret to point out that the interpretation of the Minister is not correct and is not based on logic. The relevant rules say that it should be considered; hence it is mandatory for him to consider. It is not a discretionary power. He cannot allow cinemas to be constructed near mosques or schools if they are within a radius of 200 yards. That is a wrong assumption of powers and wrong interpretation of rules. Thirdly Sir, again an incorrect statement has been made in the House. Supposing the sanction was granted in 1960, then it should have expired in due course of time, say after a year or so or after a

statutory period for which it was due. I do not know the time-limit and I never knew that the Minister was going to make a statement like this otherwise I would have equipped myself with the rules on the subject. I consider that the sanction has been renewed and the cinema is being constructed within 200 yards radius of the already built mosques there.

Thirdly, Sir, I say that the sanction is not old, it is recent.

Mr. Speaker : It has been stated by the Minister for Information that permission for the construction of this cinema house was granted in 1960 and so this is obviously not a matter of recent occurrence.

Secondly the mover of this motion wants to discuss the commencement of construction of the cinema house and not any action of the Government. The commencement of the construction of the cinema house is an individual act for which no responsibility of the Provincial Government is involved as such.

Therefore both the motions are ruled out of order.

KARACHI ADMINISTRATION'S REFUSAL TO PERMIT KARACHI BRANCH
OF PAKISTAN DEMOCRATIC MOVEMENT TO HOLD A MEETING
ON 16TH MARCH, 1968

Mr. Speaker : Next. No. 2. Mr. Mahmood Azam Farooqi.

Mr. Mahmood Azam Farooqi : I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and urgent public importance, namely, the unrest prevailing among the people of Karachi due to the Karachi Administration's refusal to grant permission to the Karachi Branch of Pakistan Democratic Movement to hold a public meeting on Saturday the 16th March 1968 on the occasion of the Pakistan Democratic Movement's eminent leaders' visit to Karachi.

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : Mr. Speaker, Sir, I oppose the motion. Sir, the motion is not in order firstly because it is not a matter of recent occurrence. In the second place I will respectfully submit that the question of refusal of the Karachi Administration to grant permission to the Pakistan Democratic Front to hold a public meeting on Saturday the 16th March 1968 does not really arise because my friend knows that in the Karachi District Section 144 has been applied on the 14th of February and it was in force for a couple of months and, therefore the Pakistan Democratic Front could not hold that public meeting on Saturday the 16th March. It is true that one of their leaders who is also their Vice-President did make an application to the District Magistrate in this behalf to permit them to hold a meeting and it was refused on the ground that Section 144 was in force and, therefore, it could not be held. The District Magistrate, however, went out of his way to allow them to hold a meeting in any Public Hall and also allowed the use of loud-speaker. I understand that my friends did not avail that offer and the meeting was not held.

I submit Sir, that Section 144 was not applied in order to prevent our friends from holding that meeting. That was there already, more than a month prior to the application and prior to their intention of holding a meeting on 16th March.

I would, therefore, submit that this motion is not in order.

مسٹر محمود اعظم فاروقی (کراچی-۸) - جناب والا - مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ دفعہ ۱۴۴ پر کن کن کو عذر نہیں رہا - ۱۴۴ تو لاء آف دی ڈے ہو چکا ہے اور صوبے کے تمام اضلاع میں اور معاہدہ تاشقند کے بعد آج تک شائد چند ماہ کا بھی عرصہ نہ گزرا ہوگا کہ کسی شہر میں اس دفعہ کا نفاذ نہ ہوا ہو - یہ ایک طرح کی مستقل پابندی ہو چکی ہے - جناب والا - دفعہ ۱۴۴ کے نفاذ کے باوجود قانون میں گنجائش موجود ہے کہ ڈسٹرکٹ حکام پبلک میٹنگ کی اجازت دے سکتے ہیں - چنانچہ اس پر جلسے کی اجازت دی جاتی رہی ہے - لیکن اس کیس میں دو تین ہفتوں تک یا ان کے بعد بھی جب اجازت نہ ملی تو ایک وفد کمشنر صاحب کو ملا جس میں یہ خاکسار بھی شریک تھا - ایوان کو یہ سن کر ہنسی آئے گی کہ کراچی کے جلسے کی اجازت دینے سے اس لئے انکار کیا گیا کہ بیت نام کی جنگ ہو رہی ہے اس لئے کراچی میں جلسے کی وجہ سے نقص امن کا اندیشہ ہے - اسرائیل نے اردن پر حملہ کر دیا اس لئے حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ نقص امن کا اندیشہ ہے - تو ان بنیادوں پر کہا گیا کہ ہم ٹیلیفون پر مطلع کر دیں گے - ابھی میں کمشنر کے دفتر سے اپنے دفتر نہیں پہنچا تھا کہ اطلاع آئی کہ ہم نے جلسے کے متعلق مشورہ کر لیا ہے اور وہ یہ کہ آپ کسی بند جگہ پر اپنے ورکرز کی میٹنگ کر سکتے ہیں - جب اس کے لئے شامیانے لگ گئے اور جب جلسہ شروع ہونے میں آدھ گھنٹہ باقی تھا تو ہمیں کہا گیا کہ آپ جلسہ تو کر سکتے ہیں لیکن لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کر سکتے -

Minister for Home : Sir, this is irrelevant. He is discussing another

adjournment motion which he is moving today in connection with another meeting. He is discussing that.

مسٹر محمود اعظم فاروقی - میں اس پر بات کروں گا -

مسٹر سپیکر - اگر آپ اس پر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ موقع نہیں ہے -

مسٹر محمود اعظم فاروقی - جناب والا - پاکستان مسلم لیگ کے جلسے کے لئے دفعہ ۱۴۴ کے باوجود اجازت دی گئی - تو یہ طرز عمل آپوزیشن کی طرف قابل تعریف نہیں ہو سکتا - میں سمجھتا ہوں کہ یہ طرز عمل جمہوریت کے تقاضوں کے منافی ہے -

Mr. Speaker : The action has been taken under the ordinary administration of law, as stated by the Minister for Home, under Section 144 of the Cr. P. C. The motion is ruled out of order.

ORDERS OF THE KARACHI ADMINISTRATION ASKING THE KARACHI
BRANCH OF PAKISTAN DEMOCRATIC MOVEMENT NOT TO
HOLD A WORKERS' MEETING.

Mr. Speaker : Next No. 3. Mr. Mahmood Azam Farooqi.

Mr. Mahmood Azam Farooqi : Sir, I ask leave of the House to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and public importance namely the unrest prevailing among the people of Karachi due to the orders issued by the Karachi Administration asking the Karachi Branch of Pakistan Democratic Movement not to hold a workers meeting even in a closed place which was scheduled to be held at Mahmoodabad—Ashraf Colony in the evening of Sunday, the 17th March on the occasion of P.D.M. eminent leaders' visit to Karachi.

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah): I oppose this motion too. Mr. Speaker, Sir, I submit that this meeting also could not be held in an open place because of the fact that Section 144 was in force. As I submitted earlier it was in force since the 14th of February and this application has been made on the 17th of March, 1968. My friend knows that our people have been very unruly and they have behaved in a very riotous manner over the Vietnam War and especially in the middle of February, my friend will recall, an imaginary portrait of the Holy Prophet had been published by an American magazine, the Science Digest, and naturally it created great resentment throughout the country. This resentment burst out in Karachi and Lahore especially and, therefore, it was very necessary to

enforce Section 144 and it was applied. It was on that account that these public meetings were prohibited. The application actually said that they wanted to have a meeting near Bus Stop No. : 6 in Mahmoodabad Ashraf Colony. That could not be permitted. The District Magistrate did permit them to have a meeting in a closed hall and allowed them the use of loudspeaker which they did not avail.

Mr. Speaker: Where was this meeting to be held?

Minister for Home: In Mahmoodabad Ashraf Colony near Bus Stop No. 6.

Mr. Speaker: At a public place?

Minister for Home: Yes Sir, (interruptions).

The District Magistrate has held that this is a public place. It was near a bus stop. It is a place which is surrounded by a boundary wall but it was a public place and the District Magistrate thought so. He allowed them to have a meeting in any public hall. Khaliqia Hall is there, Katrak Hall is there, Frere Hall is there where five to ten thousand people can be accommodated.

They did not avail of that. (interruptions) Sir, I was submitting that they insisted on having that meeting at a place which is near a bus stop. This is what the application itself says and the District Magistrate had naturally said that it cannot be held and the District Magistrate allowed them to hold that meeting in a public hall. In fact, in a way the District Magistrate agreed to accommodate them and lift Section 144 and allow them the holding of the meeting and also the use of the loudspeaker, but they did not avail of it. In fact they have no grievance at all and I submit that this motion should be ruled out of order.

مسٹر محمود اعظم فاروقی (کراچی-۸) - جناب والا - مجھے انسوس ہے - کہ وزیر داخلہ کے محکمہ نے انہیں صحیح معلومات فراہم نہیں کی ہیں - سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے - کمشنر صاحب نے ہمیں یہ فرمایا کہ آپ بند جگہ پر جلسہ کر سکتے ہیں - محترم وزیر صاحب نے ہالوں کا ذکر کیا ہے تو اس کے متعلق یہ گزارش ہے کہ ہمیں بارہ بجے یہ بتایا گیا ساڑھے بارہ بجے پولیس کا دفتر بند ہو جاتا ہے - دوسرے دن اتوار تھا - اس لئے کارپوریشن کے ہال کے لئے تو ہم کوشش نہیں کر سکتے تھے - جہاں تک دوسرے ہالوں کا تعلق ہے - انہوں نے ملک میں ایسی سیاسی پابندیاں اور قوانین عائد کر رکھے ہیں کہ کوئی شخص حزب مخالف کو پرائیویٹ ہال دینے کو تیار نہیں ہوتا - ان میں لچ گانا ہو سکتا ہے - وہ تفریحی پروگراموں کے لئے فراہم

کئے جا سکتے ہیں۔ مگر حزب اختلاف کو اپنا جلسہ کرنے کے لئے کراچی جیسے cosmopolitan شہر میں کوئی اپنا ہال دے کر وزیر داخلہ کی ناپسندیدگی مول لینے اور اپنے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لئے تیار نہیں ہے اس لئے ہمارے لئے یہ ضروری تھا کہ ہم وہ بند جگہ کسی گھر میں تلاش کرتے۔ اس مکان کا ہم نے نمبر دیا تھا۔ مگر اس کی لوکیشن بتانے کے لئے ہم نے بس نمبر ۶ کے اڈے کا حوالہ بھی دیا تھا۔ ورنہ اس اڈے سے اس مکان کا فاصلہ اتنا ہے جیسے اسمبلی جیمبرز سے پارک لگژری ہوٹل بلکہ اس سے بھی تھوڑا ہو گا۔ وہاں کوئی ٹریفک کا سوال نہ تھا۔ گلی میں وہ جگہ تھی۔ ایک شخص کا وہ اپنا مکان ہے۔ چار دیواری بنی ہوئی ہے۔ گیٹ لگا ہوا تھا۔ اور وہ گیٹ ایسا تھا کہ اگر اسے بند کر لیں تو باہر سے اندر جھانکا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر ایک شخص کا گھر بھی پبلک جگہ ہے تو پرائیویٹ گھر کون سا ہو گا۔ وہاں ہمیں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کا حکم نامہ ملا کہ ہم لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کر سکتے۔ بیگم زاہدہ خلیق الزمان شاعرے میں لاؤڈ سپیکر استعمال کر سکتی ہیں۔ مسٹر احمد سعید کرمانی اپنے مسلم لیگ کے جلسے میں لاؤڈ سپیکر استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر ہمیں اس مکان میں لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا۔

Minister of Finance: We are people's men.

Minister of Home: We allowed them the use of the loudspeaker. Actually I have got it in writing from the District Magistrate.

مسٹر محمود اعظم فاروقی - خواجہ صاحب یہاں موجود ہیں وہ بھی اس کے شاہد تھے۔ ہمیں تحریری حکم دیا گیا۔ اور پھر وہ حکم نامہ واپس لے لیا گیا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ میں وہاں عینی شاہد تھا خواجہ محمد صفدر صاحب عینی شاہد ہیں۔ ہمیں یہ تحریری حکم دیا گیا کہ ہم لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کر سکتے۔

Mr. Speaker: No discussion about loudspeakers.

یہ جگہ جو تھی وہ closed جگہ تھی یا پرائیویٹ جگہ تھی۔

مسٹر محمود اعظم فاروقی - وہ closed جگہ تھی -

Minister of Home: No application was made to the District Magistrate; leaflets were distributed inviting people to that meeting. I am reading that leaflet. It came to the notice of the District Magistrate and therefore, he intervened and said there should be no meeting at that place.

”تحریک جمہوریت کے کارکنوں کا ایک اجتماع
سترہ مارچ بروز اتوار بوقت فوراً بعد دوپہر از
نماز مغرب بمکان نزد بس سٹاپ نمبر ۶ لیاقت
اشرف کالونی زیر صدارت رضوان احمد صاحب
منعقد ہو گا“

بمقام نزد بس سٹاپ

Mr. Speaker: 'Nizd Bus Stop' should not make it a private place.

خواجہ محمد صفدر (سیالکوٹ - ۱) - جناب والا - اتفاق کی بات ہے کہ میں اس واقعہ کے متعلق کچھ ذاتی معلومات رکھتا ہوں - مجھے جب اطلاع ملی کہ فلاں جگہ جلسہ کی ممانعت کر دی گئی ہے (قطع کلامی) جناب آپ وزیر داخلہ سے یہ دریافت کریں کہ کیا ان کے پاس ڈی سی کا وہ حکم موجود ہے جس میں انہوں نے اس مکان کا نمبر درج کر کے ہمیں منع کیا تھا کہ اس نمبر کے مکان میں آپ جلسہ نہیں کر سکتے - میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں (قطع کلامی) اس مکان کی چار دیواری میرے قد سے اونچی ہے - باقاعدہ لوہے کا گیٹ ہے اور گیٹ بالکل بند ہے باہر سے اندر جھانکا نہیں جا سکتا - مکان کے باہر ایک چھوٹی سی تختی آویزاں تھی اس پر کسی نے چاک سے لکھ دیا تھا کہ بحکم ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر اس مکان پر جلسہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی چھت نہیں ہے - میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وزیر داخلہ صاحب وہ آرڈر پیش کریں جس پر ہمارے کارکنوں سے دستخط کروا کے واپس لے لیا گیا تھا -

Mr. Speaker: What about this leaflet, which was published by the Conveners of the meeting.

خواجہ محمد صفدر - میں یہ کہتا ہوں کہ جو نقل میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی تھی وہ ڈی سی صاحب کا حکم تھا اور اس پر اس مکان کا نمبر درج تھا - کہ فلاں نمبر کے مکان میں آپ جلسہ نہیں کر سکتے -

Mr. Speaker : Has the Member got a copy of that order ?

خواجہ محمد صفدر - میں نے وہ نقل دیکھی تھی میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ڈی سی کا وہ آرڈر اس ایوان میں پیش کریں میں نے خود اسکی نقل پڑھی تھی -

Minister of Home : My dear friend I am not concealing anything. We have been permitting you to hold meetings. Don't impute that we are concealing anything.

خواجہ محمد صفدر - آپ ذرا تشریف رکھیں - جناب والا - یہ بڑی مزیدار بات ہے - مجھے جب اپنے دوستوں سے معلوم ہوا کہ اس خاص مکان میں جلسہ ممنوع قرار دیا گیا ہے تو میں نے اپنے ورکرز سے کہا کہ اگرچہ یہ آرڈر خلاف قانون ہے مگر ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ہم قانون شکنی کریں آپ کوئی بڑا مکان تلاش کر لیں جو اس جگہ سے قریب ہو۔ اور یہاں دو آدمیوں کو کھڑا کر دیا جائے جو ہر آنے والے کو ادھر بھیج دیں - شام کی نماز کا وقت ہو چکا تھا میں قریب کی مسجد میں چلا گیا جب میں نماز سے فارغ ہو کر واپس آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ پولیس ایک نیا حکم نامہ ڈی سی صاحب سے لائی تھی اور ہمارے مقامی کارکنوں سے اس کی تعمیل کرا کے لیے گئی ہے - اس کی نقل مجھے پڑھائی گئی اس میں یہ لکھا تھا کہ اس علاقہ کے کسی مکان میں بھی جلسہ نہیں ہو سکتا - پہلے حکم نامہ میں مکان کا نمبر دیا گیا تھا -

Minister of Home : I will read the order of the District Magistrate, to which my friend is referring and which he suggested that I am concealing. This is the order :

From Khalid Mahmood, CSP, Deputy Commissioner,
Karachi :

It has been brought to notice that a public meeting is sought to be held at Liaquat Ashraf Colony in the

Mahmoodabad Area. In view of the order promulgated under section 144 prohibiting such a gathering, it would be illegal to hold the meeting at the proposed venue. I have discussed with the Commissioner. There was, however, no objection to the meeting being held in a hall or closed premises. No permission has been accorded for the proposed meeting for which a cyclostyled notice has been circulated, and is, therefore, not to be held. This was explained in detail to the representative, who called in Office on Saturday.

مسٹر محمود اعظم فاروقی - اس آرڈر کی وہاں تعمیل کرائی گئی
وہ آپ کی فائل میں ہو گا -

Mr. Speaker : The Member is contradicting that order but not producing the copy of the order on which he is relying.

مسٹر محمود اعظم فاروقی - کسی پرائیویٹ مکان میں جلسہ کو
یہ کس طرح منع کر سکتے ہیں -

Mr. Speaker : As the action has been taken under section 144 Cr. P.C. the motion is ruled out of order.

**EXHORBITANT INCREASE IN THE W. P. URBAN IMMOVABLE PROPERTY
TAX LEVIED ON PROPERTY IN KARACHI**

Mr. Speaker : Next motion.

Mr. Mahmood Azam Farooqi : I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and urgent public importance, namely, the great unrest among the people of Karachi due to the exhorbitant and unparalleled increase in the West Pakistan Urban Immovable Property Tax levied on the property owners of Karachi.

Mr. Speaker : There is a similar motion by Malik Muhammad Akhtar. He may also move it.

**ENHANCEMENT IN THE ASSESSMENT OF IMMOVABLE PROPERTY TAX
IN KARACHI.**

Malik Muhammad Akhtar : I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, the Excise and Taxation Department has enhanced the assessment of immovable property tax in Karachi

to a very great extent. The social and political organizations have protested against this unreasonable enhancement of the tax. The news has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Minister for Excise & Taxation (Syed Ahmed Saeed Kirmani): Opposed. I have three objections regarding this adjournment motion tabled by Mr. Farooqi. In the first place, the assessment approximately started in Karachi round about four months back and, as such, this matter is not of recent occurrence.

Mr. Speaker: I think after the previous Session of the Assembly.

Minister for Excise & Taxation: Of course, after the previous Session of the Assembly. Secondly, it does not say that by whom it has been levied. It is not clear whether it has been levied by Government, I mean Government of West Pakistan, or by the local authorities or by some individual. The second vagueness in this motion is that nowhere in Pakistan the property owners are levied with tax. It is the property which is levied with tax. We do not tax people and we do not commit such mistakes.

Mr. Speaker: Are there two authorities in this Province which levy this West Pakistan Immovable Property Tax?

Minister for Excise & Taxation: As a matter of fact, house-tax is being levied by the local authorities whereas the West Pakistan Immovable Property Tax is being levied by the Provincial Government. It is a Provincial Act. But, in any case, it is not clear from this motion whether the Member is attacking the action of the Government or he is just attacking some local authority's action.

Thirdly, I was pointing out that it is not the owners who are being taxed. If at all we realise tax we tax the property. Under that Act, the target is not the owner but the property itself. If you will allow me to read you will observe that my friend has said namely, "the great unrest among the people of Karachi due to the exorbitant and unparalleled increase in the West Pakistan Urban Immovable Property Tax levied on the property owners of Karachi". My submission is that no such list has been prepared. Only the property has been taxed.

Mr. Speaker: But in the statement, which has been appended to the motion, it is clear that "in spite of the assurances given by the Parliamentary Secretary for Excise and Taxation, Director, Excise & Taxation, Karachi, and Mr. Ahmad Saeed Kirmani, Minister for Finance, Excise and Taxation, the principal of fixed/ agreed rents has been completely ignored for purposes of the assessment of West Pakistan Urban Immovable Property Tax and instead the G.A.R 5 published by the Director of Excise & Taxation which is based on specially prepared formula has raised the incidence of tax manifold and in some cases the taxes have increased by as much as 600%".

Minister for Excise & Taxation: And in spite of this statement it remains unresolved because the Member has said, ".....on the property owners of Karachi". He is again suffering from vagueness in as much as when he says exorbitant and unparalleled increase". Now, the increase should

have been specified. How many per cent ?

Mr. Speaker : 600 per cent.

Minister for Excise & Taxation : In the statement the Member, of course, says ".....in some cases the taxes have increased by as much as 600%". But that does not serve the purpose and it still remains vague. That is why I took the objection.

On the factual side the position is that this matter was gone into thoroughly by the Government representatives and the people's representatives of Karachi. After hearing their view point, certain measures were suggested by Government and the local representatives were thoroughly satisfied that the tax was being levied at a lenient level on the Karachiites. So much so that in that meeting a Vigilance Committee was also set up by the representatives of the people of Karachi and the Committee was entrusted with the noble task of watching the progress of the decisions arrived at in that meeting. So far the Vigilance Committee has not said a word against the manner of implementation of the decisions arrived at between the Government representatives and the people's representatives. Factually, there is no unrest. On the contrary, we have received letters and telegrams

Malik Muhammad Akhtar : Aporeciation letters from Begum Khaliq-uz-Zaman.

Minister for Excise & Taxation : Begum Khaliq-uz-Zaman represents Karachi. Her appreciation matters because the people of Karachi are at her back.

Mr. Mahmood Azam Farooqi : I also represent Karachi.

Minister for Excise & Taxation : You represent Karachi? You attended the Assembly only for two days. Is this representation? I pity the people of Karachi.

Khawaja Muhammad Safdar : What is your opinion about the Ministers who remain absent ?

Mr. Speaker : No personal remarks.

Minister for Excise & Taxation : I remain absent from Assembly when I am on Government mission.

Malik Muhammad Akhtar : The Ministers.....

Mr. Speaker : No personal remarks.

مسٹر حمزہ - پوائنٹ آف آرڈر - جناب سپیکر - میرا خیال ہے کہ جناب احمد سعید کرمانی صاحب کو یاد ہو گا کہ جس قسم کے الزامات آج وہ محمود اعظم فاروقی صاحب پر لگا رہے ہیں - پچھلی اسمبلی میں

ملک قادر بخش صاحب بھی اسی قسم کے الزام کرمانی صاحب کے متعلق لگاتے تھے۔

Minister for Excise & Taxation : I never absented myself from the legislature. The record will show that I was one of the principal speakers of this House, I have been taking keen interest in the debate and I have been watching the interest of my people courageously, boldly and fearlessly but that is besides the point. Sir, I was submitting respectfully that so far the Vigilance Committee has not reported to the Government that the decisions arrived at between the Government representatives and the people's representatives are not being implemented properly. There is a general satisfaction obtaining in the city that the people have been treated leniently. In fact, the people of Karachi have been dealt with more leniently than the people of other parts of the Province. This is a big concession that has been given to the people of Karachi. The fact remains that there is no unrest. It is a fact that the decisions arrived at are being implemented faithfully and the Government have, in the past, received letters and telegrams of appreciation. People are thankful to us that we have not only examined their grievances sympathetically but we have gone ahead in granting them several concessions. In some cases, the property has been assessed much lower than it was taxed previously. The poor people of the areas in Karachi have been exempted from the operation of West Pakistan Immovable Property Tax Act and large scale concessions have been given to them. I am really surprised to see that an old story is being repeated. At one time, of course, there was lot of resentment and agitation in the city of Karachi but that is an old story. We went there ourselves, examined in detail the grievances of the people with the result that now the situation there is completely calm and the people are thankful to the Government that the Government has given to them lot of concessions which, normally, they could not get under the law. So to say today that the unrest prevails there, the people are dissatisfied, the taxes are exorbitant and unparalleled is devoid of truth. Probably the Member is only playing to the gallery. The fact remains that we have done more than could be done under the law, for the people of Karachi.

مسٹر محمود اعظم فاروقی (کراچی - ۸) - جناب والا - پہلے تو میں جناب وزیر ایکسائیز اینڈ ٹیکسیشن کے اعتراضات کا جواب عرض کروں گا اور پھر اس کے بعد اس تحریک التوا کا پس منظر اس معزز ایوان کے سامنے پیش کروں گا۔ جناب وزیر صاحب نے اس تحریک التوا کی مخالفت کرتے ہوئے چار اعتراضات کئے ہیں۔ انہوں نے پہلا اعتراض تو یہ کیا ہے کہ یہ معاملہ چار ماہ پرانا ہے اور اس لئے اسے حالیہ واقعہ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن آپ نے ان کو بالکل صحیح طور پر متوجہ فرمایا کہ آیا یہ واقعہ گزشتہ اجلاس اسمبلی سے پہلے کا ہے یا بعد کا اور انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ واقعہ گزشتہ اجلاس کے بعد کا ہے۔ کرسٹانی صاحب ویسے تو کافی پرانے اور ایک سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور مجھے ان

سے ہر گز یہ توقع نہیں تھی کہ وہ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ ہر وہ واقعہ جو کسی اجلاس کے دوران وقوع پذیر ہو، وہ تو حالیہ واقعہ کہلایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو واقعہ اسمبلی کے اجلاس کے بعد رونما ہو اسے حالیہ واقعہ نہیں کہا جا سکتا۔ کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر وہ واقعہ جو گزشتہ سیشن کے بعد اور حالیہ اجلاس سے پہلے وقوع پذیر ہو یعنی دونوں اجلاسوں کے درمیان وقفہ میں رونما ہو وہ تمام پارلیمانی اصولوں کے مطابق حالیہ واقعہ ہی سمجھا جاتا ہے۔

Minister for Excise & Taxation : Not always.

مسٹر محمود اعظم فاروقی۔ انہوں نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ اس تحریک انتوا میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ ٹیکس کس نے عائد کیا ہے جس پر آپ نے ان کو بالکل بجا طو، پر متوجہ فرمایا کہ اس میں "West Pakistan Urban Immovable Property Tax" کے الفاظ دئیے گئے ہیں اس لئے اس کا نفاذ بھی حکومت مغربی پاکستان ہی کرے گی اور میں بھی آپ کی وساطت سے ان سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس ٹیکس کا نفاذ ہمارے صوبہ مغربی پاکستان میں حکومت برطانیہ کرے گی یا امریکہ اور کینیڈا کی حکومتوں نے اس کا نفاذ یہاں پر کرنا ہے۔ اس قانون کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ مغربی پاکستان کی حکومت کی طرف سے عائد کردہ ٹیکس ہے اور مغربی پاکستان کے قانون کے تحت ہی اس کا نفاذ ہوا ہے یا مغربی پاکستان کی حکومت ہی اسے نافذ کرے گی۔ اس لئے مجھے ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ یہ اعتراض فرمائیں گے کہ یہ تحریک انتوا on the face of it غلط ہے انہوں نے اس پر تیسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ ٹیکس تو جائیداد پر نافذ کیا گیا ہے اور یہ کہ مالکان جائیداد پر عائد نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ٹیکس کی وصولیابی کے لئے آپ نوٹس ارسال کرتے ہیں تو کیا وہ نوٹس مالک جائیداد کو بھیجا جاتا ہے یا کہ کسی جائیداد کو بھیجا جاتا ہے۔ آپ تو اس نوٹس میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں جائیداد پر اسقدر رقم ٹیکس کے طور

پر آپ کے ذمے واجب الادا ہے۔ یعنی ٹیکس کی ادائیگی کی ذمہ داری تو محمود اعظم فاروقی یا بیگم خلیق الزمان پر عائد ہوتی ہے نہ کہ ناظم آباد میں واقع جائیداد پر۔ آپ کا نوٹس افراد کے نام پر ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ٹیکس کی ادائیگی کسی جائیداد کی ملکیت کی وجہ سے ہی لازم آتی ہے لیکن اسکی ادائیگی کی ذمہ دار یا اس کا بار وہ افراد برداشت کرتے ہیں کہ یہ جائیداد جن کی ملکیت ہو۔ اس ٹیکس کی ادائیگی کی ذمہ دار وہ جائیداد نہیں ہوتی۔ آپ ٹیکس کی وصولی کے لئے جو نوٹس دیتے ہیں وہ جائیداد کے مالک کو دیتے ہیں آپ یہ نوٹس دیتے ہیں کہ آپ کی فلاں جائیداد پر ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔

Minister for Excise & Taxation: Tax levied on the property is realised from the owner.

مسٹر محمود اعظم فاروقی۔ جہاں تک اس مسئلے کی اہمیت کا تعلق ہے آپ اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ صوبائی وزیر صحت بیگم خلیق الزمان کے شوہر چودھری خلیق الزمان نے جو کہ ایک پرانے سیاستدان ہیں ایک بیان میں کہا ہے کہ کراچی کی غیر منقولہ جائیداد پر جو ٹیکس عائد کیا گیا ہے اس کی تحقیقات کرانے کے لئے ایک کمیٹی مقرر کرنی چاہیے۔ زیادتی کا اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کے تمام مقتدر اخبارات نے بھی اس ٹیکس کے خلاف لکھا ہے۔ جنگ کراچی اور انجام کراچی کے پرچے اٹھا کر دیکھیں۔ آپ کو اس ٹیکس کے خلاف ادارے لکھے ہوئے ملیں گے۔ سیاہ سرخیوں کے ساتھ ان اخبارات میں آپ کو اس ٹیکس کے خلاف خبریں ملیں گی کہ غیر منقولہ جائیداد پر ٹیکس میں بے مثال اضافہ کیا گیا ہے اور یہ کہ کراچی کے لوگ اس ٹیکس کی ادائیگی کی سکت نہیں رکھتے۔ اس ٹیکس کے عائد کئے جانے سے پہلے غیر منقولہ جائیداد پر ٹیکس اس طریقے سے عائد کیا جاتا تھا کہ جب کوئی مالک مکان اپنا مکان کسی فریق کو کرائے پر دیتا تھا تو ان کے مابین ایک معاہدہ ہوتا تھا جو کہ فریقین کو منظور ہوتا تھا یعنی یہ کہ فلاں مکان عمرو نے زید کو

اتنے روپے ماہوار پر کرائے پر دیا ہے اور پھر کرائے کی اسی رقم کو بنیاد بنا کر ٹیکس لگایا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے اس طریقے میں کسی قسم کی رشوت لینے یا اور کسی قسم کی گڑبڑ کرنے کا امکان نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب آپ نے اس ٹیکس کی تشخیص کے لئے ایک نیا فارمولہ یہ نکالا ہے کہ اب ایک ٹیکس انسپکٹر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی جائیداد کے متعلق یہ قرار دے کہ فلاں جائیداد کا شمار AI کی جائیدادوں میں ہوتا ہے اور فلاں جائیداد ہی کلاس یا سی کلاس قسم کی جائیداد ہے اور اسی درجہ بندی کو ملحوظ رکھ کر ہی آپ ان جائیدادوں پر ٹیکس عائد کریں گے قطع نظر اس کے کہ ان سے کیا کرایہ وصول ہوتا ہے اور ان پر ٹیکس کی شرح چاہے خود حکومت کے Rent Controller نے ہی متعین کی ہو۔ خواہ وہ صاحب یہ کہتے ہوں کہ فلاں جائیداد کا کرایہ دو سو روپے ماہوار ہونا چاہئیے لیکن اگر آپ انسپکٹر یہ کہہ دے کہ نہیں صاحب اس کا کرایہ تو چار سو روپے ماہوار ہونا چاہئیے تو پھر آپ ٹیکس کی تشخیص اسی حساب سے ہی کریں گے۔

Minister for Excise & Taxation : That is all wrong; the Member is just mis-stating the facts.

Mr. Speaker : Farooqi Sahib may please take his seat.

Minister for Excise and Taxation opposed the motion on the ground that the motion is very vague. The Minister has given two arguments, firstly, that in the motion itself, it has not been made clear whether the West Pakistan Immovable Property Tax has been levied by a local authority or by the Government. It is quite clear that the West Pakistan Urban Immovable Property Tax is levied by the Provincial Government and by none else. Secondly, the Minister is of the opinion that the motion is vague on the ground that the tax is levied on the property and not on the property owners of Karachi.

I think for the purpose of moving an adjournment motion, if it is written that the tax has been levied on the property owners, it does not make the motion vague. I, therefore, hold the motion in order.

Mr. Mahmood Azam Farooqi has asked for leave of the House to move that the House do now adjourn to discuss an urgent matter of recent occurrence, namely the great unrest among the people of Karachi due to exorbitant and unparalleled increase in the West Pakistan Urban Immovable Property Tax levied on the property owners of Karachi.

Those Members who are in favour of leave being granted should rise in their places.

(As less than 25 Members rose in their places, leave to move the motion was refused).

Mr. Speaker : Adjournment Motion No. 85, already stands disposed of.

DECISION OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT TO CLOSE THE
PAT FEEDER CANAL FOR THREE YEARS.

Mr. Speaker : Next moiton No. 5 by Khawaja Muhammad Safdar.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance namely, the extremely harmful decision of the Provincial Government to close the Pat Feeder Canal for three years, has caused grave alarm to the public of the Province, especially those living in Nasirabad Sub-division and other areas irrigated by the Pat Feeder Canal.

وزیر زراعت (ملک خدا بخت) - جناب والا - میں اس تحریک کی مخالفت کرتا ہوں لیکن میں آپ کی وساطت سے قائد حزب اختلاف سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس بات پر رضامند ہو جائیں کہ اس تحریک التوا کو دس تاریخ تک ملتوی کر دیا جائے -

خواجہ محمد صفدر - جناب والا - مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے -

Mr. Ahmedmian Soomro : Sir, I would also like to say just a few words as it is a very serious matter.

Sir, this is the most disastrous decision of the A.D.C. known, of course, on the papers as 'Agricultural Development Corporation' but more popularly known among the public as 'Andha-dhundh Corporation'. Sir, this name is very much justified after seeing this decision. Sir, crores of rupees have been spent on this and thousands of families are settled there, cultivating lands and living upon it. The Home Minister has very recently toured that very area along the bank of the canal. I am sure the Minister will bear me out that about 20 to 50 thousands families are settled and living there, even meeting their requirements for drinking water from the canal.

Sir, it is a decision to deprive those twenty thousand families of food and water by this 'andha-dhundh Corporation'. They say that this is a law and order problem. Is this a law and order problem and is this the way to tackle this problem whereby these twenty thousand families are going to starve. Would they like to see their children die of starvation or would they like them to loot and plunder. Sir, the object of this move is purely to settle other people on this land, to settle officials on that land and force these poor people to leave this place. Can it be said to be a law and order situation or does it create a situation to close the canal. Every day there is a fight on canals. Do they close the canals. It is against common sense—it would be inhuman to accept this reason that this lake's water is going to be stopped because people are fighting there. What is the cause? It is the economic condition. Settle those people on that land, let them cultivate it and you will have no law and order problem. Even if there is a law and order problem then what is the law and order machinery for. They have rangers - 550 striking force

sitting at Sibi—let them demand it from the Home Department to send them there. Law and order is no excuse.

Since the Leader of the House has asked for another day I would most respectfully appeal to him in the name of justice, in the name of humanity and in the name of that backward area to please not deprive people of this right of water.

Minister of Food (Malik Khuda Bakhsh) : May I say a few words. It was for the reason of having time to consider the whole question in all its implications that I made a request to the Leader of the Opposition who graciously agreed to it and so whatever has been said by Mr. Soomro seemed to me, in my humble judgment, to be premature, uncalled for and the apprehensions that he is voicing, in my humble judgment, may not even happen to be there. So I wanted time to consider this question. Particularly he has made a reference to the visit of the Home Minister with whom I had a brief consultation this morning and we have decided to get together to consider this question and so I had requested for ten days to which my friend had agreed. I would therefore, beg of you to grant that request.

Mr. Ahmedmian Soomro : The canal has not been repaired.

Minister of Food : The repair is taking place.

Mr. Speaker : We will take up this adjournment motion on the 10th.

ACUTE SHORTAGE OF ANTI-CHOLERA VACCINE IN LAHORE.

Mr. Speaker : Next—No. 7, by Khawaja Muhammad Safdar.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely, the acute shortage of anti-cholera vaccine in Lahore which resulted in the suspension of vaccination process at 31 centres in Lahore on Tuesday the 23rd April, 1968 as reported in the Press, has caused widespread indignation in the public mind.

NON-VACCINATION OF THE RESIDENTS OF VILLAGES WITHIN THE LAHORE MUNICIPAL CORPORATION DUE TO SHORTAGE OF VACCINE.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, there is similar motion to be moved by me.

Mr. Speaker : It is 102. Yes.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and urgent public importance, namely, due

to shortage of vaccine, the persons residing in the villages within the Lahore Municipal Corporation are not being vaccinated, which has exposed the life of persons of those areas to the danger of death.

وزیر صحت (بیگم زاہدہ خلیق انزمان) - جناب والا - خواجہ محمد صفدر صاحب نے پہلا یہ اعتراض کیا ہے کہ ویکسین چار گھنٹے تک پرائیویٹ ڈاکٹر حضرات کے پاس نہیں پہنچی - حالانکہ ہمارے پاس لاہور میں بہت تعداد میں ویکسین جبھی موجود تھی اور اب بھی موجود ہے - اور یہ ویکسین ان کو چار گھنٹے کے اندر پہنچ گئی - اور اس وقت بھی ہمارے پاس ہے - معلوم نہیں آپ کو یہ اطلاع کس نے دی کہ ان کو اس قسم کی دوا بعد میں پہنچی ہے - انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا ہے کہ ہاں ان کو ویکسین پہنچ گئی ہے - ہمارے پاس اسکا محکمہ ہے - اس محکمہ نے نہ صرف ملتان میں یہ کام شروع کیا بلکہ لاہور میں بھی فوری طور پر شروع کر دیا - معلوم ہوا ہے کہ ملتان میں ہیضہ پھیل رہا ہے - ویسے تو کراچی میں بھی شروع ہے - میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ویکسین کو اگر زیادہ عرصہ تک رکھا جائے تو اس کا خاص جوہر ختم ہو جاتا ہے - اس لئے یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کا مرض شروع ہوتا ہے ، تو ہم فوراً کارخانہ جات کو ہدایت کر دیتے ہیں - اس لئے ہمیں اپنے محکمہ کو اور لوگوں کو داد دینا چاہیے تھی (تالیاں)

خواجہ محمد صفدر - یہ نو لوگوں سے بیداد کریں اور ہم انہیں داد دیں کیوں ؟ . . . آپ ذرا خیال کریں کہ ملتان میں کتنے لوگ مر گئے ہیں -

وزیر صحت - دیکھیے اختر صاحب خود ہی آپ کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ اکثر ہوتا آیا ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں - میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ملتان میں یہ وبا باہر سے پا کہیں سے غالباً انڈیا کی طرف سے یہ وبا آ جاتی ہے یا کسی اور طرف

سے آ سکتی ہے۔ ایسٹ پاکستان کی طرف سے آ سکتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ جناب والا۔ دیکھیے جیسا کہ وہاں ملتان میں اس قسم کی وبا پھیلی تو وہ پرائیویٹ ڈاکٹروں کے پاس گئے اگر ہسپتالوں میں اطلاع دے دیتے تو یہ بیماری اتنی جلدی پھیلنے نہ پاتی یعنی epidemic نہ ہونے پاتا۔ لیکن چونکہ وہ پرائیویٹ ڈاکٹروں سے علاج کراتے رہے اور وہاں یہ ہوا کہ ان کے گھروں میں ان کا علاج کرتے رہے اور یہ بیماری پہلے ان کے گھروں اور محلوں میں پھیلی اور اس طرح بڑھتی چلی گئی۔ اگر ہسپتالوں کو اطلاع دیتے تو یہ بیماری اتنی جلدی نہ پھیلتی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ڈاکٹروں نے بہت محنت سے کام کیا ہے۔

مسٹر سپیکر۔ بیگم صاحبہ یہ تحریک التوا لاہور کے متعلق ہے۔

وزیر صحت۔ میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ چونکہ اختر صاحبہ کئی ایک ایڈجرنمنٹ موشن لائے ہیں اس لئے میں چاہتی ہوں کہ ملتان کے متعلق بھی عرض کر دوں۔

خواجہ محمد صفدر (سیالکوٹ - ۱)۔ محترمہ وزیر صحت نے ارشاد فرمایا ہے کہ صرف پرائیویٹ ڈاکٹروں کو چند گھنٹے تک کالرا ویکسین نہیں ملی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ کالرا ویکسین حاصل کرنے کے لئے آئے ہی نہیں تھے۔ میں محترمہ کی توجہ 'پاکستان ٹائمز' کے شماره ۶۸-۳-۲۳ کی طرف مبذول کراتا ہوں۔ جس کے الفاظ یہ ہیں۔

"Most of the city of Lahore hospitals and anti-Cholera Centres are facing acute shortage of vaccine. The vaccination process at 51 centres established by the authorities (I am not talking of private practitioners) at various points remained suspended for four hours. It is further reported that the medical practitioners were unable to render any substantial help as according to them the vaccine supplied was insufficient and lasted only an hour or so."

'پاکستان ٹائمز' میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ حکومت نے خود ٹیکہ لگانے کے جو سنٹرز قائم کئے ہوئے ہیں ان میں سے ۵۱ سنٹروں کو ویکسین

کے میسر نہ ہونے کی وجہ سے بند رہنا پڑا۔

جناب والا - یہ پرائیویٹ ڈاکٹروں کی بات نہیں تھی - کہ آپ نے ان کو وہ ویکسین دی تھی یا نہیں دی تھی - محترمہ تو مجھ سے زیادہ جانتی ہیں کیونکہ اس قسم کی خرابیوں کا ذکر اخبارات میں نہیں آتا - حالانکہ اس صوبہ میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر گئے ہیں علاوہ ازیں ہر سال چیچک، ہیضہ اور اس قسم کی موذی امراض وبائی صورت اختیار کر جاتی ہیں باوجود اس کے محترمہ کا محکمہ کروڑوں روپیہ خرچ کر رہا ہے - پھر کیا وجہ ہے کہ ایسی امراض وبائی صورت اختیار کر جاتی ہیں -

کبھی گورنمنٹ کہتی ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں علاج نہیں کراتے - اور کبھی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ انٹریوں کی بیماری ہے - جب لوگ سینکڑوں کے حساب سے مرنے لگے تو پھر محکمہ صحت نے یہ تسلیم کیا کہ یہ ہیضہ ہے - جناب والا - اس وقت جو کچھ اس ایوان میں بتایا گیا ہے اسلئے ظاہر ہے کہ سیری تحریک التوا کے خلاف کوئی قانونی اعتراض نہیں ہے - نیز اس واقعہ کی صحت سے بھی انکار نہیں کیا گیا -

مسٹر سپیکر - بیگم صاحبہ - کیا آپ ان واقعات کی صحت سے انکار کرتی ہیں -

وزیر صحت - جناب والا - لاہور سنٹر میں کسی وقت بھی ویکسین کی shortage نہیں ہوئی اور کام میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی -

مسٹر سپیکر - اب آپ تشریف رکھیں اور خواجہ صاحب کو بات کرنے دیں -

خواجہ محمد صفدر - جناب والا - یہ تحریک اس لئے پیش

ہوئی ہے کیونکہ 'پاکستان ٹائمز' میں اس خبر شائع ہونے کے بعد محکمہ صحت کی جانب سے کوئی تردید نہیں کی گئی۔ جہاں تک ویکسینیشن سنٹروں کا تعلق ہے وہ ۵۱ نہیں ۳۱ ہیں ان ۳۱ سنٹروں میں ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے کام بند ہو گیا۔ اس میں پرائیویٹ ڈاکٹروں کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ تحریک ان کے متعلق نہیں۔ جناب والا۔ جس طرح سے معترمہ بت کر رہی ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اس میں کوئی اعتراض نہیں۔

مسٹر سپیکر - کیا یہ درست ہے کہ ان ۳۱ سنٹروں میں ویکسین دیر سے پہنچی؟

وزیر صحت - ان سنٹروں میں ویکسین موجود تھی اور پرائیویٹ ڈاکٹروں نے جس وقت مانگی ان کو دے دی۔

مسٹر سپیکر - خواجہ صاحب کی تحریک التوا 'پاکستان ٹائمز' کی خبر پر مبنی ہے۔

وزیر صحت - جہاں تک 'پاکستان ٹائمز' کی خبر کا تعلق ہے میں عرض کرتی ہوں کہ ویکسین موجود تھی اور ہم نے اس کی تردید کر دی تھی۔ محکمہ کی طرف سے بیانات دیئے گئے تھے۔ دراصل معزز ممبر پڑھتے ہی نہیں۔

مسٹر سپیکر - کیا آپ نے اس خبر کے شائع ہونے سے اگلے روز تردید کر دی تھی؟

وزیر صحت - جی ہاں۔

Mr. Speaker ; As the facts have been denied by the Minister of Health, the motion is ruled out of order.

Malik Muhammad Akhtar : What about my motion Sir ?

Mr. Speaker : That also stands disposed of.

FAILURE OF THE GOVT. TO PROVIDE ADEQUATE FUNDS FOR THE ERADICATION OF MOSQUITO MENACE IN LAHORE.

Mr. Speaker : Next motion No. 8.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir I beg to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely, the failure of the Government to provide adequate funds for the eradication of mosquito menace in Lahore, as stated by the Health Department and published in the local press on the 24th April 1968. This obvious lack of interest on behalf of the Government in the well-being of the public of Lahore has greatly perturbed the mind of the public.

FAILURE OF THE ANTI-MOSQUITO CAMPAIGN IN LAHORE.

Mr. Speaker : Malik Akhtar to move his Adj. Motion No. 30.

Malik Muhammad Akhtar : Sir I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely the anti-mosquito campaign has completely failed in Lahore. The Corporation is not coughing up required funds. At least Lahore never had so many mosquitos as this year. There have been innumerable cases of malaria. The negligence of anti-malaria staff has exposed the life of the inhabitants of Lahore to the danger of death. The news has perturbed the mind of the public of West Pakistan.

وزیر صحت (بیگم زاہدہ خلیق الزمان) - Opposed جیسا کہ آپ فرماتے ہیں مچھر ضرور ہیں - اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مچھروں میں ملیریا کے جراثیم نہ رہیں ہمیں اس میں کامیابی ہوئی ہے - آپ سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں آپ کو تو معلوم ہو گا کہ شیخوپورہ اور دوسرے علاقوں میں کتنے لوگوں کی اموات ہوتی تھیں - کتنے بیمار ہوتے تھے اور اب کس حد تک کمی واقع ہو گئی ہے - جب ہمارے زمیندار فصلیں کاٹتے ہیں یا کسان کام کرتے ہیں - تو بہت سے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں - پہلے زیادہ لوگ بیمار ہوتے تھے اور ان کی اموات ہو جاتی تھیں مگر اب وہ شرح صرف ۲ کے قریب رہ گئی ہے - آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ جب ہم ۲ کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو کیا ہم دو اڑھائی لاکھ روپیہ خرچ نہیں کر سکتے - دراصل جو زیادہ اہم کام ہوتا ہے اس پر پہلے توجہ دیتے ہیں اور روپیہ خرچ کرتے ہیں -

مسٹر سپیکر - آپ یہ فرمائیں کہ کیا یہ حقیقت ہے جیسا کہ خواجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ فنڈز مہیا نہیں تھے اور محکمہ کی طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ؟

وزیر صحت - ہم تو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ مچھروں کو ختم کیا جائے تاکہ ملیریا کی بیماری نہ رہے - لیکن ان کی تجویز اتنی اہم نہیں تھی جتنی کہ پہلی تھی - ہم نے اسے زیادہ ضروری اور اہم سمجھ کر اس کے تدارک کی کوشش کی -

مسٹر سپیکر - آپ یہ فرمائیں کہ اس کے لئے محکمہ نے کوئی رقم مختص کی -

وزیر صحت - یہ معاملہ ابھی تک زیر غور ہے -

چودھری انور عزیز - جناب والا - میں ایک خاص پوائنٹ کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں - وہ یہ کہ بیگم صاحبہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے مچھروں سے ملیریا کے جراثیم نکلانے کی کوشش کی ہے - میں یہ دریافت کرتا ہوں کہ مچھروں سے ملیریا کے جراثیم کیسے نکلے جاتے ہیں -

مسٹر سپیکر - بیگم صاحبہ کیا آپ اس کے متعلق وضاحت کرنا پسند کریں گی -

وزیر صحت - جس طرح ہم میں کئی قسم کے انسان ہوتے ہیں اسی طرح مچھروں کی دو قسمیں ہیں - بعض مچھر کائے والے ہوتے ہیں اور بعض ہم جیسے ہوتے ہیں جو بے ضرر ہوتے ہیں - اور نہیں کائے - یعنی بعض ڈنک مارتے ہیں اور بعض بالکل بے ضرر ہوتے ہیں وہ ڈنک نہیں مارتے -

خواجہ محمد صفدر - کیا آپ بے ضرر مچھر ہیں ؟

وزیر صحت - کبھی یہ مچھر ہیضہ کی صورت میں آتے ہیں کبھی

ملیریا کی صورت میں آتے ہیں -

Mr. Speaker : Order, order.

*X X X X X X - ملک محمد اختر

Mr. Speaker : The remarks made by Malik Muhammad Akhtar are expunged from the proceedings of the Assembly.

As no legal objection has been taken to the admissibility of this adjournment motion, I hold it in order.

Khawaja Muhammad Safdar to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely, the failure of the Government to provide adequate funds for the eradication of mosquito menace in Lahore as stated by the Health Department and published in the local press on the 24th of April, 1968. This obvious lack of interest on behalf of the Government in the well-being of the public of Lahore has greatly perturbed the minds of the public.

Those Members who are in favour of leave being granted should rise in their places.

(As less than 25 Members rose in their places, leave to move the motion was refused.)

Minister for Food & Agriculture : I would request that we now take up business of the House.

Mr. Speaker : Yes.

Minster for Home : Sir, there are some adjournment motions pertaining to my department but since I will be out to Rawalpindi, I request that those adjournment motions may be taken up on Monday.

Mr. Speaker : Adjournment Motions pertaining to the Home Department would be taken up on Monday.

Minister for Home : Thank you.

Minister for Food & Agriculture : I have got a similar request also. I am accompanying the Minister for Home.

Minister for Finance : I am also leaving Lahore.

Minister for Communications & Works : I too, Sir.

Khawaja Muhammad Safdar : The whole Cabinet is just running away.

Minister for Law : I will be here to hold the fort.

Mr. Speaker : I think it would be better if the adjournment motions are taken up in the presence of the Ministers. Therefore, we shall take up those adjournment motions when they are back in Lahore.

PRESENTATION OF REPORTS OF THE STANDING/SPECIAL
COMMITTEES

Mr Speaker : We will now take up Orders of the Day. First Report is to be presented by the Minister for Revenue.

Minister for Revenue : Sir, I beg to present the Report of the Standing Committee on Revenue on the Colonization of Government Lands (Punjab) (West Pakistan Amendment) Bill, 1966.

Mr. Speaker : The Report of the Standing Committee on Revenue on the Colonization of Government Lands (Punjab) West Pakistan Amendment) Bill, 1966, stands presented to the House.

Mr. Speaker : Minister for Jails to present the next Report.

Minister for Law : With your permission Sir, may I present it on his behalf.

Mr. Speaker : No, please.

Next, the Minister for Jails.

(Not present)

Next, the Minister for Revenue.

Minister for Revenue : Sir, I beg to present the Report of the Standing Committee on Revenue on the West Pakistan (Land Administration Laws) Amending Bill, 1966.

Mr. Speaker : The Report of the Standing Committee on Revenue on the West Pakistan (Land Administration Laws) Amending Bill, 1966, stands presented to the House.

Next, the Minister for Law.

Minister for Law : Sir, I beg to present the Report of the Special Committee on Rules of Procedure of the Provincial Assembly of West Pakistan.

Mr. Speaker : The Report of the Special Committee on Rules of Procedure of the Provincial Assembly of West Pakistan stands presented to the House.

Next, Mr. Zain Noorani.

Mr Zain Noorani : I beg to present the Report of the Standing Committee on Public Accounts on the Appropriation, Commercial and Finance Accounts of the Government of West Pakistan for the year 1960-61 and the Audit Reports thereon.

Mr. Speaker : The Report of the Standing Committee on Public Accounts on the Appropriation, Commercial and Finance Accounts of the Government of West Pakistan for the year 1960-61 and the Audit Reports thereon stand presented to the House.

Next, Mr. Soomro.

Mr. Ahmedmian Soomro : I beg to present the Report of the Special Committee on the question of Privilege raised by Malik Muhammad Akhtar, M.P.A., regarding the non-observance of the warrant of precedence on the occasion of the staging of Drama "Wadi-e-Kashmir" on 3rd November, 1967, at Alhamra, Lahore.

Mr. Speaker : The Report of the Special Committee on the question of Privilege raised by Malik Muhammad Akhtar, M.P.A., regarding the non-observance of the warrant of precedence on the occasion of the staging of Drama "Wadi-e-Kashmir" on 3rd November, 1967, at Alhamra, Lahore, stands presented to the House.

Minister for Food & Agriculture : May I request, Sir, that the Minister for Jails, who has just arrived, be kindly permitted to move the motions.

Mr. Speaker : Yes please.

Minister for Jails : Sir, I beg to present the Report of the Standing Committee on Home Affairs on the West Pakistan Youthful Offenders Bill, 1966.

Mr. Speaker : The Report of the Standing Committee on Home Affairs on the West Pakistan Youthful Offenders Bill, 1966, stands presented to the House. Next.

Minister for Jails : Sir, I beg to present the Report of the Standing Committee on Home Affairs on the West Pakistan Children Bill, 1966.

Mr. Speaker : The Report of the Standing Committee on Home Affairs on the West Pakistan Children Bill, 1966, stands presented to the House.

ORDINANCES

(Laid on the Table)

Minister for Law : I beg to lay on the Table the following Ordinances :—

(1) The Industrial Disputes (West Pakistan Second Amendment) Ordinance, 1967.

- (2) The West Pakistan Water and Power Development Authority (Amendment) Ordinance, 1967.
- (3) The Civil Procedure (Special Provisions) Ordinance, 1968.
- (4) The Criminal Law (Special Provisions) Ordinance, 1968.
- (5) The Punjab Court of Wards (West Pakistan Amendment) Ordinance, 1967.
- (6) The West Pakistan Industrial Disputes Ordinance, 1968.
- (7) The West Pakistan Trade Unions Ordinance, 1968.
- (8) The West Pakistan Industrial and Commercial Employment (Standing Orders) Ordinance, 1968.
- (9) The West Pakistan Boards of Intermediate and Secondary Education (Multan and Sargodha) Ordinance, 1968.

REPORT OF THE NATIONAL ECONOMIC COUNCIL ON INTER-REGIONAL AND INTRA-REGIONAL DISPARITIES FOR THE YEAR 1966-67.

(Laid on the Table)

Mr. Speaker : Next item please.

Minister for Law : Sir, I beg to lay on the Table the Report of the National Economic Council on Inter-Regional and Intra-Regional Disparities for the year 1966-67.

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1965-66 OF THE WEST PAKISTAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION

(Laid on the Table)

Mr. Speaker : Next item.

Minister for Law : I beg to lay on the Table the Annual Report for the year 1965-66 of the West Pakistan Industrial Development Corporation.

Mr. Speaker : Next item, please.

**ANNUAL REPORT ON THE WORKING OF THE W.P.
PUBLIC SERVICE COMMISSION FOR THE
YEAR 1967.**

(Laid on the Table)

Minister for Law : I beg to lay on the Table the Annual Report on the Working of the West Pakistan Public Service Commission for the year 1967 and the memorandum required under Article 189(2) of the Constitution.

Mr. Speaker : Next item.

POINT OF ORDER

**RE : NON-APPEARANCE ON THE ORDERS OF THE DAY OF THE NOTICE
OF A RESOLUTION REGARDING DISAPPROVAL OF THE INDUSTRIAL
DISPUTES (WEST PAKISTAN SECOND AMENDMENT)
ORDINANCE, 1967.**

Malik Muhammad Akhtar : Before we take up Part III of the Agenda, I will raise a point of order.

I moved for the disapproval of the West Pakistan Industrial Disputes Ordinance under rule 89 (A) (1) of the Rules of Procedure. I would refer to part (1), (2) and (3) which say.

“(1) A member may move a resolution for disapproval of an Ordinance under clause (2) of Article 79 of the Constitution after giving five clear days notice of his intention to do so.

(2) A Member may move a resolution for the approval of an Ordinance under clause (3) of Article 79 of the Constitution after giving five clear days notice of his intention to do so.

(3) Where a notice is given under sub-rule (1) of a resolution for the disapproval of an Ordinance and a notice is also received in respect of the same Ordinance under sub-rule (2) of a resolution for approval of the same Ordinance, the latter resolution shall have precedence over the resolution for the disapproval of the Ordinance.”

Under the Constitution we have been delegated with powers of amending the Ordinance. Though the powers were given so late, yet they have been given and Article 79 (2), which confers these powers, reads as follows :—

(2) “An Ordinance made and promulgated under this Article shall, as soon as practicable, be laid before the Assembly of the Province, and shall,

subject to the provisions of clauses (3) and (4) of this Article, stand repealed upon the expiration of the prescribed period, or if a resolution disapproving it is passed by the Assembly, upon the passing of that resolution.

(3) At any time before the expiration of the prescribed period, a resolution may be moved in the Assembly of the Province for the approval of an Ordinance, and upon such motion the Assembly may approve of the Ordinance with or without any amendment.

(4) If the Assembly of the Province approves of an Ordinance under clause (3) of this Article, with or without any amendment, within the prescribed period, the Ordinance as so approved shall be deemed to have become an Act of the Provincial Legislature,—

(a) if it is approved without any amendment, upon such approval; and

(b) if it is approved with any amendment, upon receiving, within the said period, the assent of the Governor

Sir, what I mean to say is that there are two rights; one is conferred on any of the Members to move a resolution within 5 days for the approval of the ordinance and the other is to move a resolution within 5 days for the disapproval of the ordinance when the matter is to be taken up. Sir, I accordingly moved a resolution

Mr. Speaker: The Member means to say that his resolution for disapproval should have been on the order of the day?

Malik Muhammad Akhtar: Exactly Sir, and I have been deprived of it.

Mr. Speaker: The Member wants to move a resolution of disapproval in respect of an ordinance which has already been repealed by a subsequent ordinance. Is it not the case?

Malik Muhammad Akhtar: That may be the case Sir.

Mr. Speaker: Had it not been repealed, then the Member's resolution for disapproval could have appeared.

Malik Muhammad Akhtar: Sir, I am happy to hear your observation but I would say why have they brought the report?

Mr. Speaker: Which report?

Malik Muhammad Akhtar : Sir, they have laid this ordinance; it is probably at No.1.

Mr. Speaker : They have only laid it on the table of the House.

Malik Muhammad Akhtar : Why ?

Mr. Speaker : Because it was issued.

Minister for Law : (Mr. Allah Bachayo Ghulam Ali Akhund): Sir, this is in accordance with the provisions of Article 79 (2) of the Constitution which reads like this:

“(2) An Ordinance made and promulgated under this Article shall, as soon as is practicable, be laid before the Assembly of the Province.”

Therefore, Sir, this is the right of the Assembly and this is obligatory that it should be laid before the Assembly. Consequently, we have discharged the constitutional duties of laying it before the Assembly. If at all my friend has any objection, he should raise objection to the very Constitution.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, it was also obligatory on them to lay the resolution of disapproval. Of course, it is not mandatory. Sir, we have been given a right and privilege under the Constitution to move a resolution for disapproval. Is that right subject to the wishes and discretion of the Government? Can they stop it. They cannot Sir. That is our privilege. It is a question of the privilege of this House as well and I would like to have a ruling from you Sir, whatever it may be, as I think our rights will be guarded by it. They will be cautious because there has been a breach in this case.

Minister for Labour (Malik Allah Yar Khan) : Sir, the Member has entirely confused the whole issue. He has, in fact, tried to read between the lines. The Ordinance which was promulgated some time back, stands repealed but under the Constitution, as has been explained by the Minister for Law, we are obliged to lay that on the table of the House. That is an obligation under the Constitution. But so far as seeking the approval for the Ordinance is concerned, no such resolution has been moved by this side. If such a resolution is moved, then, of course, my friend has a right to move another resolution seeking disapproval. But since there is no such motion from this side for approval of this Ordinance, the Member has no right to move a motion of disapproval. Secondly, when an Ordinance has already been repealed, I do not see any reason how the Member would move a motion of disapproval on it when it does not exist any more.

Malik Muhammad Akhtar : Then there is another new point. Sir, this is an Ordinance which they have repealed. Supposing I have moved a resolution of repealing their Ordinance and that resolution is carried by this House, in that case I consider it is all the more necessary to bring it on the agenda because again we are being denied of a right of disapproval of a repealing Ordinance.

Mr. Speaker : The Member cannot force the Government to bring a resolution.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I cannot force them but I have got every right to use my privilege. They cannot get out of it by saying that the Ordinance has been repealed. In any case Sir, I consider that they should have brought my resolution for disapproval on the agenda.

Mr. Speaker : Malik Muhammad Akhtar has raised a point of order that he had moved a resolution for disapproval of the Industrial Disputes (West Pakistan Second Amendment) Ordinance, 1967, and that notice has not appeared on the orders of the day. The position is that the Industrial Disputes (West Pakistan Second Amendment) Ordinance, 1967 amended the Industrial Disputes Ordinance, 1959 which stands repealed by the West Pakistan Industrial Disputes Ordinance 1968. The amending Ordinance is, therefore, not in force at present. As such there is no question of bringing a resolution for the disapproval of the Ordinance which is no longer in force. Therefore, the point of order raised by Malik Muhammad Akhtar is ruled out of order.

— — —

ORDINANCES

THE PUNJAB COURT OF WARDS (WEST PAKISTAN AMENDMENT) ORDINANCE, 1968

Mr. Speaker : Yes, the Minister for Law.

Minister for Law : Sir, I beg to move :

That the Assembly do approve of the Punjab Court of Wards (West Pakistan Amendment) Ordinance, 1968, (West Pakistan Ordinance No. III of 1968) promulgated by the Governor of West Pakistan on 31st January, 1968.

Mr. Speaker : The motion moved is :

That the Assembly do approve of the Punjab Court of Wards (West Pakistan Amendment) Ordinance, 1968, (West Pakistan Ordinance No. III of 1968) promulgated by the Governor of West Pakistan on 31st January, 1968.

Malik Muhammad Akhtar : Opposed.

Minister for Law (Mr. Allah Bachayo Ghulam Ali Akhund) : Sir, I will give briefly the back ground of this Ordinance. Sir, originally under the Punjab Court of Wards Act, 1903, the Divisional Commissioner, now Member of Board of Revenue; was the Court of Wards for the Punjab. Later on Sir, by West Pakistan Act XVI of 1957, an amendment was made in Section (4), which said that Commissioner shall be the Court of Wards. Some difficulties were experienced in certain cases where the

property of a Ward lay within the jurisdiction of different Commissioners. Therefore, in order to clarify the position and to remove those difficulties, this Ordinance has been promulgated by the Governor of West Pakistan. The wording of the amendment is given in Section 2, which reads:

‘2. The Commissioner of the Division within the limits of which any ward ordinarily resides, or any property of any ward is situate, shall be the Court of Wards in respect of the person and the property of such ward :

Provided that where any ward ordinarily resides within the jurisdiction of one Commissioner and his property or any part thereof is situate within the jurisdiction of any other Commissioner, the Board of Revenue shall determine which Commissioner shall be the Court of Wards in respect of the person and the property of such ward.”

So Sir, this gives powers to the Board of Revenue to determine as to who shall be the Court of Wards whether the Commissioner in (a) Division or the Commissioner in (b) Division or both. This is done with a view to considering the circumstances of each case. The Board of Revenue in their own discretion and circumstances will determine as to which Commissioner shall exercise the powers of a Court of Wards. Once it is determined then the Commissioner, who is invested with the jurisdiction to exercise the powers of the Court of Wards, shall be the Court of Wards for the person and the property. This is all that this amending Ordinance seeks to do.

I request that this may be approved by the Assembly.

Mr. Speaker: The Minister means to say that only one Commissioner would be appointed Court of Wards both for the person and for the property.

Minister of Law: Yes Sir.

Mr. Speaker: May be the property is at Hyderabad and the man is at Peshawar.

Minister of Law: Whoever is appointed Court of Wards he will be both for the person and for the property and discretionary power is given to the Court of Wards.

ملک محمد اختر (لاہور-۲) - جناب سپیکر - قوانین اس لئے بنائے جاتے ہیں اور ان میں اس لئے ترامیم کی جاتی ہیں کہ انہیں بہتر بنایا جائے۔ اگرچہ اس آرڈیننس میں سابقہ ایکٹ کی ایک ہی دفعہ یعنی دفعہ ۱۱ (۱) کی جگہ دوسری دفعہ لائی گئی ہے۔ لیکن اس سے ساری ترتیب اور نظم و نسق

بدل دیا گیا ہے۔ جو ایگزیکٹو ہیڈ تھا اس کو بدل کے رکھ دیا گیا ہے۔ جناب سپیکر - ۱۹۰۳ کے ایکٹ کے تحت فنانشل کمشنر کو کورٹ آف وارڈ قرار دیا جا رہا تھا۔ اس ایکٹ میں بار بار ترمیم ہوئی لیکن ایگزیکٹو ہیڈ انہی کو رکھا گیا۔ لیکن اب جو ترمیم کی گئی ہے اس کے مطابق کمشنر جو ڈویژن کا سرگام وہ کسی شخص کی جائیداد اور اس کے person کا سرپرست ہو گا۔ جناب والا۔ دراصل یہ ۱۹۰۳ کا قانون اس وقت لاگو کیا گیا تھا جب کہ زمینداروں کے لڑکے.....

Sir, I regret that the attendance is so thin. It is no use addressing the House. May I request for the quorum?

Mr. Speaker: It is upto the Member.

Malik Muhammad Akhtar: I request that somebody should be there or else we may reach a stage when I and only the Minister concerned will be present in the House.

Mr. Speaker: So far it is a speech and not a point of order.

ملک محمد اختر - Alright Sir جناب صدر میں یہ کہہ رہا تھا کہ فنانشل کمشنر صاحب کی جو حیثیت تھی یا بورڈ آف ریونیو کی جو حیثیت تھی وہ تمام کی تمام ایک جوڈیشل حیثیت تھی۔ اور جناب والا اس قانون کو اس وقت نافذ کیا گیا جب کہ ۱۹۰۳ میں زمینداروں کے لڑکے اپنی جائیدادوں کو بہت بری طرح لٹا رہے تھے۔ اس وقت تعلیم کی کمی تھی اس لئے یہ قانون کسی جائیداد کے مالک کے کہنے پر یا اس کے رشتہ دار کی درخواست پر یا اگر ایسے حالات پائے جاتے تھے کہ جائیداد کا مالک کمسن یا فائرا العقل ہو تو بورڈ آف ریونیو یا فنانشل کمشنر اس بات کا فیصلہ کرنے کے بعد اس کی جائیداد کو اپنی تحویل میں لے لیتے تھے۔ جناب والا۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مسئلہ اب ایگزیکٹو کے ہاتھوں میں یعنی کمشنر کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے اور اب یہاں اس لفظ کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں لفظ کورٹ آف وارڈ ہے یعنی ”کورٹ“ کا لفظ ہے۔

مسٹر سپیکر - ملک صاحب اس آرڈیننس کے جاری ہونے سے پہلے بھی تو کمشنر کو یہ اختیارات حاصل تھے -

ملک محمد اختر - جناب میرے پاس جو کاپی ہے اس میں فنانشل کمشنر لکھا ہے -

مسٹر سپیکر - کیا آپ نے لا منسٹر صاحب کی تقریر کو غور سے سنا ہے - فنانشل کمشنر کی بجائے کمشنر کی ترمیم پہلے ہو چکی تھی -

Mr. Speaker: I think it was in 1957.

Minister of Law: Act III of 1957.

ملک محمد اختر - جناب والا۔ یہ جو ترمیم کر رہے ہیں اس کے متعلق کم از کم آپ نے بھی فرمایا ہے کہ کمشنر ایک جگہ کا ہے اور پراپرٹی یا person کسی وارڈ کا دوسری جگہ ہے وہ اسے کنٹرول کرے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترمیم ناقص ہے - مجھے صرف یہ مؤدبانہ گزارش کرنا ہے کہ نئے بدلے ہوئے حالات میں - صدارتی نظام حکومت میں جس پری طرح سے کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کو سیاست میں دخل حاصل ہو رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے - حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے - لاہور ڈویژنل کونسل نے جہاں پر کم و بیش چھ ڈپٹی کمشنر موجود تھے اور دس دوسرے سرکاری افسر موجود تھے انہوں نے ایک ریذولوشن پاس کیا ہے -

Mr. Speaker: The Member is not relevant.

ملک محمد اختر - میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ترمیم سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے - میرے لئے یا کسی اور شہری کے لئے تو اسے استعمال نہیں کیا جائے گا - لیکن کسی سیاسی وجہ کے لئے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے - کیونکہ آج کل کمشنر اور ڈپٹی کمشنر صاحبان محض الیکشن ایجنٹ بن کر رہ گئے ہیں - (تالیاں) وہ کسی کی جائیداد

کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں یہ اسے فائرا العقل کہہ دیں گے مثلاً کمشنر لاہور ڈویژن ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے فائرا العقل قرار دے کر میری جائیداد کو قبضہ میں لے لے۔ جناب والا۔ جہاں الیکشن کے لئے سیاسی رشوت کے طور پر روٹ پرمٹ دئیے جائیں وہاں کسی بھی چیز کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں الیکشن رپورٹ میں ان کمشنروں اور ڈپٹی کمشنروں کو مجرم گردانا گیا ہے۔ میں یہی بات نہیں کرنا چاہتا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں یہ اختیارات دے دینا آئین کی دفعات سے متضاد ہے۔ کیونکہ اس کے تحت کوئی بھی کمشنر اپنی صواب دید پر کسی شخص کا متوالی بن سکتا ہے یا کسی کی جائیداد کو اپنے قبضے میں لا سکتا ہے۔

جناب والا۔ میں اس کی پچاس کلازوں میں سے صرف چار پانچ پر تبصرہ کروں گا تاکہ یہ جلدی پاس کیا جا سکے۔ اگر آپ نمبر ۵ پر دیکھیں تو کوئی بھی لینڈ ہولڈر درخواست دے سکتا ہے کہ اس کے لئے یا اس کی جائیداد کے لئے کورٹ آف وارڈ مقرر کر دیا جائے۔ دفعہ (۲) کے تحت کمشنر کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ یہ ہیں۔

5(2) When it appears to the Provincial Government that any land-holder is —

Mr. Speaker: They are not amending this provision. The executive head is not changed.

ملک محمد اختر - مگر جناب والا ...

Mr. Speaker: They have only clarified it. Does the Member have any objection on the clarification.

Malik Muhammad Akhtar: According to your observation they have changed the scheme.

Mr. Speaker: That was not my observation.

Chaudhri Anwar Aziz: Sir, I think that he cannot discuss some other section of this Act. We have to consider a particular amendment before the House. This is what I mean. May I also know if it could be possi-

ble for you to suggest that some other provisions should also have been amended because when an amendment to a particular Act is before the House that means that the whole Act is under discussion.

Mr. Speaker: I am not in agreement with the learned Member. The position is that every speech should be relevant to the matter in issue and the matter in issue at present is that they have amended only section 4, sub-section (1) of the Punjab Court of Wards Act. Originally it provided that the Financial Commissioner was to be appointed the Court of Wards. In his place, by an amendment previously made, the Commissioner was made the Court of Wards, and in this scheme the same Commissioner would be the Court of Wards, and only they have clarified that in case these are two Commissioners, the Board of Revenue will decide which Commissioner will be the Court of Wards for the property of the ward. So the argument should be confined to this provision, which they have now introduced, i.e. the clarification and the decision which is to be taken by the Board of Revenue as to which Commissioner should be the Court of Wards.

ملک محمد اختر - جناب والا - میں آپ کے حکم کے مطابق یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں سکیم میں تبدیلی کی گئی ہے - میں سمجھتا ہوں explanation میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دی گئی ہے - اور یہ تبدیلی کرنے سے حکومت کو جب کہ الیکشن کمشن نے آئندہ صدارتی الیکشن کے لئے اپنا شیڈول پروگرام دے دیا ہے

چودھری انور عزیز - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب والا - میں نے پہلے ہوائنٹ آف آرڈر پیش کیا تھا کہ جس وقت کسی ایکٹ میں کسی ہنگامی قانون کے ذریعہ ترمیم کی جاتی ہے تو اس وقت ترمیم ہونے کی وجہ سے پورے کا پورا ایکٹ ہاؤس کے سامنے آتا ہے - جو تبدیلی کی گئی ہے اس وجہ سے باقی ایکٹ کے متعلق بات کی جا سکتی ہے -

مسٹر سپیکر - چودھری صاحب میں اس کے متعلق یہ وضاحت کرنی چاہتا ہوں کہ جس طرح ترمیم کی گئی ہے یا جو ترمیم ہاؤس کے سامنے ہو اس کے متعلق اگر کوئی چیز relevant ہے تو وہ بات متعلقہ ہو سکتی ہے - اگر آپ یہ تجویز کرنا شروع کر دیں کہ فلاں سیکشن میں یہ ترمیم ہے - فلاں سیکشن میں یہ چاہئے یا اس ہنگامی قانون میں بجائے ایک پروویژن کی ترمیم کرنے سے تمام ایکٹ کو ترمیم کرنا چاہئے تو آپ کی تقریر کا وہ حصہ یا آپ کی observation متعلقہ نہیں ہو گی - البتہ اگر سیکشن میں سب سیکشن 1 میں اس سکیم کو جس طریقے سے لایا گیا ہے اس میں اگر کوئی . . . تجویز کرنا چاہتے ہیں یا اگر دوسرے سیکشن کا حوالہ دے

کر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے یا اس سے انہوں نے غلط اختیارات حاصل کئے ہیں تو وہ بات متعلقہ ہو سکتی ہے ۔

The entire Act or the provisions of the entire Act would not be discussed on the floor of the House.

Chaudhri Anwar Aziz : Sir I would like to bring an analogy in support of my contention. Supposing we have just an amendment concerning ..

Malik Muhammad Akhtar : On a point of order Sir.

Mr. Speaker : He is already on a point of order.

Chaudhri Anwar Aziz : Sir, my contention is that in this particular Ordinance there is only an amendment to sub-section (1) of section 4. Supposing I was to make an amendment to this Ordinance and bring out twenty amendments to all the various sections of the Ordinance. .

Mr. Speaker : Those would have been out of order.

Chaudhri Anwar Aziz : In that case I would only bring amendment to section 4, sub-section (1), and no other amendment could be brought by me.

Mr. Speaker : Yes.

Chaudhri Anwar Aziz : That is a very stiff ruling.

Minister of Law : Sir there was full consideration of this matter and the Chair (yourself) had given the ruling. I refer my friends to that ruling. They may read that decision. I don't think it can be re-opened now.

ملک محمد اختر - جناب والا - میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں اب proviso پر ہی رہ جاتا ہوں - وزیر قانون صاحب نے یہ proviso add کیا ہے -

“Provided that where any ward ordinarily resides within the jurisdiction of one Commissioner and his property or any part thereof is situate within the jurisdiction of any other Commissioner, the Board of Revenue shall determine which Commissioner shall be the Court of Wards in respect of the person and the property of such ward.”

نئی سکیم میں کم از کم یہ کر دیا گیا ہے کہ ایک ہی کمشنر کو

ایک شخص کے person یا پراپرٹی دونوں کے لئے کورٹ آف وارڈز مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کرنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ inconvenience cause کر دی گئی ہے۔ کیونکہ کورٹ آف وارڈز جن لوگوں کو مقرر کیا جا رہا ہے یا تو وہ voluntarily ہونے ہیں یا کورٹ آف وارڈز فیملی کے لئے ہونے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک کمشنر کو چیکہ ایکٹ کا نفاذ کیا جا چکا ہے اگر ایک شخص کی زمین سندھ میں ہے اور اس کی رہائش پشاور میں ہے وہ minor ہے میں سمجھتا ہوں اس طرح سے انہوں نے زیادہ inconvenience cause کر دیا ہے۔۔۔

Mr. Speaker : Is this Act applicable to the whole of West Pakistan ?

Minister of Law : No Sir. It is applicable only to the Punjab.

Chaudhri Anwar Aziz : It is applicable to the whole of West Pakistan. That amendment was carried in the West Pakistan Act XVI of 1957. It was adopted for the whole of West Pakistan.

Minister of Law : Sir, you can see clause 2 of section 1 : This Act may be called the Punjab Court of Wards Act 1903 ; it extends to the whole of the Punjab.

Mr. Speaker : Has it been amended ?

Minister of Law : It has been amended in this manner : Now to be considered as districts of Campbellpur, Dera Ghazi Khan, Gujranwala, Gujrat, Jhelum, Jhang, Lyallpur, Mianwali, Montgomery, Multan, Muzaffargarh, Shahpur, Sheikhpura and Sialkot, vide West Pakistan Act 1957, section 3 and Schedule.

Mr. Speaker : That means the former Punjab.

ملک محمد اختر - جناب صدر - میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح سے انہوں نے female owner اور minor کے لئے ایک اور مصیبت کر دی ہے۔ یہ قانون تو بظاہر لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں لیکن حالات ایسے پیدا کر رہے ہیں جس سے زیادہ دقتیں ہوں گی۔ میری عرض یہ ہے کہ یہ proviso یہاں نہیں ہونا چاہیے اس کو حذف ہونا چاہیے۔ میرا دوسرا concluding point یہ ہے کہ اس قسم کی ترمیم اس وقت لانا

جبکہ ایکشن کا شیڈول پیپرز میں آ چکا ہے۔ میں اس کو ایک سیاسی ہتھیار سمجھتا ہوں کہ حکومت، پنجاب کے سابقہ بڑے بڑے زمینداروں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے۔ وہ کسی کو بھی insane قرار دے کر یا کوئی زمیندار یا کسی کا کوئی minor رشتے دار ہے اور اس کا سرپرست یا متولی زمیندار ہے تو اس سے اس کی جائیداد کو چھین لیا جائے۔ اگرچہ لینڈ ریفارم ایکٹ کا نفاذ ہو چکا ہے پھر بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں ایسے خاندان موجود ہیں جن کی منجملہ پانچ صد مربع زمین ہے یا ہزارہا ایکڑ زمین موجود ہے ان خاندانوں میں ایسے female owner موجود ہیں جن کی جائیداد کو کمشنر صاحب اپنی صوابدید کے مطابق کسی وقت بھی ایگریکٹو ہاورز کو استعمال کر کے اپنی تحویل میں لے سکتے ہیں۔ میں اس وقت اس کے سیکشن یا دفعات کو نہیں چھیڑ سکتا۔ وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کی پانچ ہزار ماہوار کی آمدنی ہو یہ اس کی جائیداد کو سیاسی وجوہات کی بنا پر اپنے قبضہ میں لینے کے بعد اس کو محض ڈائریکٹ کر دیں کہ تم نے ایک ہزار سے زیادہ draw نہیں کرنا ہے۔ یہ functions جب کورٹ آف وارڈز سے نکل کر ایگریکٹو کو دیے گئے تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا کام نہیں ہوگا۔ میں اب اپنے دونوں نکات کو دہراتے ہوئے یہ کہوں گا کہ minor یا female کے لیے اس سے inconvenience cause ہوا ہے اور اس کا نفاذ پولیٹیکل وجوہات کے لئے کیا جا رہا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔

Chaudhri Anwar Aziz (Sialkot-IV): Sir, this particular Ordinance that we have before us today is yet another indication of the continuous fight that is going on between the Section Officers and the representatives of the people. A very minor amendment has been brought and this amendment is only a kind of stop-gap arrangement. It would have been much better if it had been brought in the form of a Bill so that we had time to look at the whole Court of Wards Act and suggest some amendments which would have made it more practicable and beneficial for the people who are affected by it. The amendment says that a Commissioner can be appointed for a person and property, when the two are situated in different jurisdictions. If you will see, this is going to affect Section 8. With your permission, I will read out Section 8 of the

Court of Wards Act which says -

“When there are two or more proprietors of any property and the shares of the several proprietors have not been separated off, and the Court of Wards, acting under section 6 or section 7, assumes the superintendence of the property of one or more, but not all, of such proprietors, the Court of Wards may assume the superintendence also of the shares of such joint-proprietor or joint-proprietors as is or are not disqualified, paying any such proprietor the surplus income accruing from his share of the property. The superintendence assumed under this section shall extend only to the management of the share of the joint proprietor in such joint property and shall not as regards such share include the power to sell or mortgage the same or any part thereof or to grant a lease thereof for a period exceeding 20 years or to create any charge thereon or interest therein.”

This means that if any minor or insane person applies to the Commissioner that he wants to have his property under the Court of Wards then, according to the new amendment, the same Commissioner will take over the property and the person though the two may be situated in different jurisdictions. Then, if there are more than one share-holders in that property, those share-holders who are capable people, who are not minors and who are all sane persons, their property will also be taken over by the Commissioner and it will be managed for them. It will be managed to such an extent that the Commissioner may give that property on lease for twenty years. Supposing one of the share-holders is of forty years' age; that means till 60 years of age his property has been given away.

You will see that because of this Section, this Act could be very cruelly used. It will affect some people very badly. Those people who are quite capable and are not minors might have no control over their property. If you will remember there is an Act concerning the forests under which 2/3 of the owners can give property away to the Forest Department. Consequently, when they cannot get rid of a tenant they just pool together and go to the Forest Department and tell them to use the property for forest purposes with the result that one of their poor relatives is completely crushed in the process and the property is taken away by the Forest Department.

Minister for Food & Agriculture : On a point of information. Has my friend any instance in view where the Forest Department has taken cultivated land because the tenant must be in a cultivated land.

Chaudhri Anwar Aziz : Forest Department can take cultivated land.

Minister for Food & Agriculture : They can but have they taken? We only take those lands in forest which are not cultivated.

Chaudhri Anwar Aziz : This is a side issue and I would not like to discuss it. I know of some cases where cultivated land has been taken by the Forest Department not because the Forest Department was anxious to take it but because those people who owned this land wanted to get rid of the tenants.

Minister for Food & Agriculture : If you will bring any instance of this character to my notice I promise that I will see to it that the Forest Department does not enter into a bargain of this sort.

Mr. Speaker : How is it relevant to the present Ordinance Mr. Anwar Aziz ?

Chaudhri Anwar Aziz : Sir, this Section 8 is very very poor. I have brought it in my discussion by going in a round about way.

Mr. Hamza : Point of order. There is no quorum.

Mr. Speaker : Let there be a count. (*count was taken*) There is no quorum. Let the bells be rung. (*bells were rung*) The House is now in quorum. Yes, Mr. Anwar Aziz.

Chaudhri Anwar Aziz : Sir, I am very sorry for having provided this opportunity to Mr. Hamza and having caused so much trouble to my friend. I just wanted to point out that there was sufficient opportunity to make this Act better. Sir, this Act was made in 1903. It is now more than half-a-century. The time is now ripe that we amend many of its sections where necessary. So I hope they will keep this in view.

Minister for Law (Mr. Allah Bachayo Ghulam Ali Akhund). Sir, the objections that the Commissioners have been given unnecessary powers by this amendment, are misplaced, altogether confusing and misguided because the Commissioners are already Courts of Wards. The entire scheme is that the powers are with the Court of Wards to assume superintendence of property of the people to manage and distribute, and so on and so forth. All that this simple amendment has done is, that it gives power to the Board of Revenue to give property, situated in different commissionereries, to one officer. Ordinarily, Sir, had the amendment not been moved, then different Commissioners of different Divisions would have been appointed as Court of Wards resulting thereby in more expenditure and creating more difficulties because the Ward would have to run from one Commissioner to another, and so on and so forth. Now the Board of Revenue will decide which Commissioner shall exercise the power of Court of Wards.

My friends on the opposite side have objected to the power being given to the Executive. I will invite their attention to part 4 of this very section which says that the powers and authority by this Act vested in the Court of Wards shall be exercised by it subject to the control of Board of Revenue. Therefore, at every stage, there is control of Board of Revenue. Every action done, every power exercised and every authority vested by this Act in the Court of Wards, shall be subject to the general control of Board of Revenue. Therefore, the rights of the people are intact. There is no fear of the Executive misbehaving. On the other hand, if the Commissioner is considered to be an instrument of victimisation, it is not correct because the Commissioner is already there. I do not understand what difference does it make.

My friend Chaudhri Anwar Aziz pointed out that in certain cases where there are joint-owners and joint-proprietors, the Commissioner can take over even the undivided share and he may give it on lease for a

period of 20 years. It is true but it is already provided there. This amendment has neither disturbed it nor has it in any way tried to aggravate the situation by doing anything. Therefore, all the objections are misplaced. All that this simple amendment has to do, is to remove the difficulties by giving powers to one Commissioner to act as Court of Wards. This is in the interests of the Ward otherwise has property would be wasted. With these submissions, I request that the Resolution may kindly be passed.

Mr. Speaker : I would like to know one thing for my own information from the Law Minister. In the title it is, "The Punjab Court of Wards (West Pakistan Amendment) Ordinance, 1968". In each and every Ordinance or any Bill which is applicable to the Province of West Pakistan, do you write "(West Pakistan Amendment)" or in case of only those Bills which apply to West Pakistan you write "(West Pakistan Amendment) Bill"? I ask it because this Act does not apply to the whole of West Pakistan.

Minister for Law : It applies not only to Punjab, as I have said, but there is also a regulation of 1904 where, by certain modifications, it has been extended to N. W. F. P. as well. Therefore, it applies to major parts of the Province. Therefore, the title of the amendment, is quite alright in its place because it is West Pakistan Assembly and West Pakistan Governor who have done it.

Mr. Speaker : That means in every Bill and amending Ordinance which is passed or approved by the West Pakistan Assembly you would say "(West Pakistan Amendment) Bill" and so on and so forth.

Minister for Law : We will say "West Pakistan".

Mr. Speaker : Even if it does not apply to the whole of West Pakistan ?

Minister for Law : Because it has been promulgated by the West Pakistan Governor and subsequently approved by the West Pakistan Assembly. This is the idea.

Mr. Speaker : But if it is like this, "The Punjab Court of Wards (Amendment) Ordinance 1968" and not as it is now, then what is the difference between the two headings ?

Minister for Law : I will make a submission Sir. Originally, this was passed by the former Punjab Assembly and the amendment has been made by West Pakistan Assembly. That is the idea.

Mr. Speaker : I will now put the Resolution to the vote of the House. The question is :

That this Assembly do approve of the Punjab Court of Wards (West Pakistan Amendment) Ordinance, 1968, (W. P. Ordinance No. III of 1968), promulgated by the Governor of West Pakistan on 31st January, 1968.

The motion was carried

Mr. Speaker : Notice for disapproval of the Ordinance by Malik Muhammad Akhtar, stands disposed of under Rule 89 (a) (7) because the Ordinance stands approved.

Next motion.

Minister for Law : Sir, before next motion is approved, just for the sake of academic discussion, I may quote some instances. There is Punjab Municipal (West Pakistan Amendment) Act, 1957. Originally, it was Punjab Act, and was amended in 1957.

Mr. Speaker : Before this amendment, I think this Act applied to the whole of West Pakistan ?

Minister for Law : No Sir, in different parts, there were different pieces of legislation. It was not in Sind or the Frontier. Then there is another instance, the Opium (West Pakistan Amendment) Act, 1957. Originally it was Opium Act, and when the amendment was made, it was designated as, "The Opium (West Pakistan Amendment) Act."

Mr. Speaker : That means in every amending Bill or Ordinance which is approved or passed by West Pakistan Assembly, we must say "(West Pakistan Amendment)".

Minister for Law : Yes Sir.

THE WEST PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 1967

Mr. Speaker : Next motion, please.

Minister for Irrigation (Makhdum Hamid-ud-Din) : Sir, I beg to move :

That the Assembly do approve of the West Pakistan Water and Power Development Authority (Amendment) Ordinance, 1967 (W. P. Ordinance No. XII of 1967) promulgated by the Governor of West Pakistan on 12th December, 1967.

Mr. Speaker : The motion moved is :

That the Assembly do approve of the West Pakistan Water and Power Development Authority (Amendment) Ordinance, 1967 (W. P. Ordinance No. XII of 1967) promulgated by the Governor of West Pakistan on 12th December, 1967.

Khawaja Muhammad Safdar : Opposed.

وزیر آبپاشی و برقیات (مخدوم حمیدالدین) - جناب سپیکر - میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل چاہے اپنے مضمرات میں ہو یا ظاہر میں ہو۔ یہ ایک ایسا صاف شفاف قسم کا سادہ اور قابل فہم بل ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی آپوزیشن کے لئے خواجہ صفدر صاحب کی کوئی وجہ جواز ہو۔ جناب سپیکر - میں ان کی وجوہات کے متعلق توڑی سی معروضات پیش کروں گا۔

واپڈا اتھارٹی میں سب سے پہلے ایک چئیرمین اور دو ممبران ہوتے تھے اب اس ٹریم کے ذریعہ تیسرے ممبر کی شمولیت کی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے تو میں عرض کروں گا کہ جب واپڈا کا چارٹر formulate کیا گیا تھا۔ اس وقت اس کو مختلف قسم کے مسائل اور فرائض تفویض کئے گئے تھے ظاہر ہے کہ جب اتنی وسعت تھی تو بعض معاملات کو تو اس وقت visualize کیا گیا مگر ان میں کچھ ایسے پہلو ابھی تھے جو پہلے visualize نہ ہو سکے تھے مگر تجربہ کے دوران اور اس پر عمل پیرا ہونے کے دوران محسوس کیا گیا اور یہ ضرورت پیش آگئی کہ ایک اور ممبر کا اضافہ کیا جائے۔

جناب سپیکر - عرض یہ ہے کہ واپڈا محکمہ آبپاشی کی ایک ایجنسی ہے جو اس محکمہ کی ضروریات کے مطابق کام کرتی ہے اور اس کے behalf پر کام کرتی ہے اس وقت واپڈا کو بہترین engineering advice میسر ہے۔ (خواجہ صاحب توجہ فرمائیں)

خواجہ محمد صفدر - میں آپ کے متعلق ہی حساب کتاب کر رہا ہوں آپ ارشاد فرمائیے میں سن رہا ہوں۔

وزیر آبپاشی و برقیات - یہ صحیح ہے کہ واپڈا کو ایک اعلیٰ معیار کی انجینئرنگ سروس میسر ہے لیکن اس کا دائرہ کار اتھارٹی سے مختلف ہے۔ اتھارٹی کے لئے جب کسی کام یا کسی مسودہ کے پاس کرنے

کا وقت آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس اتھارٹی میں ایسا شخص ہو جس کو انجینئرنگ کے اور میں بصیرت حاصل ہو۔

چونکہ واپڈا تمام کاموں کو محکمہ آبپاشی کے behalf پر سرانجام دے رہا ہے اس کے لئے ضروری تھا کہ اتھارٹی level پر اریگیشن کا ایک آدمی وہاں ہو۔ کیونکہ ان کے بہت سے پروگرام واپس آجاتے ہیں اور ان پر اعتراضات کئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ دوبارہ اپنی requirements بتائی جاتی ہیں۔ دراصل اس میں کوئی financial difficulty نہیں اور نہ ہی دس ہزار روپیہ دے کر باہر سے کوئی نیا آدمی سپلائی کیا جا رہا ہے بلکہ وہ تو محکمہ آبپاشی میں سینئر قسم کا آدمی ہے جس کو اس اتھارٹی میں لے رہے ہیں اور وہ محکمہ کے behalf پر کام کرے گا۔ اتھارٹی کو اس کی assistance مہیا ہوتی رہے گی۔ جناب سپیکر۔ یہ تو ایسی simple می ترمیم ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی خاص implication ہو۔ اس لئے میں ایوان سے عرض کروں گا کہ اس ریزولوشن کو منظور کیا جائے۔

خواجہ محمد صفدر (سیالکوٹ - ۱)۔ جناب والا۔ اس ترمیمی ہنگامی قانون کی غرض و غایت یہ ہے جیسا کہ محترم مخدوم صاحب نے فرمایا ہے (اس مرحلہ پر دستر ڈپٹی سپیکر کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہوئے)

کہ واپڈا اتھارٹی کے ارکان کی تعداد کم کر دی جائے یعنی چیئرمین کے علاوہ اس ادارے کے تین رکن ہوں۔ بظاہر اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا کہ تین ممبران ہو جائیں۔ یا چار ہو جائیں یا پانچ ہو جائیں۔ سوال اس وقت یہ ہے کہ جس اتھارٹی کے ارکان میں اضافہ کیا گیا ہے اس اتھارٹی کے تین ارکان نے جو فرائض ان کے ذمہ تھے وہ کس طرح سرانجام دئے ہیں۔ اور آئندہ ان چار ارکان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے جیسا کہ مخدوم صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ تین کی بجائے اب چار ممبر کئے جا رہے ہیں بلکہ اصل سوال جس کے متعلق میں اپنی گذارشات آپ کے توسل سے اس ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ ہے کہ اگر اتھارٹی کے تین ارکان

نے اچھا کام کیا ہے تو چوتھے رکن سے جب وہ اس اتھارٹی میں شامل ہو جائے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی بہتر کام کرے گا۔ اور اگر اس کے برعکس ان ممبران نے جو اس اتھارٹی کی نگرانی کے ذمہ دار تھے گذشتہ کئی سالوں میں احسن طریقہ سے اور مناسب طریقہ سے اپنے فرائض سرانجام نہیں دیئے تو ہمیں سوچنا چاہئے کہ اس اتھارٹی کو قائم رکھنا چاہئے یا نہیں رکھنا چاہئے۔ اصل بات تو یہ ہے۔ اب اس ضمن میں چند گزارشات جناب کی وساطت سے ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔

Minister for Food & Agriculture (Malik Khuda Bakhsh) : On a point of order. Will it be relevant to the ...

Khawaja Muhammad Safdar : Certainly, certainly.

Minister for Food : ...issue under consideration—the addition of another Member for the purpose of the constitution of the Authority ?

Mr. Deputy Speaker : For the purpose of efficiency of the Authority, according to the Govt. He has a right to touch upon efficiency.

Minister for Food : Then the whole of WAPDA.....

Khawaja Muhammad Safdar : Yes, certainly the whole of it.

Minister for Food : I do not want to be emotional. I wanted to understand the position—whether it would be within the province of discussion to discuss the functioning of the Authority as a whole. I had sought guidance from you.

Mr. Deputy Speaker : I would like to say that since your Ordinance seeks to increase membership on the ground that you will have efficiency therefore he has a right to discuss how far it is efficient or whether it will add to the efficiency or not.

Minister of Irrigation : Sir I invoke...

Khawaja Muhammad Safdar : After your ruling Sir, this chapter is closed.

Mr. Deputy Speaker : He may be on another point.

Minister of Irrigation : Sir I rise to invoke the authority of Article 148 of the Rules of Procedure. This is not only and primarily calculated to rise in terms of certain barometer or certain 'paimana' of efficiency, but the overall requirement of the Authority ; not only efficiency.

Mr. Deputy Speaker : Which portion of rule 148 is the Minister referring to ?

Minister of Irrigation : I am referring to rule 148 (1).

Mr. Deputy Speaker : It says : 'The subject matter of every speech shall be strictly relevant to the matter before the Assembly.' He is strictly relevant to the Ordinance.

Minister of Irrigation : My submission is that he should only confine himself to anything relevant to or resultant from the amendment being introduced or being sought to be passed, and the whole province of the Act or any activity, past or present or calculated to be performed in future, should not be brought within the purview of discussion today on this very simple amendment.

Mr. Deputy Speaker : I am sorry I cannot agree with Makhdum Sahib.

خواجہ محمد صفدر - جناب والا - میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس سے پیشتر کہ یہ ایوان اس اتھارٹی کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کی اجازت دے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ارکان کس طریق سے اپنے فرائض کو سرانجام دیتے رہے ہیں اور کس طور سے سرانجام دیتے رہے ہیں - اس سے پیشتر کہ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ ان کے کام کی کیفیت اور کچھ کیا ہے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں یہ التماس کروں اور نہایت ادب سے التماس کروں کہ ہمیں پہلے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس اتھارٹی کے فرائض کیا ہیں جن کی تعداد میں ہم اضافہ کر رہے ہیں اور ان اختیارات کو انہوں نے کس طرح ماضی میں استعمال کیا ہے اور آئندہ ہمیں ان سے کیا توقع ہے -

۱۹۵۸ء میں جب یہ اتھارٹی معرض وجود میں آئی تھی تو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ذمہ اس قدر وسیع و عریض فرائض ڈالے جائیں گے جیسا کہ آج ہیں - اس زمانے میں کسی کو یہ خیال بھی نہ تھا کہ سندھ طاس کا منصوبہ اس اتھارٹی کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا بلکہ کسی کے وہم و گمان میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ سندھ طاس کا منصوبہ بنے گا یہی یا نہیں چنانچہ جب سندھ طاس کا عہد نامہ ۱۹۶۰ء میں ہوا اس کے بعد یہ تمام کام اس کے

احاطہ اختیار میں دے دیا گیا۔ جس زمانے میں اصل قانون اس اسمبلی نے پاس کیا تھا تو اس وقت دو اہم کام اس کے ذمہ کیے گئے تھے ایک یہ کہ اس صوبے کے آبی ذرائع کو اس طرح زیادہ سے زیادہ قابل استعمال بنانا کہ اس صوبے کی کاشت میں اضافہ ہو اور آب پاشی کے لئے زیادہ سے زیادہ پانی مہیا ہو سکے۔ یعنی نہریں کھودنا، ٹیوب ویل لگانا سیم و تھور کا انسداد کرنا ان کے ذمہ تھا۔ دوسرا کام ان کے ذمہ یہ تھا کہ یہ اس صوبے میں بجلی کی افزائش کریں گے اور مناسب طریقہ پر ہماری صنعت و زراعت کو ہماری گھریلو ضروریات کے لئے زیادہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ بجلی مہیا کی جا سکے گی۔ یہ دو فرائض ان کے ذمہ تھے لیکن امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے عرض کیا ہے ان کا دائرہ اختیار وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا اور یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ اب اس وقت اس واپڈا کا سالانہ خرچ اس صوبے کے کل محاصل سے دوگنے سے زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس صوبے کے ایک سال کے جملہ محاصل سے کم و بیش دو گنا اس اتھارٹی کا خرچ ہے۔ اس قدر فراوان روپیہ بہ غریب صوبہ یا غریب قوم اس اتھارٹی کے حوالہ کرتی ہے کہ وہ ہمارے ان کاموں کو جو کہ ان کے ذمہ دئے گئے ہیں درست طور پر سرانجام دیں۔

۱۹۵۸ء میں کسی کے وہم میں یہ بات نہیں تھی کہ واپڈا ایک سال میں ۲۴۹ کروڑ روپیہ یعنی ۲ ارب ۵۰ کروڑ روپیہ میں خرچ کرے گا۔ میں نے یہ رقم ان کے ۶۸-۱۹۶۷ء کے میزانیہ سے اخذ کی ہے جسے وزیر متعلقہ نے میرے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا۔ پچھلے ہی سال ہمارے صوبے کے کل محاصل ایک ارب ۷۷ کروڑ ۵۵ لاکھ روپے تھے یعنی دوگنے کے لگ بھگ واپڈا کا خرچ تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ اس کے اختیارات کو غور سے دیکھیں تو وہ اس قدر وسیع ہیں کہ جن کا حد و حساب نہیں ہے ان کو یہ وسیع اختیارات اس لئے دیے گئے تھے کہ یہ اپنے کام کو تندی سے کریں گے دیانتداری سے کریں گے اور کم سے کم وقت میں

کریں گے۔ عام طور پر گورنمنٹ کے خلاف یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اکثر امور سرخ فیتہ کی نذر ہو جاتے ہیں لیکن ایسا یہاں نہیں ہوگا اور اسی وجہ سے واپڈا کو اس قدر وسیع اختیارات دیے گئے تھے کہ اگر انہوں نے ایک دفعہ گورنمنٹ سے کسی سکیم کی منظوری لے لی اور اگر اس میں ۱۵ فیصد کی حد تک بعد میں کمی پیشی ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے دوبارہ منظوری کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں سیکشن ۲۷ کا واپڈا ایکٹ کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ان کو اپنے بجٹ کی منظوری کے لیے اس اسمبلی کے پاس نہیں آنا پڑتا یعنی ان کو ہونے تین ارب کے بجٹ کے لئے اس اسمبلی کے پاس نہیں آنا پڑتا لیکن گورنمنٹ کو اس اسمبلی کے پاس اس کے نصف رقم کے بجٹ کی منظوری کے لئے آنا پڑتا ہے اور آنا پڑتا رہے گا۔ بلکہ ریلوے کو اپنے بجٹ جو کہ واپڈا کے بجٹ کا آٹھواں حصہ کے برابر ہے کی منظوری کے لیے اسمبلی کے پاس آنا پڑتا ہے لیکن واپڈا کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے وہ صرف گورنمنٹ کو اکتوبر کے مہینے میں اپنا بجٹ بھیج دے گی اسمبلی کی منظوری کی اسے ضرورت نہیں۔ میرے دوست شاید یہ کہیں کہ ہم نے واپڈا کو بھی ایک حد تک پابند دیا ہے تو میں عرض کروں گا کہ ہمارے محاصل سے گورنمنٹ جو grants واپڈا کو دیتی ہے اس کی منظوری اسمبلی سے حاصل کی جاتی ہے ورنہ واپڈا کا بجٹ اس اسمبلی میں نہ کبھی پیش ہوا اور نہ پیش ہونے کی توقع ہے۔

وزیر زراعت (ملک خدا بخش) - جناب والا - مجھے حق تو نہ تھا کہ میں اس مرحلہ پر بولوں لیکن وضاحت کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واپڈا دو کام کرتا ہے ایک تو بطور ایجنٹ سنٹرل گورنمنٹ کے اور دوسرے آپ کا یہ خود مختار ادارہ ہے۔ خواجہ صاحب ذکر فرما رہے ہیں اس ادارہ کے اختیارات کا۔ میرے خیال میں واپڈا کی کارگزاری جو کہ سینٹر کے ایجنٹ کے طور پر یا انڈس یسن ورکس کے سلسلہ میں ہوتی ہے

ان کو شاید یہ قابل پذیرائی نہیں اور وہ شاید سمجھتے ہیں کہ اس کے متعلق یہاں گفتگو نہیں ہو سکتی۔

Mr. Deputy Speaker : WAPDA deals with whole.

Minister for Food and Agriculture : But as an agent.....

Mr. Deputy Speaker : The Member is talking about the Constitution of WAPDA.

Minister for Food and Agriculture : The point is that WAPDA is performing dual functions—one as an agent of the Provincial Government and the other as an agent of the Central Government under the Indus Basin Project.

Mr. Deputy Speaker : The Member will confine himself as far as the Provincial aspect is concerned.

وزیر خوراک و زراعت - ۲۵ کروڑ آپ نے فرمایا وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔

خواجہ محمد صفدر - میں نے اس کے اخراجات کے متعلق ذکر نہیں کیا ہے۔

Mr. Deputy Speaker : The Member may confine himself as far as Provincial Government is concerned.

خواجہ محمد صفدر - جناب والا - یہ سٹارڈ کوئسچن نمبر ۲۳۱ ہے اور اس کے جواب میں انہوں نے علیحدہ علیحدہ اخراجات بتائے ہیں ۱۹۶۷/۱۹۶۷ کے متعلق - انٹس بیسن پراجیکٹ کے متعلق ۲۰۴۱۸۳ کروڑ۔

تو میں نے ان کی خدمت میں یہ گزارش نہیں کی کہ یہ سارے کا سارا یہاں پر ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کی دوسری ذمہ داریاں ہیں۔ میں نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ واپڈا کا سالانہ خرچ کس قدر بڑھ گیا ہے اور وہ سال بھر میں اتنا خرچ کرتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کیوں کرتا ہے۔ میں جناب والا یہ عرض کر رہا تھا کہ واپڈا کی اتھارٹی کے پاس اس قدر وسیع اختیارات ہیں کہ یہ کسی شرائط پر کسی آدمی کو کسی وقت کسی میعاد کے لئے نوکر رکھ سکتا ہے۔ یہ اختیارات

اس صوبے کے کسی سیکریٹری یا کسی ہیڈ آف attached ڈیپارٹمنٹ کو بھی حاصل نہیں ہیں۔ تو میں ان اختیارات کا ذکر کر رہا تھا جو ان کو تفویض کئے گئے ہیں۔ اب آئیے ذرا اس بات پر غور کریں کہ ان وسیع اختیارات کو اور ایسے وسیع سرمایہ کہ اتھارٹی نے گزشتہ ۲ سالوں میں کس طور پر صرف کیا ہے۔ اب جیسا کہ محترم قائد ایوان نے ارشاد فرمایا ہے میں انڈس بیسن پراجیکٹ کو چھوڑتا ہوں۔ میں صرف ان کاموں کی طرف اس ایوان کی توجہ مبذول کرانی چاہتا ہوں جو صوبائی گورنمنٹ کے ایجنٹ کی حیثیت سے اس اتھارٹی نے سر انجام دئے۔ پہلے میں آبی وسائل کے تعلق بات کروں گا۔ جہاں تک آبی وسائل کا تعلق ہے (قطع کلامیاں)۔

Minister for Irrigation and Power (Makhdum Hamid-ud-Din) : Sir, this is for your ruling whether the Member wants to discuss the past conduct of the Authority under the guise of this amendment. I think, the Member is trying to discuss the past conduct of the Authority and that would amount to general discussion on the working of the WAPDA.

خواجہ محمد صفدر - یہ تو محض آپ کا خیال ہے۔

Mr. Deputy Speaker : Your amendment relates to the constitution of the Authority itself and, naturally, the Authority deals with everything.

Minister for Irrigation and Power : The effect of the amendment or any other matter related to it may be made the subject matter of discussion but not the past conduct of the Authority.

Mr. Deputy Speaker : Please go ahead.

Minister for Food and Agriculture : So far the Leader of the Opposition has been trying to establish the necessity for it because it has such a vast expenditure to undertake. He has kindly agreed to the need for increasing the number of members. So, he has tacitly agreed that there is a need because such a big and colossal work is to be done by it.

خواجہ محمد صفدر - محترم قائد ایوان نے جو معنی میری گذارشات سے اخذ کئے ہیں وہ میری ان گذارشات کے معنی نہیں ہیں۔ میں اس مسئلہ پر پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں۔ میں سنٹرل گورنمنٹ

کا ہمنوا ہوں جنہوں نے ایک کمیٹی اس غرض کے لئے قائم کی ہے کہ ان بڑی بڑی اتھارٹیوں بڑے بڑے خود مختار اداروں کو کسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے اور اس سلسلے میں کمیٹی نے ایک سوالنامہ جاری کیا ہے۔ کیونکہ میری رائے یہ ہے کہ واپڈا کے ذمہ جو فرائض عائد ہیں وہ ان کو سر انجام دینے والے ۱۰ درجے کے نالائق لوگ ہیں۔ وہ ان کو بطریق احسن ادا نہیں کر سکتے۔ میری رائے میں اگر قومی سرمائے کا ضیاع۔ نا اہلی اور رشوت کو ایک جسم کی شکل میں دیکھنا ہو تو واپڈا اتھارٹی کو دیکھ لیجئے لیکن میرے دل میں انتہائی قدر و منزلت ہے واپڈا اتھارٹی کے بعض ارکان کی۔ ان میں سے بعض کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ دیانتدار ہیں لیکن کیا کیا جائے۔ یہ کام اتنا وسیع ہے کہ اپنے ماتحت بد دیانت افسران کو روک نہیں سکے ان کی نا اہلی کو دور نہیں کر سکے اور قومی سرمائے کے ضیاع کو روک نہیں سکے۔ کچھ آفیسر دیانتدار بھی ہیں میں مانتا ہوں میں ان کے متعاقب حلف بھی اٹھا سکتا ہوں کہ وہ انتہائی دیانتدار انسان ہیں لیکن صورت حال یہ ہے کہ اربوں روپیہ کا اصراف ہو رہا ہے جس کو یہ اتھارٹی نہیں روک سکی۔ اگر اس کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اہلیت پیدا ہو سکتی ہے موجودہ صورت میں یہ ان کے بس کا روگ نہیں کہ وہ اتنے بڑے ادارے کو سنبھالیں۔ اب میں اپنی اصل گزارشات کی طرف آتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری جانب سے واپڈا اتھارٹی پر تین الزامات ہیں۔ واپڈا میں قومی سرمایہ کا ضیاع نا اہلی اور رشوت پورے عروج پر ہے۔ اب میں ایک ایک کو حقائق سے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے قومی سرمایہ کا ضیاع لیتا ہوں۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ میرے سامنے واپڈا ہاؤس ہے۔ جیسا کہ میرے ایک سوال کے جواب میں پچھلے سیشن میں بتایا گیا تھا۔ اس پر ۴ کروڑ ۳ لاکھ روپیہ خرچ ہوا۔

مسٹر محمود اعظم فاروقی - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب والا -

خواجہ صاحب اتنی اچھی تقریر کر رہے ہیں - اتنی عالمانہ تقریر کر رہے ہیں - جس کے سننے کے لئے لوگوں کو موجود ہونا چاہیے - مگر ہاؤس میں کورم نہیں ہے -

Mr. Deputy Speaker : Let there be a count. (*count was taken*) The House is not in quorum ; let the bells be rung. (*bells were rung*) The House is now in quorum, yes Khawaja Sahib.

خواجہ محمد صفدر - جناب والا - میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ کس بے دردی سے قومی سرمائے کو ضائع کیا جا رہا ہے - اور اس کی مثال میں نے واپڈا ہاؤس کی دی تھی -

Minister for Irrigation & Power (Makhdum Hamid-ud-Din) : Sir, I rise to assist the chair in that way. I need your pronouncement on the connotation and construction being placed by you on this very phrase "strictly relevant".

Mr. Deputy Speaker : The Minister may please refer to article 148, wherein it is provided that 'relevant' means 'reasonably relevant'.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir, your honour has already given your ruling on that.

Minister for Irrigation & Power : Sir, it is an evident expression which had voluntarily been employed by the then Legislature to mean it 'reasonably relevant'.

Mr. Deputy Speaker : Does the Minister feel that the Member is not relevant ? He may please enlighten me on this point.

Minister for Irrigation & Power : Sir, I refer to the purpose of this rule. Sir, relevancy would pertain to that phenomena which would be the direct result of this amendment and not the past conduct of the Authority or anything which could be brought within the purview of an activity not performed by WAPDA.

Mr. Deputy Speaker : How can the Minister say whether this is necessary or not ?

Minister for Irrigation & Power : Sir, the Member should say whether the need of the third Member is there or not or whether it is injurious to the Authority or not.

Mr. Deputy Speaker : Need can only arise when the Member knows that the present working has increased or not.

Minister for Irrigation & Power : Sir, my submission is that this wide interpretation should not be given to the word 'relevant'. Sir, you being

an Advocate, might have several times used it in so many cases as to what amounts to 'relevant' or 'being relevant'. I think such a wide power has not been given to the word 'relevant'. I think it means 'reasonably relevant' and not that 'broadly relevant' that the Member may criticise each and every aspect of the Authority, say the digging of the canals, etc etc. This is for your consideration Sir.

• سٹر محمود اعظم فاروقی - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب سپیکر -
کیا جس معاملہ کے متعلق آپ رولنگ دے دیں اسے پھر دوبارہ سہ بارہ
یہاں پیش کیا جا سکتا ہے ؟

Mr. Deputy Speaker : But a Member can become irrelevant after being relevant. Then the attention of the chair can be drawn to that. The point of order is ruled out of order.

خواجہ محمد صفدر - جناب والا - میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ واپڈا اتھارٹی کی جانب سے میرے ایک سوال کے جواب میں اس
ایوان کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ واپڈا ہاؤس پر ۳ کروڑ ۳ لاکھ
روپیہ صرف ہوا ہے - تو میں یہ عرض کروں گا کہ انٹرنیشنل مانیٹری
فنڈ کی موجودہ شرح سود ساڑھے چھ فیصد ہے -

Mr. Deputy Speaker : Will that be relevant ?

Khawaja Muhammad Safdar : Sir, I think they have wasted very valuable national funds.

Mr. Deputy Speaker : The Member means by employing 3 Members instead of 2 ?

خواجہ محمد صفدر - میں یہ عرض کرنے والا تھا - میرے یہ
عرض کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ تین ممبران جو اس وقت تھے چئیرمین کو
ملا کر وہ اس قدر غلط سکیمیں سوچتے ہیں - اور مجھے خطرہ ہے کہ آئندہ
یہ چار صاحبان مل کر اور زیادہ غلط سوچیں گے - اور اس سے قوم کا قیمتی
سرمایہ اس طرح ضائع کریں گے - اگر صرف ساڑھے چھ فیصد سود ہو تو
اس رقم پر ۲۶ لاکھ روپے سالانہ سود بنتا ہے - اور اگر اس میں سالانہ
مرمت کا خرچ بھی لگا لیا جائے تو خرچ اور بڑھ جائے گا - پھر ہم نے یہ
سوا چار کروڑ روپیہ اٹھانا بھی ہے - کیونکہ ہم نے یہ تمام سرمایہ قرضہ

برداشت کر کے حاصل کیا ہے۔ اس میں دو آنے فی روپیہ بھی ہمارے
ہیں ہیں۔ ہم اسے ۲۰ لاکھ روپیے سالانہ کی اوسط سے بیس سال میں
لوٹائیں گے۔ اگر اس سے پچاس لاکھ روپیہ سالانہ آمدنی ہو تو پھر ہم یہ
سمجھیں گے کہ ہم نے یہ مفید کام کیا ہے۔ لیکن صورت حال یہ ہے...

چودھری انور عزیز - ہوائٹ آف آرڈر - جیسا کہ یہاں بار بار
کہا گیا ہے میں بھی جرأت کروں گا۔ خواجہ صاحب سے اور آپ سے یہ
کہنے کی کہ کیا سود کی جو رقم ہے وہ بھی اس کے تحت ریلیونٹ ہے۔
ویسے تو خواجہ صاحب طول شب فراق کی طرح اسے جتنا چاہیں لمبا کر
لیں۔ لیکن ریلیونسی کی کوئی حد ہونی چاہئے۔

خواجہ محمد صفدر - جناب والا - میں اپنے دوست کی خدمت میں
یہ عرض کر دوں...

چودھری انور عزیز - جناب والا - اس وقت بات صرف واپڈا کے
متعلق ہو رہی ہے اور آپ اس میں سود کو لا رہے ہیں۔ اسکا مطالبہ یہ
ہے کہ آپ واپڈا کے اوپر جنرل ڈسکشن کر رہے ہیں۔

The whole working is coming before you by one sub-section.

Mr. Deputy Speaker: It deals with the amending of the WAPDA body which administers the WAPDA. It is the authority which gives all the sanctions. If there is any inefficiency it is the Authority which is responsible.

Chaudhri Anwar Aziz: Then there is nothing irrelevant in this world.

خواجہ محمد صفدر - جناب والا - میں واپڈا اتھارٹی کی اہلیت یا
نا اہلیت کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ جس عمارت پر زر کثیر خرچ کیا
گیا ہے اگر اس سے کم و بیش ۵۰ لاکھ روپیہ آمدنی ہو تو یہ درست
خرچہ ہے۔ مگر کیا ۵۰ لاکھ روپیہ آمدنی ہے میں اس ابوان
میں جناب وزیر صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ یہ ثابت کریں۔ ہم

جب یہ سوچیں گے کہ کیا اس کی اتنی آمدنی ہے تو ہمیں فوراً یہ سوچنا ہو گا کہ اس سے قبل واہڈا کے دفاتر جن کرایہ کی عمارتوں میں تھے ۔ ان کا کرایہ کیا تھا وہی اس کی آمدنی ہوگی ۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اتنی بڑی عمارت بنا کر واہڈا ایک طرف کرایہ داروں کی تلاش میں ہے اور دوسری طرف کئی ایک بڑے بڑے دفاتر شہر کی بڑی بڑی کولٹیوں یا عمارتوں میں جو با اثر لوگوں کی ملکیت ہیں ابھی تک موجود ہیں ۔ بہر حال میرا ہوائنٹ یہ ہے کہ ایک نہایت عالی شان اور ائیرکنڈیشنڈ عمارت بنانے کی ضرورت نہیں تھی ۔ میں جناب قائد ایوان کو یاد دلاتا ہوں کہ اس اسمبلی کی عمارت کے بیچھے کے پلاٹوں میں صوبہ کی حکومت کا سیکریٹریٹ بنانے کے لئے چند سال سے سکیم تیار ہے اور ہر سال سوچا جاتا ہے کہ سیکریٹریٹ یہاں بنایا جائے ۔

Mr. Deputy Speaker : The Member is not relevant now.

خواجہ محمد صفدر ۔ جناب والا ۔ میں اس ہوائنٹ کو چھوڑ دیتا ہوں ۔ جو رویہ گورنمنٹ اپنا سیکریٹریٹ بنانے کے لئے مہیا نہیں کر سکی اس سے کہیں زیادہ سرمایہ واہڈا نے اس عمارت پر صرف کر دیا ہے ۔ واہڈا نے اس رویہ کے ساتھ ہولی کھیلی ہے یہ ان کے اختیارات اور اسراف کی وسعت کی ایک مثال ہے ۔

جناب والا ۔ اب میں اس اتھارٹی کی دوسری ذمہ داری یعنی بجلی کی افرائش اور ہم رسانی کی طرف آتا ہوں ۔ مجھے جو کچھ بھی علم ہے یا جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اسکا ماخذ صرف اخبارات ہیں ۔ میرے سامنے اخبارات کی ایک فائل ہے جس میں میں نے صرف واہڈا کے متعلق تراشے جمع کئے ہوئے ہیں ۔ ابھی ہم ٹیوب ویلز کا ذکر کر رہے ہیں ۔ ٹیوب ویلز کی تعمیر اور ان کی تنصیب پر کہاں تک قومی سرمائے کا ضیاع ہوا ہے ۔

کہاں تک نئی دقتیں راہ پاگئی ہیں۔ کہاں تک اتھارٹی نے نتائج سے بے پروا ہو کر غیر ملکی مشیروں سے مشورے لیتے ہوئے۔ نااہل انجینئروں سے جن میں اکثر و بیشتر غیر ملکی ہیں ایک نہیں دو نہیں ایسے نہیں کئی سو ٹیوب ویلز نصب کئے جو کہ ناکارہ ہو چکے ہیں۔ ان کی ہر سکیم خواہ وہ سکارپ ۱ ہو خواہ سکارپ ۲ ہو خواہ سکارپ ۳ ہو یا خواہ سکارپ ۴ ہو ان سب میں یہی حال ہے۔ میں مثال کے طور پر کھادر لالیاں سکیم کا ذکر کرتا ہوں۔ کھادر لالیاں سکیم میں کل ۲۱۳ ٹیوب ویلز لگائے گئے ان میں سے ۸۸ ٹیوب ویلز اس وقت تک ناکارہ ہو چکے ہیں۔ اس سکیم میں ٹیوب ویلز بوز کرنے سے پیشتر اس علاقہ کا پانی ٹسٹ نہیں کیا گیا ۸۸ ٹیوب ویلز میں سے ۵۸ ٹیوب ویلز کا پانی اس قدر کھاری ہے کہ وہ تقریباً سمندر کے پانی کے مشابہ ہے۔

Minister for Irrigation and Power : On a point of order. Sir, is it a fact—I want to convince myself—that you have presumed from our side that we are introducing this third member for the purpose of increasing the efficiency of the Authority and therefore you have held that Khawaja Sahib can discuss this and that because it is strictly relevant to the efficiency. If it is so then

Mr. Deputy Speaker : It is not presumption, because the Government are seeking to amend the very constitution of the authority.

Minister for Irrigation and Power : With what objective ?

Mr. Deputy Speaker : Must be for increasing the efficiency.

Minister for Irrigation and Power : It is my impression that the learned Chair has presumed, may be due to some expression employed during the course of my making a statement or due to any movement or signs visible. I think the learned Chair did presume that perhaps this was with a view to increase the efficiency of the Authority. If it is so then I would submit that this is not the case and therefore, this cannot be held as a basis for the grant of this permission to Khawaja Sahib to discuss the whole body.

(Voices—Correct, correct)

Mr. Deputy Speaker : Order, order.

Minister for Irrigation and Power : My submission is, as I have already submitted and said that there is one Engineering service which is actually implementing the job and there is the Executive

authority also. So formerly we had Member Administration who was supposed to be an expert on Administration, a man of the Commissioner's rank or a C. S. P. Officer; Member Finance who would look after the affairs of the finances of the authority. (*interruptions*)

Mr. Hamza : On a point of order.

Mr. Deputy Speaker : He is already on a point of order. Two persons cannot be on a point of order at the same time.

مسٹر حمزہ ۔ جناب والا۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ۔

Mr. Deputy Speaker : Let him finish.

Minister for Irrigation and Power : Sir, I was saying that so far as the executive of the authority was concerned (*interruptions*) so far as the executive of the authority was concerned there was no person to look after the technical aspects of the works which were to come before the Authority. This third Member, popularly known as Member 'Technical' is being introduced to look after the works on Authority level.

Mr. Deputy Speaker : Not to increase efficiency ?

Minister for Irrigation and power : To look after the general interests.

Mr. Deputy Speaker : Efficiency could be inclusive.

Minister for Irrigation and Power : But that is not the only objective. It could be one of the considerations. It could be one of the objects. To look after technical matters and aspects and to ensure technically that works are feasible, this third Member, popularly known as Member 'Technical' is being introduced.

Mr. Deputy Speaker : That means to acquire greater efficiency.

Minister for Irrigation and Power : Efficiency is affiliated with it.

Mr. Deputy Speaker : To bring efficiency to WAPDA.

Minister for Irrigation and Power : To bring greater administrative capability on the technical side, greater honesty on the technical side, greater efficiency on the technical side, greater insight in the technical side, greater review on the technical side ; and not efficiency alone.

Mr. Deputy Speaker : The House is adjourned to meet tomorrow at 8-00 a.m.

The Assembly then adjourned (at 1-30 p.m.) till 8-00 a.m. on Thursday, the 2nd May, 1968.

APPENDIX I

(Ref : Starred Question No. 10054)

*Part (A).***Regarding Recovery of Land Revenue in each District of the Province.**

S. No.	Name of the District	Amount assessed during Kharif 1966 and Rabi 1967.	Amount actually realized.	Amount still to be recovered.
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	Peshawar	45,04,417	38,71,531	6,32,886
2.	Kohat	4,57,797	4,20,204	37,593
3.	Hazara	6,19,586	5,10,534	1,09,052
4.	Mardan	5,25,300	4,95,957	29,343
5.	D. I. Khan	4,19,115	2,87,458	1,31,657
6.	Bannu	4,29,067	3,51,737	77,330
7.	N. W. Agency	30,347	27,285	3,062
8.	Rawalpindi	9,20,696	9,20,696	Nil
9.	Jhelum	7,89,251	7,80,451	8,800
10.	Gujrat	28,47,588	28,44,062	3,526
11.	Campbellpur	6,14,482	6,14,482	Nil
12.	Sargodha	48,46,509	47,77,610	68,899
13.	Lyallpur	1,09,74,533	1,09,74,533	Nil
14.	Jhang	28,63,224	28,61,333	1,891
15.	Mianwali	10,92,224	9,57,381	1,34,863
16.	Lahore	16,77,464	14,92,343	1,85,121
17.	Sialkot	24,42,366	21,44,767	2,97,599

S. No.	Name of the District	Amount assessed during Kharif 1966 and Rabi 1967.	Amount actually realized.	Amount still to be recoverd.
		Rs.	Rs.	Rs.
18.	Gujranwala	21,31,364	21,30,361	1,003
19.	Sheikhupura	36,83,548	33,45,847	3,38,201
20.	Multan	60,45,286	60,45,286	Nil
21.	Sahiwal	91,22,552	90,86,842	35,710
22.	D. G. Khan	17,97,673	15,64,738	2,32,935
23.	Muzaffargarh	19,70,034	19,49,286	20,748
24.	Rahimyar Khan	53,83,539	51,20,524	2,63,015
25.	Bahawalnagar	39,68,157	36,66,618	3,01,539
26.	Bahawalpur	27,23,474	21,46,173	5,77,301
27.	Nawabshah	68,03,267	64,90,679	3,12,588
28.	Khairpur	26,99,032	26,79,911	19,121
29.	Sukkur	39,28,490	32,56,914	6,71,576
30.	Larkana	81,18,016	80,76,358	41,658
31.	Jacobabad	53,80,874	39,33,549	14,47,325
32.	Hyderabad	79,42,766	61,17,900	18,24,866
33.	Tharparkar	1,10,36,626	1,09,03,391	1,33,235
34.	Sanghar	1,05,88,484	98,41,251	7,47,233
35.	Dadu	21,14,388	21,14,388	Nil
36.	Quetta	16,09,632	16,09,632	Nil
37.	Karachi	7,65,456	6,30,969	1,34,487
38.	Lasbella	80,720	62,866	17,854
39.	Kalat	2,22,988	1,86,080	36,908
40.	Mekran	1,76,804	1,58,467	18,337

Part (B)

APPENDIX

137

S. No.	District	Name of the defaulters against whom, Rs. 2000 are outstanding	Arrears Rs.	Action taken for recovery of the said amount.
1.	Peshawar	Ghulam Ahmad Jan Khan	10,293.66	Warrants u/s 69 has been issued.
2.		Sakandar Muhammad Iqbal Khan	37,578.45	-do-
3.		Abdul Akbar Khan, Lamb.	5,022.28	-do-
4.		Muhammad Anwar Khan Lamb.	7,132.00	-do-
5.		Madat Khan Lamb.	7,002.00	-do-
6.		Main Jamal Shah Lamb.	7,223.00	-do-
7.		Sahibzada Khaiil-ur-Rehman Lamb.	4,831.79	-do-
8.		Mir Hassan Lamb.	5,285.01	Action for attachment of arms Licence taken and warrant u/s 69 LPA issued.
9.		Abdur Rehman Lamb.	9,665.39	Action u/s 69 taken
10.		Rehmat Hassan Lamb.	2,704.10	-do-
11.		Abdul Ghafar Khan, Lamb.	2,072.31	-do-
12.		Muhammad Israr Lamb.	4,579.21	-do-

S. No.	District	Name of the defaulters against whom Rs. 2000 are outstanding	Arrears, Rs.	Action taken for recovery of the said amount.
13.		Amin Khan Lamb,	10,160.00	The arrears are outstanding against Assamis. Action under section 72 taken.
14.		Nawab Khan Lamb.	6,945.00	-do-
15.		Abdul Matin Khan Lamb	4,357.00	-do-
16.		Bahadar Khan Lamb.	4,359.00	-do-
1.	Kohat	Azmat Ali Khan, M.N.A	17,762.00	Action under section 69 is being taken against the Assamis.
	Hazara	Nil		
	Mardan	Nil		
	D.J. Khan	Nil		
	Bannu	Nil		
	N.W. Agency	Nil		
	Rawalpindi	Nil		
	Jhelum	Nil		

S. No.	District	Name of the defaulters against whom, Rs. 2000 are outstanding.	Arrears	Action taken for recovery of the said amount.
--------	----------	---	---------	--

Rs.

Gujrat Nil

Campbellpur Nil

Jhang Nil

Sargodha Nil

Lyallpur Nil

Mianwali Nil

Lahore Nil

Sialkot Nil

Gujranwala Nil

Multan Nil

Sahiwal Nil

I. D.G. Khan

Nawabzada Sardar Ata
Muhammad Khan Leghari

94,832.00

The defaulters are being pressed
under the law to clear off the
arrears.

S. No.	District	Name of the defaulters against whom, Rs. 2000 are outstanding.	Arrears	Action taken for recovery of the said amount.
			Rs.	
2.		Nawabzada Sardar Mohd Khan Leghari	10,544.00	-do-
3.		S. Mahmood Khan Leghari	33,088.00	-do-
4.		Mst. Afifa Begum Leghari	4,120.00	-do-
5.		Mst. Shahla Leghari	2,970.00	-do-
	M. Garh.	Nil		
	Nawab Shah	Nil		
	Khairpur	Nil		
1.	Sukkur	Rahim Bakhsh Soomro, M.P.A.	17,114.00	-do-
2.		Mr. Akhtar Mahmood	4,675.00	-do-
3.		Mr. Imam Bukhsh	3,528.00	-do-
	Larkana	Nil		
	Tharparkar	Nil		

S. No.	District	Name of the defaulters against whom, Rs. 2000 are outstanding.	Arrears.	Action taken for recovery of the said amount
			Rs.	
1.	Sanghar	Haji Mohd Hasham Mari	8,502.00	-do-
2.		-do-	2,502.00	-do-
3.		Mohd Ishaq Mangrie	3,849.00	-do-
	Quetta-Fishin	Nil		
	Kalat	Nil		
	Kharan	Nil		
	Mekran	Nil		
	Kachhi	Nil		
1.	Karachi	Syyeda Shahnaz Begum	6,813.13	Action is being taken against the defaulters to clear off the arrears.
2.		Mr. K.B.A.K. Gabole	4,464.71	
3.	Karachi	Seema Laboratories	4,281.25	-do-
4.		Pak. Central Chemical Industries	52,947.00	

S. No.	District	Name of the defaulters against whom, Rs. 2000 are outstanding.	Rs.	Arrears	Action taken for recovery of the said amount.
5.		Pak. Mineral Corporation	10,000.00		
6.		Keecha s/o Eassan	2,001.47		
7.		Ali s/o Nathar	2,250.00		
8.		M/s Building Corporation	2,140.62		
9.		M/s Premier Equipment Company	6,713.00		
1.	Bahawalpur	Abdul Aziz Lambardar	6,983.00		Warrant of arrest has been issued.
2.		Abdullah Khan Lambardar	2,464.00		The auction file is under preparation.
3.		-do-	3,896.00		-do-
4.		Nazir Ahmad Lambardar	6,549.00		Warrant of arrest has been issued.
5.		Sufi Abdul Hamid Lambardar	6,056.00		-do-
6.		Amir of Bahawalpur	2,175.00		The correspondence is being carried out with the Mushir Mat of Amir of Bahawalpur.
7.		-do-	7,341.00		-do-

S. No.	District	Name of the defaulters against whom, Rs. 2000 are outstanding.	Arrears	Action taken for recovery of the said amount.
8.		-do-	Rs. 6,963.30	-do-
9.		-do-	13,112.00	-do-
10.		Sufi Abdul Aziz Lambardar	12,015.00	Warrant of arrest has been issued.
11.		Ahmad Sher Lambardar	6,096.00	Warrant of arrest and attachment has been issued.
12.		Rana Mohd Bux Lambardar	8,052.00	Warrant of arrest has been issued.
13.		Allah Rakha Lambardar	2,350.00	-do-
14.		Ahmad Nawaz Lambardar	5,183.00	Action is being taken.
15.		Mohd Hanif Lambardar	6,720.00	Warrant of arrest has been issued.
16.		Allah Diwaya Lambardar	3,164.00	-do-
17.		Sikandar Khan Lambardar	5,129.00	-do-
18.		Hakim Nizam Din Lambardar	3,682.00	-do-
19.		Saleh Mohd Lambardar	3,728.00	-do-
		Mehd Murad Lambardar	6,457.00	-do-

S. No.	District.	Name of the defaulters against whom, Rs. 2,000 are outstanding.	Arrears	Action taken for recovery of the said amount.
			Rs.	
21.		Manzur Ahmad Lambardar	2,169.00	Warrant of arrest has been issued. Most of the amount is recover- able from Patidars who are residing out of district. Action is being taken through recovery certificates.
22.		Mohd Arif Lambardar	5,695.00	Warrant of arrest has been issued.
23.		Wali Mohd etc. Lambardar	9,202.00	-do-
24.		Munawar Hussain	7,237.00	The auction file is under preparation
25.		Irshad Hussain	7,262.00	Warrant of arrest has been issued.
26.		Mian Maqbul Ahmad Lambardar	33,443.00	Warrant of arrest and attachment has been issued.
27.		Manzur Ahmad Lambardar	10,537.00	Warrant of arrest has been issued
28.		Abdul Hamid Lambardar	9,714.00	Warrant of arrest and attachment has been issued.
29.		Illahi Bux Lambardar	13,516.00	Warrant of arrest has been issued. Most of the amount is due from Royal family.

APPENDIX

145

S. No.	District	Name of the defaulters against whom, Rs. 2,000 are outstanding.	Arrears.	Action taken for recovery of the said amount.
			Rs.	
30.		Mohd Nawaz Lambardar	11,503.00	Warrant of arrest has been issued
31.		Khan Mohd Lambardar	19,382.00	-do-
32.		Khadim Hussain Lambardar	11,246.00	-do-
33.		Mohd Amin Lambardar	4,903.00	-do-
34.		Shafi Mohd Lambardar	9,908.00	-do-
35.		Ghulam Hussain Lambardar	2,780.00	Action is being taken against the Patidars on filing has applica- tion.
36.		Imam Bux Lambardar	3,432.00	Notice has been issued
37.		Bashir Ahmad Lambardar	3,512.00	One Nazir Ahmad is responsible for the payment of dues.
38.		Makhdum Nau Bahar	2,663.00	Warrant of attachment has been issued.
39.		Saeed Ahmad Lambardar	6,473.00	-do-
40.		Allah Ditta Lambardar	5,451.00	Warrant of arrest and attachment has been issued.

S. No.	District	Name of the defaulters against whom, Rs. 2,000 are outstanding.	Arrears	Action taken for recovery of the said amount.
			Rs.	
41.		Abdul Majid Lambardar	4,288.00	Warrant of arrest has been issued
42.		Ghulam Qadir Lambardar	11,343.00	On the issue of warrant of attachment, the Girdawar Ilaqa has reported that the defaulter has no landed property.
43.		Mahar Rahim Bux Lambardar	9,448.00	Warrant of attachment has been issued.
44.		Ghulam Rasul Lambardar	4,641.00	The auction file is under preparation with the Tehsildar concerned.
45.		Mahar Rahim Bux	9,050.00	Warrant of attachment has been issued.
46.		Rahim Bux Lambardar	8,637.00	-do-
47.		Abdul Hadi Lambardar	10,747.00	Warrant of arrest has been issued.
48.		Karim Bux Lambardar	2,158.00	-do-
49.		Gul Mohd Lambardar	4,072.00	Action is being taken against the Patidars.
50.		Syed Mohd Nawaz Shah	2,578.00	-do-

S. No.	District	Name of the defaulters against whom, Rs. 2,000 are outstanding.	Arrears	Action taken for recovery of the said amount.
51.	Bahawalpur	Ahmad Bux Lambardar	Rs. 5,117.00	Warrant of arrest has been issued. He quarreled with the peon for which the case has been registered in court of A.D.M. BWP. The file is also with the Adm.
52.		Dr. Altaf Bari	5,227.00	Notice has been issued.
53.		Syed Nazar Hussain Shah	8,725.00	-do-
54.		Makhdum Mukhtar Hussain	8,363.00	The defaulter is an influential person. His crop has been attached but no one came forward to take the crop in his custody.
55.		Malik Ahmad Yar	3,436.00	Notice has been issued. He is an influential person.
56.		Mohd Ismail Lambardar	5,343.00	The auction file is under preparation.
57.		Fazal Illahi	3,273.00	Notice has been issued.
58.		Ghulam Hussain	2,316.00	Warrant of arrest has been issued.
59.		Mahar Rahim Bux	3,761.00	Notice has been issued. He is an influential person.

S. No.	District	Name of the defaulters against whom. Rs. 2,000 are outstanding.	Arrears	Action taken for recovery of the said amount.
			Rs.	
60.		Rasul Bux Lambardar	3,766.00	Notice has been issued.
61.		Khuda Bux Lambardar Mahar Rahim Bux	5,426.00	Notice has been issued. He is an influential person.
1.	Bahawalnagar	Mian Mohd Asghar President Muslim League	4,943.96 4,714.34	Action is being taken and notice has been issued.
2.		Mian Shah	11,153.69	Warrant of arrest has been issued.
3.		Mohd Sharif Noor Muhammad	5,022.00	-do-
4.		Khushi Muhammad Lambardar	5,022.00	Warrant of attachment has been issued.
5.		Syed Muhammad Abbas Ahmad Shah	2,927.69 2,903.21Kh.	Warrant of attachment have been issued.
6.		Muhammad Nawaz Lambardar	4,796.50 Rabi	
7.		Ch. Fazal-ur-Rehman	5,481.63Kh. 2,572.50 Rabi	-do-
8.		Abdur Rehman Lambardar	10,466.00	Warrant has been issued.

APPENDIX

149

S. No.	District	Name of the defaulters against whom, Rs. 2,000 are outstanding.	Arrears	Action taken for recovery of the said amount.
			Rs.	
9.		Noor Ullah Lambardar	2,322.10 Kh.	Warrant of arrest has been issued.
			1,538.40 Rabi	
10.		Muhammad Yar Lambardar	9,13.55 Kh.	The defaulter has been detained in the Revenue lock up.
			3,768.09	
11.		Muhammad Warsal Lambardar	3,201.43	The warrant of attachment has been issued.
12.		Haji Chakar Lambardar	2,840.00 Kh.	-do-
			3,181.18 Rabi	
13.	Bahawalnagar	Shahsawar etc.	3,037.22 Kh.	Warrant of attachment has been issued.
14.		Bashir Ahmad Lambardar	2,369.25	-do-
15.		Muhammad Ismail Lambardar	1,690.00 Kh. 2,604.77	Warrant of arrest has been issued.
16.		Lal Muhammad Lambardar	452.25 Kh. 5,492.88. Rabi.	Warrant of attachment has been issued.

S. No.	District	Name of the defaulters against whom, Rs. 2,000 are outstanding.	Rs.	Arrears	Action taken for recovery of the said amount.
17.		Muhammad Hussain Lambardar	4,087.82		Warrant has been issued.
18.		Mubarik Ali Alawal Lambardar	2,005.95	Kh.	-do-
19.		Sikandar Ali Lambardar	4,165.63	Rabi	-do-
20.		Sher Muhammad Lambardar	2,483.71		-do-
21.		Baggio Lambardar	2,087.00	Kh.	-do-
22.		Suleman Sher Ahmad	2,183.88		-do-
23.		Rashid Ahmad Lambardar	2,406.71		Warrant of arrest has been issued.
24.		Subeh Sadiq Lambardar	2,501.40		-do-
25.		Syed Ghulam Rasul Shah	8,605.51		-do-
26.		Baggu Lambardar	4,875.00		Warrant has been issued.
27.		Said Muhammad Lambardar	5,479.35		Warrant of arrest has been issued.
28.		Bashir Ahmad Lambardar	2,889.00		-do-
			2,838.15		-do-

APPENDIX

151

S. No.	District	Name of the defaulters against whom, Rs. 2,000 are outstanding.	Rs.	Arrears	Action taken for recovery of the said amount.
29.		Muhamman Zaman Aswar Khan	2,322.22	-do-	
30.		Muhammad Sharif Lambardar	2,241.71	Warrant has been issued.	
31.		Sher Ahmad Noor Muhammad	2,501.00	-do-	
32.		Hagnawaz Lambardar	2,430.00	-do-	
33.		Muhammad Hussain Lambardar	2,785.60	-do-	
34.		Syed Arshad Ali	4,727.00	-do-	
35.		Muhammad Sharif Lambardar	2,139.17	-do-	
36.		Ali Khan Lambardar	3,216.96	Warrant of arrest has been issued.	
37.		Khushi Muhammad Lambardar	2,620.66	-do-	
38.		Madiad Ali Lambardar	3,741.88	Warrant has been issued.	
39.		Hakim Ali	3,285.84	-do-	
40.		Ahmad Ali Lambardar	2,151.55	Warrant of arrest has been issued.	
41.		Abdur Razzaq Lambardar	2,363.34	-do-	

S. No.	District	Name of the defaulters against whom, Rs. 2,000 are outstanding.	Arrears	Action taken for recovery of the said amount.
			Rs.	
42.		Yasin Lambardar	2,729.00	Warrant of arrest has been issued.
43.		Ghulam Muhammad Lambardar	2,201.91 Kh. 632.00	Warrant of arrest has been issued.
44.		Ghulam Qadar	2,536.00	-do-
45.		Alam Gir Lambardar	2,134.81 Kh. 1,359.00 Rabi.	-do-
46.		Ghulam Muhammad	2,065.88 Rabi	-do-
47.		Muhammad Yaqub	2,882.99	-do-
48.		Sardar Muhammad	2,921.00 Rabi.	-do-
49.		Aziz Lambardar	2,703.07	-do-
50.		Muhammad Amir	3,428.00	Warrant has been issued.
51.		Khair Muhammad	2,420.49	-do-
52.		Muhammad Tufail	2,550.00 Kh. 2,528.53	-do-
53.		Rafiq Muhammad Shah	2,393.25	-do-

S. No.	District	Name of the defaulters against whom. Rs. 2,000 are outstanding.	Rs.	Arrears	Action taken for recovery of the said amount.
54.		Sher Muhammad Lambardar	4,142.07 380.70		-do-
55.		Amir of Bahawalpur	10,970.98 Kh. 14,524.23 Rabi.		-do-
56.		Staraf Din	4,533.41		-do-
57.		Din Muhammad Lambardar	3,002.00		-do-
58.		Batawal Khan Lambardar	3,589.30		-do-
59.		Iftikhar Ahmad Lambardar	4,540.99		-do-
60.		Mian Fateh Muhammad Khan	3,191.00		-do-
61.		Nur Ahmad Lambardar	2,049.64		Warrant of arrest has been issued.
62.		Syed Ratim Shah	5,976.76		-do-
63.		Revenue Agency	2,097.44		
64.		Zarif Khan Lambardar	2,118.28		Warrant of arrest has been issued.

S. No.	District	Name of the defaulters against whom, Rs. 2,000 are outstanding.	Arrears Rs.	Action taken for recovery of the said amount.
1.	Jacotabad	Mr. Abdul Nabi Usto	3,469.00	Arrears were under stay upto 30-11-67. The defaulters have promised to pay arrears within this month.
2.		Mr. Altaf Hussain Usto	6,000.00	
3.		Sardar Taj Mohd Odho	2,585.00	Cheque received by the Mukhtiar kar Garhkhairo for encashment.
4.		K. S. Sardar Khan Khoso	54,256.40	...
5.		Mr. Mohd Amin Khoso	4,912.99	Arrears were under stay.
6.		Mst. Imam Bibi	4,463.12	...
7.		Sardar Yar Mohd Khan Jamali		
8.		Haji Fakir Bux Khan Jamali		The arrears are to be recovered by 31-3-68.
9.		Mir Mohd Murad Khan Jamali		The recovery steps are at foot.
10.		Haji Shah Nawaz Khan Jamali		
11.		Haji Rasul Bux Khan Jamali		

S. No.	District	Name of the defaulters against whom, Rs. 2,000 are outstanding.	Arrears	Action taken for recovery of the said amount.
			Rs.	
12.		Mir Amanullah Khan Jamali		
13.		Wadero Qamauridin Khan Usto		
14.		Wadero Shamsuddin Khan Usto		
15.		Mir Shah Nawaz Khan Shahliani		
16.		Mir Mohd Nawaz Khan Jamali		
17.		Sardar Khair Bux Khan Marri		
18.		Mir Doda Khan Marri		
19.		Mir Mohd Murad Khan Jamali	2,777.89	
20.		Bhagnari cattle farm	37,287.19	Matter is running between Revenue Department and Agricultural Development Corporation.
21.		Mr. Wazir Khan Khoso	2,852.64	
22.		Ghous Bux Khan Khoso	2,852.64	

S. No.	District	Name of the defaulters against whom, Rs. 2,000 are outstanding.	Arrears	Action taken for recovery of the said amount.
			Rs.	
1.	Sheikhupura	Fazal Rehman Mahmood	7,749.99	
2.		Boota Shah of Chak No. 10 R.B.	3,043.25	
3.		Ghulam Nabi	2,139.21	
4.		-do- Chak No. 31 R.B.	2,087.36	
5.		Chandi Khan	2,562.00	
6.		Ali Ahmad	2,535.00	
7.		Ghulam Nabi	2,370.00	
8.		Sardar Muhammad of Bahrianwala	4,107.57	
9.		Shah Muhammad Abianwala	2,024.44	
10.		Shah Muhammad Rehanwala	3,501.63	
11.		Khan Dauran of Nankana	5,801.87	
12.		Asghar Ali of Nankana	2,258.87	

Action taken for recovery
of the said amount.

Arrears

Name of the defaulters against whom,
Rs. 2,000 are outstanding.

S. No. District

Rs.

13.		Mushtaq Ahmad of Nankana	4,987.11	
14.		Hussain Ali of Munia Thatha	2,411.54	
15.		Hussain Baktish of Hoeke	3,224.70	
16.		Khushi Muhammad of Kot Shah Muhammad	3,250.24	
17.		Shmad Beg of Chak No. 572	2,046.00	
18.		Ismail of Piddipur	3,234.96	
19.		Inayat Khan of Thatha Isa	2,268.17	
20.		Sadar Din -do-	4,730.73	
21.		Rahat Ali Hyderabad	3,583.50	
22.		Inayat Khan of Thatha Ahmad	2,022.31	

APPENDIX II

(Ref : Starred Question 10055)

STATEMENT I

Allocation made to the Deputy Commissioners by the Commissioners
in West Pakistan, during the year, 1966-67.

District.	Amount.
	Rs.
Peshawar	3,00,00
Mardan	30,000
Hazara	2,90,000
Kohat	1 80,000
D. I. Khan	4 35,000
Bannu	1,25,000
Rawalpindi	30,000
Gujrat	78,000
Jhelum	49,000
Campbellpur	2 07,000
Sargodha	3,30,000
Lyallpur	46,000
Jhang	1,75,000
Mianwali	2,31,000
Lahore	6,63,325
Gujranwala	1,78,360
Sheikhupura	3,08,360
Sialkot	499,920
Multan	4,55,000

APPENDIX

139

Sahiwal	2,68,000
Muzaffargarh	1,50,000
D. G. Khan	2,30,000
Bahawalpur	3,20,000
Bahawalnagar	2,60,000
Rahimyarkhan	2,80,000
Khairpur	1,75,000
Jacobabad	1,24,500
Sukkur	51,000
Larkana	2,10,000
Nawabshah	9,500
Hyderabad	4,77,300
Thatta	4,77,700
Dadu	1,60,000
Tharparkar	6,20,000
Sanghar	1,10,000
Quetta	3,95,000
Zhob	4,10,000
Loralai	2,45,000
Sibi	3,30,000
Chagai	75,000
Kalat	2,70,000
Kachhi	2,35,000
Mekran	2,10,000
Kharan	1,00,000
Karachi	45,000
Lasbella	1,13,000
	<hr/>
	1,09,61,965

STATEMENT II

Amount of taccavi loan, expended in each District, the amount undisbursed and reasons therefor.

S. No.	District	Amount expended	Saving	Reasons for saving
		Rs.	Rs.	
1.	Peshawar	3,00,000
2.	Mardan	30,000
3.	Hazara	2,90,00
4.	Kohat	1,80,000
5.	D. I. Khan	4,35,000
6.	Bannu	1,25,000
7.	Rawalpindi	16,500	13,500	Rs. 13,000 was surrendered by the D. C. to the Commissioner in II statement of excesses and surrenders. Rs. 500 could not be drawn by Tehsildar before 30-6-67.
8.	Gujrat	71,000	7,000	Out of supplementary grant of Rs. 29,000 allocated to D. C. on 22-5-67, by the Commissioner, Rs. 7,000 could not be distributed before 30-6-1967.

S. No.	District	Amount expended	Saving	Reasons for saving
		Rs.	Rs.	
9.	Jhelum	47,800	1,200	Due to receipt of less applications.
10.	Campbellpur	2,96,900	100	No demand for it.
11.	Sargodha	3,02,120	27,880	Applications not received in time.
12.	Lyalpur	26,000	20,000	Sub-soil water in this district is mostly saltish and unfit for irrigation. Nobody turned up to get loan for sinking wells and tube-wells.
13.	Jhang	1,45,500	29,500	Supplementary grant of Rs. 45,000 was received on 14-5-1967 by the Deputy Commissioner from the Commissioner, hence saving.
14.	Mianwali	2,31,000
15.	Lal ore	5,21,955	1,41,370	Taravi files could not be completed within the scheduled time as most of the applicants were illiterate and did not complete their formalities inspite of calling them several times. Another reason is that an amount of Rs. 40,515 on account of interest free

S. No.	District	Amount expended	Saving	Reasons for saving
		Rs.	Rs.	
16.	Gujranwala	1,78,360	...	taccavi could not be distributed as most of applicants were not deserving.
17.	Sheikhupura	1,99,900	1,08,460	Due to non-receipt of applications from genuine applicants.
18.	Sialkot	4,95,920	4,000	One Major Yaqub Khan, in whose favour the amount in question was sanctioned did not turn up in time to receive it.
19.	Multan	4,54,975	25	Negligible amount requires no explanation.
20.	Sahiwal	2,68,000
21.	Muzaffargarh	1,50,000
22.	D. G. Khan	2,21,500	8,500	It was to be given as 2nd instalment to the borrowers but they did not produce proof for the proper utilization for 1st instalment of loan. Hence saving.

S. No.	District	Amount expended	Saving	Reasons for saving
23.	Bahawalnagar	Rs. 2,20,000	Rs. 1,00,000	One applicant refused to receive the loan. One applicant withdrew application. Three applicants's cases were found incomplete. They were directed to complete them but they did not turn up.
24.	Bahawalpur	2,60,000
25.	Rahimyar Khan	2,12,800	67,200	(i) Nine cases were rejected as these were not fit cases for grant of taccavi loan. (ii) 13 cases were found incomplete and returned for completion but were not received back from Tehsildar before the end of year. (iii) Two cases were filed as the applicants did not require taccavi loans.
26.	Khairpur	1,75,000
27.	Jacobabad	1,07,700	16,800	Due to less demand from genuine applicants.
28.	Sukkur	48,750	2,250	Saving through oversight.

S. No.	District	Amount expended	Saving	Reasons for saving
		Rs.	Rs.	
29.	Larkana	75,680	1,34,320	Due to receipt of less applications from genuine applicants.
30.	Nawabshah	7,500	2,000	No demand for this amount from genuine applicants.
31.	Hyderabad	4,54,450	22,850	Applicants subsequently withdrew their applications.
32.	Thatta	4,45,250	32,450	Due to less receipt of applications from genuine Khatedars
33.	Dadu	1,47,765	12,235	-do-
34.	Tharparkar	6,17,057	2,943	Could not be utilized as it was expected that loan for Mr. Qurban Ali Shah which was pending in Taluka office would be required.
35.	Sanghar	1,07,500	2,500	No deserving applicant came forward.
36.	Quetta	3,78,023	16,977	Some of the zamindars of far flunged areas being illiterate could not present their taccavi orders to sub-treasuries concerned before the close of financial year.

S. No.	District	Amount expended	Saving	Reasons for saving
		Rs.	Rs.	
37.	Zhob	4,10,000
38.	Loralai	2,44,840	160	No demand for this amount.
39.	Sibi	3,30,000
40.	Chagai	74,550	450	No demand for this amount.
41.	Kalat	2,70,000
42.	Kachhi	2,35,000
43.	Mekran	2,09,700	300	No demand for this amount.
44.	Kharan	1,00,000
45.	Karachi	34,400	10,600	No demand for this amount.
46.	Lasbella	1,13,000
		<u>1,01,76,395</u>	<u>7,85,570</u>	

APPENDIX III

(Ref: Starred Question No. 10067)

LIST OF TEHSILS AND ESTATES IN THE PROVINCE WHERE THE RECORDS OF RIGHTS WERE NOT AVAILABLE ON THE 31ST OCTOBER, 1967

District	Tehsil/Taluka	Estate (village)
Sialkot	Shakargarh	Pindi Khurd, H. B. No. 681
		Dera Noor Malik, H. B. No. 426
		Denpur Kalan, H. B. No. 248
		Fatto Chak, H. B. No. 243
		Baddha Tarkhana, H. B. No. 162
		Kanungoi, H. B. No. 632
		Kotla Soinian Chak H. B. No. 351
		Kotla Kahlwan, H. B. No. 654
		Dalla Nangal, H. B. No. 622
		Sukkur
Dring Belo		
Fakirabad		
Hasu Shahid		
Dhandhi		
Nabi Shah		
Subhanpur		
Sirai		
Chil		
Ghulam Goth		
Gatenwari		

District	Tehsil/Taluka	Estate (village)
		Arkohar
		Gidraro
		Muhib Shah
		Bindro
		Abu Pala
		Mangerki
		Sangrar
		Dadhi
		Katohar
		Abra
		Chato Khuh
		Umaiiji
		Baro
		Sanghar
		Phat
		Kanhija
		Vas
		Tirwar
		Dakhano
		Katpar
		Khadri
		Malik
		Setharo
		Dahi

District	Tehsil/Taluka	Estate (village)
		Sanhro
		Bago
		Khapro
		Bahadurio
		Badal Fakir
		Guri
		Khosan-jo-kubh
		Balri
		Mahar
		Sahipati
		Sanhri
		Berwadhi
		Nahrad
		Rajhar
		Lado
		Shah Nawaz Shah
		Mato Mangrio
		Wiyari
		Sondi
		Adar
		Lundi pat
		Manikwaro
		Phogaro
		Khabarwaro

District	Tehsil/Taluka	Estate (village)
		Bhajriwaro
		Ahsanwari
		Kharor
		Lindo
		Panwari
		Chunganwari
		Pir Bux ji-pat
		Hussain Shah
		Shadano
		Lakhijo No. 1
		Lakhijo No. 2
-do-	Ubauro	Daherki
		Alim Arain
		Hamidpur
		Soi
		Rajanpur
		Iarh Nabu
		Katta
		Rajj
		Corhelo
		Mirzapur
		Khanjhu
		Marangro
		Poh No. 1

District	Tehsil/Taluka	Estate (village)
		Poh No. II
		Sejan
		Jhanghal Malik
		Kotlo Kamil
		Muradpur
Nawabshah	Noushahro Feroze	Abji Sahib Khan
		Kalro
		Khairwah
		Palano
-do-	Sakrand	Kumblima
		Tori
		Rumyoon
-do-	Moro	Sunn
		Sewari
		Jari
-do-	Kandiaro	Sethar
		Debhero
		Dewan
		Mad Abyani
		Lundi
		Rajo Dahri
-do-	Nawabshah	100 Nasrat
Thatta	Jati	Sari Chak No. 2 Gandho

District	Tehsil/Taluka	Estate (village)
		Oranga Chak No. 2
		Lakha
		Chalqo
Chagai	Nushki	Whole tehsil
-do-	Dalbandin	Whole tehsil
Zhob	Fort Sandeman	Whole tehsil
-do-	Hindubagh	Kakar Khurasan area
Kalat	Tehsils of Kalat District.	Whole Tehsils
Mekran	Tehsils of Mekran District.	-do-
Kachhi	Lehri	Whole tehsil
-do-	Bhag	-do-
-do-	Gandawa	-do-
Kharan	Tehsils of Kharan District.	Whole tehsils
Lasbela	Tehsils of Lasbela District.	Whole tehsils

APPENDIX IV

(Ref: Starred Question No. 10445)

Ranking list of Kanungos for appointment as Officiating Naib Tehsildar/A.C.O. on temporary basis prepared during the year, 1961, 1962 and 1966.

S. No.	Name of the Kanungo and district to which belongs
1961	
1.	Syed Iqbal Hussain, Kanungo, Lahore District.
2.	Mr. Nazar Ahmad, Kanungo, Sialkot District.
3.	Mr. Muhammad Yaqub -do-
4.	Mr. Khadim Hussain, Kanungo, Gujranwala District.
5.	Mr. Muhammad Yousuf, Kanungo -do-
6.	Mr. Rehmat Ali, Kanungo, Sheikhpura District.
7.	Mr. Abdul Qadir -do-
1962	
8.	Mr. Abdur Rashid Farooqi, Kanungo, Lahore District.
9.	Mr. Muhammad Aslam -do-
10.	Mr. Amjad Hussain -do-
11.	Mr. Bashir Ahmad -do-
12.	Mr. Nisar Ahmad -do-
13.	Mr. Mohammad Sharif, Kanungo, Sialkot District.
14.	M. Habib Ahmad Shah -do-
15.	Mr. Ghulam Nabi -do-
16.	Mr. Ghulam Mustafa -do-
17.	Mr. Muhammad Ishaque, Kanungo, Lahore District.
18.	Mr. Muhammad Matin -do-

S. No. Name of the Kanungo and district to which belongs.

19. Mr. Abdul Majid, Kanungo, Sheikhpura District.
20. S. Tassadiq Hussain -do-
21. Mr. Maqbool Hussain, Kanungo, Sialkot District.
22. M. Sharif Hussain, Kanungo, Sialkot District.
23. Mr. Muhammad Haroon -do-
24. Mr. Muhammad Siddique, Kanungo, Lahore District.
25. Mr. Faizul Hassan, Kanungo, Gujranwala District.
26. Mr. Nizam-ud-Din, Kanungo, Sheikhpura District.
27. Mr. Feroze Din, Kanungo, Lahore District.
28. Mr. Allah Dad, Kanungo, Sialkot District.
29. Mr. Raza Hussain Naqvi -do-
- 1966
30. Mr. Tufail Khan, Gujranwala District.
31. Ch. Inayat Ullah, Sheikhpura District.
32. Ch. Sana Ullah, Gujranwala District.
33. Mr. Muhammad Sharif s/o Chiragh Din, Sialkot District.
34. Ch. Muhammad Iqbal s/o Shukar Din -do-
35. Mr. Mahmood-ul-Hassan, Lahore District.
36. Mr. Abdul Majid s/o Ghulam Haider, Sheikhpura District.
37. Sh. Sardar Muhammad, Sheikhpura District.
38. Sh. Nahib Ali -do-
39. Mr. Zulfiqar Ali Bhatti, Gujranwala District.
40. Mr. Bashir Ahmad Beg, Sialkot District.
41. Qazi Salim Ullah, Sialkot District.

S. No.	Name of the Kanungo and district to which belongs.
42.	Mr. Amjad Hussain, Sialkot District.
43.	Mr. Bashir Ahmad, Lahore District.
44.	Ch. Sana Ullah, Lahore District.
45.	Mr. Abdur Rehman, Lahore District.
46.	Mr. Rashid Ahmad Shah, Lahore District.
47.	Mr. Faiz Ahmad, Gujranwala District.
48.	Mr. Mohammad Shafi s/o Sher Jang, Sialkot District.
49.	Mr. Mohammad Younas, Sialkot District.
50.	Mr. Niaz-ud-Din Zaffar, Gujranwala District.
51.	Mr. Muhammad Asghar, Lahore District.
52.	Mr. Muhammad Ibrahim, Gujranwala District.
53.	M. Mohammad Abdullah s/o Mohammad Hussain, Sialkot District.
54.	Mr. Nazir Ahmad, Lahore District.
55.	Qazi Mo hammad Bashir, Sheikhpura District.

The names of Officials who have been recommended by the Deputy Commissioners/Settlement Officer, Sheikhpura for appointment as Naib Tehsildar candidates in Lahore Division.

S. No.	Name of Candidates recommended	Educational Qualification	Length of service on 30-9-1967			Experience other than 'Mahal'			
			Y	M	D	(a) Settlement.	(b) Consolidation.	(c) Kilabandi.	(d) Colony.
LAHORE DISTRICT									
1.	Ch. Sana Ullah, Saddar Kanungo.	Matric	24	8	23	(a)	5	11	11
						(b)	4	0	0
						(c)	...		
						(d)	...		
2.	Ch. Nisar Ahmad Kanungo.	F. A.	26	3	29	(a)	10	7	13
						(b)	6	2	2
						(c)	...		
						(d)	...		
3.	Mr. Iqbal Hussain, Kanungo.	Matric	28	1	0	(a)	...		
						(b)	3	10	7
						(c)	...		
						(d)	...		

S. No.	Name of Candidates recommended	Educational Qualification	Length of service 30.9.1967	Experience other than Mahal			
				(a) Settlement.	(b) Consolidation.	(c) Kilabandi.	(d) Colony.
4.	Mr. Iqbal Hussain, Kanungo.	-do-	21 9 10	(a) 6 8 15	(b) 1 11 36	(c) ...	(d) ...
5.	Mr. Muhammad Masood Shaukat, Stenographer to D. C.	B. A.	21 0 0	Nil			
SIALKOT DISTRICT							
6.	Ch. Nazir Hussain, Saddar Kanungo.	Matric	20 5 0	(a) 6 0 0	(b) 0 11 3	(c) ...	(d) ...
7.	Mr. Khadim Hussain, Kanungo.	-do-	23 9 0	(a) ...	(b) 22 10 2	(c) ...	(d) ...

S. No.	Name of Candidates recommended	Educational Qualification	Length of service on 30-9-1967	Experience other than 'Mahal'
				(a) Settlement. (b) Consolidation. (c) Kilabandi. (d) Colony.
8.	Mr. Allah Dad, Kanungo.	-do-	19 9 0	(a) ... (b) ... (c) ... (d) ...
9.	Mirza Eastir Ahmad Beg, Kanungo.	F. A.	17 0 0	(a) 1 3 26 (b) 0 0 12 (c) ... (d) ...
10.	Muhammad Yunis Kanungo.	Matric	17 0 0	Nil
11.	Mr. Marzeer Ahmad Butt, Kanungo	-do-	17 0 0	(a) 1 11 14 (b) 4 2 27 (c) ... (d) ...

S. No.	Name of Candidates recommended	Educational Qualification	Length of service on 30-9-1967	Experience other than 'Mahal'
				(a) Settlement. (b) Consolidation. (c) Kilabandi. (d) Colony.
12.	Mr. Muhammad Shafi	-do-	27 0 0	(a) ... (b) 7 0 0 (c) ... (d) ...
GUJRANWALA DISTRICT				
13.	Mr. Tufail Ahmad Khan, Kanungo.	Matric	25 0 0	(a) 2 18 0 (b) ... (c) ... (d) ...
14.	Mr. Zulfaqar Ali Bhati, Kanungo.	-do-	22 0 0	(a) 7 3 18 (b) 0 1 0 (c) ... (d) ...
15.	S. Faiz-ul-Hassan Kanungo.	-do-	21 0 0	(a) 2 3 7 (b) 1 4 0 (c) ... (d) ...

S. No.	Name of Candidates recommended	Educational Qualification	Length of service on 30-9-1967	Experience other 'than Mahal'			
				(a) Settlement.	(b) Consolidation.	(c) Kilabandi.	(d) Colony.
16.	Mr. Faiz Ahmad, Kanungo.	-do-	21 0 0	(a) 1 0 0	(b) 7 0 0	(c) ...	(d) ...
17.	Mr. Muhammad Azhar Khan, Asstt. District Revenue Accountant,	F. A.	18 0 0	Nil			
SHEIKHUPURA DISTRICT							
18.	Rai Walayat Khan, Office Kanungo.	Matric	32 0 0	(a) ...	(b) 3 0 0	(c) ...	(d) ...
19.	Mr. Muhammad Ashraf, District Revenue Acctt., Kanungo.	Matric	23 0 0	Nil			
20.	Mr. Shah Muhammad, Revenue Ahlmad, Kanungo.	-do-	21 0 0	Nil			

S. No.	Name of Candidates recommended	Educational Qualification	Length of service on 30-9-1967	Experience other than 'Mahal'
				(a) Settlement. (b) Consolidation. (c) Kilabandi. (d) Colony.
SETTLEMENT OFFICER SHEIKHUPURA				
21.	Syed Habib Ahmad, Kanungo.	-do-	24 0 0	(a) 1 0 0 (b) 6 0 9 (c) ... (d) ...
22.	Ch. Feroz Din Kanungo.	-do-	15 0 0	(a) 4 8 1 (b) ... (c) ... (d) ...
23.	Malik Muhammad Yaqub Kanungo.	-do-	10 0 0	(a) 4 0 0 (b) 1 4 0 (c) ... (d) ...

List showing the names of senior permanent Kanungos of Lahore Division who were not recommended for enlistment as 'B' class Naib Tehsildar candidates.

LAHORE DISTRICT

S. No.	Name
1.	M. Muhammad Aslam.
2.	M. Bashir Ahmad.
3.	M. Nazir Ahmad.
4.	M. Ali Hussain.
5.	M. Wilban Hayat.
6.	M. Nawab Din.
7.	M. Ghulam Nabi.
8.	M. Feroze Din.
9.	M. Iqbal Hussain.
10.	M. Nisar Ahmad.
11.	M. Mahmood-ul-Hassan.
12.	M. Bashir Ahmad.
13.	M. Muhammad Mateen.
14.	M. Muhammad Siddiq.
15.	M. Ikram-ul-Haque.

KANUNGO CANDIDATES OF D. L.R'S LIST.

- | | |
|-----|----------------------|
| 16. | M. Muhammad Musa. |
| 17. | M. Muhammad Ishaque. |

GUJRANWALA DISTRICT

- | | |
|-----|--|
| 18. | Mr. Muhammad Saleem Siddiqi, Saddar Kanungo. |
| 19. | Ch. Nazir Hussain Cheema. |

S. No.	Name
20	M. Munawar Ahmad.
21.	Ch. Muhammad Rafi.
22.	M. Kushi Messih.
23.	M. Muhammad Qasim.
24.	M. Muhammad Yusaf.
25.	Syed Nazir Hussain Shah.
26.	M. Basharat Ahmad.
27.	M. Sana Ullah.
28.	Ch. Nazir Hussain.
29.	Mr. Sajjad Haider.
30.	M. Ihsan-ul-Haq.
31.	M. Nazir Ahmad.
32.	M. Nur Khan.
33.	M. Muhammad Ahmad.
D.L.R'S LIST	
34.	Mr. Ikram Ullah.
35.	Mr. Manzoor Ahmad.
36.	Mr. Muhammad Saeed.
37.	M. Muzaffar Beg.
38.	Mr. Abdur Rehman.
39.	Mr. Irshad Ahmad.
40.	Mr. Aurthar Paul.
41.	M. Nasrullah Khan.
42.	M. Ghulam Muhammad.
43.	M. Abdul Jabbar.

S. No.	Name
--------	------

SHEIKHUPURA DISTRICT

- | | |
|-----|-----------------------|
| 44. | Rai Walyat Khan. |
| 45. | Rai Muhammad Khan. |
| 46. | Mr. Soze Aubi. |
| 47. | Mr. Inyat Ullah. |
| 48. | Mr. Abdul Majid. |
| 49. | Mr. Abdul Majid. |
| 50. | Mr. Ahmed Ali. |
| 51. | Mr. Najib Ali. |
| 52. | Mr. Tassadaq Hussain. |
| 53. | Mr. Nazir Ahmad. |
| 54. | Mr. Nizam Din. |
| 55. | Mr. Sardar Muhammad. |
| 56. | Mr. Muhammad Amin. |
| 57. | Mr. Muhammad Bashir. |
| 58. | Mr. Abdul Ghani. |

SIALKOT DISTRICT

- | | |
|-----|----------------------|
| 59. | Sh. Saeed-ud-Din |
| 60. | Ch. Muhammad Sharif. |
| 61. | M. Ghulam Mustafa |
| 62. | S. Maqbul Hussain. |
| 63. | Ch. Muhammad Sharif. |
| 64. | Ch. Muhammad Iqbal. |
| 65. | Sh. Muhammad Haroon. |

S. No.	Name
66.	M. Muhammad Shafi,
67.	M. Muhammad Sharif.
68.	M. Jamil-ud-Din.
69.	M. Amjad Hussain.
70.	Muhammad Idrees.
71.	M. Muhammad Abdullah.
72.	Qazi Salim Ullah.
73.	S. Raza Hussain.
74.	S. Habib Ahmad.
75.	M. Nazir Ahmad.
76.	M. Muhammad Bashir.
77.	M. Ghulam Muhammad.
78.	M. Abdul Rehman,
79.	Fuzal Elahi,
80.	M. Asghar Ali.
81.	M. Muhammad Shabbir.
82.	M. Ghulam Nabi.
83.	M. Bashir Ahmad,
84.	M. Ghulam Nabi.
85.	M. Feroze Din,
86.	Ghulam Sadiq.
87.	M. Ijaz Ahmad,

S. No.	Name
88.	Fazir Muhammad.
89.	M. Khadim Hussain,
90.	M. Muhammad Yusaf.
91.	M. Muhammad Munir.
92.	M. Shahab-ud-Din.
93.	M. Muhammad Yusaf.

APPENDIX V

(Ref: Starred Question No. 11056)

STATEMENT I

(a) Details of Taccavi amounts so far placed at the disposal of the Commissioners.

	Rs.
1. Peshawar	7,50,000
2. D. I. Khan	6,65,000
3. Rawalpindi	5,30,000
4. Sargodha	12,20,000
5. Lahore	4,45,000
6. Multan	13,00,000
7. Bahawalpur	4,50,000
8. Khairpur	4,50,000
9. Hyderabad	26,55,000
10. Quetta	12,00,000
11. Kalat	13,00,000
12. Karachi	1,30,000

Total :	1,10,95,000

(b) Details of Taccavi Loans so far placed at the disposal of the Deputy Commissioners by the Commissioners.

1. Peshawar	2,30,000
2. Mardan	50,000
3. Hazara	1,90,000
4. Kohat	1,80,000
5. D. I. Khan	3,25,000

	Rs.
6. Bannu	1,60,000
7. Rawalpindi	16,300
8. Gujrat	2,05,000
9. Jhelum	52,600
10. Cambellpur	2,56,100
11. Sargodha	3,80,000
12. Lyallpur	2,40,000
13. Jhang	2,80,000
14. Mianwali	2,80,000
15. Lahore	2,00,000
16. Gujranwala	1,10,000
17. Sheikhpura	1,05,000
18. Sialkot	30,000
19. Multan	7,90,900
20. Sahiwal	2,16,800
21. Muzaffargarh	75,500
22. D. G. Khan	2,16,800
23. Bahawalpur	1,25,000
24. Bahawalnagar	1,45,000
25. Rahimyarkhan	1,80,000
26. Khairpur	60,000
27. Jacobabad	1,02,000
28. Sukkur	1,88,000
29. Larkana	70,000
30. Nawabshah	24,500

	Rs.
31. Hyderabad	8,95,000
32. Thatta	11,75,000
33. Dadu	1,79,500
34. Tharparkar	2,05,000
35. Sanghar	59,500
36. Quetta	2,95,000
37. Zhob	2,52,000
38. Loralai	2,95,000
39. Sibi	1,85,000
40. Chagai	85,000
41. Kalat	4,87,000
42. Kachhi	3,08,000
43. Mekran	3,15,000
44. Kharan	1,90,000
45. Karachi	19,000
46. Lasbella	1,11,000
Total :	<u>1,05,40,500</u>

STATEMENT II

1. TERMS AND CONDITIONS

- (i) Applications for grant of taccavi loan are to be made orally or in writing in the form prescribed for the purpose in the Taccavi Acts/Rules applicable to the various regions. If made orally, it is to be recorded by the Revenue Officers in that form.
- (ii) Agreement is to be executed in the form prescribed in the Taccavi Acts/Rules applicable to various regions.
- (iii) (A) Security under Land Improvement Loans Act XIX of 1883.

- (a) When the value of the applicants' interest in the land to be improved is sufficient to cover loan, no collateral security is required.
 - (b) When a loan is made to the members of a village community binding themselves jointly and severally, the personal security of the applicants, is required.
 - (c) In all cases not covered by (a) or (b) above, collateral security either real or personal is required. Movable property is rarely accepted as such security.
- (B) **Security under Agriculturists' Loans Act XVII of 1958.**
Persons are required as security for the repayment of loan with interest, subject to the satisfaction of the officer granting the loan.

2. RATE OF INTEREST

Interest is charged at the rate fixed by the Provincial Government from time to time. The current rate of interest is six and a half per cent per annum.

3. TIME LIMIT FOR REPAYMENT

Loans under Act XVII are repayable during the next harvest except the one advanced for the purchase of bullocks, which is repayable in the next four harvests. Loans under Act XIX are repayable after a period of two years and the repayment is completed in 20 harvests.

4. PROCEDURE FOR THE RECOVERY

Repayment may be made either in person at the Tehsil Headquarters or through the Lambardar when the payment of Land Revenue is made. Over due instalments of Taccavi Loans with interest, may be realized from the borrower or his surety as if they were arrears of land revenue due from him.

APPENDIX VI

(Ref: Starred Question No. 11116)

Statement showing the names and full addresses of the persons against whom land revenue exceeding rupees fifty thousand is outstanding and the steps taken or intended to be taken for the recovery of said land revenue from the defaulters.

S. No.	Name of the defaulters	Address	Amount of Land Revenue	Action taken or intended to be taken for the recovery
			Rs.	
1.	Nawabzada Sardar Muhammad Khan Leghari.	Choti Zertine, district D. G. Khan of Multan division.	1,01,389.00	Recovery proceedings are in hand in accordance with the provision of law.
2.	Nawabzada Sardar Ata Muhammad Khan Leghari.	do	1,42,210.00	ditto
3.	Nawabzada Sardar Mahmood Khan Leghari.	do	1,09,246.00	ditto
4.	Sardar Muhammad Nawaz Khan.	Kot Fatch Khan, Teh. Fatehjang District Campbellpur.	76,217.00	Recovery of this amount has been stayed by the High Court West Pakistan, Peshawar Bench till the decision of the appeal, filed by Sardar Mohd Nawaz Khan.

S. No.	Name of the defaulters	Address	Amount of Land Revenue	Action taken or intended to be taken for the recovery
			Rs.	
5.	Khan Dauran, Tehsildar.	Patti Janam-Asthan Nankana Sahib, District Sheikhpura.	72,010.47	Necessary steps for the attachment of the property are being taken.
6.	Haider Khan, Lambardar.	Thatta Isa and Khuni Teh. Nankana District Sheikhpura.	80,799.73	ditto
7.	Sadar Din, Lambardar	Village Thatha Isa Tehsil Nankana, District Sheikhpura.	1,22,387.93	Action for the sale of land owned by Sadar Din defaulter is being taken.
8.	Amir of Bahawalpur	...	2,25,473.00	Recovery proceedings in hand.
9.	Malik Bahar Ahmad	Village Bahisti, Teh. Liaquatpur.	55,558.00	Land of the defaulter will be sold during this month.
10.	Sardar Hamidullah Khan.	Village Bahisti, Teh. Rahimyar Khan.	70,178.00	Additional remission case is under consideration.

PROVINCIAL ASSEMBLY OF WEST PAKISTAN
SEVENTH SESSION OF THE SECOND PROVINCIAL ASSEMBLY OF
WEST PAKISTAN

Thursday, the 2nd May, 1968.

پنج شنبہ - ۳ صفر المظفر ۱۳۸۸ھ

The Assembly met at the Assembly Chamber, Lahore at 8-00 a.m. of the clock. Mr. Speaker, Chaudhri Muhammad Anwar, in the Chair.

Recitation from the Holy Qur'an by Qari Ali Hussain Siddiqi (Qari of the Assembly) and its translation.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَهْ حَسِبَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ السَّیِّئَاتِ اَنْ لَّیْسَ لَہُمْ نَادِیًا مَّا یَعْلَمُوْنَ مَنْ
كَانَ یُرْجُو الْاٰثَرَ اللّٰهُ فَاَنْ اَجَلَ اللّٰهُ لَا تِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ مَنْ جَاهَدْ
فَاِنَّمَا یُجَاهِدْ لِنَفْسِہٖ اِنَّ اللّٰهَ لَفِیْ عِصْفِ الْعٰلَمِیْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ
لَنُكَفِّرَنَّ عَنْہُمْ سِیِّئَاتِہُمْ وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِیْ كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝ وَوَعَدْنَا
اَلْاِنْسَانَ اِذْ وُلِدَ نَبِہٖ حَسَنًا طَوَّابًا جَاهِدْ لَكَ شَرِّكَ بِنِیِّ مَا لَیْسَ لَكَ بِہٖ
عِلْمٌ فَلَا تُطِعْہُمَا طَرَاکَیْ مَنْ جَعَلَکُمْ فَاَنْتُمْ لَکُمْ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

(پ ۲۰ - س ۲۹ - ع ۱۳۶ - آیات ۳ تا ۸)

کیا وہ لوگ جو بُرائیاں کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ ہلکے قابو سے نکل جائیں گے جو خیال یہ کرتے ہیں بڑے جو شخص اللہ سے ملے گا امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آئیگا۔ اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو شخص بھی محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لئے کرتا ہے اور اللہ تو سارے عالم سے بڑے پر ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کرتے رہے ہم ان سے انکی برائیوں کو دور کر دیں گے۔ اور انکو انکے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کو کبھی تو نہایت عہدہ سواک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں اگر تم سے ماں باپ تیرے دیرینوں کو تیرے ساتھ کسی کو شریک بننے کا حقیقت کا تجربہ کو تم نہیں ہے تو ان کا یہ کہنا نہ مانا یاد رکھو تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر انہی سے پھر جو کچھ تم کرتے رہتے تھے میں تم کو جتاؤں گا۔

وما علینا الا البلاغ

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker : Now the Question Hour. Mr. Zain Noorani.

TEMPORARY COURTS OF CIVIL JUDGES IN FORMER SIND

***9988. Mr. Zain Noorani :** Will the Minister for Home be pleased to refer to answer to my starred question No. 7962, given on the floor of the House on 1st November 1967 and state :—

(a) whether final report regarding the temporary Courts of Civil Judges of the former Sind Area has been received from the High Court ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, the date on which the report has been received and the action taken by the Government since the receipt of the report ?

Parliamentary Secretary (Chaudhri Imtiaz Ahmed Gill) : (a) Yes.

(b) The report was received by the Services and General Administration Department from the High Court on 8th February 1968 and the same was finally considered in the meeting by the Services and General Administration Department on 29th March 1968. The decision taken in the meeting was that the strength of Civil Judges should be fixed on the basis of 375 cases per Civil Judge per year. The cadre strength of each region is being worked out on the basis of this decision and a final sanction from the Finance Department is likely to issue shortly.

Kazi Muhammad Azam Abbassi : Will the Parliamentary Secretary, Home, be pleased to tell as to when it will be worked out and how long will it take ?

Parliamentary Secretary (Home) : I cannot give the Member any definite date but this much I can say that it will be done very soon.

چودھری محمد ادیس - جناب والا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں

کہ Cases per Civil Judge ۳۷۵ کون سی تاریخ کی سول ججوں کی

strength پر determine کریں گے ؟

Parliamentary Secretary : This is the work which the Civil Judges have been doing. I have already said that it will be calculated on the basis of 375 cases per Civil Judge per year. Of course, the whole calculation, for the time being, is not with me but this is the basis on which sanction is being given.

چودھری محمد نواز - کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے جو رپورٹ
فنانس ڈیپارٹمنٹ کو بھیجی تھی وہ کب بھیجی تھی ؟

Parliamentary Secretary : I have just said that the meeting was held on 29th March, 1968, and it is very obvious that the report was sent to the Finance Department after that date.

چودھری محمد نواز - کیا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب فرمائیں گے
کہ آیا ہم یہ توقع رکھیں کہ اس سال کے اختتام پر یہ رپورٹ فنانس
ڈیپارٹمنٹ سے approve ہو کر آجائے گی -

Parliamentary Secretary : I hope so.

حاجی سردار عطا محمد - کیا آپ بتائیں گے کہ ہانی کورٹ کو
جو سفارشات کی گئی تھیں وہ کیا تھیں ؟

پارلیمنٹری سیکرٹری - سفارش آپ کے مطلب کی گئی تھی . وہ یہ
کہ عارضی سول جج کو مستقل جج بنا دیا جائے - جو معیار پر پورا اترے
گا اس کو بنا دیا جائے گا -

حاجی سردار عطا محمد - میں پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب سے
پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سفارش ہماری توقع کے مطابق ہے یہ آپ نے
کیسے سمجھ لیا ؟

SMUGGLING OF RICE AND WHEAT

*9994. Mr. Zahm Noorani : Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) the district-wise number of cases of smuggling of (i) rice and (ii) wheat reported to the police during the period from 1st January 1967 to 31st October 1967 ;

(b) the number of persons involved in cases mentioned in (a) above and the punishment given to each one of them ?

Parliamentary Secretary (Chaudhri Imtiaz Ahmad Gill) : The requisite information is given in the enclosed statement.*

چودھری محمد ادريس - میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لاہور میں سمگلنگ کے جو اتنے کیس ہوئے ہیں کیا آپ نے وجہ معلوم کرنے کی کوشش ہے کہ اتنے زیادہ کیس کیوں ہوئے ہیں ؟

خواجہ محمد صفدر - وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے -

Parliamentary Secretary : Actually this is a border area and smuggling always takes place in the border areas. That is one of the reasons that Lahore might be having more cases of smuggling as compared to other areas.

چودھری محمد نواز - کیا یہ وجہ تو نہیں کہ یہ شہر صوبہ کا ہیڈ کوارٹر ہے -

مسٹر محمود اعظم فاروقی - جناب والا - یہ جو چار کالم کی تفصیل دی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ کیس pending ہیں اور کچھ cases میں ۲۰ یا ۳۰ یا ۱۰۰ روپیہ جرمانہ کی سزا دی گئی ہے - یہ

سمکنگ چاول اور گھیوں کی ہوئی ہے جو عوام کی غذا ہے۔ کیا یہ بہت بڑا جرم نہیں اور اس قسم کی سمکنگ ملک سے غداری نہیں اور کیا آپ کے نزدیک اس جرم کو روکنے کے لیے ۲۰ یا ۱۰۰ روپیہ جرمانہ کی سزا کافی ہے ؟

Parliamentary Secretary : Of course, we challan cases and send them to the Court and this is up to the Court to punish the accused. We do not want to hinder the independence of the Courts.

مسٹر محمود اعظم فاروقی - کیا وزیر متعلقہ بتائیں گے کہ ۲۰ یا ۵۰ یا ۱۰۰ روپیہ جرمانہ کی سزا چاول اور گھیوں کی سمکنگ کے لئے کافی اور deterrent ہے ؟

پارلیمنٹری سیکرٹری - وزیر متعلقہ تو یہاں نہیں ہیں ؟

مسٹر محمود اعظم فاروقی - آپ ہی بتا دیجئے -

Parliamentary Secretary : The Minister concerned is not here. That is for the satisfaction of the Courts and we do not want to interfere in the working of the Courts.

Mr. Speaker : The learned Member wants to know whether this punishment is sufficient in the view of the Department ?

Parliamentary Secretary : Sir, the punishment is generally accorded by the Courts keeping in view the magnitude of the offence and the property involved. In this case the property involved might be very little, hence the punishment is less. I personally feel satisfied since the punishment is awarded by the Courts.

ملک محمد اسلم خان - جناب والا - کیمبل پور بارڈر ایریا نہیں لیکن وہاں بھی بہت زیادہ کیس ہوئے ہیں ان میں ایسے بھی ہیں کہ دس

ماہ سے ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں ہوا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ فیصلہ کرنے میں اتنی دیر کیوں لگاتے ہیں؟

Parliamentary Secretary : Sir, my predicament is that I cannot put a question to the Member otherwise I would have asked him as to why the smuggling was on the increase in Campbellpur District. Anyhow, we are issuing orders that the cases which are long outstanding should be disposed of as early as possible.

چودھری محمد نواز - کیا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب بتائیں گے کہ ۵۰-۱۰۰ روپیہ جرمانہ کرنے سے سمگلنگ کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی؟

Parliamentary Secretary : I have already answered this question and I do not think that they are encouraged. One found guilty is punished and a punishment is a punishment for a gentleman.

مسٹر محمود اعظم فاروقی - میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ۱۰ مہینہ کے عرصہ میں جو کبس ہوئے ہیں یہ وہ کیس ہیں جو ان کے علم میں آئے ان کو روکنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کئے ہیں؟

Parliamentary Secretary : Sir, Mr. Mahmood Azam Farooqi's question is, if I have rightly understood, whether we have taken any steps to check smuggling. So I may tell Mr. Farooqi that he is a more religious man than I. Nobody is born perfect. Human laws are never perfect and loopholes remain and our effort is to check them as far as reasonably possible. So we are doing our best and I hope smuggling is not on the increase but is decreasing.

خان اجون خان جلدون - کیا اس سوال کی اہمیت کے پیش نظر پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب معلومات حاصل کر کے ایوان میں پیش کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ لاہور بارڈر ایریا سے جتنے کیس ہکڑے گئے ہیں

اور سزا ہوئی ہے ان آٹے جرمانہ کی کتنی رقم ہے اور جو چیزیں سمگل ہوئی ہیں ان کی quantity کتنی ہے ؟

Mr. Speaker : Will the Member give a fresh notice ?

Malik Qadir Bakhsb : Will the Parliamentary Secretary agree with me if I say that this minimum and nominal punishment is encouraging smuggling instead of discouraging it ?

Parliamentary Secretary : The answer to the Member's question of course, would be very detailed. I will have to supply figures which are not readily available. Hence fresh notice should be given.

چودھری محمد نواز - کیا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب فرمائیں گے کہ یہ تو وہ کیس ہیں جن کو پولیس یا رینجرز نے پکڑا اور ان کو جرمانہ کی سزا دی گئی - کیا ان کے علاوہ اور کوئی کیس نہیں تھا - مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ کئی اور کیس بھی پکڑے گئے لیکن ان کی پولیس سے سودا بازی ہو گئی - ایسے بے شمار کیس شیخوپورہ ، ساہیوال ، ملتان ، لائل پور کے اضلاع میں ہوئے ہیں ان کی detection کے لیے آپ نے کوا اقدامات کیے ہیں ؟

Parliamentary Secretary : Sir, I regret to say that if certain cases were in the knowledge of the Member, he should have reported those cases as it was his duty.

خواجہ محمد صفدر - ان کا چالان کرائیں - اس لیے کہ

He has not reported those cases.

چودھری محمد نواز - آپ پارلیمنٹری سیکرٹری بن گئے ہیں کیا آپ

کا فرض نہیں ؟

پارلیمنٹری سیکرٹری - میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں سنی -

چودھری محمد نواز - کیا کانوں میں روٹی لے رکھی ہے ؟

مسٹر محمود اعظم فاروقی - جو اطلاعات دی گئی ہیں یہ ساری غلط معلوم ہوتی ہیں - پچھلے دنوں گورنر صاحب جب کراچی گئے تھے اور دانش مندوں کی میٹنگ کو خطاب کیا تھا میں بھی اس میٹنگ میں شریک تھا کیوں کہ میں بھی اڑھائی سال سے دانش مند ہوں - انہوں نے فرمایا تھا کہ سمگنگ بالکل نہیں ہو رہی یہ سب غلط ہے - میرا خیال ہے کہ گورنر صاحب کی اطلاع زیادہ صحیح ہوگی - وہ ذمہ دار آدمی ہیں - اس لیے میرا خیال ہے کہ جو اطلاع دی گئی ہے یہ ساری غلط ہے -

چودھری محمد نواز - فاروقی صاحب میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس روز کی بات ہے کیوں کہ جو figures اس سوال کے جواب میں دی گئی ہیں وہ ۱۹۶۷-۶۸ء کی ہیں ؟

حاجی سردار عطا محمد - میں پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو فیگرز آپ نے دی ہیں ان فیگرز میں صاحب اقتدار لوگوں کے جو دوست سمگنگ کرتے ہیں کیا وہ بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں ؟

OATH COMMISSIONERS

*10019. Chaudhri Muhammad Idrees : Will the Minister of Home be pleased to state :—

(a) the number of Oath Commissioners in each District of the Province as on 30th June 1967 ;

(b) the number of Oath Commissioners appointed in each District during 1966-67 ?

Parliamentary Secretary (Chaudhri Imtiaz Ahmed Gill) :

<i>District</i>	(a)	(b)
	<i>As on 30th June 1967</i>	<i>Appointed in 1966-67</i>
Lahore	68	29
Sheikhupura	9	3
Sialkot	22	18
Gujranwala	11	7
Gujrat	4	1
Sargodha	12	5
Jhelum	4	1
Rawalpindi	9	4
Bahawalpur	6	...
Bahawalnagar	10	5
Montgomery (Sahiwal)	22	12
Lyalpur	14	8
Jhang	4	...
Multan	15	9
Muzaffargarh	5	4
Dera Ghazi Khan	4	...
Rahim Yar Khan	9	3
Quetta	3	2
Sibi	1	...
Loralai

Mianwali	3	2
Kalat
Attock	1	...
Fortsandeman	1	1
Karachi	34	22
Hyderabad	21	8
Nawabshah	4	1
Tharparkar	10	3
Larkana	6	1
Khairpur	4	2
Dadu	5	1
Sukkur	13	3
Jacobabad	5	1
Hazara	7	1
Mardan	5	...
Peshawar	7	?
Kohat	4	2
Bannu	5	2
Dera Ismail Khan	4	2
Campbellpur	4	2

بابو محمد رفیق - کیا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب یہ بتائیں گے

کہ لورا لائی میں کوئی اوتھ کمشنر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے ؟

Parliamentary Secretary : If the Member thinks that there is need of an Oath Commissioner and somebody applies and comes upto the mark he will be appointed.

بابو محمد رفیق - میں پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ اطلاع غلط ہے - وہاں پر اوتھ کمشنر ہے اور آپ نے یہ غلط سٹیٹ منٹ کیوں دیا ہے ؟

Parliamentary Secretary : If that is so I would request the Member to give in writing that Mr. so and so is appointed as Oath Commissioner and if there is something wrong with the figures then the gentleman who is responsible for supplying this wrong information will be taken to task.

بابو محمد رفیق - جناب میں ہاؤس میں یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ وہاں شیخ غلام صابر ایڈووکیٹ اوتھ کمشنر ہیں -

Minister of Law (Mr. Allah Bachayo Ghulam Ali Akhund) : As you will see in clause (a) the date of appointment is given. Therefore, this figure pertains to the persons who were appointed as such upto 30th June, 1967. Now today we are in May 1968. In between if somebody has been appointed he could not be included.

یہ ہو سکتا ہے کہ آج وہ ادھر ہو -

بابو محمد رفیق - یہ وہاں بہت پرانے اوتھ کمشنر ہیں -

چودھری محمد ادیس - کیا آپ نے اوتھ کمشنر کی strength dis-
strict wise مقرر کی ہے ؟ اگر کی ہے تو اس کا basis کیا ہے ؟

Parliamentary Secretary : There is no strength fixed by the Government district-wise. That is according to the load of work in the district. Sometimes when we feel that the number is less we increase the number and sometimes when we feel it is alright then we do not increase.

Khawaja Muhammad Safdar : How do you feel ?

Parliamentary Secretary : Through you.

چودھری محمد نواز - جیسا کہ ابھی پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب

نے فرمایا ہے کہ load کے مطابق ہم نے کوٹا fix کیا ہے تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ load کو ناپنے کا وہ کون سا پیمانہ ہے - کیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اب وکلا بھی بڑھ گئے ہیں - آبادی بھی بڑھ گئی ہے اور مقدمات بھی بڑھ گئے ہیں - اس کے پیش نظر کیا اوتھ کمشنر بڑھانے کی تجویز ہے ؟

پارلیمنٹری سیکرٹری - آپ نے دیکھا ہو گا کہ تھوڑے عرصہ میں اوتھ کمشنروں میں کتنی increase ہوئی ہے - آپ increase بھی تو دیکھیں -

خان اجون خان جلدون - میں جناب پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ضلع اٹک میں صرف ایک اوتھ کمشنر ہے - کیا اب یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک اوتھ کمشنر بیمار بھی ہو سکتا ہے - چھٹی لے کر باہر بھی جا سکتا ہے - ایسی صورت میں کیا وہ وہ ایک وہاں کے لئے کافی ہے - میرے خیال میں وہاں دو تین اوتھ کمشنر ہونے چاہئیں - اور ہر ضلع میں دو تین اوتھ کمشنر ہونے چاہئیں -

ملک محمد اختر - ہوائنٹ آف آرڈر - کیا بی - ڈی - کے الیکشن میں بھی ہر ضلع میں ایک ہی اوتھ کمشنر ہوگا ؟

Mr. Speaker : This is no point of order ?

Parliamentary Secretary : Mr. Ajoon Khan Jadoon is talking about the Attock district. Well, Sir, if the Member feels that the number is less and somebody applies we will certainly consider sympathetically to increase the number.

ملک محمد اسلام خان - میں جناب پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب

کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ الٹک ڈسٹرکٹ اور کیمیل پور ڈسٹرکٹ ایک ہی ہے لیکن یہ انتہائی افسوس ناک امر ہے کہ ہوم ڈیپارٹمنٹ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ الٹک ڈسٹرکٹ اور کیمیل پور ڈسٹرکٹ کے دو نام ہیں۔ دراصل ان دونوں کو ملا کر ہم کیمیل پور ڈسٹرکٹ کہتے ہیں۔ (قطع کلامیاں)۔

خواجہ محمد صفدر۔ معافی دے دیجئے کوئی بات نہیں ہے۔

Parliamentary Secretary : It is a mis-print or oversight whatever you may say.

چودھری محمد ادریس۔ جناب ملک صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس کا انہوں نے کوئی explanation نہیں دیا۔ یہ بتائیں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟

مسٹر حمزہ۔ جناب سپیکر۔ اس میں ضلع کے دو نام ہی نہیں ہیں۔ بلکہ جواب غلط ہے۔ انہوں نے جواب میں ۳۰ جون ۱۹۶۷ء کو الٹک میں ایک اوتھ کمشنر لکھا ہے۔ اور کیمیل پور میں ۳۰ اوتھ کمشنر بتائے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے انہوں نے اس کو دو ضلع تصور کئے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر کیا آپ کو اس امر کا احساس ہے کہ آپ کی صوبائی حکومت انتہائی نا اہل ہے۔ اور اس کی نا اہلی کا اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہو سکے گا۔

خواجہ محمد صفدر۔ جاہل بھی ہے۔

Parliamentary Secretary : I don't mind if it is repeated.

ملک محمد اسلم خان - مجھے آپ جواب دیں -

Parliamentary Secretary : Please be patient. The Member has said that it may be repeated and I have acceded to that.

چودھری محمد سرور خان - یہ ایک معمولی سی بات ہے اس میں repeat کرنے کی کیا ضرورت ہے -

Parliamentary Secretary : My difficulty is that I cannot say right now which is the correct figure-whether the figure against Campbellpur is correct or the one against Attock is correct. I don't want to beat about the bush. I don't mind if it is repeated.

Mr. Speaker : Was this answer not checked by the Department ?

Parliamentary Secretary : I do not want to actually put things on anybody else's shoulders and I take it on my own. I say that it may be repeated and I will check it up.

Mr. Speaker : This question would be repeated on the next turn.

NOTARY PUBLIC

*10020. Chaudhri Muhammad Idrees : Will the Minister of Home be pleased to state :—

(a) the number of Notaries Public appointed in each District of the Province during 1966-67 alongwith their ages at the time of appointment, educational qualifications and the period of practice as a Pleader of each of them ;

(b) whether it is a fact that persons of 30 years of age with less than 5 years' experience as a Pleader have been appointed as Notary Public ; if so, reasons therefor ?

Parliamentary Secretary (Chaudhri Imtiaz Ahmad Gill) : (a)

Serial No.	Name of district	No. of Notaries Public appointed during 1966-67	Educational qualification, age and period of practice of the Pleader
1.	Lahore	4	B.A., LL.B., above 30 years.
2.	Sheikhupura	1	More than 5 years' practice.
3.	Sialkot	2	Ditto.
4.	Gujranwala	1	Ditto.
5.	Sargodha	3	Ditto.
6.	Lyallpur	3	Ditto.
7.	Rawalpindi	4	Ditto.
8.	Hazara at [Abbottabad]	2	Ditto.
9.	Kohat	1	Ditto.
10.	Multan	5	Ditto.
11.	Sahiwal	1	Ditto.
12.	Muzaffargarh	1	Ditto.
13.	Sukkur	5	Ditto.
14.	Nawabshah	1	Ditto.
15.	Dadu	2	Ditto.
16.	Sanghar	1	Ditto.
17.	Karachi	2	Ditto.
18.	D. I. Khan	1	Ditto.

(b) All Notaries are above the age of 30 years.

چودھری محمد ادريس - میں جناب کی توجہ پارٹ (اے) کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں میں نے یہ پوچھا تھا -

“(a) the number of Notaries Public appointed in each District of the Province during 1966-67 alongwith their ages at the time of appointment, educational qualifications and the period of practice as a Pleader. . . .”

جناب والا - میری definite اطلاع ہے کہ جتنے آدمی appoint کئے گئے ہیں ان میں سے چند آدمی ایسے ہیں جن کی پانچ سال کی پریکٹس نہیں تھی اور عمر بھی ۳۰ سال نہیں تھی لیکن میں نے ہر آدمی کے متعلق پوچھا تھا کہ اس کی definite age بتائی جائے لہذا میں استدعا کرتا ہوں کہ یہ سوال repeat کیا جائے اور ہر آدمی جس کو appoint کیا گیا ہے اس کی age اور اس کی پریکٹس کی مدت بتائی جائے ؟

Mr. Speaker : The period of practice is given there.

Minister of Law (Mr. Allah Bachayo Ghulam Ali Akhund): Last line.

Parliamentary Secretary : The age and period of practice is given. We have not appointed any person who is less than thirty years of age and less than five years in experience and that is what was required and that was perhaps the purpose of the Member in putting this question.

چودھری محمد ادريس - جناب والا - میں definite age پوچھتا ہوں اور وہ اس لیے کہ وہ اس چیز کو چھپانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے چند آدمی بغیر ۵ سال کی پریکٹس کے تعینات کئے ہیں -

Mr. Speaker : Part (b) says : “All Notaries are above the age of 30 years.” Tho stand of the department is definite that all the persons, who were appointed had more than five years practice and they were above the age of 30 years. This is the stand of the department.

ملکت محمد اسلم خان - جناب والا - جواب میں لکھا ہوا ہے
 بی اے ایل ایل بی ۳۰ سال سے اوپر -

B.A.LL.B., above 30 years ; then it is written at No. 2. . . .

Mr. Speaker : What is the position about persons, who were appointed from Lahore ?

Malik Muhammad Aslam Khan : Against Sheikhpura. . .

Mr. Speaker : That remark is there. So far as the persons appointed from Lahore are concerned, it is not explained.

Parliamentary Secretary : Sir the question is : (a) the number of Notaries Public appointed in each district of the Province during 1966-67 along with their ages at the time of appointment, educational qualifications and the period of practice as Pleader of each of them ;" and part (b) of the question is : "whether it is a fact that persons of 30 years of age with less than 5 years experience as a Pleader have been appointed as Notary Public :"

Mr. Speaker : The Member wants to know what is the experience of persons, who were appointed from Lahore ?

Parliamentary Secretary : All were having more than five year's practice.

Mr. Speaker : That is not clear from the Answer : "Age is above 30 years . . ."

Parliamentary Secretary : And more than five years practice. They are all ditto.

Minister of Law : Both these classes-BA., LL.B., above 30 years and more than five years practice-should be read together against all columns, together with Lahore, and the rest is all ditto ditto.

Mr. Speaker : Does the Minister mean to say persons, who were appointed from Lahore, had the experience ?

Minister of Law : Yes Sir.

RECRUITMENT OF WEST PAKISTAN RANGERS

*10025. **Chaudhri Muhammad Idrees** : Will the Minister of Home be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that no rules for recruitment to various posts in the West Pakistan Rangers have so far been framed and the Director General, West Pakistan Rangers is deciding cases relating to service matters according to the Draft Service Rules which have not been approved by the Government of West Pakistan ; if so, reasons therefor ;

(b) whether it is a fact that direct recruitment to various ranks has recently been made on the basis of candidate's relationship with the Members of the Force ; if so, (i) the names of such recruited persons (ii) their designation and (iii) names and designations of the Officers of the Force to whom they are related ?

Parliamentary Secretary (Chaudhri Imtiaz Ahmad Gill) : (a) Yes. The West Pakistan Rangers were formerly known as Border Police and were governed by the Rules applicable to the Police Department. After the reorganization of the Force in 1957 need for separate Rules for the integrated force was felt and a draft, based on the Police Rules and Civil Service Rules (Pb.), Volume I, Part I, was prepared and finalised in June, 1966. It was placed before the Service Rules Sub-Committee which examined it in its meeting held on 20th February 1967 and decided that the rules should be redrafted as the Designations of various posts mentioned in the Rules did not correspond to the Designations sanctioned by the Finance Department. The 'West Pakistan Rangers Recruitment Rules' were accordingly re-drafted. The Service Rules Sub-Committee approved the Rules in its meeting held on 4th December 1967. The Rules have now been referred to the Law Department for "vetting" before their promulgation by the Governor. As the draft Rules approved by the Service Rules Sub-Committee are based on the Police Rules and the Civil Service Rules (Pb.), which are approved Rules of the Provincial Government, they are being followed.

(b) No. After the emergency the Recruitment has been made in the ranks of Sepoys only on open Selection basis. However one *ex-serviceman*, a Subedar, Khuda Dad by name who is not relative of any one from this force has been enrolled as Sub-Inspector during the current year upto 30th

September, 1967. Preference is given to *ex*-army/Rangers personnel with military background for obvious reasons as this force has to fight side by side with the Army.

چودھری محمد ادريس۔ کیا پارلیمنٹری سیکریٹری صاحب یہ بتائیں

گے کہ ڈیپارٹمنٹ کی سروس کے متعلق ابھی تک کیوں رولز نہیں بن سکے؟
کیا وہ اس قسم کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟

Parliamentary Secretary : Sir I have already said in this lengthy answer that the rules approved by the Service Rules Sub-Committee are based on the Police Rules and Civil Service Rules (Pb.), which are approved rules of the Provincial Government. They are being followed and the rules were applied. But we are making separate rules and of course, these things go on and chances of improvement are always there.

مسٹر محمود اعظم فاروقی - جواب کے حصہ (بی) میں کہا گیا ہے emergency کے بعد - یہ بات سمجھ میں نہیں آئی - جناب صدر مملکت تو فرماتے ہیں کہ ملک میں emergency موجود ہے - وہ ابھی تک ختم تو نہیں ہوئی -

پارلیمنٹری سیکریٹری - اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہی کہوں گا کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی -

مسٹر محمود اعظم فاروقی - کیا emergency ختم ہو گئی ہے؟
لکھا ہوا ہے emergency ختم ہونے کے بعد -

Parliamentary Secretary : You know what I mean by 'After emergency'.

مسٹر محمود اعظم فاروقی - سمجھا دیجئے -

Parliamentary Secretary : Then I say 'After the War.'

PAY SCALES OF PROSECUTING SUB-INSPECTORS

*10029. Chaudhri Muhammad Idrees : Will the Minister of Home be pleased to state :—

(a) the present pay scales of Prosecuting Sub-Inspectors of Police and the date on which these were prescribed ;

(b) whether it is a fact that qualifications prescribed for direct recruitment to the post of Prosecuting Sub-Inspector is a law degree ;

(c) whether it is a fact that the pay scales of Prosecuting Sub-Inspectors are not commensurate with their qualifications and assignments ; if so, whether Government intend to revise the pay scales of Prosecuting Sub-Inspectors ?

Parliamentary Secretary (Chaudhri Imtiaz Ahmad Gill) : (a) The present pay scale of Prosecuting Sub-Inspectors is Rs. 175—10—225/115—305 with Selection Grade of Rs. 305—15—350 for 10 per cent of total number of permanent posts. Three advance increments are admissible to Law Graduates. This pay scale is in force since 1st December 1962.

(b) Yes. However, due to paucity of qualified P. S-Is sometimes Sub-Inspectors are employed on this duty temporarily from the executive side.

(c) There is no proposal regarding the revision of pay scales of Prosecuting Sub-Inspectors. But a proposal regarding the enhancement of special pays of Prosecuting Inspectors and Prosecuting Sub-Inspectors is under consideration of the Government.

چودھری محمد نواز - کیا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب یہ فرمائیں گے کہ وہ سب انسپکٹران جو لاگریجوایٹ نہیں ہوتے اور جن کو آپ ہی ایس آئی مقرر کرتے ہیں کیا وہ اتنے اہل ہوتے ہیں کہ وہ قانونی نکات کو اچھی طرح سمجھ سکیں یا کورٹ کو آسانی سے سمجھا سکیں یا اچھے طریقہ سے قانونی بحث میں حصہ لے سکیں۔ کیا آپ اس چیز سے مطمئن ہیں ؟

Parliamentary Secretary: Sir, my answer to the question was self-explanatory, and, of course, I have admitted that when we don't have qualified PSIs we have to appoint sometimes persons from the executive side also. I don't say that they are equally efficient but, of course, when there are no law graduates, they cannot be that much efficient. Because we don't get too many graduates in law, and sometimes when it is felt that the need is there for the appointment of somebody from the executive side, we do it. But ordinarily we want that PSIs should be selected from persons who are Law Graduates.

چودھری محمد ادريس - کیا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب بتائیں گے کہ لاگریجویٹ کے لیے صرف ۱۷۵ روپیہ تنخواہ کافی ہے۔ اگر یہ کافی نہیں تو جو سپیشل تنخواہ کی تجویز ہے کیا اس کو آپ جلد finalize کرا دیں گے؟

Parliamentary Secretary: Yes, that will be done as early as possible because we are after that and we feel that it should be done.

چودھری محمد نواز - کیا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب یہ فرمائیں گے کہ آپ کے محکمہ میں جو لاگریجویٹ بھرتی نہیں ہوتے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کی تنخواہوں میں کمی ہے؟

Parliamentary Secretary: Sir, I have already answered his question twice, but if he likes, I will repeat it. We have to cut our coat according to the cloth available and we are prepared to give as much pay to our PSIs as is reasonably possible for us, and that is why I say we are considering the case and Special Pay will be given to the PSIs.

CENTRAL AND PROVINCIAL LAWS EXTENDED TO TRIBAL AREAS

*10047. **Chaudhri Muhammad Idrees:** Will the Minister of Home be pleased to state the number of Central and Provincial Laws which have been extended to the Tribal Areas of West Pakistan?

Parliamentary Secretary (Chaudhri Imtiaz Ahmed Gill): Sir this is for the Minister for Tribal Affairs.

Mr. Speaker : Does this question not relate to the Home Department?

Parliamentary Secretary : This is the concern of the Minister for Tribal Affairs and I am not assigned tribal areas. I think the Minister concerned would answer this question.

Mr. Speaker : Will the Minister for Law let us know who is responsible for this question?

Minister for Law : It pertains to the Tribal Areas in the Home Department because it relates to the laws of the Central Assembly and the Provincial Assembly which have been extended to the Tribal Areas.

Parliamentary Secretary : Sir, I was under the impression that since this question relates to the Tribal Areas, the Minister for Revenue, Mr. Ghulam Sarwar Khan, would reply to it but if you think that it is for the Home Department to reply I am prepared to answer this question.

(i) Number of Central Laws 627. (ii) Number of Provincial Laws 16.

چودھری محمد ادریس - ۶۲۷ کی جو تعداد دی گئی ہے اس میں مجھے شک ہے۔ کیا یہ درست ہے۔ اس کی پڑتال کیجئے؟

Minister of Law : It will be checked up and the House will be informed accordingly.

چودھری محمد ادریس - آپ اسے check کر لیں۔

Minister of Law : We will check it up.

چودھری محمد ادریس - ۶۲۷ تو سنٹر کے سارے laws نہیں ہیں۔ Tribal Areas میں اتنے کیسے ہو سکتے ہیں؟

مسٹر حمزہ - کیا یہ پرنٹنگ کی غلطی تو نہیں ہے؟

Parliamentary Secretary (Home) : I have just received the answer. I thought that it related to the Tribal Areas. Of course, as the Minister for Law has said, we will check it up.

Mr. Speaker : Was your Department aware that it concerned the Home Department ?

Parliamentary Secretary : Of course, Sir, even if it concerns the Tribal Areas it comes under the Home Department but since separate Ministries are there, I thought it was to be replied by the Minister for Tribal Affairs although I had the answer with me. I take full responsibility for the question now and if you so desire it may be repeated.

Mr. Speaker : I would like to know whether the figure 627, which has been furnished in the answer, is correct or it is something else.

Parliamentary Secretary (Home) : I think, it is 627 because it has been repeated in the Urdu answer also.

Mr. Speaker : Is the Member interested that this question should be repeated on the next turn ?

Chaudhri Muhammad Idrees : No, Sir. I am not interested in getting it repeated.

Mr. Speaker : Next question.

INVOLVING SHAUKAT ALI SON OF HAJI ABDUL AZIZ OF BAHAWALPUR
IN A FALSE CASE

*10114. **Mr. Hamza :** Will the Minister of Home be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that recently one Shaukat Ali, son of Haji Abdul Aziz resident of Chak No. 130/D.B., Police Station Yazman, District Bahawalpur, through an application brought to the notice of the Government in the Home Department that one Bashir Ahmed had forcibly taken possession of his square of land and the local police had involved him in false cases under sections 448/438, 148/149, P.P.C., and also requested for the investigation of the cases through Provincial Crimes Branch;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, the action taken by the Government in the matter and in case no action has so far been taken, reasons therefor ?

Parliamentary Secretary (Chaudhri Imtiaz Ahmed Gill) : (a) It is not possible to locate the application of Mr. Shaukat Ali unless its date of submission to the Home Department is known.

(b) Question does not arise.

TEMPORARY RANGERS

***10134. Mr. Hamza :** Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) the total number of temporary Rangers in West Pakistan during 1964-65, 1965-66 and 1966-67 ;

(b) the number of Rangers, out of those mentioned in (a) above, who were removed from service during each of the said years ;

(c) the number of Rangers recruited in each of the said years ?

Parliamentary Secretary (Chaudhri Imtiaz Ahmad Gill) :

(a) The total number of temporary Rangers in West Pakistan during 1964-65, 1965-66 and 1966-67 ;	1964-65=253 1965-66=1187 1966-67=1222	
(b) The number of Rangers out of those mentioned in (a) above, who were removed from service during each of the said years ;	1964-65=103 1965-66=765 1966-67=691	{ This includes non- mal retirement personnel discharg- ed on expiry of emergency. {
(c) the number of Rangers recruited in each of the said years ?	1964-65=348 1965-66=4912 1965-67=650	

In addition to the above strength of approx 3300 was recruited for Lahore Rangers during emergency in the year 1965. This strength was disposed off by discharge of personnel/absorption of number of personnel

in West Pakistan Rangers against a regular strength on receipt of disbandment orders of this force in May, 1966.

مسٹر حمزہ - میرے سوال کے جواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ۱۹۶۴ میں ۱۰۳، ۶۶۶-۶۶۵ میں ۷۶۵ اور ۶۶۶-۱۹۶۶ میں ۶۹۱ رینجز کو ملازمت سے علیحدہ کیا گیا۔ اور ان تین سالوں میں عالی الترتیب ۳۳۸-۳۱۲۔ ۶۵۰ رینجز بھرتی کئے گئے۔ کیا یہ اس امر کا بین ثبوت نہیں ہے کہ ڈرافٹ سروس رولز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں نا جائز طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور وہ اپنی مرضی سے جسے چاہتے ہیں نکال دیتے ہیں۔ اور جسے چاہتے ہیں بھرتی رکھتے ہیں۔ اگر یہی صورت حال ہے تو آپ اس کو روکنے اور اس کی اصلاح کرنے کے لئے کیا اقدامات کریں گے؟

Parliamentary Secretary: That is not so. Probably Mr. Hamza is referring to 1965-66 and this includes normal retirement and personnel discharged on expiry of emergency because due to emergency we had to recruit Rangers. If there is some feeling about the rules, they are also coming shortly.

مسٹر حمزہ - جناب سپیکر - یہ ایمرجینسی اور جنگ کا بہانہ ان کو بہت ہی اچھا ملا ہے۔ ۶۵-۱۹۶۴ میں تو کوئی جنگ ان پر مسلط نہیں کی گئی تھی۔ ۱۹۶۴ میں ایک سو تین کو ملازمت سے علیحدہ کیا گیا ہے اور اس کے مقابلہ میں ۳۳۸ کو بھرتی کیا گیا ہے۔

Parliamentary Secretary: That includes normal retirement. When people retire we have to ask them to go home. We can't keep them as such.

مسٹر حمزہ - جناب سپیکر - میں نے اس سوال میں یہ پوچھا تھا کہ

کتنے لوگوں کو ملازمت سے علیحدہ کیا گیا۔ یہ اعداد و شمار اس کے ہیں
ریٹائرمنٹ کے نہیں ہیں۔

Parliamentary Secretary : The words used by Mr. Hamza are "removed from service" and that is why we have given a side note in the reply that this includes normal retirement and personnel discharged on expiry of emergency. If you want to know about the persons who are being removed from service separately I am prepared to answer that question afterwards.

مسٹر حمزہ۔ یہ تو سوال گندم جواب جو والا معاملہ ہے۔ یہ
عجیب بات ہے کہ میرے سوال میں واضح طور سے یہ درخواست کی گئی
تھی۔ کہ مجھے بتایا جائے کہ کتنے لوگوں کو ملازمت سے علیحدہ
کیا گیا۔

Mr. Speaker : I think the Home Department is well aware of the distinction between "removal from service" and "retirement from service" As the answer is not according to the question, it will be repeated on the next turn.

PAYMENT OF SALARY TO AHLMAD OF CIVIL JUDGE,
MUZAFFARGARH

*10135. **Mr. Hamza :** Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Ahlmad of the Court of Civil Judge, Muzaffargarh has not been paid his salary since July 1966 ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, reasons therefor and the time required for the payment of dues to the said official ?

Parliamentary Secretary (Chaudhri Imtiaz Ahmed Gill) : (a) Yes.

(b) The post of Ahlmad was not included in the Schedule of New Expenditure for 1966-67 by the District and Sessions Judge, Multan,

through an oversight. Steps are, however, being taken to get extra funds to meet expenditure in connection with the payment of salary to the Ahlmad of Civil Judge, Muzaffargarh.

مسٹر حمزہ - کیا جناب پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب مجھے یہ بتائیں گے کہ پچھلے دو سال کے لمبے عرصہ میں یہ جو oversight ہوئی اور اس کی وجہ سے اس چھوٹے اہل کار کو تنخواہ نہیں مل رہی - آپ کا محکمہ اسے دو سال میں دور کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوا - کیا آپ کے محکمہ کی یہی اہلیت ہے ؟

Parliamentary Secretary : I was very frank in admitting this fact that because of the Sessions Judge's oversight it could not be included in the schedule of new expenditure and I regret and feel sorry that a man with such a low salary should have been ignored for such a long time. I assure this House, particularly Mr. Hamza, that we are making special arrangements for the payment of salary to the concerned man.

Mr. Speaker : Has it been included in the expenditure for 1967-68 ?

Parliamentary Secretary : I hope it might have been but I am not definite. The question here is that we are trying that the salary which has not been paid to the gentleman should be paid as early as possible. We are directly in contact with the High Court now and we are stressing that it should be paid as early as possible.

Mr. Speaker : I think, up-to-date information regarding this question should be furnished to the House on the next turn.

MURDERS COMMITTED IN WEST PAKISTAN

* 10146. **Mr. Hamza :** Will the Minister of Home be pleased to state :—

(a) the yearwise number of murders committed in West Pakistan from 1963 to 1967 ;

(b) in case the murder cases are on the increase, reasons thereof ?

Parliamentary Secretary (Chaudhri Imtiaz Ahmad Gill) : The yearwise number of murder cases registered in West Pakistan from 1963 to 1967 (upto 15th December, 1967) is as under :—

1963	...	3,008
1964	...	2,929
1965	...	3,329
1966	...	3,432
1967 (upto 15-12-67)	...	3,287

(b) As would be clear from the exposition of above figures, the crime under this head has been fluctuating during the years under report. However, there is slight increase in the number of murder cases reported during 1965 and 1966. The increase can be attributed to the following reasons :—

- (i) Abnormal increase in population.
- (ii) Economic stringency confronting the country.
- (iii) Procrastinated disposal of the cases as a result of cumbersome procedure.
- (iv) Inadequate punishments awarded by the trial court.
- (v) Flexibility in the law resulting in enormous acquittals of the accused in murder cases by the High Court.
- (vi) Liberal grant of firearms licences.

مسٹر حمزہ - کیا جناب پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب مجھے یہ بتائیں گے کہ میں نے ان سے یہ دریافت کیا تھا کہ ۱۹۶۷ء کے آخر تک کتنے قتل ہوئے ہیں - آپ نے مجھے جو اعداد و شمار مجھے مہیا کئے ہیں - وہ محض ۱۵ دسمبر ۱۹۶۷ء تک کے ہیں - کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ مجھے ۳۱ دسمبر ۱۹۶۷ء تک اعداد و شمار مہیا کرتے ؟

Parliamentary Secretary : Sir, we had tried to collect this information when the question was put by the Member. These figures could be collected up to 15th December, 1967. However, figures for the remaining 15 days can be supplied after some time when these are also collected. In doing so, I have tried to be more correct and I hope the Member would appreciate our labour.

مسٹر حمزہ - قتل کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں - میں آپ کو اس کی داد دیتا ہوں -

Parliamentary Secretary : The figures of 1967 are less than the figures of 1966.

مسٹر حمزہ - جناب سپیکر - عرض یہ ہے کہ میں نے ان اعداد و شمار سے اوسط نکالی ہے - اس اوسط کے مطابق ساڑھے گیارہ ماہ میں ۳,۲۸۷ قتل ہوئے ہیں - ۱۵ دن کی اوسط ۱۴۳ بنتی ہے - ہو سکتا ہے اوسط زیادہ بنتی ہو - انہوں نے پندرہ دن کے اعداد و شمار سمیٹا کرنا اس لئے پسند نہیں کیا - اس طرح اوسط ۱۴۳ بنتی ہے - کیا میں جناب پارلیمنٹری سپیکر ٹری صاحب سے یہ دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ نے قتل کی وارداتوں کے بڑھنے کے متعلق جو وجوہات بتائی ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ پولیس کا محکمہ انتہائی رشوت خور ہے - وہ محض قاتلوں سے ہی نہیں بلکہ مدعیان سے بھی رشوت وصول کرتا ہے اور وہ مجبوراً رشوت ادا کرتے ہیں ؟

پارلیمنٹری سپیکر ٹری - جناب والا - مجھے افسوس ہے کہ جناب حمزہ صاحب نے ایک ہی لالھی سے سب کو ہانکنے کی کوشش کی ہے - اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر معاشرہ اور ہر قوم میں کچھ لوگ ہد

دہانت بھی ہوتے ہیں۔ اور ان میں ایمان دار بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے سب کو ایک ہی لائھی سے ہانک دیا ہے۔

It is not appreciation for those people.

رانا پھول محمد خان - جناب والا - کیا جناب پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب ازراہ کرم بیان فرمائیں گے کہ آپ نے اپنے جواب میں بتایا ہے کہ آبادی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے قتل کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں۔ ہر حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اس صوبہ میں بسنے والے غریب اور امیر کے جان و مال کی حفاظت کرے۔ جب آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے قانون میں لچک ہے۔ اس لچک کو دور کرنے کے لئے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے۔۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جائے کہ وہ لچک کیا ہے؟

پارلیمنٹری سیکرٹری - جناب والا - میں اس کے متعلق یہ عرض کرتا ہوں کہ قانون کا منشاء یہ ہے کہ خواہ ۹۹ گناہ گار آدمی چھوٹ جائیں۔ لیکن کسی ایک بے گناہ آدمی کو سزا نہ مل جائے۔
(قطع کلامی)۔

Sir, I do not expect such behaviour from an old parliamentarian like Khawaja Sahib. I have got regard for him.

Malik Muhammad Aslam Khan : Point of order. Sir, the Parliamentary Secretary has stated that he has great regard for Khawaja Sahib, does it mean that he has got no regard for Rana Phool Mohammad Khan ?

Mr. Speaker : This is no point of order but it gives rise to a question for the Parliamentary Secretary to make a point of personal explanation.

Parliamentary Secretary : Sir, I do not mean to cast any aspersion on

the Members. I have great regard for all of them. Since Khawaja Sahib, the Leader of the Opposition was interrupting me while I was speaking I said that I did not expect such behaviour from him.

میجر محمد اسلم جان - جناب والا - پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب نے فرمایا ہے کہ قتل ہونے کی ایک وجہ آتشیں اسلحہ کے لائسنسوں کا فراغ دلانہ اجرا ہے۔ کیا وہ اپنے اس جواب سے بالکل مطمئن ہیں۔ زیادہ تر قتل بغیر لائسنس کے اسلحہ سے ہوتے ہیں نہ کہ لائسنس والے اسلحہ سے ہوتے ہیں؟

Parliamentary Secretary : Not necessarily Sir. The murders are committed sometimes with unlicensed arms.

مسٹر حمزہ - جناب والا۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ فراغ دلی سے اسلحہ کے لائسنس دیتے ہیں۔ کیا یہ لائسنسز سابقہ بدنام سیاست دانوں کے دیتے تھے یا آپ کی موجودہ حکومت نے دئے ہیں جس کی وجہ سے قتل کی وارداتیں بڑھی ہیں۔ اس کی ذمہ داری کس پر ہے نواب آف کالا باغ پر ہے یا موجودہ گورنر موسیٰ صاحب پر ہے؟

پارلیمنٹری سیکرٹری - جناب والا۔ اصل بات یہ ہے کہ قوم میں شعور پیدا ہو۔ لائسنس کا ملنا بری بات نہیں ہے۔ ہر نوجوان کو جو سزا یافتہ نہ ہو اور اس کا کریکٹر اچھا ہو اس کو لائسنس دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لائسنس کس وقت دیا کس نے دیا یہ بات نہیں بہر حال آپ کے وقت میں بھی لائسنس دیتے گئے اور ہم نے بھی دیتے اور ہم دیتے رہیں گے۔

مسٹر جھمڑہ - کیا ایسا نہیں ہے کہ صدارتی انتخاب میں خصوصی

طور پر لائسنس دینے گئے ہیں؟

حاجی سردار عطا محمد - جناب والا - یہ بڑا اہم سوال ہے اس

لیے میری گزارش ہے کہ ہمیں اس کو اچھی طرح سے سمجھنے دیں -

جواب کے جزو "ب (۲)" میں فرمایا ہے کہ "ملک کو درپیش اقتصادی

عسرت" ۱۰ سال میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اقتصادی حالات درست ہوئے

ہیں اور انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ "ملک کو درپیش اقتصادی عسرت"

اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا جواب ہے؟

پارلیمنٹری سیکرٹری - جناب والا - میں حاجی صاحب کا سوال نہیں

سمجھ سکا -

مسٹر سپیکر - انہوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ آپ نے سوال کے

جواب کے حصہ "ب" میں کہا ہے "Economic stringency confronting the

country" وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ایک طرف تو کہتی ہے Economic

stringency نہیں ہے اور دوسری طرف جواب میں فرماتے ہیں کہ

Economic stringency confronting the country کی وجہ سے قتل پڑھ

رہے ہیں -

پارلیمنٹری سیکرٹری - Economic stringency کا مطلب یہ ہے کہ

ملک میں ڈیپلمنٹ روز بروز بڑھتی جاتی ہے - وسائل اور مسائل دونوں

ساتھ ساتھ ہیں ان دونوں کے متعلق علیحدہ علیحدہ نہیں سوچا جا سکتا -

جب زندہ قوموں کے مسائل بڑھتے ہیں تو ان کے وسائل بھی ساتھ بڑھتے

ہیں۔ مجھے خوشی ہے اور میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں۔ ہمارے مسائل روز بروز بڑھ رہے ہیں اس لیے وسائل کی اور زیادہ ضرورت ہے۔

مسٹر محمود اعظم فاروقی۔ جناب والا۔ اس سے پہلے جناب پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب نے فرمایا ہے کہ عدالتوں کو بالکل آزادی ہے کہ وہ سزا میں کمی بیشی کر سکیں۔ سزا کافی ہے یا ناکافی ہے inadequate punishment awarded by the court یعنی عدالت نے جو سزا دی ہے وہ ناکافی ہے۔ کیا میں یہ سمجھنے پر مجبور نہ ہوں کہ آپ کی وہ بات صحیح ہے؟ آپ نے اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے عدالتوں پر ذمہ داری ڈالی ہے یعنی اپنی ذمہ داری کو عدالتوں پر منتقل کر رہے ہیں کہ سزائیں کم دی گئی ہیں اس لیے جرائم زیادہ ہیں۔

پارلیمنٹری سیکرٹری۔ یہ contradiction کی بات نہیں ہے۔

This is regarding murder and smuggling.

میں یہ عرض کرنی چاہتا ہوں کہ قتل کے مقدمات میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جن کے متعلق شہادت مہیا نہ ہو وہ مقدمات جرگہ میں چلے جائیں تا کہ انصاف کے طریق سے ملزمان کو سزا مل سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ In the normal application of the Law of the land جو ہمارے پاس ہے اس میں اگر کوئی شہادت وغیرہ موجود نہ ہو تو یہ عدالت کی مجبوری ہے اور وہ ملزم کو سزا نہیں دے سکتی خواہ وہ جانتی ہو کہ قتل ہوا ہے مگر جرگہ میں یہ چیز cover ہو سکتی تھی۔۔۔

Malik Qadir Bakhsh : Mr. Speaker, Sir, there are six reasons given by the Government in this behalf. May I add the 7th one? Will the Parlia-

mentary Secretary agree with me that that is 'inefficiency of the investigation and inefficiency of the prosecution staff'. And it is because of this that so many acquittals take place.

Minister of B. D. & Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : Inefficiency of some of the lawyers too.

Mallk Qadir Bakhsh : May be. Inefficiency is the only reason.

ہماری پولیس تفتیش کرنے میں اتنی نا اہل ہو چکی ہے کہ ان کی وجہ سے اکثر و بیشتر ملزمان صاف بری ہو جاتے ہیں۔

May I add this reason ?

Mr. Speaker : Is the Parliamentary Secretary prepared to add these two grounds ?

Parliamentary Secretary : I am not prepared to add these two grounds. I would say it is the inefficiency of lawyers-criminal lawyers.

چودھری محمد نواز۔ جس انسر یا جس عملے نے ان سوالوں کے جوابات مہیا کئے ہیں اور جو کہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ کیا ان کے خلاف آپ کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں ؟

Parliamentary Secretary : No, no that is wrong.

مسٹر حمزہ۔ جناب پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اقتصادی بدحالی کی وجہ سے جرائم بڑھ گئے ہیں اور قتل کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے اور یہ کہ قوم کے مسائل بڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے وسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جواب درست ہے۔ لیکن کیا یہ درست نہیں ہے کہ قوم کے تو مسائل بڑھ رہے ہیں لیکن وسائل امراء اور حکمرانوں کے ہی بڑھ رہے ہیں ؟

Mr. Speaker : Disallowed.

چودھری محمد نواز - جناب والا - جواب کے حصہ (ب) میں یہ کہا گیا ہے کہ ”پریشان کن ضابطہ کار کی وجہ سے مقدمات کا تاخیر سے تصفیہ“۔ تو میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پریشان کن ضابطہ کار کیا ہے۔ اور اسے بہتر بنانے کے لیے آپ کیا کارروائی کر رہے ہیں؟

پارلیمنٹری سیکرٹری - جناب والا - میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ شاہدوں کو مطلع کرنا اور پھر بعض اوقات شہادت دینے کے لئے بھی کوئی سامنے نہیں آتا۔۔۔

مسٹر حمزہ - در اصل آپ بھی کیا کریں - قتل تو دن دھاڑے کچھری میں بھی ہو جاتا ہے۔

پارلیمنٹری سیکرٹری - تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ مقدمات کے تصفیہ میں تاخیر اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ شہادتیں ہر وقت میسر نہیں ہوتیں اور پھر کچھ لوگ شہادت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔

Malik Qadir Bakhsh : This is a serious matter.

Mr. Speaker : Who is responsible for this 'pareshan kun zabita'.

Parliamentary Secretary : It is the law of the land. We take full responsibility for that. Where there is no evidence available or the witnesses are not prepared to tell the truth we send these murder cases to the jirga.

چودھری محمد نواز - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب والا - جواب کے حصہ (بی) میں نمبر ۳ پر جو جواب دیا گیا ہے اور جس کی طرف رانا پھول

مہد خان نے بھی ایوان کی توجہ دلائی تھی - میں بھی جناب وزیر قانون کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں - یہ الفاظ ہیں -

“As a result of cumbersome procedure.....”

تو کیا وہ ایسا قانون بنائیں گے کہ یہ پریشان کن حالات بدل جائیں اور یہ تکالیف ختم ہو جائیں -

Minister of Law : The law Reforms Commission is already at it and we are awaiting their recommendations. The Central Government will look into it and then the procedure is likely to be changed. I think that with the receipt of the recommendations some way will be found out.

Mr. Hamza : Will the law reform the rulers also ?

Minister of Law : Reform you.

خواجہ محمد صفدر - جناب والا - میں آپ کی وساطت سے جناب وزیر قانون سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ طریق کار جسے پریشان کن کہا گیا ہے اور جس کے متعلق خود انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ اس میں اصلاح کی ضرورت ہے - کیا یہ پریشان کن ضابطہ کار ابھی حال ہی میں اس ملک میں نافذ ہوا ہے یا کہ گذشتہ سو سال سے یہاں موجود ہے اور اسی ضابطہ کار کے مطابق مقدمات کے فیصلے درست طور پر اور بر وقت ہوتے رہے ہیں اور اس سے مقدمات کا فیصلہ کرنے میں مدد ملتی رہی ہے اور جرائم میں کمی ہوتی رہی ہے - لیکن انہوں نے گذشتہ چار سال سے یہاں پر جو جو گہ سسٹم نافذ کر رکھا ہے تا کہ یہ ”پریشان کن“ ضابطہ کار باقی نہ رہے اور جس کے نفاذ کے لیے یہ جواز پیش کیا گیا تھا کہ اس کی موجودگی میں جرائم میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے گا - تو پھر کیا وجہ ہے کہ گذشتہ چار سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکا - تو کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ حکومت انتہائی نا اہل ہے ؟

Minister of Law : I don't agree with the suggestions of the Leader of the Opposition.

حاجی سردار عطا محمد - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب سپیکر - جناب
وزیر صاحب اردو میں جواب نہیں دیتے حالانکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ
اسے ہر آدمی سمجھنا چاہتا ہے۔ رانا صاحب کے سوال کا جواب بھی
انگریزی میں ہی دیا جاتا ہے۔

Minister of Law (Mr. Allah Bachayo Ghulam Ali Akhund) : Sir, it is no doubt correct that the procedure has been persisting ever since the days of the British but due to urbanisation now the population has come to cities and, therefore, sometimes it has been difficult to check the crimes.

So far as procrastination is concerned I will refer my friend to the history and background of the reformation of law in India. They, at one time, soon after independence thought of doing away with commitment proceedings. That is one of the main hurdles. The case is repeated. It is first of all heard in the committing Magistrate's Court. Then it is committed to the Court of Sessions. Then it is reheard and decided. India took some steps in this direction. They had done away with the commitment proceedings. Later on they realised that that would not do and they have again reverted back to the same procedure. Now, neither the first nor the second has been satisfactory.

So far as Pakistan is concerned Pakistan has tried to reform the law. You will recall, Sir, that now the warrant procedure in criminal cases has been done away with and further cross-examination on a charge has been done away with. This has added to the efficiency and disposal of the cases.

So far as the jirga cases are concerned the Law of Jirga is not supposed to be the normal law. It is only in certain cases where there is fear of tampering and other circumstances which are mentioned in the law and those cases alone are to be referred to the Jirga tribunals. But all cases are not to be referred. Wherever evidence is good and wherever there is a chance of success in a case that is not referred to the jirga and normal courts are still functioning and will continue to function. Jirga law is not

the normal law. It is abnormal law. In cases where the prosecution feels that there is no chance of success but the accused are obviously guilty then such cases are referred to the Jirga tribunals. Otherwise the normal Courts will try them.

Therefore, I do not agree with my friend that the induction of the law of jirga was supposed to run down the entire system and it was supposed to bring some kind of relief so far as procrastination is concerned. Very few cases were referred to jirga and all cases are not being referred to jirga today. The Sessions Courts everywhere are functioning. The High Courts are functioning. They are hearing criminal cases and it is therefore that the Government thought it necessary to set up a Law Reforms Commission. The Commission is doing its best to collect evidence from all parts of the country and thereafter the whole situation will be considered and I am sure that some way will be found out of this procrastination.

میجر محمد اسلم جان - جناب والا - اس سلسلے میں جو وجوہات یہاں پر بیان کی گئی ہیں - ان کے علاوہ گذشتہ پانچ سال میں قتل ، چوری ڈاکہ اور Child lifting میں جو اضافہ ہوا ہے - اس کی وجہ کیا یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ لوگ جن کو ایک دن سماج دشمن عناصر کہہ کہ ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر کچھریوں میں بھیجا جاتا ہے اور دوسرے دن جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کو ہی برسر اقتدار پارٹی اپنا سیکرٹری یا جنرل سیکرٹری بنا دیتی ہے یا ان کی پشت پناہی کی جاتی ہے -

Minister of Law : Sir, this relates to the murder cases and my friend is speaking with regard to child-lifting.

Mr. Speaker : Next question.

حاجی سردار عطا محمد - جناب سپیکر - ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں باہر نکلتے ہی لوگ فون نہ کر دیں - کہ ہم دوسرے سوالات کو چھوڑ دیتے ہیں - آپ ہمیں اس چیز کی اجازت دیں کہ ہم حکومت سے پورا پورا جواب طلب کریں -

مسٹر سپیکر - حاجی صاحب میں نے اس سوال پر اپنے خیال کے مطابق کافی وقت دیا ہے۔ اور بہت سے سپلیمنٹری پوچھے گئے ہیں۔

FILES STOLEN FROM THE COURT ROOM OF RESIDENT MAGISTRATE
TOBA TEK SINGH

*10147. Mr. Hamza : Will the Minister of Home be pleased to state :—

(a) the number of files stolen from the Court Room of Resident Magistrate, Toba Tek Singh, District Lyallpur during the month of October 1967 ;

(b) the number of files recovered so far, and if no file has been recovered, reasons thereof ?

Parliamentary Secretary (Chaudhri Imtiaz Ahmed Gill) : (a) 240 Regular.

1116 Summary Challans.

(b) No file has so far been recovered. According to Police investigation the files are said to have been burnt by the accused.

مسٹر حمزہ - جناب والا - ریڈیڈنٹ مجسٹریٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی عدالت سے یہ جو تمام کے تمام مقدمات کی فائلیں چوری ہو گئی ہیں۔ پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب نے ان کی تعداد regular ۲۴۰ بتائی ہے۔ اور Summary challan ۱۱۱۶ کیا انہیں معلوم ہے کہ ان مقدمات کا کیا ہوا ؟ اور یہ جو ساری واردات ہوئی ہے۔ اس کی مناسب تحقیقات کرائی گئی تھی اگر تحقیق نہیں کی گئی تو کیوں ؟ اگر کی گئی ہے تو اس سے کیا نتائج برآمد ہوئے ہیں ؟

Parliamentary Secretary : The investigation has taken place as I have said in the answer, and, of course, it is a sad story no doubt. If the member feels that the investigation has not been done on correct lines because that is his constituency and he belongs to that place, we can get it examined again as to why these files were lost and why they have not been recovered. But this is the feeling of the people who investigated that the files might have been burnt by the accused.

میاں محمد شفیع - کیا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب مجھے بتائیں گے کہ جن لوگوں نے یہ فائلیں چوری کر کے جلا دی ہیں - ان کو سزا ہو چکی ہے یا نہیں ؟

Parliamentary Secretary : Sir actually the investigation did not lead us to any place ; the case is untraced.

رانا پھول محمد خان - جناب والا - کیا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب یہ فرمائیں گے - کہ اگر حکومت عدالت کے دفتر کی چوری کی ہوئی فائلوں کو برآمد نہیں کر سکی - یا ملازموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکی تو پھر حکومت ایک غریب آدمی کی چوری کے سلسلے میں کیا کارروائی کر سکتی ہے ؟

Mr. Speaker : It is an expression of opinion.

Parliamentary Secretary : We tried our utmost to recover those files but actually they have not been recovered and this is the impression that we take it that they have been burnt by some of the accused, otherwise the files could have been traced.

چودھری محمد ادیس - آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ فائلیں جلا دی گئی ہیں ؟

Parliamentary Secretary : Because they are not available.

چودھری محمد نواز - جناب سپیکر - جب ریکارڈ ہی نہیں ملتا -

تو حضور والا - میں ہوم ڈیپارٹمنٹ کی اتنی اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر ان کو مبارک باد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب کو مبارک باد پیش کرتا ہوں -

Mr. Speaker : Is this the only supplementary ?

رانا پھول محمد خان - پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب نے فرمایا ہے کہ فائلیں جل گئی ہیں - اگر کسی کی جیب سے رومال گر جائے تو کیا وہ کہے گا کہ جل گیا ہے ؟

حاجی سردار عطا محمد - پارلیمنٹری سیکرٹری جب انگریزی میں جواب دیتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی - اس لئے دوبارہ مجھے زحمت اٹھانی پڑتی ہے - مسئلہ یہ ہے کہ ۲۴۰ فائلیں جو کم ہو گئی ہیں - تو میں ان سے بہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مقدمات کے سلسلے میں جو لوگ جیل میں ہوں گے - آپ نے ان کے متعلق کیا سوچا ہے ؟ کیا ان کو نکال دیا ہے ؟ ان cases کے متعلق آپ نے کیا کیا ہے ؟

Minister of Law : I think fresh question may be asked on this point.
Notice may be given.

اگر حاجی صاحب نیا نوٹس دیں تو پھر میں ان کے متعلق کچھ بیا سکتا ہوں -

خواجہ محمد صفدر - یہ تو سپیکر صاحب کی صوابدید پر ہے کہ وہ fresh notice دیں یا نہ دیں - آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ؟

وزیر قانون - میں سپیکر صاحب کی وساطت سے حاجی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں - کہ وہ نوٹس دیں -

مسٹر سپیکر - اخوند صاحب وہ تمام مقدمات کے متعلق دریافت نہیں کرنا چاہتے - بلکہ وہ صرف ان فائلوں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں - جو آپ کے خیال کے مطابق جل گئی ہیں یا trace نہیں ہو سکتیں ان کے متعلق اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے ؟

وزیر قانون - یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ حکومت کیا کر رہی ہے - اگر آپ مجھے وقت دیں تو پھر میں معلوم کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں -

چوڈھری محمد انریس - یہ جو چوری شدہ فائلیں ہیں - ان کے متعلق حکومت کچھ نہیں کر سکتی - میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ۱۱۱۶ cases میجسٹریٹ کی عدالت میں pending پڑے ہوئے تھے - جن میں سے اب تک ان کے پاس ایک ہزار pending cases رکھے ہوئے ہیں -

Mr. Speaker : The Member should give a fresh notice for that. The question hour is over now.

حاجی سردار عطا محمد - جناب والا - کیا آپ نے اس سوال کو repeat کیا ہے ؟

مسٹر سپیکر - حاجی صاحب اس کے لیے آج ہی ایک نوٹس دے دیں -

Will Chaudhri Imtiaz Ahmed Gill please place on the Table the rest of the Answers ?

Parliamentary Secretary : Sir, Answers to the remaining questions are placed on the Table of the House.

بابو محمد رفیق - جناب والا - میرا ایک سوال تھا جس کا نمبر

۱۱۵۹۳ تھا جو منسٹر ٹرائیبل ایریا کے متعلق تھا۔ میں نے اس کے حصہ
'ب' میں پوچھا تھا۔

(b) if no scheme out of those has so far been implemented, reasons for
delay in doing so ;

انہوں نے تو اس کا آدھا جواب دیا ہے۔ اور آدھا جواب نہیں
دیا ہے۔

Mr. Speaker : What is the position regarding this question ?

Parliamentary Secretary : Is it relating to Tribal Areas or Jails ; I think
it is not about Home.

بابو محمد رفیق۔ میرے سوال کا نمبر ۱۱۵۹۳ ہے۔

پارلیمنٹری سیکرٹری۔ ڈیپارٹمنٹل کمیٹی جب meet کرے گی تو پھر
اس کا فیصلہ کرے گی۔

مسٹر سپیکر۔ آپ نے ان کے سوال کے حصہ (ب) کی وجوہات
بیان نہیں کیں جو وہ آپ سے دریافت کرنا چاہتے ہیں۔

پارلیمنٹری سیکرٹری۔ میں نے عرض کیا تھا۔ جب ڈیپارٹمنٹل
کمیٹی meet کرے گی تو وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔

خواجہ محمد صفدر۔ جناب والا۔ مجھے میرے غیر نشان شدہ
سوال نمبر ۳۲۸ کا جواب نہیں دیا گیا۔

Mr. Speaker : What is the position regarding this question ?

Parliamentary Secretary : That has not been answered and will be
answered on the next turn or I will give it to the Member ; that is regarding

unstarred question, and other two have been answered. I made enquiries about Khawaja Sahib's question but the answer was not available. I will hand it over to the Member if he feels like it, or place it on the Table of the House.

خواجہ محمد صفدر - جناب مجھے یہ جواب کب تک مل

جانے گا؟

Parliamentary Secretary : I will try to give the answer to you as early as possible. Please believe me, I will try to give you as early as possible.

Khawaja Muhammad Safdar : As you please.

وزیر قانون - آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔

حاجی سردار عطا محمد - مجھے میرے سوال کا جواب نہیں

دیا گیا۔

مسٹر سپیکر - آپ کے کون کون سے سوال ہیں؟

حاجی سردار عطا محمد - میرے سوالوں کے نمبر یہ ہیں۔

۱۰۳۱۲، ۱۰۹۰۰ اور ۱۰۹۰۳۔

Parliamentary Secretary : I would request one thing.

جناب حاجی صاحب آپ یہ بھی فرما دیں کہ سوال جیل کا ہے۔

ٹرائیبل ایریا کا ہے۔ یا ہوم ڈیپارٹمنٹ کا ہے تو پھر ڈھونڈنے میں آسا

ہو جاتی ہے۔

Could I know that Sir ?

مسٹر سپیکر - سوال نمبر ۱۰۳۱۲ وزیر جیل خانہ جات کے

متعلق ہے۔

حاجی صاحب - کیا آپ کو جواب کی نقل نہیں ملی ؟

حاجی سردار عطا محمد - جی نہیں -

مسٹر سپیکر - آپ اپنی سیٹ پر دیکھیں وہاں موجود ہوگی -

حاجی سردار عطا محمد - وہاں نہیں ہے -

مسٹر سپیکر - اچھا آپ تشریف رکھیں -

This pertains to Jails.

Minister for Jails (Malik Allah Yar Khan) : I have received the answer to No. 10312. If you like, I can read it out.

Mr. Speaker : He may please lay it on the Table.

Minister for Jails : I beg to lay on the Table of the House the answers to questions which have not been answered.

ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE

LANDI KOTAL HOSPITAL

*10166. **Haji Ghulam Khan Shinwari :** Will the Minister for Development of Tribal Areas please refer to the answer to my Starred Question No. 2921, laid on the Table of the House on 27th June 1966 and state whether the construction of the upgraded portion of the hospital at Landi Kotal has since been taken in hand ; if not, reasons thereof ?

Minister for Development of Tribal Areas (Mr. Ghulam Sarwar Khan) : Necessary clarification are being sought from Commissioner Peshawar and on receipt of the same the reply will be given.

**WINDING UP OF THE OFFICE OF DEPUTY DIRECTOR AGRICULTURE,
TRIBAL AREAS, PESHAWAR**

***10167. Haji Ghulam Khan Shinwari :** Will the Minister for Development of Tribal Areas be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Government intend to wind up the Office of the Deputy Director Agriculture, Tribal Areas, Peshawar ;

(b) whether it is a fact that enviable development made by Government in the field of agriculture there is mainly due to the efforts of the said office ;

(c) if answer to (b) above be in the affirmative reasons for winding up the said office ?

Minister for Development of Tribal Areas (Mr. Ghulam Sarwar Khan) :

(a) No.

(b) Yes.

(c) Does not arise.

**INCREASING STAFF OF AGRICULTURE DEVELOPMENT AND PLANT
PROTECTION IN TRIBAL AREAS**

***10168. Haji Ghulam Khan Shinwari :** Will the Minister for Development of Tribal Areas be pleased to state :—

(a) steps so far taken by Government to give fillip to agriculture and gardening in the Tribal Areas ;

(b) whether there is any scheme under consideration of Government to increase the staff of agriculture department and plant protection in the said areas for the said purpose ?

Minister for Development of Tribal Areas (Mr. Ghulam Sarwar Khan) :

(a) Government has appointed a separate Deputy Director of Agriculture for the Tribal Areas. In addition to this; posts of one Plant Protec-

tion Officer, 6 Extra Assistant Directors, one Assistant Horticulture Officer, one Assistant Publicity Officer, two Assistant Plant Protection Officers, Twenty-nine Agriculture Assistants, 100 Field Assistants and 18 budders, have been created. Thirteen Fruit Nursery Farms have also been established in the Tribal and Merged Areas, 212580 fruit plants have been distributed in the Tribal Areas during the past planting season.

(b) The scheme for the Merger of Plant Protection and extension staff in Tribal Areas has already been approved. The scheme envisages further increase in the staff of the Agriculture Department.

CONSTRUCTION OF BUILDING FOR THE OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR AGRICULTURE, TRIBAL AREAS

***10169. Haji Ghulam Khan Shinwari :** Will the Minister for Development of Tribal Areas be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that there was a scheme to construct a building for the office of the Deputy Director Agriculture, Tribal Areas and residential houses for the staff at Jamrud ;

(b) whether it is a fact that the notables of the said area promised to provide land for this purpose ;

(c) if answer to (a) and (b) above be in the affirmative, reasons for not so far implementing the said scheme ?

Minister for Development of Tribal Areas (Mr. Ghulam Sarwar Khan) :

(a) Yes.

(b) Yes. The Jirga of Kubi Khel Afridis had informed the Political Authorities that they were prepared to hand over land at Rs. 4,000 per acre.

(c) The scheme "Construction of residential and office accommodation for the Deputy Director of Agriculture, Tribal Areas at Jamrud" was discussed by the Provincial Development Working Party in its meeting held on 2nd February 1962 and was deferred for want of provision in the 2nd Five Year Plan. The meeting decided that the existing arrangements may be continued.

DEVELOPMENT PROJECT IN KHYBER AGENCY

*10170. Hajj Ghulam Khan Shinwari : Will the Minister for Development of Tribal Areas be pleased to state :—

(a) the yearwise amounts allocated for Development Projects in Khyber Agency during the years from 1963-64 to 1966-67 and the number of the said Projects ;

(b) the number of Projects, out of those mentioned in (a) above, as have been implemented and locations thereof ?

Minister for Development of Tribal Areas (Mr. Ghulam Sarwar Khan) :
(a) & (b) The required information is placed on the table of the Assembly*.

SUPPLY OF ELECTRICITY TO CHITRAL STATE

*10206. Atalq Jafar Ali Shah : Will the Minister for Development of Tribal Areas be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Chitral State is the only frontier Agency to which electricity has not so far been supplied for public use ;

(b) whether it is a fact that Government has been considering to set up small Hydro-Electric Power Stations to meet the local requirements of electricity in Chitral ;

(c) whether it is a fact that a survey for the said purpose was carried out during the last two years by the WAPDA ;

(d) if answer to (a), (b) and (c) above be in the affirmative, the stage at which the said matter stands and the approximate time by which actual work on the setting up of the said power stations is expected to start ?

Minister for Development of Tribal Areas (Mr. Ghulam Sarwar Khan) :
The requisite information is being collected from WAPDA and will be sent when received.

* Please see Appendix II at the end.

OPENING OF AN INTERMEDIATE COLLEGE IN CHITRAL STATE

***10207. Ataliq Jafar Ali Shah :** Will the Minister for Development of Tribal Areas be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that there is no College in Chitral State and the nearest College outside Chitral is about 200 miles away from Chitral State with the result that students of this area cannot continue their higher studies ;

(b) whether it is a fact that some time ago Government had sanctioned the opening of an Intermediate College in the said State ; if so, when the said sanction was accorded and the reasons for not so far implementing the same ?

Minister for Development of Tribal Areas (Mr. Ghulam Sarwar Khan) :

(a) Yes. There is no College in Chitral State.

(b) No. College was sanctioned for Chitral State in the past. However, the Third Five Year Plan provides the construction of an Intermediate College at Danon in Chitral State the construction of which will start as soon as necessary formalities are completed and funds provided.

 MINERALS IN CHITRAL STATE

***10208. Ataliq Jafar Ali Shah :** Will the Minister for Development of Tribal Areas be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that there are deposits of various minerals in Chitral State for which several geological surveys were carried out to discover and assess its quantity, etc., before and after Independence ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, (i) the number of surveys as were undertaken, (ii) the years in which these were undertaken, and (iii) the names of the surveying Officers ?

Minister for Development of Tribal Areas (Mr. Ghulam Sarwar Khan) :

(c) Yes, Some mineral deposits reported to occur in Chitral State have been surveyed and investigated by Geological Survey of Pakistan and

W.P.I.D.C. since 1949 in order to evaluate their economic worth. The following geological Surveys were carried out.

(Surveys carried out by G.S.P.)

(1) Pre-Independence.

1. Mukhti Nath, 1943-44 investigated the antimoney mines in Krinj to evaluate the deposit and find new reserves.
2. Hyden, 1915, made a reconnaissance trip through Chitral, and described the Geology in brief report G.S.I. Recs : Vol : 45. PT. 4.
3. Tipper, 1903, made a reconnaissance trip through Chitral and mapped the State. His map is available.
4. Coulson 1938, investigated the minerals of former N.W.F.P. including Chitral, Recs : GSI Vol 37. Prof : Paper 2.

(2) Post-Independence.

1. S.T. Ali and M. Rahman, GSP, 1949-50, investigated mineral occurrences and regional studies.
2. M. Rehman, 1949, discovered the Dammer Nissar magnetite deposit in course of mapping. He submitted report to the G.S.P.
3. A.M. Kidwai and S.A. Imam, 1958, carried out large scale mapping of the magnetite area in Dammer Nissar and submitted report.
4. PIDC Geologists and their German and French consultants carried out investigations of the Dammer Nissar iron deposits.
5. S. M. Haq and M. A. Mirza, 1964-65, carried out geological mapping and geophysical investigations, respectively, of the iron ore deposits and adjacent areas.
6. Teichert and Stauffer of U.S. A.I.D, (1963), carried out some geological and paleontological investigations.
7. Calkins of US AID and Mahmood of GSP (1967) presently reinvestigating the antimony deposits of Krinj and adjacent areas which may help in finding new reserves of antimony. They are also carrying out regional mapping.

Surveys carried out by WPIDC Staff.

Surveying Officers	Mineral	Area	Period	Particulars of the Survey
1. M/S Damage West Germany	Iron Ore	Dammar Nissar	1952	Geological reconnaissance & Geological survey of the magnetite deposits.
2. M/S Krupp of West Germany	--do--	--do--	1953	Preparation of a rough scheme for development of the magnetite deposits.
3. PIDC Geologists and Surveyors. (1) Mr. Aftab Ahmad, Dy: Chief Geologist. (2) Mr. Iqbal Qureshi, Surveyor.	--do--	--do--	1957-58	Topo, geological survey of the magnetite outcrops on 1"—100ft. scale and channel sampling of the ore bodies.
4. WPIDC Mining Engineers (1) Mr. A.A. Malik, CNE, Makerwal. (2) Mr. Mushtaq Khakas, Manager, Sharigh Mines.	--do--	--do--	1965-66	Preparation of a scheme for Development and mining of the deposits on small scale.
5. WPIDC Geologist. (1) Mr. Aftab Ahmad Khan, Dy: Chief Geologist. (2) Mr. A. Sattar Memon, Asstt. Geologist.	Chalcopyrite	Lutkhe Amirdin Gabor.	1965-66	Reconnaissance and sampling. No Commercial deposits provided scale.

*۱۰۲۰۹۔ اتالیق جعفر علی شاہ - کیا وزیر برائے ترقیات

قبائلی علاقہ جات از راہ کرم بیان فرمائیں گے کہ :-

(الف) آیا یہ امر واقعہ ہے کہ چترال میں مچھلیوں کی ترقی کے لئے

ایک مرکز موجود ہے -

(ب) اگر جزو (الف) بالا کا جواب اثبات میں ہو تو مذکورہ مرکز

کون سی تاریخ کو قائم کیا گیا - نیز ۶۵-۱۹۶۴، ۶۶-۱۹۶۵ اور

۶۷-۱۹۶۶ کے دوران اس مرکز کو چلانے پر ہر سال کتنی رقم خرچ

کی گئی -

(ج) آیا یہ امر واقعہ ہے کہ مذکورہ مرکز قائم ہونے سے پہلے

چترال میں صرف دریائے لوئکوہ میں مچھلیوں کا ذخیرہ کیا جاتا تھا -

(د) اگر جزو (ج) بالا کا جواب اثبات میں ہو تو ان نئی ندیوں کے

نام کیا ہیں جہاں مذکورہ مرکز نے ٹروٹ مچھلی مستقل کی تھی اور ان

ندیوں میں سے کون سی ندیاں اب مچھلی پکڑنے کے لئے موزوں ہیں ؟

وزیر ترقیات قبائلی علاقہ جات (مسٹر غلام سرور خان) : (الف)

جی ہاں -

(ب) ٹراؤٹ مچھلیوں کے اندر سے بچے نکالنے کے دو مرکز ۱۹۶۱ء

میں قائم کئے گئے تھے - ان کے سال وار اخراجات حسب ذیل ہیں :-

(i) ۱۹۶۳-۶۵ ۱۳-۲۲۹۱۱ روپے

(ii) ۱۹۶۵-۶۶ ۳۹-۲۲۵۰۸ روپے

(iii) ۱۹۶۶-۶۷ ۱۵-۲۲۳۱۰ روپے

(ج) ریاست چترال میں ٹراؤٹ مچھلی کو متعارف کرانے کی پہلی کوشش تقریباً ۳۷ سال قبل کی گئی تھی۔ اس وقت ۱۳۶ ہراؤن ٹراؤٹ مچھلیاں غزا (گلگت ایجنسی) سے چترال میں درآمد کی گئی تھیں۔ ان میں سے ۳۰ مچھلیاں اٹنائے راہ میں ہی ہلاک ہو گئیں اور باقی مچھلیوں کو مستوفورٹ کے نزدیک ایک خاص طور پر بنائے گئے تالاب میں ڈال دیا گیا۔ پھر ۲۹-۹-۱۹۳۱ء کو ۱۰۰ ٹراؤٹ مچھلیاں ہوائی جہاز کے ذریعے ریاست چترال سوات سے چترال لائی گئیں اور جاگھور کے مقام پر ایک تالاب میں ڈالی گئیں۔ یہ تالاب مئی ۱۹۳۷ء تک کام کرتا رہا لیکن نگران عملے میں سائنسی معلومات کے فقدان کی وجہ سے اسے کوئی ترقی حاصل نہ ہو سکی اور انجام کار اسے ترک کر دیا گیا۔ ریاست چترال کے دریاؤں اور ندئی نالوں میں وسیع پیمانے پر ٹراؤٹ مچھلیوں کی برداشت کی ضرورت پر مختلف اضخاب کی طرف سے زور دیا جاتا رہا۔ چنانچہ اے۔بی۔اے چترال نے ۱۳۰۶۵ روپے کی لاگت سے ٹراؤٹ مچھلیوں کے انڈوں سے بچے نکالنے کا ایک مرکز قائم کرنے کی سکیم مرتب کی۔ یہ سکیم منظوری کے لئے پولیٹیکل ایجنٹ مالا کنڈ کو ارسال کی گئی لیکن منظور نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد اس سلسلے میں کوشش ترک کر دی گئی اور جاگھور کے تالاب میں جو مچھلیاں تھیں انہیں ۱۹۳۵ء میں دریائے لتکوه میں چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح سال ۱۹۶۰ء کے آخر تک دریائے لتکوه میں بہت محدود تعداد ٹراؤٹ مچھلیاں تھیں۔

(د) چترال میں ماہی پروری کا شعبہ قائم ہونے کے بعد اس سلسلے میں مسلسل کوششیں کی گئیں کہ ٹراؤٹ مچھلیوں کے انڈوں سے بچے

نکلانے کے دونوں مرکزوں میں ٹراؤٹ مچھلیوں کی افزائش کی جائے اور پھر ٹراؤٹ مچھلیوں کے یہ بچے ریاست چترال کے موزوں دریاؤں اور ندی نالوں میں چھوڑ کر ان میں ٹراؤٹ نسل پیدا کر دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دریائے لنگوہ میں مچھلیوں کی آبادی میں اضافہ کیا جائے۔ ان مرکزوں سے ٹراؤٹ مچھلیوں کے جو بچے حاصل کر کے مختلف دریاؤں اور ندی نالوں میں چھوڑے جاتے رہے ہیں ان کی سال وار تفصیل حسب ذیل ہے :-

۵،۰۰۰ بچے	۱ - کھویسار	۱۹۶۳
۳،۰۰۰	۲ - بیرون ندی	
۳،۵۰۰	۳ - گولائین ندی	
۳،۰۰۰	۴ - زو نور کول	
۲،۰۰۰	۵ - دوباز نالہ	
۳۷۰	۶ - بیکھوشت	
۱۰،۰۰۰	۷ - لنگول	
۲۵،۶۹۵	۸ - شی شی نالہ	

میزان ۵۳،۵۶۵

۱۶،۰۰۰	۱ - گولائین ندی	۱۹۶۶-۶۵
۱۱،۰۰۰	۲ - شی شی نالہ	
۵،۰۰۰	۳ - دوباز نالہ	

- ۴ - رمبور ندی " ۵۶۰۰۰
 ۵ - لتکوه ندی " ۵۶۰۰۰
 ۶ - لتگول " ۱۵۶۰۰۰
 ۷ - زونور گول " ۵۶۰۰۰
 ۸ - گرام چشمہ " ۵۶۰۰۰
 ۹ - برون چشمہ " ۵۶۰۰۰
 ۱۰ - کھویسار چشمہ " ۵۶۰۰۰

میزان " ۷۷۶۰۰۰

- ۱ - شی شی نالہ " ۶۶۴۰۰ ۱۹۶۶-۶۷
 ۲ - ایوان نالہ " ۳۵۵۰
 ۳ - گورا پونی " ۱۰۰
 ۴ - ریشون نالہ " ۱۰۰
 ۵ - تار چشمہ " ۱۰۰
 ۶ - گولان ندی " ۵۶۰۰۰
 ۷ - بومبریت ندی " ۱۶۰۰۰
 ۸ - ہاریر ندی " ۳۵۰۰
 ۹ - کھویسار چشمہ " ۱۵۰۰
 ۱۰ - اوستی نالہ " ۷۰۰
 ۱۱ - سومبالی نالہ " ۶۰۰

" ۲۰۴۵۵۰

* ۱۰۲۱۰ - اتالیق جعفر علی شاہ - کیا وزیر برائے ترقیات قبائلی

علاقہ جات از راہ کرم بیان فرمائیں گے کہ :-

(الف) آیا یہ امر واقعہ ہے کہ چترال کو صوبہ کے دیگر حصوں سے ملانے کے لئے تمام موسموں میں موٹروں کے استعمال کے قابل کوئی سڑک نہیں -

(ب) آیا یہ امر واقعہ ہے کہ موسم سرما کے دوران چترال کو آنے والے اور چترال سے جانے والے لوگوں کو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر برف پوش درہ لواری سے گزرنا پڑتا ہے اور ہر سال اس درہ پر بہت سے لوگ برف کے پھسلنے ہوئے تودوں اور برف باری کے طوفانوں کی وجہ سے جان بحق ہو جاتے ہیں -

(ج) اگر اجزاء (الف) اور (ب) کا جواب اثبات میں ہو تو حکومت اس مشکل کو دور کرنے کے لئے اور چترال اور پاکستان کے دوسرے حصوں کے درمیان سڑک کے باقاعدہ ٹریفک کے اہتمام کے لئے کون سے اقدام کر رہی ہے ؟

وزیر ترقیات قبائلی علاقہ جات (مسٹر غلام سرور خان) - (الف)

جی ہاں -

(ب) جی ہاں -

(ج) واہڈا مغربی پاکستان کی طرف سے ”لواری پاسٹل پروجیکٹ“

کے قابل عمل ہونے کی روداد تیار کی جا چکی ہے - یہ روداد زیر غور ہے -

BRINGING LAND IN TRIBAL AREAS UNDER CULTIVATION

*10224. **Malik Sarmaat Khan Afridi** : Will the Minister for Development of Tribal Areas be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the land in Tribal Areas specially in Kohat Pass is uncultivable ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, whether there is any scheme to provide tractors to bring the said lands under cultivation ; if so, details thereof ?

Minister for Development of Tribal Areas (Mr. Ghulam Sarwar Khan) :

(a) No.

(b) Government had provided 22 bulldozers in the Second Plan for bringing culturable waste under plough.

SEPARATE JAIL FOR WOMEN PRISONERS IN THE PROVINCE

*10236. **Begum Ashraf Barney** : Will the Minister of Jails be pleased to state :—

(a) whether there is any separate Jail for women prisoners in the Province ; if so, location thereof ;

(b) whether separate portions are reserved in the present Jails for female convicts ; if so, (i) names of such Jails (ii) accommodation reserved for female convicts in each Jail and (iii) number of female prisoners in these Jails as on 30th June, 1967 ?

Minister of Jails (Malik Allah Yar Khan) : (a) One separate Jail for women located in a portion of New Central Jail, Multan.

(b) Yee.

Serial No.	Name of Jail	Accommodation Number of reserved female prisoners (authorised) as on 30-6-67 for female prisoner		
			Convict	Under- trial
1.	New Central, Jail, Bahawalpur	...	22	3
2.	Central Jail, Sahiwal	...	5	8
3.	Central Jail, Mianwali	...	6	6
4.	Camp Jail, Lahore	...	14	6
5.	District Jail, Lyallpur	...	6	14
6.	District Jail, Gujranwala	...	6	11
7.	District Jail, Sialkot	...	14	4
8.	District Jail, Multan	...	11	20
9.	District Jail, Jhang	...	13	2
10.	District Jail, Dera Ghazi Khan	...	4	1
11.	District Jail, Rahimyar Khan	...	8	...
12.	District Jail, Bahawalnagar	...	6	4
13.	District Jail, Rajanpur	...	2	...
14.	District Jail, Sheikhpura	...	8	7
15.	District Jail, Kasur	...	8	4
16.	District Jail, Muzaffargarh	...	4	6
17.	District Jail, Sargodha	...	4	19
18.	District Jail Kot Lakhpat	...	25	10
19.	Central Jail, Karachi	...	26	1
20.	Central Jail, Hyderabad	...	12	...

21. Central Jail, Sukkur	...	18	37	...
22. Central Jail, Khairpur	...	8	1	...
23. District Jail, Quetta	...	5	1	...
24. District Jail, Sibbi	...	7
25. Sub Jail, Fortsandeman	...	4
26. District Jail, Khuzdar	...	6
27. Central Jail, Peshawar	...	80	83	1
28. Central Jail, Dera Ismail Khan	...	13	...	2
29. District Jail, Bannu	...	7	1	1
30. District Jail, Kohat	...	14
31. District Jail, Abbottabad	...	8	...	3
32. District Jail, Campbellpur	...	10	2	2
33. District Jail, Rawalpindi	...	8	3	1
34. District Jail, Jhelum	...	6	1	4
35. District Jail, Gujrat	...	8	1	7
36. District Jail, Mardan	...	6	...	6
37. Sub-Jail, Charsadda	...	10
38. Sub-Jail, Lakki	...	6
39. Judicial Lock-up Swabi	...	2

JUVENILE JAILS IN THE PROVINCE

*10237. Begum Ashraf Barney : Will the Minister of Jails be pleased to state :—

(a) the number of Juvenile Jails in the Province where convicts below the age of 12 years are lodged ;

(b) the nature of crimes committed by the majority of the said juvenile convicts ;

(c) the nature of training being imparted to the said juvenile convicts in Jails ?

Minister of Jails (Malik Allah Yar Khan) : (a) Two separate Juvenile Jails viz (Bortsal Juvenile Jail, Bahawalpur and Juvenile Jail, Landhi (Karachi). One separate Juvenile Section in Central Prison, Haripur.

(b) Theft.

(c) Religious Training *i.e.* (Nimaz and Quran).

Vocational Training *i.e.* (Carpentry, canning of chairs polishing (tailoring etc.).

Education *i.e.* (Lower Secondary Standard).

Prisoners desirous of taking up higher examinations are however, afforded all assistance and facilities to do so.

FEMALE CONVICTS LODGED IN JAILS IN WEST PAKISTAN

*10242. **Begum Ashraf Burney :** Will the Minister of Jails be pleased to state :—

(a) the number of female convicts lodged in Jails in West Pakistan during the years 1965, 1966 and 1967 ;

(b) the number of convicts from amongst those mentioned in (a) above who were convicted for committing murder and sentenced to (i) transportation for life and (ii) imprisonment ?

Minister of Jails (Malik Allah Yar Khan) :

(a) 1965	...	220
1966	...	292
1967	...	305

	Transportation for life	Imprisonment
(b) 1965	... 10	32
1966	... 11	23
1967	... 8	51

1ST CLASS MAGISTRATES IN KARACHI

*10281. Begum Ashraf Burney : Will the Minister of Home be pleased to state :—

(a) the names of 1st Class Magistrates in Karachi as on 31st October 1967 ;

(b) whether the Magistrates mentioned in (a) above are required to decide a specified number of units of cases during a month ; if so, the number of units of such cases decided by each 1st Class Magistrate in Karachi from 1st July 1966 to 31st October 1967 ;

(c) in case the number of units of the cases decided by any 1st Class Magistrate in Karachi in a month was less than the prescribed limit, reasons thereof and the steps taken by Government to ensure speedy disposal of cases ;

(d) the number of cases pending trial with each 1st Class Magistrate in Karachi for over one, two, three and more than three years on 31st December 1967 alongwith reasons for the same ?

Minister of Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a) 20 including six Sub-Divisional Magistrates.

(b) A 1st Class Magistrate has to earn 35 units in a month. A statement showing the units earned by the Magistrates who were in Karachi on 31st October 1967 is attached.*

(c) The Magistrates in Karachi are required to attend to administrative duties. Hence sometime their disposal is less than the yard stick fixed by the High Court.

* Please see Appendix III at the end.

(d) This information has been shown in the attached statement.* The reasons which delay the disposal of cases in Karachi is poor service of process, as the witnesses go on changing their addresses, the Magistrates are frequently deputed to look after strikes, lockouts, sectarian disputes, student demonstrations and other administrative problems and this District was short of 9 Additional City Magistrates on 31st October, 1967.

RESTRICTION ON MOVEMENT OF BARLEY

*10299. **Haji Sardar Atta Muhammad** : Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that in 1967 the Deputy Commissioner, Tharparkar imposed restrictions under Sections 144 of Cr. P. C. on the movement of barley exceeding 2½ maunds from within 5 miles of the border area of the said District ;

(b) whether the said restriction was also applicable to the moving of barley from fields to the houses of farmers of the said area ;

(c) if answer to (b) above be in the affirmative, whether the Mukhtiar-kar concerned was authorised to issue permits required by the farmers for the purpose mentioned in (b) above ;

(d) the distance in miles at which the villages Gidhro and Bulhari are situated from their respective tehsil headquarters ;

(e) the names of villages which are situated at the distance of 10 miles from their respective tehsil headquarters in the area mentioned in (a) above alongwith the number of farmers and Khatedars living in the said villages ;

(f) whether the Deputy Commissioner, Tharparkar has issued instructions to the Mukhtiar-kars of the border areas in Tharparkar District to visit the areas concerned with a view to issuing the said permits on the spot to save the said farmers and Khatedars from the loss they might otherwise suffer ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a) No order under Section 144 Cr. P. C. was issued by the Deputy Commissioner, Tharparkar

*Please see Appendix III at the end.

banning movement of barley from within five miles of border area of Tharparkar District. As a matter of fact, the Deputy Commissioner banned movement of bajra exceeding two and a half maunds, under Section 144, Cr. P. C. from within five miles of border area of Tharparkar District, in order to check smuggling across the border.

(b) The movement of bajra was restricted throughout border belt of five miles except on permits to be issued by Mukhtiarkar.

(c) The Mukhtiarkar concerned was authorised to issue permits allowing movement of bajra in the side area.

(d) Villages Gidhro and Bulhari are at a distance of about 50 miles from their respective Taluka Headquarters.

(e) The information is given in Appendix 'A' annexed.

(f) The farmers and Khatedars in desert, particularly within five miles of border belt, wherein the movement of bajra was banned, reside in hamlets in or near their fields and transport of bajra from fields to hamlets caused them no problem. Only a few applications were received from farmers and Khatedars for issue of permits in the said area. Therefore, issue of instructions to Mukhtiarkar to visit the area for issuing permits on the spot was not necessary.

ANNEXURE 'A'

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF VILLAGES SITUATED AT THE DISTANCE OF 10 MILES FROM THE RESPECTIVE TEHSIL HEAD QUARTERS IN THE RESTRICTED BORDER BELT OF FIVE MILES AND THE NUMBER OF KHATEDARS AND FARMERS LIVING IN EACH VILLAGE.

Serial No.	Taluka	Name of the village	No. of Khatedars living in each village	No. of farmers living in each village
1.	Nagarparkar	Kasbo	95	21
2.	Do	Kakrio	74	15
3.	Do	Sindhuri	9	1

4.	Do	Laker Khadio	89	11
5.	Do.	Dakan-jo-Vandhio	41	2
6.	Do.	Surachand	201	18
7.	Do.	Sabusan	102	12
8.	Do.	Vandhan-jo-Vandhio	78	5
9.	Do.	Malaro	30	3
10.	Do.	Sindhan-jo-Vandhio	20	2
11.	Do.	Bhimrar	30	15
12.	Do.	Chitrasar	10	4

**RESTRICTION ON THE MOVEMENT OF BARLEY OUT OF THARPARKAR
DISTRICT**

***10300. Haji Sardar Atta Muhammad :** Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) the month in which the Deputy Commissioner, Tharparkar imposed restrictions under Section 144 of Cr. P. C. on the movement of barley out of Tharparkar district in 1967 alongwith the purpose for imposing the said restrictions ;

(b) whether it is a fact that Tharparkar District comprises two parts, one is called Thar or Desert Area and the other Barrage Area ;

(c) whether it is a fact that barley is the main crop in Thar area the cultivation of which depends on rain only ;

(d) whether it is a fact that due to very short rainfall last year in the area mentioned in (c) above barley could not be cultivated as a result of which famine affected the said area ;

(e) whether it is a fact that the said famine could have been averted if the movement of barley from Thar to Barrage Area was restricted ;

(f) if answer to (b) to (e) above be in the affirmative, whether Government intend to consider the advisability of putting a ban on the movement of barley from Thar Area to Barrage Area in Tharparkar District in future ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a) No ban was imposed restricting the movement of barley under Section 14, Cr. P. C. out of Tharparkar District in 1967. A ban was however, imposed on 18th October 1967 for a period of two months restricting transport of bajra out of the District under Section 144 Cr. P. C. The ban was imposed to meet the scarcity and shortage of food in the District and because bajra is a staple food of people in the Desert Area.

(b) Yes.

(c) Barley is not the main crop in Thar Area. As a matter of fact the main crop of the Thar Area is bajra, cultivation of which depends on timely rains.

(d) Due to inadequate rains in the year 1965, Bajra was not cultivated, which resulted in scarcity of bajra in the said area.

(e) The cause of scarcity of foodgrain was failure of the crops due to natural conditions of draught. The crops are harvested after October in Thar and accordingly its movement was banned from the District on 18th October 1967 at the proper time. The ban was imposed keeping in view the scarcity of the foodgrain in the area.

(f) The movement of bajra outside the border area of the District was again banned under Section 144 Cr. P. C. on 27th December 1967 for a period of two months by the Deputy Commissioner to avoid its shortage in that area.

KATCHA AND PUCCA JAILS IN HYDERABAD AND KHAIRPUR DIVISIONS

*10312. Haji Sardar Atta Muhammad : Will the Minister for Jails be pleased to state : —

(a) the number and location of Katcha and Pucca jails in Hyderabad and Khairpur Divisions alongwith the number of prisoners and the strength of staff in each of the said jails ;

(b) the expenditure incurred on and the income derived from each of the said jails annually ;

(c) the number of meetings held by the jail committee of each of the said jails during 1966-67 and 1965-66 1967-68 alongwith the number of members of the said committee who did not attend three consecutive meetings and whether Government intend to remove them from the membership of the said committee ; if so, when ; and if not, reasons therefor ?

Minister for Jails (Malik Allah Yar Khan) : (a) & (b) the information is given in Annexure. 'A'.*

(c) No such Jail Committees existed in the jails of Hyderabad and Khairpur Divisions since 1958.

KIDNAPPING OF CHILDREN

*10429. **Major Muhammad Aslam Jan :** Will the Minister of Home be pleased to state :—

(a) the number of children with their sex as were kidnaped in the Province during 1964, 1965, 1966, and 1967, separately ;

(b) the number of children, out of those mentioned in (a) above, who have so far been recovered ;

(c) the maximum and minimum punishment awarded to the said kidnapers in the said cases ?

Minister of Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a)

1964		1965		1966		1967	
Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
110	293	114	349	87	394	159	376
Total Males					...	470	
Total Females					...	1,412	
GRAND TOTAL					...	1,882	

*Please see Appendix IV at the end.

(b) Males	...	413
Females	...	1,008
		<hr/>
Total	...	1,421
		<hr/>

(c) *Maximum punishment—*

- (i) Death sentence.
(ii) Transportation for life.
(iii) 7 years' R. I.

Minimum punishment—

- Punishment till rising of the Court.
10 stripes.

*۱۰۵۱۶ - چودھری عید محمد - کیا وزیر امور داخلہ از راہ کرم بیان فرمائیں گے کہ پولیس نے ۶-۱۲-۱۹۶۷ء کے بعد کتنے بلا لائسنس کتنا اسلحہ برآمد کیا اور اس کے لئے کتنے اشخاص کو گرفتار کیا گیا ؟

وزیر داخلہ (قاضی فضل اللہ عید اللہ) -

برآمد شدہ ناجائز اسلحہ کی تعداد	گرفتار شدہ اشخاص کی تعداد
(۱) اسلحہ	۱۶۵۸۵
(۲) کارتوس گولیاں	۳۶۲۱۹

RATION SUBSIDY FOR JAIL OFFICIALS

*10550. **Chandri Idd Muhammad** : Will the Minister for Jails be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Government has recently decided to give ration subsidy at the rate of Rs. 11.50 per maund per head to Jail Officials ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, (i) the date from which the said subsidy would be or is being given to these officials; (ii) the rank of Jails entitled to receive the subsidy; and (iii) the estimated amount that would be spent in this regard annually?

Minister for Jails (Malik Allah Yar Khan): (a) Yes. It has been decided to grant Ration Subsidy at the rate of Rs. 11.75 per head per month to Jail Officials.

(b) (i) From 7th December 1967.

(ii) Assistant Superintendents, Chief Warders, Head Warders, Warders and Gate Keepers.

(iii) Approximately Rs. 5,22,000 annually.

**SCHEME FOR UTILISATION OF JAIL MAN POWER FOR NATION
BUILDING PROJECTS**

*10559. **Chaudhri Idd Muhammad:** Will the Minister for Home be pleased to state whether it is a fact that Government has approved a scheme for the utilisation of Jail manpower for Nation Building Projects; if so, what further steps have been, are being or would be taken in this regard?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah): Yes. The various Departments of Government and the Autonomous Bodies have been requested to utilize the jail manpower on contract basis, on their projects, as far as possible. A Prison Camp comprising about 260 prisoners has already been established in Taluka Badin for excavation of Khadan-Patteji and Sirani Drains under the supervision of Superintending Engineer, Lower Sind Drainage Circle, Hyderabad.

ESTABLISHMENT OF FARMS FOR PRISONERS

*10560. **Chaudhri Idd Muhammad:** Will the Minister for Jails be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that Government has decided to establish some

farms for prisoners to ease congestion in jails in some parts of the Province; if so, where the farms would be or are being established along with the time limit of their completion and the areas that would be catered by each farm;

(b) whether the present farm at Pattoki is intended to be extended; if so, (i) the present acreage of this farm and (ii) the acreage of farm as it will be after extension and when it would be extended?

Minister for Jails (Malik Allah Yar Khan): (a) Yes. The Government has decided to establish four agricultural farms for prisoners to ease congestion in jails. These farms would be located at Dokri, District Larkana, (2) Pattoki District Lahore, (3) Thal Area preferably in Muzaffargarh District, and (4) Taunsa Barrage area in Jampur Tehsil. Each farm will have an area of about 2,000 acres of land. The farms will be established as soon as the land is allocated to the Department.

(b) Yes. The present acreage of this farm is 426 acres. The Board of Revenue has been requested to allot additional 59 sqrs. of land adjacent to the present land. The total area after expansion will be 75 sqrs. of land. The full-fledged farm will be established as soon as the Board of Revenue allot the adjacent land of 59 sqrs.

DAKOITY CASE ON CIRCULAR ROAD, LAHORE

*10582. **Rai Mansab Ali Khan Kharal:** Will the Minister for Home be pleased to state whether it is a fact that an armed dacoity was committed on Circular Road, Lahore in the second week of December 1967, in which the dacoits robbed Mr. Muhammad Yousuf, a shopkeeper of Rs. 1,600; if so, whether the above said case was registered by the police and the accused have been arrested?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah): Yes. On the report of Khawaja Abdul Ghafoor and his servant a case F.I.R. No. 449, dated 10th December 1967, was registered under section 392, P.P.C., at Police Station Gawalmandi and its investigation taken up by the local Police.

As a result of investigations, accused Muhammad Aslam *alias* Ganja, son of Ghulam Qadir, and Sahed Mahmood *alias* Moodsa and Kela, son of

Muhammad Sharif of Prem Gali No. 8, Naulakha, Lahore were arrested on 12th December 1967. The stolen property (each amounting to Rs. 1,110, wrist watch and cheque book) has since been recovered from the accused. The weapons of offence (revolver and the knife) were also recovered for which 2 separate cases under the appropriate sections of the Arms Ordinance were registered against the accused.

*۱۰۵۸۳- رائے منصب علی خان کھہرل - کیا وزیر داخلہ از راہ

کرم بیان فرمائیں گے کہ :-

(الف) آیا یہ امر واقعہ ہے کہ لاہور شہر میں ڈاکے کی وارداتوں

میں اضافہ ہو رہا ہے ؟

(ب) اگر جزو (الف) بالا کا جواب اثبات میں ہو تو اس صورت حال

سے نمٹنے کے لئے حکومت نے کیا اقدام کئے ہیں ؟

وزیر داخلہ (قاضی فضل اللہ عبید اللہ) - (الف) جی ہاں - لاہور شہر

میں ۱۹۶۷ء میں "ڈکینی" کے جرائم کے حادثات کی تعداد زیادہ ہو

گئی تھی -

(ب) پولیس اس صورت حال سے پوری طرح آگہ ہے اور اس سے

نپٹنے کے لئے حسب ذیل اقدامات کئے جا چکے ہیں -

(۱) شہر بھر میں گشت اور ناکہ بندی سختی سے کی جا رہی ہے -

(۲) سماج دشمن عناصر کے خلاف مہم تیز کر دی گئی ہے اور

غٹہ آرڈی نینس کے تحت بہت سے بدمعاشوں کو پکڑا جا چکا ہے -

POSTING POLICE AT EDUCATIONAL INSTITUTIONS FOR GIRLS

*10638. Chaudhri Idd Muhammad : Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that some time ago, the Governor issued directive that Police should be posted at all Educational institutions for girls to protect the girl students from goonda elements ;

(a) if answer to (a) above be in the affirmative, the number of persons challaned for teasing the girl students in the Province since the issuance of the said directive ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (b) Yes.

(b) 83.

CASES OF THEFT OF TELEPHONE WIRES

*10646. Rai Mansab Ali Khan Kharal : Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) the number of cases of thefts of telephone wires registered in the Province during the years 1965 to 1967 alongwith the number of cases in which the accused were apprehended and challaned ;

(b) the number of accused out of those mentioned in (a) above who were convicted and the steps taken or intended to be taken to put an end to such cases ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a) & (b) The requisite information is at Annexure 'A'*

DEVELOPMENT OF MERGED AREAS IN DISTRICT HAZARA

*10670. Khan Malang Khan : Will the Minister for Development of Tribal Areas be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that a Master Plan has been prepared for the

*Please see Appendix V at the end.

development of merged areas of Batgram, Alai and Kohistan in District Hazara ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, the names of schemes included in the said Plan alongwith the time by which these schemes will be implemented ?

Minister for Development of Tribal Areas (Mr. Ghulam Sarwar Khan) :
 (a) & (b) The Master Plan is under preparation. Consideration will, of course, be given to the inclusion of development schemes pertaining to Merged Areas of Batagram, Alai and Kohistan of Hazara Districts in the Master Plan. The implementation of schemes to be included in the Master Plan will, however, depend upon availability of resources.

PROVIDING INTERMEDIATE COLLEGE TO TEHSIL BATGRAM

*10672. **Khan Malang Khan :** Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that there is no Intermediate College in Tehsil Batgram ;

(b) whether it is a fact that the President of Pakistan, in the speech delivered by him at the Tribal Darbar held at Peshawar, stated that an Intermediate College would be opened either at Batgram or Oghi ;

(c) if answer to (a) above be in the affirmative, the time by which the College would be opened at Batgram or Oghi ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a) Yes.

(b) Yes. The President of Pakistan in a reply to the address presented by Tribesmen in Tribal Darbar stated that the request for opening of College at Oghi will be given due consideration.

(c) The matter will receive proper consideration and attempts will be made to open it as soon as possible.

AWARDING PUNISHMENT OF WHIPPING

*10698. Mian Nazeer Ahmed : Will the Minister for Home be pleased to state the number of convicts who were awarded the punishment of whipping in 1966 and 1967 alongwith the nature of crimes for which the said Punishment was awarded ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : Reply is contained in the attached list.

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF CONVICTS WHO WERE
AWARDED PUNISHMENT OF WHIPPING IN THE YEARS 1966 AND 1967
ALONGWITH THE NATURE OF CRIMES.

S. No.	Name of District	Years	Number of convicts.	Nature of crimes.
1.	Peshawar	1966	—	—
		1967	2	U/S 366 PPC.
2.	Mardan	1966	—	—
		1967	4	(i) 3, U/S 377 PPC. (ii) 1, U/S 376 PPC.
3.	Hazara	1966	—	—
		1967	2	U/S 363, 366 PPC.
4.	Kohat	1966	—	—
		1967	—	—
5.	D.I. Khan	1966	—	—
		1967	—	—
6.	Bannu	1966	—	—
		1967	1	U/S 364-A, PPC.
7.	Rawalpindi	1966	—	—
		1967	14	U/S 326, 366, 368, PPC.
8.	Jhelum	1966	7	(i) 6, for theft. (ii) 1, for receiving stolen property.
		1967	—	—

9. Gujrat	1966	—	—
	1967	3	U/S 366/511/34 PPC.
10. Campbellpur	1966	—	—
	1967	—	—
11. Lahore	1966	8	(i) 1, for hunting. (ii) 7, for kid-napping, rape and child-lifting during 1966.
	1967	19	(i) 2, for hunting. (ii) 16, for kid-napping, rape and child-lifting. (iii) 1, for adulteration.
12. Sialkot	1966	—	—
	1967	5	U/Ss 377, 457/75, 363, 363/376 PPC.
13. Sheikhpura	1966	—	—
	1967	1	U/S 366 PPC.
14. Gujranwala	1966	1	U/S 379 PPC.
	1967	18	(i) 7, U/S 376/366 PPC. (ii) 5, U/S 368 PPC. (iii) 1, U/S 377 PPC. (iv) 1, U/S 379 PPC. (v) 4, Under West Pakis- tan Pure Food Ord., 1960.
15. Sargodha	1966	—	—
	1967	4	U/S 377/367, 377/36 & 376 PPC.
16. Lyallpur	1966	—	—
	1967	—	—
17. Jhang	1966	—	—
	1967	—	—
18. Mianwali	1966	—	—
	1967	—	—

19. Multan	1966	—	—
	1967	7	(i) 4, U/S 425/376/148/ 366 PPC. (ii) 3, U/S 363 PPC.
20. Sahiwal	1966	1	379 PPC.
	1967	1	370 PPC.
21. D.G. Khan	1966	—	—
	1967	—	—
22. Muzaffargarh	1966	12	U/S 379, 376, 382, 326/ 148, 392/397 PPC.
	1967	44	U/S 377, 363, 366, 376, 379/75/411, 326 PPC.
23. Bahawalpur	1966	—	—
	1967	6	(i) U/S 379 PPC. (ii) U/S 377 PPC. (iii) U/S 380 PPC. (iv) U/S 379 PPC. (v) 457/34 PPC.
24. Bahawalnagar	1966	—	—
	1967	6	U/Ss. 379, 377, 380, 457/ 34/PPC.
25. Rahimyarkhan	1966	—	—
	1967	11	(i) 5, U/S 326 PPC. (ii) 2, U/S 326 PPC. (iii) 1, U/S 364 PPC. (v) 3, U/S 376 PPC.
26. Khairpur	1966	—	—
	1967	—	—
27. Jacobabad	1966	—	—
	1967	—	—
28. Larkana	1966	—	—
	1967	—	—
29. Nawabshah	1966	—	—
	1967	—	—

30. Sukkur	1966	—	—
	1967	—	—
31. Hyderabad	1966	—	—
	1967	—	—
32. Thatta	1966	—	—
	1967	—	—
33. Dadu	1966	—	—
	1967	—	—
34. Tharparkar	1966	—	—
	1967	—	—
35. Sanghar	1966	—	—
	1967	3	(i) 2, U/S 324-326 PPC respectively. (ii) 1, U/S 394 PPC.
36. Quetta	1966	—	—
	1967	—	—
37. Loralai	1966	—	—
	1967	—	—
38. Zhob	1966	—	—
	1967	—	—
39. Sibi	1966	—	—
	1967	—	—
40. Chagai	1966	—	—
	1967	—	—
41. Kalat	1966	—	—
	1967	4	U/S 363, 326, 366 PPC.
42. Mekran	1966	—	—
	1967	—	—
43. Kharan	1966	—	—
	1967	—	—
44. Kachhi-at Dhadar	1966	—	—
	1967	—	—

43. Karachi	1966	—	—
	1967	5	(i) 3, for kid-napping. (ii) 1, for stabbing. (iii) 1, U/S 454 PFC.
46. Lasbela	1966	—	—
	1967	—	—

**MURDER OF CH. SARDAR MUHAMMAD, ASSISTANT SUB-INSPECTOR
OF POLICE**

*10778. **Makhdum Akhtar Ali Shah Qureshi** : Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that an Assistant Sub-Inspector Ch. Sardar Muhammad of Garh Maharaja Police Station, District Jhang, was murdered in 1966 ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, the names of the accused involved in the said murder and the names of those out of them arrested and still at large alongwith the reasons for not arresting them so far and when these accused are expected to be arrested ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a) Assistant Sub-Inspector Ch. Sardar Muhammad of Police Station Garh Maharaja, District Jhang, was murdered on the 20th October 1965 and not in 1966 as mentioned in the question.

(b) Six accused were involved in this murder case. Out of them the following five accused have since been arrested :—

(1) Mumtaz Ali, son of Azam, caste Sial, resident of village Tangu, Police Station Garh Maharaja, District Jhang.

(2) Muhammad Ahsan, son of Azmat, caste Sial, resident of village Tangu.

(3) Qasim, son of Azmat, caste Sial resident of village Tangu.

(4) Azam, son of Hassan, caste Sial, resident of village Tangu.

(5) Khadim Hussain, son of Amir Hussain, caste Syed, resident of village Tangu.

The sixth accused Muhammad Akram son of Ahmad Din, caste Toba, resident of village Tangu, in spite of all-out efforts, has not been arrested and has been declared a proclaimed offender. Efforts still continue to arrest him.

*۱۰۸۱۲-خواجہ جمال محمد کوریجہ - کیا وزیر امور داخلہ

از راہ کرم بیان فرمائیں گے کہ۔

(الف) ۱۹۶۰ء سے ۱۹۶۱ء تک ضلع رحیم یار خان میں ہر سال

قتل - ڈاکہ - اغوا بالجبر - چوری اور زنا بالجبر کی کتنی وارداتیں ہوئیں -

(ب) مذکورہ ضلع میں پولیس چوکیوں اور دیہاتوں کی تعداد کیا

ہے نیز مذکورہ ہر سال میں مذکورہ ضلع کی آبادی کیا تھی -

(ج) ۱۹۶۱ء سے ۱۹۶۷ء تک ہر سال میں اس ضلع میں ہر پولیس

چوکی پر مامور عملہ کی تعداد کیا تھی اور ہر چوکی پر کتنے فٹ کانسٹیبل -

ہیڈ کانسٹیبل - اسسٹنٹ سب انسپکٹر اور انچارج پولیس چوکی متعین تھے -

(د) کیا یہ امر واقعہ ہے کہ مذکورہ ضلع میں آبادی کے اضافہ

کے ساتھ ساتھ جرائم کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے -

(ہ) کیا یہ امر واقعہ ہے کہ مذکورہ ضلع میں ۱۹۶۰ء کے بعد پولیس

کے عملہ میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ (i) پولیس

کو اتنا وقت میسر نہیں کہ وہ اپنے حلقہ اختیار میں تمام علاقوں کی گشت

کر سکے (ii) وہ بیشتر واقعات میں واردات جرم کے اندراج سے پہلوتھی کر جاتی ہے۔ (iii) باوجود کوشش کے بیشتر جرائم کا سراغ نہیں ملتا۔

(و) اگر اجزاء (الف) سے (ج) بالا کا جواب اثبات میں ہو تو آیا حکومت مستقبل قریب میں اس صورت حال کی اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگر رکھتی ہو تو کب تک؟

وزیر داخلہ (قاضی فضل اللہ عبید اللہ)۔ (الف) قتل کی واردات کی سال وار تعداد کیفیت نامہ منسلکہ (الف)* میں ظاہر کی گئی ہے۔

(ب) پولیس کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کرنے کے بعد مذکورہ ضلع میں کوئی پولیس چوکی نہیں ہے۔ تھانوں کے متعلق ضروری معلومات منسلکہ (ب)* میں دی گئی ہیں۔

(ج) بجواب ذیلی پیرا (ب) بالا تھانوں میں متعین کردہ جمعیت منسلکہ (ج)* میں دی گئی ہے۔

(د) جی ہاں۔

(۵) جیسا کہ کیفیت نامہ منسلکہ (ج) میں ظاہر کیا گیا ہے۔ پولیس کی جمعیت منصوبہ باز تنظیم کے تحت ۵۱۹۶۷ میں بڑھائی گئی تھی (i) ضلع میں مناسب طور پر گشت کی جاتی ہے (ii) اگر خفیہ قتل کی خبر علم میں آئے تو مقدمات کو فوراً درج رجسٹر کیا جاتا ہے اور تصورواروں کا مواخذہ کیا جاتا ہے۔ (iii) ضلع رحیم یار خان کی پولیس کی طرف سے واردات کا پتہ چلانے کے لئے تمام کوششیں کی جاتی ہیں۔

(د) سوال پیدا نہیں ہوتا۔

STRENGTH OF REGULAR POLICE FORCE OF WEST PAKISTAN

*10834. **Rai Mansab Ali Khan Kharal** : Will the Minister of Home be pleased to state :—

(a) the strength of regular Police Force of West Pakistan in 1961 and at present ;

(b) whether it is a fact that the increase in the incident of crime is due to the increase in population ; if so, the steps Government intend to take in this regard and when ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a) Strength of regular Police Force of West Pakistan.

Strength as it stood on 31st December 1961—

Inspector General of Police	2
Deputy Inspectors-General of Police	14
Superintendents of Police	68
Assistant Superintendents of Police	60
Deputy Superintendents of Police	129
Prosecuting Deputy Superintendents of Police	18
Inspectors	260
Prosecuting Inspectors	85
Deputy Inspectors	6
Sub-Inspectors	2,032
Sergeants	32
Assistant Sub-Inspectors	2,087
Head Constables	8,373
Foot Constables	47,665
Jamadars	14

Havildars	...
Sepoys	210
Present strength—	
Inspectors-General of Police	3
Deputy Inspectors-General of Police	15
Superintendents of Police	80
Assistant Superintendents of Police	60
Deputy Superintendents of Police	169
Prosecuting Deputy Superintendents of Police	19
Inspectors	366
Prosecuting Inspectors	96
Deputy Inspectors	6
Sub-Inspectors	2,649
Sergeants	...
Assistant Sub-Inspectors	3,369
Head Constables	8,247
Foot Constables	47,775
Jamadars	30
Havildars	90
Sepoys	900

(b) Yes. Increase in population is one of the so many causes responsible for increase in the incidence of crime. Government had set up a Police Commission and its recommendations, which *inter alia* relate to control of crime, are being implemented in a phased programme.

**'JIRGA' CASES DISPOSED OF IN LAHORE, MULTAN, HYDERABAD AND
SARGODHA DIVISIONS**

***10844. Rai Mansab Ali Khan Kharal :** Will the Minister for Home be pleased to state the percentage of 'Jirga' cases disposed of in Lahore, Multan, Hyderabad and Sargodha Divisions during 1965-66 and 1967 alongwith the steps Government have been taken or intend to take for the quick disposal of the 'Jirga' cases ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) :

<i>Division</i>	<i>1965</i>	<i>1966</i>	<i>1967</i>
Lahore	46%	35%	50%
Multan	42%	36%	20%
Sargodha	57.50%	61.25%	55.75%
Hyderabad.	Not received.		

**WHOLE TIME TRAFFIC MAGISTRATES IN THE FORMER PUNJAB
AREA.**

***10848. Khan Gul Hameed Khan :** Will the Minister of Home be pleased to state :—

(a) the number of whole time Traffic Magistrates in the former Punjab Area ;

(b) the number of Magistrates entrusted with additional traffic duties in the former Punjab Area ;

(c) whether it is a fact that the Magistrates mentioned in (b) above remain busy in checking traffic on roads and the litigants whose cases are pending with the said Magistrates have to face difficulties and decision in cases is delayed ;

(d) if answer to (c) above be in the affirmative, whether Government intend to consider the advisability of appointing more whole time Traffic Magistrates ; if not, reasons therefor ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a) 1 only.

(b) 22.

(c) No. The court work is so arranged by the Magistrates that no inconvenience is caused to the litigant public on account of the traffic checking by the Magistrates. They perform the traffic checking duties before or after Court hours or on holidays.

(d) Question does not arise.

**THEFT IN THE HOUSE OF SYED YUSAF ALI SHAH, SENIOR DEPUTY
SPEAKER, PROVINCIAL ASSEMBLY OF WEST PAKISTAN AT
PESHAWAR**

*10878. **Malik Muhammad Akhtar :** Will the Minister for Home be pleased to refer to the answer to my starred question No. 8742 given on the floor of the House on 20th October 1967 and state :—

(a) whether the Police has since been able to get hold of the accused who broke into the house of Syed Yusuf Ali Shah, Senior Deputy Speaker, Provincial Assembly of West Pakistan at Peshawar in December, 1966 and stole valuable articles worth more than thirty thousand rupees ;

(b) if answer to (a) above be in the negative, the reasons thereof ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a) The 5 suspects of this case absconded to Tribal Territory after the commission of the offence. One of them namely Misri Khan was killed in Tribal Territory by other members of the gang. Out of the remaining four Juma Gul and Mir Hasan were arrested and interrogated at length by the C.I.A. staff but were found innocent in this case in spite of the fact that recoveries in 13 cases were made at their instance.

(b) As in (a) above.

TRANSFERRING S.H.Os. AND HEAD CONSTABLES OF DISTRICT
THARPARKAR

***10900. Haji Sardar Atta Muhammad :** Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) since when Mr. Raeesani is working as Superintendent of Police, Tharparkar ;

(b) the number of transfers of S.H.Os. and Head Constables made by him as Superintendent of Police, Tharparkar, along with the period of stay of each of the said officials at the time of transfer ;

(c) in case any Police official who had not completed his three years' service at one station was also transferred, the reasons therefor ;

(d) whether a Superintendent of Police consults Deputy Inspector-General of Police before ordering any transfer ;

(e) the amount paid to the Police officials mentioned in (b) above as Travelling Allowance and Dearness Allowance ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a) Sardar Abdul Rahim Raisani, TQA., PSP., is holding the charge of the office of the Superintendent of Police, Tharparkar from 5-6-1965.

(b) & (c) The requisite information is at Appendix 'A' & 'B'.*

(d) Not necessarily. District Superintendents of Police, however furnish particulars of upper sub-ordinates who are transferred from one place to the other in a period less than 3 years to the Range Deputy Inspector-General of Police concerned. In the case under review, Mr. Raisani, however, consulted D.I.G. in 8 out of 19 transfers of S.I's.

(e) The amount of T.A. & D.A. paid to the Police Officers mentioned in (b) above is Rs. 10,143.00.

*Please see Appendix VII at the end.

COMPLAINT MADE BY MR. USMAN OF VILLAGE MISRI SHAH,
TALUKA NAGARPARKAR AGAINST STAFF MEMBERS OF OUTPOST DANI
DHANDHAL.

*10904. **Haji Sardar Atta Muhammad** : Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that sometime ago one Mr Usman, resident of village Misri Shah, Taluka Nagarparkar, District Tharparkar lodged a complaint with the City Police Station Mirpurkhas that some persons including some staff members of the Outpost Dani Dhandhal broke into his house and injured him with a rifle ;

(b) whether it is a fact that the said complainant had also moved the Home Minister in respect of his said case ;

(c) whether it is a fact that the said complainant also submitted applications to Superintendent of Police Tharparkar, Deputy Inspector-General of Police, Hyderabad Range and Home Minister alleging that the Police authorities of the outpost were threatening him and he also demanded transfer of the staff of said outpost; if so, whether any action has been taken in this respect ; if not, the reasons thereof?

Minister of Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes. The complainant submitted applications to the Home Minister and D.I.G. Hyderabad Range. The contents of these applications did not disclose any threat to the complainant at the hands of the Police force posted at Police Post Dano Dhandhal, P.S. Nagarparkar, nor the applicant had requested for the transfer of the Police staff. The main demand of the applicant was the transfer of the investigation of the case filed by him to some independent officer of Hyderabad, as according to him, the Tharparkar Police had been showing unfavourable attitude towards him. The application submitted to the D.I.G. Hyderabad Range was forwarded to the Superintendent of Police Tharparkar for immediate enquiry and report. As the investigation of the case had already been completed and investigation had proved that the complaint filed by Muhammad Usman was false, the facts were reported to the Deputy Inspector-General of Police, Hyderabad and no further action was possible on the application.

On receipt of other application which was received from the Home Minister,, the D.S.P., Crime Branch was deputed to make enquiries. His enquiries established that local Police disposed of the case correctly. Consequently this application was also filed, in the office of the Deputy Inspector-General of Police, Crime Branch.

**SENDING ON DEPUTATION THE POLICE STAFF IN FORMER SIND
AREA**

*10938. Mr. Muhammad Umar Qureshi : Will the Minister of Home be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the service of the prosecution staff are lent on deputation to other sections of Police Department such as Enforcement, Crimes and Special Branches, etc. in the former Punjab Area ;

(b) whether it is a fact that the said procedure is not being followed in the former Sind Area ;

(c) if answer to (a) and (b) above be in the affirmative, reasons for the disparity and whether Government intend to remove it ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a) Enforcement Branch has been abolished with effect from 1st June 1967.

Special and Crime Branches are part of West Pakistan Police and the question of lending services of Police Officers on deputation to these branches does not arise.

(b) As above.

(c) Question does not arise.

ASSAULT ON A GERMAN TOURIST LADY

*11067 Pir Ali Gohar Chishti : Will the Minister of Home be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Gowalmandi Police Lahore registered a

case of criminal assault on German Lady Tourist Sibyle Curras in the second week of January, 1968 ;

(b) whether it is a fact that the President of Pakistan was much concerned over this criminal assault and directed the Provincial Government for a thorough investigation of the case ;

(c) if answer to (a) and (b) above be in the affirmative. (i) the details of the F.I.R. (ii) the names of the Police Officers who investigated the case (iii) the names of the accused who were arrested or have not been arrested (iv) whether the accused persons are history sheeters if so, details of offences committed by them in the past, and (v) the present position of the case?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) (i) Case FIR No. 9 dated 10th January, 1968 u/s 376/342/34 PPC P.S. Gowalmandi.

Mrs. Sibylee Curras resident of Ithwegz; Burlin, 37, alongwith her husband Mr. Joachim Curras entered Pakistan on 7th January, 1968 via Ganda Singhwala border. They visited Carvan Hotel on McLeod Road, Lahore, on their arrival, the same day at 7.30 P.M. to take tea. Two young man contacted them at the said Hotel and extended invitation to them to accept their (young men) hospitality which the visitors did. At 9.30 P.M. again both the persons came to Carvan Hotel and took them (the couple) to their alleged house. The husband was separated and taken to upstairs on the pretance of showing him round the building which was under construction. He was confined in a room when in the meantime the accused who were also joined by the third accomplice criminally assaulted the lady one after the other. They had brandished an open knife to exercise coercion. She had resisted but she was over powered. In this scuffle she sustained bruises on her neck and her right wrist besides the things. After the assault the accused released the husband of Mrs. Sibylee Curras and they left the alleged house. This case was reported to the Police on 10th January, 1968 after intimation to the German Counsolate, Lahore.

(c) (ii) Sub-Inspector Muhammad Iqbal of Police Station, Gowalmandi.

(c) (iii) 1. Masood Krishan. 2. Mansoor Krishan sons of Inshallah Khan r/o Cement Building, Thronton Road, Gowalmandi. 3. Khurshid s/o Nawasish Ali, Motor Mechanic Street No. 10, Patiala Ground, Gowal-mindi, Lahore.

All the three accused have been arrested.

(c) (iv) Accused mentioned at No. 1 (Masood Krishan is a registered criminal. His history sheet exists on bundle 'A' since 9-7-66. He had previously been held in the following cases.

1. Case FIR No. 40, dated 29-1-65 u/s 302 PPC P.S. Qilla Gujjar Singh ...

He had murdered a Fruit vendor with a pistol shot at Mall Road. He was sent up but let off on 25-11-65.

2. Case FIR No. 518, dated 25-12-64 u/s 379 PPC Police Station Civil Lines, Lahore.
3. Case FIR No. 34, dated 23-11-64 u/s 379 PPC Police Station, Gowalmandi, Lahore.
4. Case FIR No. 371 dated 10-12-64 u/s 379 PPC Police Station, Gowalmandi Lahore.
5. Case FIR No. 13, dated 10-1-65 u/s 379 PPC Police Station, Qilla Gujjar Singh, Lahore.

Cases from serial No. 2 to 5 related to the theft of scooters. Cases are still subjudice.

6. Case FIR No. 131, dated 3-7-66 u/s 395/379/420 PPC P.S. Lohari which is also pending trial.

In view of the above criminal activities he was hauled up under the West Pakistan Control of Goonda Ordinance on 29-6-67 and a challan instituted in the Court of District Tribunal i.e. The Additional District Magistrate, Lahore. He applied for bail before the Commissioner. Interim bail was granted till 17-7-67. The Commissioner Lahore Division vacated the interim order of the bail, and the accused was entrusted to custody of

Police. He escaped. Another case FIR No. 406 dated 22-7-67 u/s 224 PPC P.S. Old Anarkali was registered against him. He was arrested the same day and sent up.

The rest of the accused have no criminal record prior to this offence.

(c) (v) The case is currently pending trial in the court of Rana Saleem Akhtar Magistrate with section 30 powers, Lahore. The accused made an application u/s 526 Cr. P.C. on 27-1-68 before the trial Magistrate and moved the High Court for transfer of their case from the said court and take cognizance of the case in its jurisdiction. The plea for the transfer was that the President of Pakistan had made a statement in respect of this case. The Chief Justice of High Court of West Pakistan Lahore heard the petition. He held that the fears of the complainants were ill-founded. A directive for taking a detached view in the case was given to the learned Magistrate. The proceedings started on 10-2-68. The present stage of the case is that all the prosecution witnesses in this case have been examined by the court. A request was made by the prosecution to the court for examining a nurse and the stores keeper of the Lady Aitchison Hospital as court witnesses. The court acceded to this request, but the defence counsel went into revision against this order. The file has been sent to the Sessions Court and the proceedings have been stayed. The case is now fixed for 27-4-1968.

* ۱۱۱۰ - پیر علی گوہر چشتی - کیا وزیر امور داخلہ از راہ

کرم بیان فرمائیں گے کہ -

(الف) ۱۹۶۶ء اور ۱۹۶۷ء کے دوران میونسپل کارپوریشن لاہور کی

حدود میں غیر قانونی گولہ بارود پائس رکھنے اور استعمال کرنے

پر کتنے اشخاص گرفتار کئے گئے -

(ب) مذکورہ عرصہ کے دوران جزو (الف) بالا میں مذکورہ اشخاص

میں سے کتنے اشخاص کو ماتحت عدالتوں، سیشن عدالتوں اور

عدالت عالیہ نے ضمانت پر رہا کیا؟

وزیر داخلہ (قاضی فضل اللہ عبیداللہ) :

(الف) سال گرفتار شدہ اشخاص کی تعداد

۳۶۹ ۱۹۶۶

۵۰۲ ۱۹۶۷

۱۹۶۷ ۱۹۶۶ (ب)

۳۳۳ ۲۱۹ ماتحت عدالتیں

۷۶ ۸۶ سیشن عدالتیں

۳۱ ۳۲ ہائی کورٹ

MINOR BOYS AND GIRLS KIDNAPPED IN THE PROVINCE

*11113. Pir Ali Gohar Chishti : Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) the number of minor boys and girls kidnapped during the years 1966, 1967 and 1968 uptil now in the Province ;

(b) the number of accused persons (i) arrested and (ii) challaned by the Police and (iii) convicted for the said offence ;

(c) the number of accused persons in the said cases who were awarded the sentence of (i) death and (ii) transportation for life ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) :

(a)	Boys abducted	Girls abducted	Total minor children abducted
1966 ...	315	251	566
1967 ...	357	236	593
1968 ...	55	40	95
(upto 31st March 1968).			
Total	727	527	1254

(b) (i) Persons arrested	...	1848
(ii) Persons challaned	...	1801
(iii) Persons convicted	...	313
(c) (i) Sentenced to death	...	<i>Nil</i>
(ii) Transportation for life	...	1

(Rahimyar Khan).

FACILITIES FOR EDUCATED PRISONERS

*11147. Pir Ali Gohar Chishti : Will the Minister for Jails be pleased to state :—

(a) the number of prisoners who passed the middle, matric, intermediate and degree class examinations during 1965, 1966 and 1967 ;

(b) what kind of facility Government provides to the prisoners in the Province who wish to take examinations of various classes ?

Minister for Jails (Malik Allah Yar Khan) : (a)

	<i>Middle</i>	<i>Matric</i>	<i>Inter</i>	<i>Degree</i>	<i>Language</i>	<i>Total</i>
1965	... 29	15	12	5	31	92
1966	... 20	30	13	5	24	92
1967	... 11	15	13	6	26	71

(b) The following facilities are provided to convicts students who wish to take up examinations :—

- (1) Assistance and guidance of a qualified Teacher ;
- (2) Text books provided free of cost ;
- (3) Extra time for studies and lighting arrangements ;
- (4) Exemption from Jail labour for the preparation ; and
- (5) Examination fee for the poor and needy.

On being successful in examinations the prisoners are allowed liberal scale of remission.

MULTAN CENTRAL JAIL LIBRARY

*11148. Pir Ali Gohar Chishti : Will the Minister for Jails be pleased to state whether it is a fact that during the course of visit to Multan Central Jail in March 1967, he issued certain directives regarding Jail Library ; if so, details thereof and how far the directives have been complied with ?

Minister for Jails (Malik Allah Yar Khan) : The Minister for Jails ordered the purchase of New Books for the Library. Accordingly books worth Rs. 965. 18 were purchased in June, 1967.

STAFF QUARTERS OF POLICE STATION TANDO JAN MUHAMMAD

*11182. Haji Mir Khuda Bux Talpur : Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the staff quarters of Police Station Tando Jan Muhammad; District Tharparkar, are in a deplorable condition ;

(b) the amount spent on the maintenance of the said quarters during the last 5 years ;

(c) if answer to (a) above be in the affirmative, whether Government intend to repair the said quarters ; if so, when and if not, reasons therefor ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) :

(a) No.

(b) The following amounts were spent on ordinary/special repairs at Police Buildings including the above mentioned quarters at Tando Jan Muhammad District Tharparkar during the last five years :—

(i) 1963-64	Nil
(ii) 1964-65	Rs. 1100
(iii) 1965-66	Nil
(iv) 1966-67	Rs. 21,466
(v) 1967-68	Nil

(c) Does not apply as the answer is in the negative.

CENTRAL JAIL MIANWALI.

*11190. Khan Gul Hameed Khan: Will the Minister for Jails be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the District Jail Mianwali has been converted into a Central Jail ;

(b) cadre-wise strength of the staff of the said Central Jail ;

(c) the residential accommodation provided to the above said Jail staff and whether the number of residential quarters are commensurate with the strength of the staff ; if not, the steps taken by Government so far to make up this shortage ?

Minister for Jails (Malik Allah Yar Khan) : (a) Yes.

(b) Supdt. Jail	1	Teachers	2
Deputy Superintendent	1	Dispensers	2
Assistant Superintendents	6	Chief Warder	1
Asstt. Medical Officers	2	Head Warders	19
Head Clerk	1	S.G. Warders	21
Accountant	1	O.G. Warders	83
Senior Clerks	2	Contract Warders	13
Junior Clerks	4	Matron	1
Store Keepers	2		
Gate Keepers	2		

(c) Residential accommodation :

<i>Designation</i>	<i>Accommodation required</i>	<i>Proper Accommodation provided for</i>	<i>Short of accommodation</i>
Superintendent Jail	1	1	...
Deputy Superintendent	1	1	...

Assistant Superintendents	6	2	4
Assistant Medical Officers	2	1	1
Head Clerk/Accountant	2
Store Keepers	2	...	2
Clerical Staff	4	...	4
Chief Warder	1	...	1
Gate Keepers	2	...	2
Dispensers	2	1	1
Head Warders	19	6	13
Warders	118 (80 married Qr.) 40 single	24 (married Qrs). 60 single	56 (married Qtrs)
			(Warders barracks Warders barracks).

Note

Assistant Superintendents	...	4	
Assistant Medical Officer	...	1	This staff is living on the
Head Clerk	...	1	Jail premises in the old
Store Keeper	...	2	kutchra improvised build-
Clerical Staff	...	4	ings provided.
Chief Warder	...	1	
Gate Keepers	...	2	
Dispenser	...	1	
Head Warders	...	13	
Warders	..	33	

The P.W.D. has already been asked to prepare plan and estimates for this staff. As soon as our budgetary position permits additional residential accommodation will be provided gradually.

VILLAGES RAIDED BY WAZIRIS IN BANNU DISTRICT

*11220. Khawaja Muhammad Saffar : Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that a large number of persons from Tribal Areas raided several villages in the District of Bannu and killed several persons and burnt down some villages in the said District in January 1968 ;

(b) whether it is a fact that the civil population of Bannu District in retaliation raided the tribal area in large numbers ;

(c) whether it is a fact that the leaders and notables of the District of Bannu informed the Provincial Government telegraphically about the serious situation prevailing there ;

(d) if answer to (a) to (c) above be in the affirmative, whether Government is prepared to lay on the Table of the House copies of said telegram ?

(ANSWER NOT PLACED ON THE TABLE)

ENQUIRY RELATING TO CASE FIR N O. 44/66 UNDER SECTION 379,
P.P.C. RAILWAY POLICE STATION, SARGODHA

*11245. Malik Muhammad Akhtar : Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Abdul Waheed Khan of TIP, Haripur, Hazara, made an application to the Deputy Inspector-General, Railway Police, Lahore, stating that Sub-Inspector Noor Muhammad, SHO, Railway Police Station, Sargodha, was influencing the witnesses in the enquiry relating to case FIR, No. 44/66, under section 379 PPC. Railway Police Station, Sargodha ;

(b) whether it is a fact that in the preliminary inquiry before the Enquiry Officer Sultan Muhammad DSP, Railway Police, the witness produced by Mr. Abdul Waheed Khan did not support the allegation and the charges was not established ;

(c) whether it is a fact that Sub-Inspector Noor Muhammad was transferred from Sargodha to Khanpur before his normal posting period of 2-3 years ; if so, reasons therefor ;

(d) whether it is a fact that the applicant Abdul Waheed Khan was paid 1st Class Travelling Allowance from Haripur to Lahore,—*vide* bill No. OC 9 of 1968 by the Railway Police Officer for his attendance in the preliminary enquiry ;

(e) whether it is a fact that the payment of the said Travelling Allowance has been objected to by the Audit ;

(f) if answer to (e) above be in the affirmative, the action taken in the matter ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes. But his early transfer was effected due to administrative reasons and not because of the complaint filed by Abdul Waheed Khan, TIP, Haripur, District Hazara.

(d) Yes.

(e) Yes.

(f) Mr. Abdul Waheed Khan Tareen has been asked to submit a certificate by a competent authority certifying his present pay and the reply is still awaited.

CARD PASS USED BY INSPECTOR MUHAMMAD ASLAM OF C.I.A.,
RAILWAY POLICE LAHORE

*11246. Malik Muhammad Akhtar : Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Inspector Muhammad Aslam of the CIA, Railway Police Lahore after his posting in the Railway Police in 1966 has been using 1st Class Card Pass for his official duties whereas he was entitled to 2nd Class Card Pass ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, the action taken in the matter ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a) A 1st Class Card Pass was issued to Mr. Muhammad Aslam, Inspector CIA, on 25-7-1966 and this was deposited in the Railway Headquarters Office on 31-8-1966. It cannot be said with certainty if it was misused.

(b) An enquiry is being made in the matter.

**INCIDENCE OF CRIME REGISTERED AT BATGRAM POLICE STATION
IN HAZARA DISTRICT**

*11280. **Khan Malang Khan :** Will the Minister for Home be pleased to state the incidence of crime registered at Batgram Police Station in Hazara District during the months of January and February, 1968 along with the nature of offences alleged to have been committed and whether any arrests were made ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : Incidence of crime registered at PS., Batgram during the months of January and February 1968 is, as under : —

1. Case FIR No. 1 dated 5-1-1968 u/s 6 Goats Ordinance. One accused was challaned in this case.
2. Case FIR No. 2, dated 9-1-1968, u/s 457 PPC. In this case silver and gold ornaments etc. worth Rs. 1500 were stolen. No recovery or arrest has so far been made in this case.
3. Case FIR No. 3, dated 16-1-1968, u/s 6 of Goats Ordinance. One person has been challaned in this case.
4. Case FIR No. 4, dated 19-1-1968, u/s 302/404 PPC. The case is under investigation and no arrest has been made so far.
5. Case FIR No. 5, dated 19-1-1968, u/s 436/429/307 PPC. The case is still under investigation and no arrest has been made so far.
6. Case FIR No. 6, dated 23-2-1968, u/s 16 Arms Ordinance. One accused Mehtab Shah son of Mir Ahmad Shah of Mira, has been challaned in this case.

**FAZAL KHAN'S CASE FIR No. 44/66 UNDER SECTION 379 PPC,
RAILWAY POLICE STATION SARGODHA**

***11310. Malik Muhammad Akhtar :** Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that one Fazal Khan who was apprehended in case FIR No. 44/66 under section 379 PPC Railway Police Station, Sargodha, made a complaint against the investigating staff and on the said complaint the investigation of the said case was transferred to Inspector Muhammad Aslam of CIA, Railway Police, Lahore ;

(b) whether it is a fact that District Magistrate, Sargodha, in a Memo, to the Superintendent of Police, Railway Police, Lahore, stated that the said Inspector was conducting the above-mentioned enquiry contrary to the provisions of the Police Rules ;

(c) whether it is a fact that Deputy Inspector-General of Police, Sargodha Range, informed Deputy Inspector-General of Police, Railways, Lahore, —vide DO No. 11916, dated the 30th August 1966 that the enquiries mentioned at (a) above conducted by Inspector Muhammad Aslam were not satisfactory and needed verification ;

(d) whether it is a fact that SHO Railway Police, Rawalpindi, gave finding that Inspector Muhammad Aslam has helped the accused persons against whom he was deputed to investigate and had gone to the extent of obtaining the statements of the witnesses cited by the prosecution under pressure and coercion in favour of the accused persons ;

(e) if answer to (a) to (d) above be in the affirmative, whether the Government are prepared to consider the advisability of getting the investigation conducted through an agency outside the Railway Police ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) It is correct that SHO Railway Police, in his finding has stated that according to the statement of some of the witnesses their previous statements obtained by the Inspector were false and recorded under coer-

cion and torture. The Inspector, for this misconduct is being tried departmentally.

(e) On further investigation of the case it was found that there was no life in this case to stand a test of judicial trial in the court. The case had, therefore, been sent up as untraced.

COMPLAINT AGAINST MUHAMMAD ASLAM, INSPECTOR, CIA, RAILWAY
POLICE, LAHORE.

*11311. Malik Muhammad Akhtar : Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that one Moonda of Chak No. 105/SB., District Sargodha and others filed a complaint in the Court of ADM., Sargodha, in August, 1966 under sections 323/342/466/471 PPC., against Muhammad Aslam, Inspector of the CIA, Railway Police, Lahore ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, the present stage of the case ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a) Yes. A complaint was filed by one Moonda against Muhammad Aslam Inspector of the CIA., Railway Lahore in August, 1966.

(b) This complaint was filed on 4-2-1967 by the Court due to non-attendance of the complainant.

OPENING OF RIFLE SHOOTING CLUBS IN THE PROVINCE

*11330. Kazi Muhammad Azam Abbasi : Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that a Rifle Shooting Club has been established in Khairpur District by the District authorities ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, whether Government

intend to open such rifle clubs in other Districts also ; if so, when and if not, reasons thereof ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a) Yes. The Rifle Shootin Club has been established in Khairpur District.

(b) Instructions have already been issued to start Rifle Training Clubs at each Tehsil Headquarters and Police Station in the Province. Besides, Rifle Clubs may also be established at such other places as considered necessary by the District Magistrate, who is required to get the approval of the Provincial Government through the Inspector General of Police, West Pakistan, Lahore in this behalf. Detailed Rules for the West Pakistan Rifle Training Clubs, 1967 have since been issued to all Commissioners of the Divisions, District Magistrate and Superintendents of Police for information and necessary action.

۱۱۴۹۵* - خان ملنگ خان - کیا وزیر امور داخلہ از راہ کرم بیان فرمائیں گے کہ۔

(الف) آیا یہ امر واقعہ ہے کہ صوبہ کے مختلف اضلاع میں لوگوں سے جو بلا لائسنس اسلحہ برآمد کیا جاتا ہے اسے لاہور میں جمع کرایا جاتا ہے اگر ایسا ہی ہو تو ان کی فروخت کا طریقہ کار کیا ہے۔

(ب) آیا یہ بھی امر واقعہ ہے کہ سابق شمال مغربی سرحدی صوبہ میں یہ رواج تھا کہ کسی ضلع سے برآمد شدہ بلا لائسنس اسلحہ اسی ضلع کے مال خانہ میں جمع کرایا جاتا تھا اور بعد ازاں یہ لائسنس یافتہ مقامی اشخاص کو نیلام کر دیا جاتا تھا۔

(ج) اگر جڈو (ب) بالا کا جواب اثبات میں ہو تو آیا حکومت پرانے طریقہ کار کو بحال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ؟

وزیر داخلہ (قاضی فضل اللہ عبید اللہ) - (الف) جی نہیں -

(ب) سابق صوبہ سرحد میں یہ دستور تھا کہ کسی ضلع سے بھی برآمد کردہ بغیر لائسنس اسلحہ کو اس ضلع کے مال خانہ میں جمع کروا دیا جاتا تھا اور اس کو نیلام کر دیا جاتا تھا جس کی ہر آدمی جس کے پاس خواہ اسلحہ لائسنس ہو یا نہ ہو بولی دے سکتا تھا - سب سے زیادہ بولی دینے والا ہتھیار حاصل کر سکتا تھا اور اگر اس کے پاس اسلحہ لائسنس نہ ہوتا تو اس کے نام بعد میں اس ہتھیار کا لائسنس جاری کر دیا جاتا تھا -

(ج) جی نہیں -

INCLUSION OF DUNYAPUR POLICE STATION AREA IN MAGISTERIAL
JURISDICTION OF S.D.M. LODHRAN

*11502. Diwan Syed Ghulam Abbas Bokhari : Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the area of Dunyapur Police Station, Tehsil Lodhran, District Multan is under the magisterial jurisdiction of a Magistrate at Multan ;

(b) whether it is a fact that Dunyapur is nearer to Lodhran than Multan and better means of communications are available for going to Lodhran from Dunyapur ;

(c) whether it is a fact that the residents of Dunyapur Police Station area have demanded the inclusion of the said area in the jurisdiction of S.D.M., Lodhran ;

(d) if answer to (a) to (c) above be in the affirmative, whether Government intend to include the area of Dunyapur Police Station in the magisterial jurisdiction of S.D.M., Lodhran ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a) Dunyapur Police Station is under the jurisdiction of the Revenue Assistant (Magistrate 1st Class). He is a touring Officer and deals with the cases at Dunyapur Police Station Area while on tour there.

(b) The Lodhran Sub-Division consists of 4 Police Stations. The Dunyapur Police Station's criminal work was done by S.D.M. for some time but he was over-worked and at his request the criminal work of this Police Station was withdrawn from him and given to the Revenue Assistant. The remaining 3 Police Stations viz, Lodhran, Multan and Kabirwala are still with S.D.M. who is a 1st Class Magistrate with Section 30 powers.

(c) Never.

(d) Question does not arise.

POLICE STATIONS AND POLICE POSTS IN DISTRICT KARACHI

*11534. **Mr. Muhammad Hashim Lassi :** Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) the total number of Police Stations and Police Posts in District Karachi ;

(b) the number and names of Police Stations and Police Posts where telephones have not yet been installed and their distance from the Police Headquarters ?

(ANSWER NOT PLACED ON THE TABLE)

FUEDS BETWEEN INHABITANTS OF SETTLED AREAS AND UNSETTLED AREAS OF AFRIDI, MULLA GORI AND MOHMAND TRIBES

*11565. **Mr. Jalal-ud-Din Khan :** Will the Minister for Development of Tribal Areas be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that boundary fueds have been continuing

since long between the inhabitants of the settled areas and those of unsettled areas of Afridi, Mulla Gori and Mohmand Tribes and armed parties have often attacked each other in which many precious lives have been lost ;

(b) whether it is a fact that during Budget Session of 1967 attention of Government was drawn by me towards these tribal disputes but no heed was paid to it with the result that another skirmish has taken place amongst the Afridis and Mashokhela in village Sheikhan ;

(c) if answer to (a) and (b) above be in the affirmative, whether Government intend to take steps to put an end to these fueds ?

(ANSWER NOT PLACED ON THE TABLE)

NON-OFFICIAL VISITORS TO JAILS AND LOCK-UPS IN QUETTA DIVISION

*11591. Babu Muhammad Rafiq : Will the Minister for Jails be pleased to state :—

(a) the dates on which the non-official visitors paid visit to various Jails and Lock-ups in Quetta Division during the year 1967-68 (up to 31st March, 1968) ;

(b) whether the said visitors made any suggestions for improving the general conditions prevailing in the Jails and Lock ups ?

(c) if answer to (b) above be in the affirmative, the action taken thereon ?

Minister for Jails (Malik Allah Yar Khan) : (a), (b) and (c) The information is being collected and will be supplied on the next turn.

SCHEMES SANCTIONED BY DEVELOPMENT BOARD, QUETTA-KALAT DIVISION

*11593. Babu Muhammad Rafiq : Will the Minister for Development of Tribal Areas be pleased to state :—

(a) the names of the schemes so far sanctioned by the Development Board, Quetta-Kalat Division and the estimated cost of each scheme ;

(b) if no scheme out of them has so far been implemented, reasons for delay in doing so ?

Minister for Development of Tribal Areas (Mr. Ghulam Sarwar Khan) :

(a) No scheme has been approved.

(b) Therefore no scheme has been implemented.

MURDER CASES IN LAHORE, CHUNIAN AND QASUR TEHSILS

*11610. **Rana Phool Muhammad Khan :** Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) number of murder cases registered in Lahore, Chunian and Qasur Tehsils of Lahore District during 1967 ;

(b) the number of persons murdered in the said cases ;

(c) number of accused persons apprehended, along with those who are absconding ;

(d) the number of accused who have been challaned in the said cases ;

(e) the number of cases pending in Court along with the number of cases decided by the Sessions Court ;

(f) whether any effective steps are proposed to be taken for checking the incidence of murder ; if so, details thereof ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) :

	Lahore Tehsil	Chunian Tehsil	Qasur Teh.	Total
(a)	114	38	32	184
(b)	127	42	35	204

(c)	179	98	84	361	} 375
	11	2	1	14	
	190	100	85	375	
(d)	190	100	85	375	
(e)	85	28	25	138	
	20	9	6	35	

(f) It is proposed to send up suitable cases under section 13 of the Criminal Law Amendment Act and Goonda Ordinance to check the incidence of murder.

**PRISONERS WHO WERE PUT TO GALLOWES DURING THE
YEAR 1967 AND 1968.**

*11642. **Rana Phool Muhammad Khan** : Will the Minister for Jails be pleased to state :—

(a) full names and addresses of the condemned prisoners who were put to gallows during the year 1967 and 1968 to date in the District Jails of Lahore, Gujranwala and Sialkot ;

(b) present number of such condemned prisoners in the above-mentioned three jails; and out of them the number of those who belong to Lahore, Sheikhpura, Gujranwala and Sialkot Districts respectively?

Minister for Jails (Malik Allah Yar Khan) : The Assembly Question was received by the Home Department on 25-4-1968. Information is being collected from the respective quarters.

REVOLVER LICENCES

*11634. **Malik Ghulam Ali** : Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) the year-wise number of revolver licences issued in the Province during 1965, 1966 and 1967 ;

(b) the number of unlicensed revolvers recovered during the said years along with the Division-wise number of persons apprehended for the possession of unlicensed revolvers ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah): The requisite information is to be given on all West Pakistan basis. The same has been called for from the Commissioners of Divisions in West Pakistan. The requisite information will, therefore, be placed on the table as soon as possible.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

DEAD BODY FOUND IN VILLAGE WEHAT, DISTRICT THARPARKAR

383. Haji Sardar Atta Muhammad : Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that recently a dead body was found hanging from a tree in village Wehat, Taluka Umerkot of Tharparkar District;

(b) whether it is a fact that Police has declared it a suicide case, if so, the report given by the Doctor who conducted post-mortem on the said dead body ;

(c) the date on which the said case was registered by the Police and the name of the Officer who made investigation in the case ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a) Yes. A dead body was found hanging on a tree near Umerkot-Mirpurkhas road in Deb Kiral Taluka Umerkot and not in village Wehat Taluka Umerkot.

(b) Yes. The report of the Medical Officer is reproduced as under :—

“From the external and internal examination of the body of the unknown deceased I am of the opinion that the death appeared to have been caused by ASPHIXIA and apoplexy caused by hanging-the-hanging appears to be suicidal. The abrasion mark appear to have been caused by friction with a rough substance and these are antimortem. The viscera have also been preserved for the Chemical Examination”.

(e) No case was registered. Proceedings under section 174 Cr. P.C., were carried out by A.S.I. Lal Muhammad under the supervision of the Station House Officer Ali Bakhsh and D.S.P. Nara Mr. Muhammad Irfan.

ACCUSED WANTED BY POLICE IN HYDERABAD DIVISION

412. **Haji Sardar Atta Muhammad** : Will the Minister for Home be pleased to state :—

(a) the present number of accused wanted by Police in each District of Hyderabad alongwith the number of Warrants issued by Courts for their arrest and further steps intended to be taken to arrest them ;

(b) the strength of C.I.A. staff posted in each District of the said Division and the number of cases given to them for investigation in each year from 1963 to 1966 ?

Minister for Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : (a-1) The present number of accused wanted by Police in each District of Hyderabad Division:

Hyderabad	...	371
Tharparkar	...	68
Sanghar	...	40
Thatta	...	52
Dadu	...	73

(a-II) The Number of Warrants issued by Courts for their arrest.

Hyderabad	...	1762
Tharparkar	...	62
Sanghar	...	28
Thatta	...	52
Dadu	...	37

(a-III) Further steps intended to be taken to arrest them.

(a) All the SHOs and G.Os are being instructed from time to time to arrest the accused i.e. absconders and Proclaimed Offenders.

(b) Special Weeks are organized for their arrest.

- (c) Information Sheets are issued by the SHOs to trace them.
- (d) Proclamations u/s 87 Cr. P.C. are got issued from the courts.
- (e) Attachment Orders u/s 88 Cr. P.C. are got issued from the Courts.
- (a) (I) The Strength of C. I. A. Staff Posted in each District.

There is no sanctioned strength of CIA Staff in all the districts but some officers and men have been specially drawn from the regular force to work in CIA, the details of which are as follows : —

	Inspector.	S. Is.	ASIs.	HCs.	FCs.
Hyderabad	—	1	2	4	9
Tharparkar.	—	1	1	1	4
Sanghar.	1	1	1	2	5
Thatta.	—	1	—	3	3
Dadu.	1	1	2	4	5

- (b) (II) Number of cases given to them for investigation.

	1963	1964	1965	1966
Hyderabad.	30	39	53	31
Tharparkar.	9	74	56	62
Sanghar.	13	22	16	20
Thatta.	59	12	7	9
Dadu.	73	57	26	41

**SECTION 144 CRIMINAL PROCEDURE CODE IN KARACHI, HYDERABAD
MULTAN, LYALLPUR, LAHORE, BAHAWALPUR, SARGODHA,
RAWALPINDI AND PESHAWAR**

428. **Khawaja Muhammad Safdar** : Will the Minister for Home be pleased to state the number of days in each of the following years when an assembly of five or more persons was banned under Section 144, Cr. P. C. in Karachi, Hyderabad, Multan, Lyallpur, Lahore, Bahawalpur, Sargodha, Rawalpindi and Peshawar, separately ?

(ANSWER NOT PLACED ON THE TABLE)

ADJOURNMENT MOTIONS

DECISION OF THE GOVERNMENT TO RESERVE 15% OF PLOTS IN THE URBAN DEVELOPMENT SCHEMES OF IMPROVEMENT TRUSTS IN THE PROVINCE FOR ALLOTMENT AT THEIR DISCRETION.

Mr. Speaker : Now, we will take up adjournment motions and the first one is by Khawaja Muhammad Safdar.

Khawaja Muhammad Safdar : I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely, the decision of the Government to reserve 15% of the plots in all the Urban Development Schemes of the Improvement Trusts of the Province, for allotment of the same at their discretion, which will inevitably result in favouritism, nepotism and corruption. This decision of the Government has caused widespread discontentment in the public mind.

وزیر بنیادی جمہوریت (میاں محمد یاسین خان وٹو) - جناب والا -
میں اس تحریک کی مخالفت کروں گا قانونی طور پر بھی اور واقعاتی طور پر
بھی - قانونی طور پر تو یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے تعصب کی سیاہ
عینک کی وجہ سے اس کو اپنا رنگ دینے دیا ہے ورنہ یہ تو بے حد معصوم
سی بات ہے ۔

جناب والا - ابھی ایک فیصلہ ہوا ہے اور خواجہ صاحبہ کہتے ہیں
کہ یہ فیصلہ چونکہ ایسا ہے جس میں حکومت کو اختیار حاصل ہے لہذا
یقینی طور پر کہنا پڑتا ہے کہ یہ favouritism ہے nepotism ہے یا
corruption ہے ۔ یہ بالکل نا درست ہے ۔ یہ premature ہے اور یہ اس بات
کی دلیل ہے ۔ جب اس طرف سے اعتراضات کئے جاتے ہیں تو اس کی کچھ
وجوہات ہوتی ہیں اور جو کچھ کہا جاتا ہے اس میں فاضل نمبران کی
خواہشات کا رنگ ہوتا ہے۔ واقعاتی طور پر فاضل نمبران کے لئے فریاد ہے کہ

جتے شہری ترقیاتی ادارے ہیں مثلاً Improvement Trusts ہیں۔ ان تمام میں ۱۵ فیصد پلاٹ ریزرو کر دئے گئے ہیں۔ اور یہ حکومت کے اختیار میں دئے گئے ہیں۔ میں فاضل ممبر کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں۔

رانا پھول محمد خان - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب والا - محترم وزیر بنیادی جمہوریت نے فرمایا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے ممبران کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے۔ اس سے ہاؤس کی insult ہوتی ہے۔ ہم تو جو کچھ کرتے ہیں قوم کی خواہشات کے مطابق کرتے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق نہیں کرتے۔

وزیر بنیادی جمہوریت - غالباً معزز ممبر نے لابی میں سے مجھے بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ میں نے تو دوسری طرف کے ممبران کے لیے کہا ہے۔

رانا پھول محمد خان - تو پھر میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔

وزیر بنیادی جمہوریت - آپ پہلے ساری بات سمجھ لیا کریں۔

ملک محمد اختر - ہوائنٹ آف آرڈر - وزیر صاحب نے غالباً یہ فرمایا ہے کہ ہم coloured glasses میں سے دیکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس طرح تو وہ بڑے خوشنما دکھائی دیتے ہیں اور ہماری آنکھوں میں آغماٹا جاتے ہیں۔

مسٹر سپیکر - یہ کوئی ہوائنٹ آف آرڈر نہیں۔

وزیر بنیادی جمہوریت - صرف اتنا کہنا ضروری نہیں۔

مسٹر محمود اعظم قازوقی - ہوائنٹ آف آرڈر - وٹو صاحب نے فرمایا ہے کہ انہوں نے وہ بات دوسری طرف کے ممبران کے لئے کہی ہے اپنی طرف کے ممبران کے لئے نہیں - یہ عجیب ہے کہ اس طرف کے ممبران کے لئے کوئی بات ہو تو وہ Contempt of House ہو جاتی ہے لیکن وہی بات ان کی طرف ہو تو وہ Contempt of House نہیں ہوتی -

مسٹر سپیکر - میرے نزدیک تو کوئی فرق نہیں - رانا پھول خان کے نزدیک شاید کوئی فرق ہو -
 وزیر بنیادی جمہوریت - اگر وہ اس بات پر مصر ہیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ ہر بات میں ہستی کا اظہار ضرور کرتے ہیں ان سے تمہری استدعا ہے کہ وہ ایوان کی عظمت کا ضرور خیال رکھا کریں -
 وہ اصل بوجھ بھونٹے اداروں میں رہے ہیں اسی لئے ان کو چھوٹی باتیں بگڑنے کی عادت ہے اب انہیں اس ایوان کی عظمت کا خیال رکھنا چاہئے -

جناب والا - خواجہ صاحب کی تحریک التوا کے متعلق یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے یہ جو فرمایا ہے کہ ۱۵ فیصد پلاٹ تمام Improvement Trusts میں مخصوص کر لیے گئے ہیں - واقعاتی طور پر نادرست ہے کیونکہ کے ڈی اے میں پہلے ۱۰ فیصد تھے اب وہاں ۱۵ فیصد کر دیے گئے ہیں - اور اسی طرح باقی Improvement Trusts میں بدستور ہیں - لاہور اور راولپنڈی پر یہ تناسب لاگو نہیں - ان کی ہوزیشن اور ہے - وہاں ۳ فیصد مخصوص کئے جاتے ہیں باقی چیکھوں پر ۱۵ فیصد وغیرو

کئے جاتے ہیں۔ یعنی بقایا ۰۲ فیصد پلاٹ اور ۱۵ فیصد پلاٹ نیلام عام میں فروخت کیے جاتے ہیں۔ حکومت یہی چاہتی ہے۔ اور ایسا ہی کرتی ہے۔ کہ عوام کے ہر طبقہ کا خیال رکھا جائے۔

خواجہ محمد صفدر۔ آپ کا اعتراض کیا ہے۔ میں سمجھ نہیں سکا۔ آپ تو تقریر کر رہے ہیں۔

Mr. Speaker: This adjournment motion is factually not correct.

وزیر بنیادی جمہوریت۔ جب آپ کوئی اعتراض فرماتے ہیں تو آپ کے اعتراض کے ساتھ تقریر بھی ہوتی ہے۔

جناب والا۔ عرض یہ ہے کہ واقعتی طور پر یہ دونوں باتیں ناخردت ہیں کیوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ تمام ۱۵ فیصد پلاٹ مخصوص کئے چلتے ہیں حالانکہ دو جگہوں پر ۴ فیصد پلاٹ مخصوص کئے جاتے ہیں اور باقی جگہوں پر ۱۵ فیصد کئے جاتے ہیں۔ اور یہ حکومت کے اختیار میں ہوتے ہیں۔

خواجہ محمد صفدر۔ میں نے کہاں کہا ہے کہ حکومت تقسیم کرتی ہے میں نے یہ کہا ہے۔

“For the allotment of same at their discretion.”

وزیر بنیادی جمہوریت۔ تمام پلاٹ Improvement Trusts کی تحویل میں ہیں۔ حکومت کی تحویل میں نہیں ہیں۔ ایسا کیوں کیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ملک کے بے روز شہریوں کے تمام طبقات کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔

Mr. Speaker : Shouldn't we leave it till the general discussion on the general budget ?

وزیر بنیادی جمہوریت - یہ تو آپ کے اختیار میں ہے جس طرح چاہیں اس تحریک التوا کو dispose of کریں - میں چاہتا تھا کہ حکومت کی پالیسی کے متعلق عرض کر دوں -

Mr. Speaker : In a very brief manner.

وزیر بنیادی جمہوریت - حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ عوام کی بہتری اور اس کے مفاد کے لیے .۷ فیصد اور ۸۵ فیصد پلاٹ نیلام عام میں فروخت کیے جائیں تا کہ ان اداروں کے ترقیاتی پروگرام جاری رہیں اور جو لوگ نیلام عام میں قطعاً اراضی نہ خرید سکیں مگر ان علاقوں میں رہنا چاہیں ان لوگوں کو یہ پلاٹ دئے جا سکیں -

جناب جہاں ۱۵ فیصد مخصوص کیے گئے ہیں وہاں ۸ فیصد کے - ڈی - اے یا امپروومنٹ ٹرسٹ کے اختیار میں ہے اور ۷ فیصد حکومت کے اختیار میں ہے - اور جہاں ۳ فیصد مخصوص ہیں وہاں ۱۰ فیصد سول سرکاری ملازمین کے لیے ہیں - اور ۱۰ فیصد فوجی ملازمین کے لیے ہیں اور ۱۰ فیصد عام کوٹہ میں مخصوص ہیں - اور ہر کوٹہ میں سے دو دو فیصد حکومت کے اختیار میں ہے باقی جو ہیں وہ مقامی ادارہ کے اختیار میں ہے اور جناب والا - اس کے لیے یہ بنیاد بنا دی گئی ہے کہ جو لوگ نیلام عام میں پلاٹ نہیں خرید سکتے ہیں ان کو یہ تحفظ دیتے ہوئے پلاٹ دئے جائیں گے -

میجر محمد اسلم جان - جناب والا - منسٹر صاحب نے فرمایا ہے - کہ راولپنڈی میں ۳ فیصد مخصوص کیے گئے ہیں مگر انہوں نے یہ نہیں

بتایا کہ ان کی تقسیم کس طرح ہوگی ؟

Mr. Speaker : Please put a question about that.

وزیر بنیادی جمہوریت - جناب والا - میں یہی عرض کر رہا تھا - جناب والا - افسوس یہ ہے کہ جب فاضل ممبر اپنا سوال ترتیب دیتے ہیں تو پھر یہ نہیں غور فرماتے کہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں میں عرض کر رہا تھا کہ اس ۳ فیصد میں سے ۱۰ فی صد سول سرکاری ملازمین کے لیے اور ۱۰ فیصد فوجی ملازمین کے لیے اور ۱۰ فیصد عام discretion کے لیے ہوں گی ان میں سے categorywise جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے آٹھ ٹھ فیصد متعلقہ ادارہ خود الاٹ کرے گا اور دو فیصد ہر ایک میں سے حکومت کے disposal پر ہوگا یہ پالیسی حکومت کی ۳ فیصد کے بارے میں ہے اور جہاں ۱۵ فیصد ہے تو اس کے بارے میں ۸ فیصد مقامی ادارہ کرے گا اور ۷ فیصد خود حکومت کرے گی اور یہ عوام کے بہترین مفاد کے لیے کیا گیا ہے -

خواجہ محمد صفدر (سیالکوٹ-۱) - جناب والا - میں نے جناب وزیر صاحب کی تقریر دل پذیر سنی مجھے حقیقت میں اعتراض یہ نہیں ہے کہ حکومت ۷ فیصد یا ۷ فیصد یا ۸۵ فیصد نیلام کرے یا ۱۵ فیصد ماتحت اداروں کو دے دے میرا اعتراض یہ ہے کہ حکومت بڑے بڑے افسروں کو زمینیں تقسیم کر رہی ہے - جہاں تک افسروں کو پلاٹ دینے کا تعلق ہے میرے علم میں یہ بات ہے کہ جو افسران تین تین چار چار ہزار روپے تنخواہ پاتے ہیں ان کو مسترے داسوں پر یہ پلاٹ سپیا کئے جاتے ہیں مگر جو سو سو اور پچاس پچاس روپے پانے والے ہیں ان غریب ملازموں کو اس قسم کے پلاٹ نہیں دئے جاتے ہیں پہلا میزا یہ اعتراض ہے دوسرا میرا اعتراض

یہ ہے کہ یہ اپنی صواب دید استعمال کرتے ہوئے اکثر پلاٹ وہ بھی یہ اپنے دوستوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اس discretion نے scandal کی صورت اختیار کر لی ہے یعنی ایک ہی شخص نے اپنے نام پر بھی پلاٹ حاصل کیا پھر اپنی بیوی کے نام پر اور پھر اپنے بیٹے کے نام سے پلاٹ حاصل کیا اور یہ محض ان کی مہربانی کے باعث ہے کہ اس نے تین تین پلاٹ حاصل کر لیے۔ جہاں تک نیلام کی پالیسی کا تعلق ہے مجھے اس سے بھی اختلاف ہے۔ نیلام میں دراصل وہ لوگ پلاٹ خرید سکتے ہیں جن کے پاس رشوت سنگنگ یا بلیک مارکیٹ یا ناجائز منافع آندوزی سے دولت اکٹھی ہوئی ہو اور جنہوں نے جائز ذرائع سے پیسہ کمایا ہے وہ نیلام کے ذریعے کوئی پلاٹ نہیں خرید سکتے۔ میری رائے میں ان کی ساری پالیسی *X X X پر مبنی ہے۔

Minister for Basic Democracies : Sir, this is unparliamentary.

Khawaja Muhammad Saffar : This is not unparliamentary.

چھوڑئیے ان باتوں کو اور آپ تشریف رکھئے۔

Minister for Basic Democracies : The Member is not the judge. I have pointed it out to the chair. It is not exactly the word which is unparliamentary but it is the very context of the speech which has made it unparliamentary. Final authority to judge this is Mr. Speaker himself.

خواجہ محمد صفدر۔ اگر جناب سپیکر کہیں تو میں۔۔۔

Mr. Speaker : That word is expunged from the proceedings of the Assembly.

خواجہ محمد صفدر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کچھ

کیا جا رہا ہے یہ قطعی طور پر X X * مبنی ہے اسی لیے میری رائے یہ ہے اور میں جناب وزیر کی خدمت میں التماس کروں گا کہ ۱۰۰ فیصد پلاٹس کو آپ لوگوں میں قرعہ اندازی کے ذریعے تقسیم کریں اس طرح کوئی شخص بھی اپنی دولت کے زور پر کوئی پلاٹ نہیں خرید سکے گا۔ جس شخص کو ضرورت ہوگی وہ قرعہ اندازی میں اپنے نام کا ہرچہ دے دے گا اگر اس کا نام قرعہ اندازی کے ذریعے نکل آتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو پلاٹ مل جائے گا اور اگر نہیں نکلتا ہے تو کوئی بات نہیں دراصل میں اسی چیز کو زیر بحث لانا چاہتا ہوں۔

Mr. Speaker : In view of the statement made by the Minister for Basic Democracies, the motion as worded, does not contain actual and true facts. Hence it is ruled out of order.

Motions No 10, 11 and 38 will be taken up on the 6th May, 1968.

**FAILURE OF THE PROV. GOVT. TO GIVE LAND TO CHASHMA BARRAGE
EVICTEE LAND OWNERS**

Mr. Speaker : Next motion No. 12, by Khawaja Muhammad Safdar.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir, I beg ask for leave of the House to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely, the failure of the Provincial Government to give land as compensation to the Chashma Barrage evictee land owners, has caused widespread discontentment in the Province.

وزیر بحالیات (مسٹر غلام سرور خان) - Opposed جناب صدر - اس ایڈجورنمنٹ موشن کے متعلق میری صرف اس قدر عرض ہے کہ گزشتہ سیشن

**Expunged as ordered by the Speaker.*

میں بھی یہی سوال کسی اور شکل میں الٹا یا گھٹا تھا لہذا، یہ مسئلہ پرانا ہے اور تازہ مسئلہ نہیں ہے اس لیے یہ recent occurrence نہیں ہے۔ اس کے علاوہ زمین جو حاصل کی جاتی ہے اس کے متعلق حکومت قانونی طور پر ہرگز پابند نہیں ہے کہ وہ زمین کے بدلے میں ان لوگوں کو زمین دے۔ حکومت اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے کہ جہاں زمین مل جائے اس کو دے دی جائے لیکن قانونی طور پر حکومت پابند نہیں ہے کہ زمین پیدا کر کے دے۔ الٹہ میں خواجہ صاحب کی تسلی کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت بہت سنجیدگی سے اس بات پر غور کر رہی ہے اور امید ہے کہ شاید ان لوگوں کے لیے زمین حاصل ہو جائے۔ اس کا بس منظر یہ ہے کہ کوئی ایک لاکھ ایکڑ سے زیادہ رقبہ چشمہ بیراج میں آجائے گا۔ جس سے ۲۹ گاؤں متاثر ہوں گے لیکن فی الحال سوال صرف ۴ گاؤں کا ہے جس کے متعلق ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس معاملہ کو کافی وقت سے زیر غور لائے ہوئے ہیں امید ہے اس میں کامیابی ہو جائے گی اور ان لوگوں کی تسلی ہو جائے گی۔ اس سے اگر خواجہ صاحب کی تسلی ہو گئی ہے تو مجھے امید ہے وہ اس کو واپس لے لیں گے اور اگر وہ اس پر اصرار کریں گے تو پھر ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔

خواجہ محمد صمد - جناب میں محترم وزیر مال کا شکرگزار ہوں کہ وہ اس مسئلے کے متعلق سنجیدگی سے غور فرما رہے ہیں میں ان کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ ان لوگوں کے لیے اگر خود میاںوالی کے ضلع میں۔ بھکر تحصیل میں یا دوسرے علاقوں میں انتظام کریں تو اراضی مہیا ہو جاوے تو زیادہ مناسب ہو گا۔ میری اطلاع کے مطابق ان علاقوں میں

گورنمنٹ لینڈ ہے اگر وہاں ان کو زمین دے دی جائے تو وہ اپنے ضلع ہی میں رہ جائیں گے اور اس طرح وہ dislocate نہیں ہوں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اس تحریک کو press نہیں کرتا۔

Mr. Speaker : The motion is not pressed.

Mr. Speaker : Adjournment motion No : 13. It is from Mr. Hamza.

(a pause)

Mr. Speaker : We pass on to the next adjournment motion. That is again from Mr. Hamza.

مسٹر حمزہ (لائل پور)۔ جناب سپیکر۔ میری دقت یہ ہے کہ اس سے پہلے ایوان میں سیکریٹریٹ سٹاف سے اس کی نقل مل جاتی تھی اس لیے میں نے اپنے پاس اس کی نقل نہ رکھی۔ آج میں کوشش کرتا رہا ہوں لیکن نقل دستیاب نہیں ہوئی۔ یہ سیکریٹریٹ کی ذمہ داری تو نہیں لیکن عموماً کاہی مہیا ہو جایا کرتی تھی۔

مسٹر سپیکر۔ حمزہ صاحب زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ آپ کے اپنے پاس ٹائپ شدہ نقل موجود ہو۔

The Member should not rely on the Assembly Secretariat that they should provide you with a copy.

کیوں کہ اس بنا پر نیشنل اسمبلی میں بھی ایک دو مرتبہ موشن مسترد ہوئے ہیں اور روانگ دی گئی کہ کاہی مہیا کرنا اسمبلی سیکریٹریٹ کا فرض نہیں۔ آپ نمبر اسمبلی سیکریٹریٹ سے لگوا لیا کریں تاکہ آپ کو سہولت ہو۔ اب آپ نمبر ۱۴ کی تحریک کیجئے۔

OUTBREAK OF CHOLERA EPIDEMIC IN MULTAN

Mr. Hamza : I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely, the utter failure of the local bodies department to keep Multan clean and tidy which has resulted in the outbreak of Cholera epidemic there and has thus endangered the lives of all West Pakistanis. The news of the outbreak of this disease there was published in the daily Nawa-i-Waqt dated 16-4-1968. (*Interruptions*)

Minister of B.D. & Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo): Sir, the motion is opposed both on technical and factual grounds.

Sir, it is absolutely baseless and without foundation that there are insanitary conditions in Multan city. On the other hand the sanitation of the town has always remained quite satisfactory. As such it cannot be said that the spread of Cholera was due to the failure of the Local Government to keep Multan neat and tidy.

Cholera cannot occur unless and until the specific germ i.e. cholera vibrio is brought by a human carrier to a place. The Health Department of the Government of West Pakistan has held investigations to ascertain the cause of the spread of Cholera; and as a result thereof it was found that the specific germs of cholera were imported from probably India either through air or sea route. The classical type inaba of the cholera vibrio isolated in Multan is the same as found in India.

As regards the allegation, it is again incorrect that the rate of death was one hundred upto 16-4-1968. The actual number of deaths which occurred upto 16-4-1968 which can be based as reference that appeared in Daily Nawa-i-Waqt was only eleven. Even upto 27-4-1968 the total number of deaths due to this disease is 36 in both the isolated hospitals and camps i.e. Municipal Infectious Diseases Hospital and Nishtar Camp.

خواجہ محمد صفدر - جو گھروں میں مر گئے ان کی تعداد ؟

وزیر بلدیات - وہ اس میں شامل نہیں ہے -

So far as the arrangements to control the spread of cholera are concerned, all the necessary measures were taken well in time to the entire satisfaction of the Health Department of the Government of West Pakistan, with the result that within a week's time the whole of the town was inoculated and the disease was kept under control for the last three days (when we received this information) there has been no death in the Municipal Infectious Diseases Hospital Multan.

I received it two days back.

Under these circumstances it should be ruled out of order. Technically speaking it cannot be said to be a specific matter or of recent occurrence. Therefore, Sir, both on technical and factual grounds this adjournment motion deserves to be ruled out of order.

مسٹر حمزہ (لائپور - ۶) - جناب سپیکر - جناب وزیر بلدیات نے یہ فرمایا ہے کہ محکمہ صحت کی یہ رائے ہے کہ اس مرض کے جراثیم ہندوستان سے درآمد ہوئے یا ہندوستان سے یہاں پہنچ گئے۔ آپ کو علم ہو گا کہ محکمہ صحت کا حوالہ دینا مناسب نہ تھا کیونکہ جب یہ وبا ملتان میں پھوٹی تو وہ اس کو ہیضہ کی وبا قرار دینے کے لئے تیار نہ تھی۔

وزیر بلدیات - اس کے متعلق فاضل وزیر صحت تفصیل سے جواب دے چکی ہیں۔

مسٹر حمزہ - جناب سپیکر - ایک عام مسجددار آدمی بھی جانتا ہے کہ ہیضے جیسی وبا عام طور پر ایسی جگہوں پر جنم لیتی ہے اور پھلتی ہے جہاں غلظت بہت زیادہ ہو۔ آپ کو یاد ہو گا کہ ملتان ایک ایسا ہد قسمت شہر ہے جہاں آج سے چند ماہ پیشتر کتے کا گوشت فروخت ہونے کے قصے سننے گئے تھے اور اسی شہر میں اب ہیضے کی وبا پھوٹی اور وہ ملتان جو گرد و غبار اور کڈا گروں اور کورستان کی وجہ سے مشہور تھا وہاں

انتہائی غلاظت اور بلدیاتی نظام کی خرابی کیوجہ سے یہ وبا پھوٹی اور وہاں جنم لیا اور اس حد تک کہ مغربی پاکستان کی تمام کی تمام آبادی کی زندگی کو خدشہ میں ڈالا۔

مسٹر سپیکر - کیا آپ اس رائے سے متفق نہیں ہیں جو ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ نے دی ہے کہ یہ بیماری غلاظت سے نہیں بلکہ جراثیم سے پھیلتی ہے۔ مسٹر حمزہ - میں کون سی بات کو تسلیم کروں۔ وہ تو اس مرض کو ہیضہ قرار دینے کے لئے تیار نہیں تھے۔ جناب وزیر بلدیات نے محض اپنی ذمہ داری ٹالنے کے لئے محکمہ صحت کو ڈھال کیطور پر استعمال کیا ہے۔

وزیر بلدیات - میں آپ کی خدمت میں قانونی طور پر عرض کرتا ہوں۔ یہ جو رائے محکمہ صحت نے دی ہے اس کے متعلق ماہرین سے دوبارہ پوچھا گیا تو انہوں نے اتفاق کیا کہ واقعی محکمہ صحت کی یہ رائے ہے جو میں نے عرض کی۔

مسٹر حمزہ - جناب سپیکر - میں نے جو بیان دیا تھا کہ یہ وبا انہی ایام میں ملتان میں پھوٹی اور یہ بڑی بدقسمتی کی نشانی ہے۔ ایک جانب تو ہماری حکومت جشن مناتی ہے اور ملک میں ۱۰ سالہ ترقی کے دور کی خوشی میں گیت الاپے جا رہے ہیں اور دوسری جانب ترقی کا یہ عالم ہے کہ صوبہ میں ہیضہ جیسی بیماریاں پھوٹ رہی ہیں۔

وزیر بلدیات - ناضل ممبر کا اعتراض ہے کہ بی ڈی کے محکمہ کی کوتاہی کیوجہ سے ملتان میں صفائی نہیں ہے اور ہیضہ پھوٹ پڑا ہے۔

۱۹۶۸ء وہ جشن کیوجہ سے سمجھتے ہیں کہ تکلیف ہوئی تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جشن اور میلے تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔

مسٹر حمزہ - اس میں جشن کی غلطی بھی موجود ہے اور آپ کا ہجوم سے اس حد تک تعلق ہے کہ اس وبا کے ہونے ہوئے بھی آپ جشن مناتے ہیں۔

وزیر بلدیات - یہ تو جناب ان کا محض خیال ہی ہے۔

Mr. Speaker: In view of the statement given by the Minister for Basic Democracies the motion as worded is not factually correct.

It is, therefore, ruled out of order.

Mr. Speaker: Khawaja Sahib, motion No. 17 is again for the Home Department; let it be for the 6th. Motions No. 18, 20, 25, 27 and 118 will also be taken up on the 6th. Adjournment Motion No. 23 is for the Health Department regarding recruitment of doctors through the Public Service Commission.

Minister of Law: Sir, I am here to attend to it.

Mr. Speaker: Mr. Hamza may move it.

مسٹر حمزہ - جناب سپیکر - کیا آپ نے نمبر ۲۱ کی اجازت نہیں دی۔

مسٹر سپیکر - اس کی اجازت نہیں دی گئی۔

مسٹر حمزہ - جناب سپیکر - کیا ہی بہتر ہوتا اگر یہ تحریک التوا ایوان میں آجاتی تا کہ ہم یہ بتا سکتے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے شہر لائل پور کی پانچ لاکھ کی آبادی ہے اور حکومت پچھلے دو سال سے وائس چیئرمین کا الیکشن نہیں کروا سکی۔

**FAILURE OF THE GOVERNMENT TO APPOINT DOCTORS IN HOSPITAL
AND DISPENSARIES LYING VACANT IN THE PROVINCE**

Mr. Speaker : Please move adjournment motion No. 23.

Mr. Hamza : Sir I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of urgent and recent public importance, namely, the failure of the Government in appointing nearly 500 doctors in various hospitals and dispensaries in the province, which are lying vacant, mainly due to the decision of the Government to stop *ad hoc* appointments by the Health Department and recruiting the doctors through the Public Service Commission. This is causing great hardship to the general public. This situation was disclosed by a statement issued by Khawaja Muhammad Safdar in the daily *Nawai Waqt*, Lahore, dated 16th February, 1968.

Minister of Law (Mr. Allah Bachayo Ghulam Ali Akhund) : I oppose this adjournment motion Sir. The grounds of opposition are these. In the first place, this is not factually correct that vacancies of 500 doctors are there in the province.

Khawaja Muhammad Safdar : How many are there ?

Minister of Law : The position is that normally recruitment in Class II and Class I Medical Service is to be done by the Public Service Commission. This is a statutory obligation. Sometime back perhaps some *ad hoc* appointments were resorted to but that did not work well because *ad hoc* appointments were made and subsequently when the files were put up before the Commission for approval, persons who had joined service were not found upto the mark on account of the disapproval of the Commission. Reversions again created problems because in the meantime some of the candidates had grown over-aged, some of them were not fit to be taken. Therefore, it was decided to put an end to *ad hoc* appointments. But simultaneously an *Ad-Hoc* Committee has been appointed and recently 360 posts of lady doctors and male doctors have been filled up in consultation with the Commission. The real trouble is this that most of the doctors do not join service when they are posted outside big cities, and consequently Government is not able to post everybody in a big city. Most of them like to be posted in Karachi, Lahore and other big cities. Now 360 posts have recently been filled and many of those posted have not joined. If

they join there will be no difficulty, but this is a practical difficulty. The doctors should themselves come forward. Government is doing its best to fill up the jobs and they have recently issued orders.

Mr. Speaker : How many posts are still lying vacant in the province ?

Minister of Law : I am not able to say that. My instructions are that 360 posts were there for which recruitment has been made, orders have been issued and some of them have not joined, and for that the blame cannot lie on the Government because all that was possible has been done. Public Service Commission has been consulted, every week the Commission sits for the purpose of *ad hoc* consultation, and every Wednesday the Chairman of the Commission calls the health department authorities and they sit together. The present Chairman, Mr. I.U. Khan, is very anxious to clear up all the arrears of work. If the young graduates do not come forward and they don't join the service, there is no blame on the Government. The Government is trying to improve the conditions of service by giving them more pay but that would mean consultation with the Finance Department and more funds, for there is paucity of funds also. In any case the matter for giving them more pay is under consideration. All that is possible has been done by Government and there is no failure on the part of the Government to appoint these people. What is more, some of the posts are of the teaching staff, and people in the dispensaries are getting all the medical aid that is available. The people or the patients are not suffering on account of this. This cumulative effect is . . .

Khawaja Muhammad Safdar : Dispensaries are manned only by dispensers.

Minister of Law : If the doctors do not come forward, then it is the doctors who are to blame and not the Government.

Khawaja Muhammad Safdar : It is the Government to blame.

Minister of Law : Youngmen, who come out of the Colleges, do not work in the *mofussil* areas (*interruptions*). We are trying to make the terms and conditions of service more attractive by giving them more pay. The country is poor and it cannot afford. In case you want to give them ideal salary, it will lead to taxation and it is not desirable because people cannot afford to pay more taxes. It is a

complicated question. In any case, there is no failure on the part of the Government to make appointments. Appointments have been made, orders have been issued. Some of the doctors have not joined, therefore, there is no failure on the part of the Government.

Factually the motion is not correctly worded, and on the basis of facts, the motion should be ruled out of order.

Mr. Speaker : So far as the delay in appointment is concerned, is it not the responsibility of the Government, and whatever is done by the Public Service Commission is that also not the responsibility of the Government ?

Minister of Law : It is like this. The Government, as I submitted earlier, did make *ad hoc* appointments but consultation with the Commission is necessary. At the stage of consultation, it was found that some of the persons, who had been appointed, were not upto the mark. The Commission did not approve of their appointment. Now on account of that a situation arose whereby the persons, who were appointed on *ad hoc* basis had to be reverted. Now reversion created further problem because the candidates, who had become overaged, could not get a job anywhere else.

Mr. Speaker : These are all the headache of the Government.

Minister of Law : In this particular case, as I have mentioned, failure of the Government to appoint 500 doctors is not proved. Doctors have been appointed, they have been recruited, orders have been issued.

Mr. Speaker : But the Minister has not given actually the number of posts, which are lying vacant. Of course the posts are lying vacant. How can we presume that this position is wrong ?

Minister of Law : Kindly see the wording of the motion. The motion seeks the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and of urgent public importance, namely, failure of the Government in appointing nearly 500 doctors in various hospitals and dispensaries in the province.

Therefore, what is being discussed is the failure of the Government to

appoint Doctors ; which is not there. Appointments have been made, orders have been issued and, what is more, these 500 posts have not fallen vacant overnight. This is a continuous process and with the passage of time these posts have fallen vacant. They have been recruited through the Public Service Commission,

Further, the motion seeks to discuss—

“ . . . lying vacant mainly due to the decision of the Government to stop ad hoc appointments by the Health Department . . . ”

Mr. Speaker : When was this order issued ?

Minister for Law : I think, it is about a year old. Ever since, the matter is referred to the Commission and the Commission either advertises or on ad hoc basis gives proposals to the Government in consequence of which orders are issued. This matter is not of recent occurrence.

مسٹر حمزہ (لاٹاپور—۶) - جناب سپیکر - میں نے حکومت پر بروقت ڈاکٹروں کی تعیناتی نہ کرنے کا جو الزام لگایا ہے جناب وزیر قانون صاحب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ صورت حال یہ ہے کہ ہمیں بلکہ تمام مغربی پاکستان کی آبادی کو یہ شکایت ہے کہ ہماری حکومت نے عارضی تعیناتیاں کرنا بند کر دیا ہے اور اس سے نتیجہ یہ برآمد ہوا ہے کہ ضرورت کے مطابق ڈاکٹروں کی تعیناتی نہیں کی جاتی سینکڑوں کی تعداد میں اسپتال خالی پڑی ہیں اور لوگوں کو طبی سہولتیں مہیا نہیں ہو رہی ہیں۔ جناب وزیر قانون صاحب بذات خود تسلیم کرتے ہیں کہ ۳۶۰ ڈاکٹروں کو تعینات کیا گیا ہے لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بتانا پسند نہیں کیا کہ ان ۳۶۰ ڈاکٹروں کی تعیناتی کب ہوئی۔ جب یہ بیان اخبار میں شائع ہوا اس وقت کئی اسپتال خالی پڑی تھیں۔ جناب سپیکر - حقیقت یہ ہے

کہ حکومت کے اپنے ہی فیصلے ہی بنا پر تمام مغربی پاکستان کی آبادی کو حکومت کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سے لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئیں اور بہت سے اس دنیا سے کوچ کر گئے جن کو طبی سہولتیں دینے کے لیے حکومت نے جو صورت حال پیدا کی ہے۔ میں اس کو زہرِ بھیت لانا چاہتا ہوں۔ اگر وزیر قانون صاحب فرماتے ہیں کہ جس وقت خبر شائع ہوئی اس وقت دو چار یا دس اسمبلیاں خالی پڑی تھیں تو قابلِ اعتراض نہیں لیکن اگر سینکڑوں کی تعداد میں اسمبلیاں خالی پڑی ہیں تو حکومت کا یہ معاملہ صحیح نہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس معزز ایوان میں یہ تحریک التوا پیش کرنے میں حق بجانب ہوں اور ایوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملہ کو بالاعلیٰ تحریک التوا کی صورت میں زبردستی لا سکے۔

Mr. Speaker : It has been stated by the Minister for Law that the orders banning the adhoc appointments were passed much before the last session of the Assembly. Therefore, it is not a matter of recent occurrence and, as such, I am constrained to hold this motion out of order but it is quite a serious problem and I hope that the Government would give very urgent attention to this matter.

Shahzad Muhammad Saifur : Thank you.

Mr. Speaker : Adjournment Motions No. 25, 26, 27 and 28 pertain to the Home Department and, therefore, these will be taken up on the 6th.

GASTRO ENTERITIS IN LABOUR

Mr. Speaker : Adjournment Motion No. 36.

Shahzad Muhammad Saifur : I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of

recent occurrence and urgent public importance, namely, Lahore is in the grip of gastro-enteritis but the Health Authorities seem to be oblivious of the spread of the infection. The Health Authorities are doing little to stop the spread of contagious disease and do not efficiently recognise the fact. Many deaths have been reported. The negligence of the Health Department of the West Pakistan Government to direct Lahore Municipal Corporation to take necessary measure has exposed the inhabitants of Lahore to the danger of death. The news has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Minister for Law (Mr. Allah Bachayo Ghulam Ali Akhund) : I oppose this motion because the facts mentioned in it are not correct. It is wrong that Lahore is in the grip of Gastro Enteritis. It is also wrong that the Department of Health is oblivious of the spread of this trouble and that nothing is being done to stop anything that may travel into Lahore.

The facts are that Lahore City is not at all in the grip of this disease as has been alleged. Cholera or some trouble broke out in Multan and immediate steps were taken to see that the disease does not spread to Lahore. All the avenues to Lahore City from Multan were guarded and staff was posted to inoculate all the passengers whether they come by rail, road or by air. Inoculation campaign within the city was introduced and 31 centres were established. These centres are now being increased to 90 in number so that the population as a whole is covered by cholera inoculation. Even, still more to save time, though there is no cholera epidemic in Lahore, 4 jet injectors have been flown in to carry out speedy inoculations. The Infectious Diseases Hospital was reorganized by posting three Assistant Professors of the Medical College, Lahore and one Class I Officer for general administration. Besides, the Municipality have started a vigorous cleanliness campaign so that cholera epidemic may not spread here. No attempt has, however, been made to conceal the disease and all that is possible has been done. Uptill now 3,55,259 people have been inoculated and within a very short time the entire population will be covered. Ample vaccine supply is available and the private practitioners also are being given liberal and free vaccine for use. Only one case of death has been reported.

So, Sir, these are the facts. Neither the Health Department is sleeping over it nor are they oblivious of it.

Mr. Speaker : Is the Member not satisfied with the statement made by the Minister for Law ?

Malik Muhammad Akhtar : No, Sir. I will refer to the statement of an eminent citizen of Lahore, rather an authority on the medical side, published in the Pakistan Times. It says-

“These facts came to light at a Press Conference addressed by the Executive Committee of the Lahore Branch of the Pakistan Medical Association. Those who addressed the Press Conference included top medical practitioners and eminent doctors, some of them working in the Government.

Lahore is in the grip of gastro-enteritis, whooping cough and measles, but the Health authorities seem to be oblivious of the spread of these infections.

General practitioners state that 40 to 60 per cent of cases being treated by them are those of gastro-enteritis. The highest incidence is said to be among children. Thirty-three per cent of patients in the children's ward of the Mayo Hospital are suffering from this disease.

Doctors are of the view that it is impossible to control gastro-enteritis as the sources of the disease, namely impure water and milk supply, open and putrifying garbage heaps and stinking sewerages are a standing health menace.”

Sir, not only that but they have added a rough estimate saying that there are 3 to 5 thousands cases of whooping cough in the city and about measles.....

Mr. Speaker : Does the Member think that this statement is more authentic and reliable than that of the Minister ?

Malik Muhammad Akhtar : Sir, unfortunately this was not contradicted by the Health authorities. Of course, they have provided now the Law Minister with facts, but that seems to be an after-thought. Lahore has got many troubles and the Government is not prepared to acknowledge that the disease is there. They are prepared only to assert that they have vaccinated so many.....

Mr. Speaker : Has the Member got the proof that the disease is there in the city ?

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I have given sufficient facts...

Mr. Speaker : As the facts have been denied by the learned Minister for Law, the motion is ruled out of order.

Minister for Labour (Malik Allah Yar Khan) : Sir, I request that adjournment motion No. 16, may kindly be taken on

Mr. Speaker : That is not with me. Has the Minister not received intimation about that motion on which I have already given my consent.

Minister for Labour : No Sir.

GOVERNMENT INSTRUCTIONS TO CEMENT FACTORIES TO STOP SUPPLIES TO
PUBLIC FOR INDEFINITE PERIOD

Mr. Speaker : Next motion No. 37 by Malik Muhammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and urgent public importance, namely, the West Pakistan Government has issued instructions to the cement factories in the Province to stop supplies to the public for indefinite period whereby great financial loss has been caused to the persons who have undertaken construction of buildings. The news has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Minister for Law (Mr. Allah Bachayo Ghulam Ali Akhund) : Sir, I request that this motion may kindly be taken up tomorrow.

Mr. Speaker : We will take up this adjournment motion tomorrow. The rest of the motions will also be taken up tomorrow.

(At this stage Mr. Senior Deputy Speaker, Syed Yusuf Ali Shah occupied the chair.)

ORDINANCES

THE WEST PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT
AUTHORITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 1967*(resumption of discussion)*

Mr. Senior Deputy Speaker : The House will now resume discussion on the motion that the Assembly do approve of the West Pakistan Water and Power Development Authority (Amendment) Ordinance, 1967. Khawaja Muhammad Safdar may please resume his speech.

خواجہ محمد صفدر (سیالکوٹ - ۱) - جناب سپیکر - کل میں واہڈا سے متعلقہ ترمیمی آرڈیننس کے متعلق اپنی گزارشات اس معزز ایوان کے سامنے پیش کر رہا تھا اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ واہڈا اتھارٹی کے ذمے قومی تعمیر کا انتہائی اہم فریضہ ہے اور جیسا کہ محترم وزیر صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ اس وقت چیئرمین کے علاوہ دو ممبران کی بجائے اب ممبران کی تعداد تین کر دی گئی ہے اور دوسری اغراض کے علاوہ ایک غرض یہ بھی ہے کہ یہ نئے ممبر ماہر فن ہوں گے اور اس طرح واہڈا کو اپنی کارکردگی کا بہتر نمونہ پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ واہڈا نے قومی تعمیرات کے ان اہم شعبوں میں جس نااہلی کا ثبوت دیا ہے اسکی مثال شاید اس نااہل حکومت کے کسی دوسرے شعبے میں بھی نہیں ملتی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ واہڈا کے ذمہ تین کام ہیں۔ اسکے ایک کام کے متعلق تو اس ایوان میں بحث نہیں کی جاسکتی کیونکہ دراصل وہ مرکزی حکومت کے فرائض میں شامل ہے اور جو کہ واہڈا کو بطور ایک ایجنٹ کے سپرد کیا گیا ہے۔ میری مراد سندھ طاس کے منصوبے سے ہے۔ لیکن واہڈا کے ذمے دو اور کام ہیں جن کے متعلق

ہم یہاں کھل کر بات کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہیں - (۱) صوبہ کے آبی وسائل میں اضافہ کرنا اور (۲) صوبے میں جو اراضیات سیم اور تھور کی نذر ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں - ان کی بحالی بھی ان کے ذمے ہے - یعنی ان کی صرف یہی ایک ذمہ داری اتنی اہم ہے کہ اس پر اس صوبے کی تمام تر معیشت کا انحصار ہے -

جناب والا - آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس صوبے کی معیشت تمام تر زراعت پر ہے اور زراعت کسی صورت میں بھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک ہمارے پاس پانی کی فراوانی نہ ہو اور ہم اپنے پانی کے ذخائر کو درست طور پر استعمال نہ کر رہے ہوں - موٹی بات یہ ہے کہ جینک مٹی کو پانی کے ساتھ ملایا نہ جائے کچھ بھی تو پیدا نہیں ہو سکتا - تو اس لئے پانی کی فراہمی کی اہمیت کے پیش نظر چاہئے تو یہ تھا کہ یہ اتھارٹی جسکو کہ اس صوبے کی حکومت نے اور اس اسمبلی نے بے پناہ وسیع اختیارات دے رکھے ہیں - اپنے فرائض احسن طریق سے ادا کرتی - لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے - جیسے کہ میں نے لالیاں کھادر سکیم کی مثال دی ہے - اخباری اطلاعات کے مطابق اس مذکورہ سکیم میں دو سو تیرہ ٹیوب ویل نصب کئے گئے جن میں اٹھاس ٹیوب ویل مختلف وجوہات کی بناء پر یا تو ناکارہ ہو چکے ہیں اور یا پھر اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان کا پانی استعمال کیا جا سکے یہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کا پانی آبپاشی کے کام لایا جا سکے ان 88 ٹیوب ویلوں پر غریب قوم کا کم و بیش 11 کروڑ صرف ہوا ہے ان میں سے بعض ٹیوب ویل ایسے ہیں - جن کا پانی

قریب قریب سینڈر جیسا کہاری ہے۔ بہتر ہو گا جناب سپیکر کہ میں چند سطور ایک اختیار کی پڑھ دوں۔ میری اس اطلاع کا انحصار ”امروز“ مورخہ 5-مارچ، ”مشرق“ 5-اپریل، ”مشرق“ 6 اپریل، ”امروز“ 9-اپریل ”امروز“ 10 اپریل پر ہے۔ ”امروز“ مورخہ 9-اپریل کی چند سطور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس کے کالم نمبر 6 کی سرخی یہ ہے کہ ”کھادر ٹیوب سکیم میں مزید ٹیوب ویل ناکارہ ہونے والے ہیں۔ اس میں مزید ٹیوب ویل کی تعداد 88 ہو گی۔ یہ کروڑوں روپے کا نقصان اسلئے ہوا ہے کہ اس سکیم کے نفاذ سے پہلے زہر زمین پانی میں نمکیات کا تجزیہ نہیں کیا گیا“ دراصل اخبار نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کہ یہ ٹیوب ویل جو تقریباً 450 فٹ کی گہرائی تک کھودے گئے ہیں ان میں نمکیات کے اجزا اس قدر زیادہ ہیں کہ جس زمین کو بھی اس پانی سے سیراب کیا جائیگا وہ تھور کا شکار ہو جائیگی میں ٹیکنیکل باتوں سے ناواقف ہوں۔ لیکن جو کچھ میں نے ان سے اخذ کیا ہے وہ یہی ہے۔ اگر 0 لاکھ پانی کے اجزا میں زیادہ سے زیادہ دس ہزار نمکیات کے اجزا ہوں تو پانی آبپاشی کے قابل ہوتا ہے۔ اگر نمکیات کا یہ تناسب بڑھ جائے تو پانی آبپاشی کے قابل نہیں رہا۔ جوں جوں تناسب بڑھتا جائے گا توں توں وہ پانی آبپاشی کے لائق نہیں رہے گا تو اب صورت یہ ہو گی۔

Minister for Irrigation & Power (Makhdum Hamid-ud-Din): Sir, may I submit that such a discussion may be raised or can be properly raised either during the general discussion or by way of a Resolution. At least this measure which is a most simple measure and very specific and explicit in its terms and nature does not warrant such an all-out discussion and criticism for a general attack on WAPDA. Mr. Speaker, I would seek your guidance on this issue. He may be asked to be strictly relevant to the

motion before the House. He is discussing the Khaddar scheme and this and that and things which do not fall within the purview of the motion before the House.

خواجہ محمد صفدر - میں وزیر موصوف کی خدمت میں گزارش کرونگا کہ بندہ نواز مجھے یہ جو حق دیا گیا ہے میں اپنے حق سے دست بردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہوں - میری باتیں خواہ وزیر صاحب کو پسند ہوں یا نہ ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں.....

وزیر آبپاشی - آپ کی بات relevant نہیں ہے -

خواجہ محمد صفدر - relevant کیسے نہیں ہے - جناب سپیکر تو میرے ہم خیال ہیں - وزیر صاحب اس اتھارٹی کی ہشیت کو تبدیل کر رہے ہیں - تین ممبر کی بجائے چار ممبر کر رہے ہیں - ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم آپ کو بتائیں - یہ اتھارٹی نااہل ہے اب چوتھا ممبر شامل کرنے کے بعد بھی ان کی اہلیت میں کوئی اضافہ نہیں ہو گا - میں یہاں یہ ثابت کر رہا ہوں.....

Minister for Irrigation & Power : You are to be guided by the very scheme of the Rules of Procedure which always affords an opportunity to the defender.

خواجہ محمد صفدر - میں financial implications کے متعلق تو بات نہیں کر رہا ہوں - میں تو ان کی اہلیت کے متعلق بات کر رہا ہوں - میں اس اتھارٹی کی اہلیت کی بات کر رہا ہوں - میں اپنے حق کے اندر ہوں اس ایوان میں اس موقع پر یہ بات کرنے.....

وزیر آبپاشی - آپ مجھے یہ بتائیں کہ کھادر کی سکیم کے متعلق

آپ اتنی تفصیل سے کیوں بات کر رہے ہیں ؟

خواجہ محمد صفدر - یہ ہمارا درد سر نہیں ہے - آپ ہمیں جواب
دیں یا نہ دہیں یہ آپ کا کام ہے -

Minister for Irrigation & Power : He enjoys no entitlement to raise a discussion of this nature and according to Rule 148 he should be strictly relevant.

Khawaja Muhammad Safdar : I am strictly relevant.

بندہ نواز مجھے یہ عرض کرنی ہے - میں ابھی آپ کو سمجھانے دیتا
ہوں -

وزیر آبپاشی - خواجہ صاحب ان تین ممبروں کی inclusion پر جو کل
مختصراً تمہید فرمائی تھی اس میں وہ واہڈا کے Pay scales, salaries and Rules
سروسے کیلئے لے آئے - اسکے علاوہ انہوں نے کئی اور معاملات پر مثلاً
واہڈا ہاؤس کے expenditure اور اسکی آمدنی وغیرہ پر بحث فرمائی.....

خواجہ محمد صفدر - ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ بحث کیلئے
پیش کیا جائے گا -

وزیر آبپاشی - تو یہ جو اسٹنڈنٹ جو اس ایوان کے پیش نظر ہے میں
نہیں سمجھتا.....

Sir, the position was that I was on my legs when this Hon'ble House rose for the day and I, through my point of order, wanted to secure a clarification from the learned Chair because the Chair had given this ruling on the score that perhaps I had given some impression to the Chair that this measure was calculated to raise the efficiency of the Authority but that was not my contention and the Chair was about to make a pronouncement when the House rose for the day and the Ruling was not given.

.....مستر سینیئر ڈپٹی سپیکر۔ مخدوم صاحب کل اس بارے میں.....
 خواجہ محمد صفدر۔ جیسا کہ جناب والا میں نے عرض کیا.....

Minister for Irrigation & Power : Is it not a full-dress debate ?

حاجی سردار عطا محمد۔ ہوائنٹ آف آرڈر۔ جناب والا۔ مخدوم صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خواجہ صاحب کہتے ہیں۔ کہ کارکردگی ایسی بگڑی ہوئی ہے کہ ایک تار کی بجائے ۱۰ تار ہیں۔

Mr. Senior Deputy Speaker : This is not a point of order.

خواجہ محمد صفدر۔ جناب والا۔ محترم مخدوم صاحب کو اگر یہ خدشہ ہے کہ ان کو جواب کا وقت نہیں ملے گا تو میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انہوں نے ایوان میں تحریک پیش کی ہے کہ آرڈیننس زیر بحث کی تصدیق کی جاوے تو میں اس تحریک کی مخالفت کر رہا ہوں انکو میری تقریر کا جواب دینے کا قانوناً حق حاصل ہے وہ اپنی باری پر جواب ارشاد فرمائیں۔ میں تو جو باتیں واہڈا کے متعلق کہی جا سکتی ہیں وہ تو ضرور گہوں گا جناب والا میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر محترم وزیر صاحب بار بار میری تقریر میں مداخلت نہ کریں تو شاید تقریر مختصر بھی ہو اور اس میں کچھ لطف بھی پیدا ہو سکے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل وجہ اس 1½ کروڑ روپیہ کے نقصان کی یہ تھی کہ کھادر سکیم میں ٹیوب ویل کو نصب کرنے سے پہلے وہاں کے پانی کا کیمیائی معائنہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے لئے یہ دیکھا نہیں گیا تھا کہ اس پانی میں نمکیات کتنے ہیں یا دوسرے ضروری اجزا ہیں یا نہیں۔ ایشیارات کے تراشوں سے

یہ معلوم ہوتا ہے کہ محکمہ کے جس انجنیئر نے اس امر کی جانب افسران بالا کی توجہ دلائی کہ یہ ٹیوب ویل کام نہیں کر رہا ان سے جو پانی نکل رہا ہے وہ ایسا کھاری ہے کہ اس سے آبپاشی نہیں کی جا سکتی۔ اس کو ملازمت سے علیحدہ کر دیا گیا اس کو اس لئے چھٹی دی گئی ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ان ٹیوب ویلز پر جو روپیہ خرچ ہو رہا ہے وہ درست طور پر نہیں ہو رہا۔ میں محترم وزیر کے گھر کی قریب کی اطلاع انہیں دیتا ہوں۔ اگلے روز مجھے احمد پور شرقیہ ایک سیاسی دورے کے سلسلہ میں جانے کا اتفاق ہوا میں نے دیکھا کہ وہاں تمام ٹیوب ویل بند پڑے ہیں۔

وزیر آبپاشی و برقیات - وہ سیکنڈ ہینڈ ہونگے۔

خواجہ محمد صفدر - جی نہیں وہ نئے تھے۔ اسی طرح سکراپ کے ٹیوب ویلوں میں جو پائپ استعمال کیا گیا ہے وہ mild steel کا بنا ہوا تھا۔ وہ نمکیات کے اثرات سے خراب ہو گیا یا ہو رہا ہے۔ اس وقت وزیر صاحب پریشان نظر آتے ہیں اس لئے میں اختصار سے عرض کروں گا کہ جہاں تک پانی کی افزائش اور اراضیات کے reclamation کا تعلق ہے روپیہ تو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے مگر نتائج خرچ کے مقابلہ میں نہایت حقیر برآبد ہو رہے ہیں۔ اسکی وجہ واہڈا کے افسران اور اہلکاروں کی بددیانتی اور نا اہلی ہے۔ اس وقت ہم دس سالہ ترقیاتی دور کا جشن منا رہے ہیں اور جس سیکٹر کا میں اب ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ نہایت اہم ہے۔ میرا اشارہ بجلی کی طرف ہے۔ جناب والا۔ پنجاب کے بعض اضلاع میں ہمیں گھومنے پھرنے کا اتفاق ہوا ہے ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ جب کوئی کام خراب ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اسے ”واہڈا“ ہو گیا ہے۔ کیا یہ لفظ خرابی

کا مترادف لفظ بن گیا ہے یا ہم معنی لفظ بن گیا ہے۔

ایک ممبر - یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ کالا ہو گیا ہے۔

خواجہ محمد صفدر - نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ جناب والا۔
اب میں وہ باب یا Chapter کھولنا چاہتا ہوں جسے بجلی کا باب کہتے ہیں۔
جناب والا۔ پچھلے چند سالوں میں بعض بڑے بڑے بجلی گھر نصب کئے
گئے ہیں مثلاً ملتان۔ لائل پور۔ حیدر آباد، کوٹری اور مانگلا۔

وزیر آبپاشی و برقیات - اور وارسک بھی۔

خواجہ محمد صفدر - وہ تو پہلے زمانے کی بات ہے۔ وہ تو چل
رہا ہے۔ اگر آپ لگاتے شاید وہ بھی نہ چلتا۔ اب میں ملتان سے شروع کرتا
ہوں۔ ملتان بجلی گھر پر اس غریب قوم کا ۲۶ کروڑ روپیہ صرف ہوا ہے۔
اور یہ جس فرم سے بنوایا گیا ہے اس کا تجربہ بجلی گھروں کا صرف اتنا تھا
کہ ان کے اپنے کارخانہ میں صرف ایک بجلی گھر بھی تھا۔ وہ تو chemicals
کے manufacturers تھے ان کا بجلی گھروں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کا
نتیجہ یہ ہوا کہ defective planning ہوئی۔ defective construction ہوئی اور
پھر جب maintenance کی باری آئی تو وہ بجلی گھر بالکل برباد ہو گیا اور اس
کا ستیاناس ہو گیا۔ اس طرح ۱۱۶۶ کروڑ روپیہ کی قیمت کے دو ٹربائن اس
وقت تک ناکارہ ہو گئے ہیں۔ پچھلے سال جب بجلی کی کمی واقع ہوئی تو واپڈا
والوں نے غالباً ازراہ تفتن یا عوام کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کیلئے کہہ دیا کہ
یہ کمی دریاؤں میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہے۔ جب وارسک کے ہائیڈل
پراجیکٹ میں بجلی کی کمی ہوئی تو اتفاق سے یا اطلاع ملنے پر مسٹر غلام فاروق

وہاں چلے گئے اور حالات معلوم کئے۔ اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ ملتان پاور ہاؤس کی خرابی کی وجہ سے صوبہ میں بجلی کی کمی ہو گئی ہے۔ لیکن واہڈا والوں نے کہا تھا کہ دریاؤں میں پانی کی کمی کی وجہ سے بجلی سے ہمیں محروم ہونا پڑا ہے۔ ان کی یہ کوشش کیوں تھی وہ اس لئے تھی کہ یہ بات ڈھکی اور چھپی رہے۔ انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ جب ملتان میں ایک ٹربائن خراب ہوا تو کرفی توجہ نہیں دی گئی اور جب دوسرا خراب ہوا تو پھر اس امر کا خیال آیا۔ اور یہ امر تسلیم کرنا پڑا کہ ملتان بجلی گھر میں خرابی ہے۔ جناب والا۔ پچھلے سال زراعت کو بے پناہ نقصان پہنچا۔ تمام اجناس کی قلت ہو گئی۔ صنعتوں کو بھی بے حد نقصان پہنچا۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں لالٹینیں خریدی گئیں۔ اور عوام کا بہت سا روپیہ بلا وجہ خرچ ہو گیا۔ ایک اندازہ کے مطابق اس صوبہ کو بجلی کے بند ہونے سے ایک گھنٹہ میں تقریباً ایک کروڑ روپیہ کا نقصان پہنچا۔ جب ملتان کے دونوں ٹربائن خراب ہو گئے تو ان کو جرمنی ہوائی جہاز کے ذریعے بھیجا گیا پھر بھی آج تک ان کی اصلاح نہیں ہو سکی Pakistan Electric & Mechanical Engineers Association کی آخری رپورٹ جو نوے صفحات پر مشتمل ہے اور واہڈا کو پیش کی گئی تھی کے مطابق یہ دونوں ٹربائن اس قابل نہیں ہیں کہ بجلی پیدا کر سکیں۔ اس سے گورنمنٹ کو کثیر نقصان ہوا ہے جو ۱۱۵۶ کروڑ روپیہ کے قریب ہے۔ پھر اتنے عرصہ تک لوگ بجلی سے محروم رہے۔ اندازہ کیجئے کہ اتنا عرصہ بجلی استعمال نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوئے۔ زرعی سیکٹر میں نقصان ہوا صنعتی سیکٹر میں نقصان ہوا۔ غلہ چات کی پیداوار کو نقصان ہوا۔

جناب والا - اس کے بعد میں لائل پور کی طرف آتا ہوں - لائل پور بجلی گھر کے متعلق جناب حمزہ نے تحریک التوا پیش کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ لائل پور بجلی گھر خراب ہو گیا ہے - لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آیا واقعی کوئی خرابی ہوئی تھی یا نہیں بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ وہ ابھی ٹھیکیدار کی تحویل میں ہے واپڈا نے اپنی تحویل میں نہیں لیا ہوا - اس طرح اصل بات کو چھپایا گیا - یہ بجلی گھر آج سے دو سال قبل چلنا چاہئے تھا اگر یہ بجلی گھر وقت پر چلایا جاتا تو صوبہ میں بجلی کی کمی لائل پور کے بجلی گھر سے پوری کی جا سکتی تھی - ملتان کے بجلی گھر میں یہ خرابی تھی کہ وہاں designing ٹھیک نہیں ہوئی - planning درست نہیں تھی اور construction ناقص تھی execution ٹھیک نہیں ہوئی - اور maintenance اچھی طرح نہیں ہو سکی - یہاں بھی یہی صورت تھی - یہاں تو کنڈنسر کی بنیادیں اکھڑ گئیں - اس پر غریب قوم کا کروڑوں روپیہ صرف ہوا ہے - مگر آج تک ہم نے اس سے ایک پائی کا بھی فائدہ حاصل نہیں کیا - اس کے باوجود ہمیں بھی بتایا جاتا رہا کہ لائل پور کے پاور سٹیشن میں کوئی خرابی نہیں ہے اور بار بار ہمیں بھی بتایا جاتا رہا کہ لائل پور پاور سٹیشن میں کوئی خرابی نہیں ہے اب یہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائیگا ابھی اسکی تعمیر ہو رہی ہے - لیکن تعمیر ہونے کے بعد یہ پاور سٹیشن برباد ہو گیا اور اسکی دوبارہ مرمت کیگئی اور نہ معلوم اسمیں کتنا مزید عرصہ لگے اور اسکی مرمت ختم ہو با اسکی تعمیر ختم ہو - اسکے علاوہ حیدرآباد کو لے لیجئے - آپ نے تقریباً ڈیڑھ سال ہوا ہے سنا ہو گا کہ حیدرآباد پاور سٹیشن کی چھت اور بوائلر دونوں اڑ گئے وہ تو اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے

مہربانی کی کہ جو لوگ گرد و پیش موجود تھے وہ بچ گئے مانی نقصان تو کروڑوں کا ہوا لیکن جانی نقصان سے ہم بچ گئے اسکی صرف عمارت رہ گئی اور باقی تمام ہاور ہاؤس برباد ہو گیا ۔

وزیر برقیات (مخدوم حمیدالدین) - وہ ہمارا نقصان نہیں تھا ۔

خواجہ محمد صفدر - آپ کا نقصان اسلئے تھا کہ آپ اس دن اس ہاور ہاؤس کو take over کرنے والے تھے - جناب والا جس روز یہ واقعہ ہوا میں حیدرآباد جیل میں تھا ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا لیکن میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ کیا تھا شام کو سپرنٹنڈنٹ جیل نے مجھے تمام واقعہ بتایا اسکے بعد سے ایک عرصہ تک وہ بجلی گھر بجلی سپیا نہیں کر سکا یا جو کچھ بجلی اس سے سپیا ہو سکی وہ انتہائی ناکافی تھی اور جتنا عرصہ ہم اس ہاور ہاؤس کی بجلی سے محروم رہے وہ ہمارا نقصان نہیں تھا تو کس کا تھا - اب کوٹری بجلی گھر کو لے لیجئے - کوٹری کے بجلی گھر کی مشین پہلے الڈونیشیا کو offer کی گئی تھی لیکن انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا ہم نے اسے ادھار پر حاصل کر - کی رضامندی دے دی - ہم نے سوچا کہ ہم اسے لاہور میں لگائیں - چنانچہ چھ مہینے تو یہ مشینیں کراچی میں پڑی رہیں اسکا کوئی والی وارث نہیں تھا - پھر یہ خیال کیا کہ لاہور لانا مشکل ہے لہذا اس کو کوٹری میں نصب کر دیا جاوے ڈیزل آئل کے استعمال ہونے کے باعث اس سے دوسرے انجن کے مقابلے میں بجلی کی پیداوار پر زیادہ لاگت آتی ہے چنانچہ اس وقت بھی یہ مشینیں اپنی generating capacity سے کم بجلی پیدا کر رہی ہیں -

اب جناب میں منگلا بجلی گھر کی طرف آتا ہوں۔ منگلا کے متعلق اگلے روز اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ منگلا کے دوسرے یونٹ کی commissioning فروری میں کی گئی تھی اور اس یونٹ سے ایک لاکھ کلوواٹ بجلی پیدا ہوتی ہے لیکن پاکستان ٹائمز میں یہ خبر شائع ہوئی کہ منگلا کا یونٹ پوری طرح بجلی پیدا نہیں کر رہا ہے۔ اسکی تردید ایک پریس نوٹ کے ذریعہ کی گئی کہ یہ خبر غلط ہے کہ منگلا درست طور پر کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ تردید ۱۷ اپریل ۱۹۶۸ء کو کی گئی اسکے الفاظ یہ ہیں :-

“One of the three units at the Mangla Power House is lying idle ever since it was installed some time ago as the transmission lines cannot carry the load of power generated by all the machines.”

میں اسکو سارا نہیں پڑھنا چاہتا مگر انہوں نے یہ بیان کیا کہ چونکہ منگلا پاور سٹیشن کی generating capacity تین لاکھ کلوواٹ ہے اسکو بڑے اور چھوٹے سٹیشنوں تک لیجانے کیلئے تاریں نصب نہیں کی گئیں اسلئے وہاں پوری بجلی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اسکی تردید واہڈا کی طرف سے باقاعدہ اخبارات میں شائع ہوئی لیکن اسکے بعد ایم۔ ایس۔ خان سیکریٹری پاکستان ایسوسی ایشن آف الیکٹریکل اینڈ مکینیکل انجینرز۔ کا ایک لمبا چوڑا خط ۲ اپریل ۱۹۶۸ء کو شائع ہوا اس میں انہوں نے نہایت ہی وضاحت سے یہ ثابت کیا کہ منگلا پاور ہاؤس جسے کہ تین لاکھ کلوواٹ بجلی generate کرنا تھی وہ حقیقت میں دو لاکھ کلوواٹ سے کم بجلی پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ کم و بیش ۲ لاکھ ۳۰ ہزار روپیہ ہوسیہ کا اس طرح نقصان ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے وضاحت سے کہا کہ یہ

محض اسوجہ سے ہے :-

”اگرچہ واہڈا کے اس یونٹ کا آرڈر ۶۵-۱۹۶۳ء میں دیا گیا تھا لیکن واہڈا کے اس یونٹ سے پیدا شدہ بجلی کو دوسرے مقامات پر لیجانیکے لئے تاروں کے بچھانے کے انتظامات کا آرڈر ۱۹۶۶ء میں دیا گیا جو ۱۹۶۸ء تک تعمیر ہونگی۔“

بھر ۲۲ تاریخ کو آئی۔ اے۔ ایس بخاری چیف انجینئر پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ اینڈ Coordination Power Wing واہڈا لاہور نے ایک خط کے ذریعے جو پاکستان ٹائمز میں چھپا ہے اسکا جواب دیا لیکن انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ پوری بجلی نہیں پیدا ہو رہی ہے انکے چند الفاظ میں پڑھے دیتا ہوں۔

حاجی سردار عطا محمد۔ ہوائنٹ آف آرڈر۔ جناب کورم نہیں

۔

Mr. Senior Deputy Speaker : Let there be a count. (count was taken)

The House is not in quorum. Let the bells be rung. (bells were rung)

The House is now in quorum. Yes, Khawaja Sahib.

خواجہ محمد صفدر۔ جناب والا۔ بخاری صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہم پوری طرح بجلی نہیں پیدا کر رہے ہیں اور یہ کہ ہمیں چونکہ ان بجلی کے تاروں کو لگانے کیلئے ۴ کروڑ روپیہ درکار تھا اور وہ روپیہ ہمیں میسر نہیں آ رہا تھا وہ روپیہ ہمیں ۱۹۶۶ء میں ملا تھا اسلئے ان لائنوں کی تعمیر میں تاخیر ضرور ہوئی ہے لیکن ایک اور بڑے سزے

کی بات ہے۔ جیسا کہ واپڈا کے پریس نوٹ میں اکثر ایسی باتیں آتی ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ۳ لاکھ کلوواٹ بجلی اس لئے نہیں پیدا ہو رہی کیونکہ موجودہ تاریں اسے نہیں سنبھال سکتیں بلکہ پانی کی سطح گر جاتی ہے اگر وائر ہیڈ کسی دریا پر ہوتا تو میں سمجھ جاتا کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن منگلا ہمارا سب سے بڑا پانی کا ذخیرہ ہے۔ پانی کی یہ ایک بڑی جھیل ہے۔ اسکی سطح اسقدر نہیں گر سکتی کہ بجلی گھر متاثر ہو۔

وزیر آبپاشی و برقیات - یہ ساری نہریں اسی سے چلی ہیں۔

خواجہ محمد صفدر - مجھے معلوم ہے۔

وزیر آبپاشی و برقیات - تو پھر۔

خواجہ محمد صفدر - کیا پانی ختم ہو گیا۔ کیا ان تین generators کے لئے پانی نہیں ہے؟ میں جناب وزیر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کہ حیدر آباد، کوٹری، منگلا کے پاور سٹیشنوں سے ساڑھے سات لاکھ کلوواٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے مگر نصف سے کم بجلی پیدا ہو رہی ہے۔

وزیر آبپاشی و برقیات - کون کون سے سٹیشن؟

خواجہ محمد صفدر - ملتان - لائل پور - حیدر آباد - کوٹری اور منگلا۔ میں ان کی نسبت آپ کی خدمت میں کچھ اعداد و شمار پیش کرتا ہوں جو اس طرح پر ہیں۔

Designed Capacity KW	Generating Capacity KW
115000	۲۶۵۰۰۰ ملتان
—	۱۲۰۰۰۰ لائل پور
۲۸۰۰۰	۳۳۰۰۰ حیدرآباد
۳۰۰	۱۳۰۰۰ کوٹری
۲۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰ منگلا
۳۳۳۳۰۰	۷۳۱۰۰۰

تو جناب والا۔ میرے حساب کے مطابق اس وقت یہ پاور ہاؤس ۵۰ فیصد بجلی پیدا کر رہے ہیں حالانکہ ان کو دو گنی بجلی پیدا کرنی چاہئے۔

وزیر آبپاشی و برقیات۔ یہ جنرل ڈیمانڈ کے مطابق ہے یا total capacity کے مطابق ہے ؟

خواجہ محمد صفدر۔ میں سن کر بہت حیران ہوا ہوں کہ جناب وزیر صاحب کے خیال کے مطابق صوبے میں ڈیمانڈ نہیں ہے۔ حالانکہ ہر ایک کنیکشن کے لئے ہزار روپیہ کی فیس وصول کیجاتی ہے۔

ایک ممبر۔ وہ اور معاملہ ہے۔

خواجہ محمد صفدر۔ وہ بجلی فروخت کرتے ہیں۔

چودھری محمد نواز۔ اس کا سپلائی اور ڈیمانڈ سے کیا تعلق ہے؟

خواجہ محمد صفدر۔ اس کا تعلق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ واپڈا ایک

دوکاندار ہے اس کے پاس سودا ہے۔

چودھری محمد نواز۔ مگر اس کا ڈیمانڈ اور سپلائی سے کیا تعلق ہے۔ عجیب قسم کا مسئلہ یہ یہاں پر لے آئے ہیں۔

خواجہ محمد صفدر۔ واہڈا دوکاندار ہے۔ اس کے پاس ایک سودا ہے جس کا نام بجلی ہے جو زیادہ سے زیادہ استعمال اور فروخت کیجا سکتی ہے۔ اس وقت تک جہاں تک مجھے معلوم ہے ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں دفتروں میں پڑی ہیں ان کو کنپکشن نہیں مل رہے اور جناب وزیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں بجلی کی ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت نہیں تو وہ کیوں اتنے قرضے برداشت کر کے بڑے بڑے سٹیشن لگوا رہے ہیں۔

چودھری محمد نواز۔ ملک ترقی کر رہا ہے اور آگے جا کر بہت بڑی ڈیمانڈ ہو گی۔

خواجہ محمد صفدر۔ جناب والا۔ میں بجلی گھروں میں بجلی پیدا کرنے کی استعداد کے متعلق بات کر رہا تھا مگر یہ کہتے ہیں کہ بجلی کی ضرورت نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر فالتو دو یونٹوں کو لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو جناب والا جہاں تک ان کی کارگزاری کا تعلق ہے اس کی صورت یہ ہے اس ضمن میں ایک اخباری تراشہ کا حوالہ دوں گا۔ یہ اخبار مورخہ ۶۸-۵-۱ کا ہے۔ اس میں کوئی کبریٰ صاحب ہیں۔ پریڈیٹنٹ ہیں پاکستان ایسوسی ایشن آف الیکٹریکل اینڈ مکینیکل انجینرز

کے۔ کہتے ہیں کہ اوسطاً ایک سال میں ویسٹ پاکستان میں ۱۶ ہزار سات سو سرتبہ بجلی فیمل ہوتی ہے۔ ۱۶ ہزار سات سو بار۔ ذرا اندازہ کیجئے ایک دن میں کتنی بار فیمل ہوتی ہے one-hour break-down costs جس نے یہ تحریر کیا ہے وہ ماہر فن ہے۔

وزیر آبپاشی و برقیات - خواجہ صاحب یہ کوئی ریٹائرڈ آیسر ہیں جن کو extension نہیں ملی ہو گی یہ بیان اس نے دیا ہو گا (تمہارے) خواجہ محمد صفدر - جناب والا - میری گزارش ہے کہ وزیر صاحب میری باتیں ذرا توجہ سے سن لیں۔

چودھری محمد نواز - یہ گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔

خواجہ محمد صفدر - جناب والا - اتھارٹی بڑی شاہ خرچ بھی ہے۔ گزشتہ تین چار سال سے انہوں نے ایک اکاؤنٹس آفس گوجرانوالہ میں بنا رکھا ہے جہاں پر بجلی کے بلوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ وہاں پر سیالکوٹ اور نارووال کے بجلی کے بل بھی ادا ہوتے ہیں اور ملتان میں بھی ایک ایسا دفتر ہے جہاں پر کہ ساہیوال کے لوگ جا کر اپنے بل بھی ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اتھارٹی کے ایک آیسر سے کہا کہ کیوں آپ نے ۱۵/۱۳ لاکھ افراد کو مصیبت میں ڈل رکھا ہے۔ نارووال کے لوگ گوجرانوالہ آ رہے ہیں اور ساہیوال کے ملتان جا رہے ہیں۔ کہنے لگے تم نہیں جانتے ہم نے بڑے بڑے کمپیوٹرز منگوائے ہیں جو خرد بخود بل بناتے ہیں اور وہ ہزاروں کی تعداد میں بل تھوڑے وقت میں تیار ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ملک میں پہلے ہی سے بیروزگاری ہے۔ دو فٹ کنسٹیبل اگر لینے ہوں تو

ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں آجاتی ہیں لیکن آپ اتنے سہلے کمپیوٹرز منگوا رہے ہیں۔ (کسی نے پوچھا کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے) وہ بہت بڑی مشین ہوتی ہے اس میں کچھ data ڈال دیا جاتا ہے اور پھر وہ مشین خود بخود بلی تیار کر کے باہر نکال دیتی ہے۔ اسراف اور عیاشی کی کوئی حد مقرر ہونی چاہیے۔ یہ ایک غریب ملک ہے جس کے باشندوں کے پاس تن ڈھانکنے کے لئے کپڑا نہیں۔ پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملتی اور ان حالات میں کمپیوٹرز رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔

چودھری محمد سرور خان - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب والا - مجھے خواجہ صاحب سے شکوہ ہے کیونکہ وہ آج واہڈا کی آپروریزی پر تلے ہوئے ہیں حالانکہ یہ فرض حمزہ صاحب کو ادا کرنا چاہئے تھا۔

Mr. Senior Deputy Speaker : This is not a point of order.

خواجہ محمد صفدر - جیسا کہ پھول خان صاحب نے ارشاد فرمایا میں اس مفید ہاتھی کے متعلق دو ایک باتیں اور کروں گا۔ سارے صوبہ میں minimum consumption guarantee کے خلاف عام شکایت ہے عوام چاہتے ہیں کہ اس سے چھٹکارا مل جائے۔ واہڈا اربوں روپیہ صرف کرتی ہے واہڈا ہاؤس بنایا جاتا ہے۔ ایرکنڈیشنز کے پھر واہڈا کے ملازم رہ نہیں سکتے۔ دوسری طرف غریب کسان کو ٹیوب ویل کے لئے بجلی درکار ہے لیکن بجلی دینے پر شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ وہ بجلی کے کھمبوں اور تاروں کی قیمت بھی ادا کرے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سارے صوبہ میں ہر سال اس بات کے خلاف احتجاج ہوتا ہے اور اس سال بھی انشاء اللہ جب بجٹ پر بحث کا وقت آئے گا تو اکثر دوستوں کی طرف سے جو ٹیوب ویلوں کے

سلسلہ میں اہم سی جی کے بوجھ تلے دیے ہو۔^{*} میں یقیناً اس پر احتجاج ہوگا۔ میں اپنے حلقہ کی جانب ہی سے نہیں بلکہ تمام صوبہ کی جانب سے آپ کی وساطت سے جناب وزیر صاحب کی خدمت میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ سوچیں اور غور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کیوں لوگوں پر یہ بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ ایک لائن پر ایک ٹیوب ویل لک جاتا ہے اس پر اہم۔ سی۔ جی کا بوجھ ڈالا جاتا ہے پھر اس لائن پر دوسرا ٹیوب ویل لکے تو یہ نہیں کریں گے کہ پہلے پر سے بوجھ کم کریں بلکہ ایک ہی لائن کے دس بیس یا پچاس آدمیوں سے وہی اہم سی جی کی لاگت وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے حکمہ کی ہدایات تو یہ نہیں ہوں گی میں ان کے عملے کی بات کرتا ہوں وہ ہر ایک سے اہم سی جی وصول کرتے ہیں جناب وزیر صاحب کو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ دراصل بات یہ ہے کہ وزیر صاحب کا واہڈا سے کوئی زیادہ رابطہ نہیں قانون ہی ایسا ہے ہم نے یہ قانون بنایا ہے اور شاید وہ مہری گذارشات کو آگے بھیج بھی نہیں سکیں گے۔ بہر حال گذارش ضروری ہے۔

اتھارٹی کی طرف سے تو کنکشنوں کے سلسلہ میں غالباً یہی ہدایت مقرر ہے کہ جو پہلے درخواست دے اسے پہلے کنکشن دیا جائے۔ بڑی اچھی ہدایت ہے لیکن ہوتا کیا ہے۔ فرض کیجیے میرا نام پہلے درج ہے مہری باری آگئی ہے مجھ سے یہ کہنا جائے گا کہ اس کام کے لئے تین کھمبے درکار ہیں اس وقت سٹور میں کھمبے نہیں ہیں تار نہیں ہے ہم کیا کریں۔ پھر میزے پاس دو تین آدمی آجاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کے لئے یہ سامان تلاش کریں گے شاید کہیں نہ کہیں سے ملے جائے اگر آپ ہمارے

انعام کا کچھ انتظام کر دیں۔ عام طور پر نرخ ایک ہزار روپیہ ہے وہ ادا کر دیا جائے تو سارا سامان سٹور ہی سے نکل آتا ہے اگر نہ دیں تو سامان نہیں ملتا۔

جناب والا۔ اگرچہ میری یہ گزارشات تلخ ہیں مگر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ محترم وزیر صاحب مہربانی کر کے ان کی طرف توجہ فرمائیں شائد اس سے اصلاح احوال ہو سکے۔ میں آخر میں اپنی وہ تجاویز دھراتا ہوں جو کل میں نے ابتدا میں عرض کر دی تھیں اگرچہ وہ میرے اپنے تاثرات تھے لیکن مرکزی حکومت بھی واہڈا کی کارگزاری سے کلی طور پر مطمئن نہیں۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے نہ صرف واہڈا بلکہ ہی آئی ڈی سی کے کام کاج کی چھان بین کے لئے بھی اس کمیٹی نے ایک سوال نامہ بھی جاری کیا ہے۔ (قطع کلامی) صوبائی حکومت ان سے مطمئن نہیں ہے (قطع کلامی) تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مرکزی حکومت نے ایک کمیٹی مقرر کی ہے جو ان سب خود مختار اداروں کے متعلق چھان بین کرنے والی ہے اور اس کے متعلق انہوں نے ایک سوال نامہ بھی جاری کر دیا ہے اور شائد جلد ہی اس کے متعلق کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو جائے میرا مطالبہ ہے کہ یہ ادارے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جائے چاہئیں۔

ثال کے طور پر اس اتھارٹی کے ذمے تین کام ہیں نمبر ۱ سرگز کے ایجنٹ کی حیثیت سے ہندہ طاس کے منصوبوں کی دیکھ بھال کرنا۔ نمبر ۲ بجلی اور نمبر ۳ پانی کی افزائش اور ہم رسانی ہمیں مرکزی حکومت سے کہنا چاہئے کہ ہم بہت مصروف ہیں وہ اپنا کام کسی اور ایجنسی کے ذریعہ کرا لیں

اور جہاں تک دوسری ذمہ داریوں کا تعلق ہے انہیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ پانی کی علیحدہ اتھارٹی ہو اگر ضرورت ہے اور بجلی کی علیحدہ ہو تاکہ کام تھوڑا ہو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس اتھارٹی کے چار ارکان میں سے اکثر و بیشتر کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ان کی دیانتداری اور قابلیت مسلمہ ہے۔ لیکن اگر وہ اس سے بھی زیادہ قابل اور دیانتدار ہوتے پھر بھی اتنے وسیع کام کو سنبھالنے کی ان میں طاقت اور قدرت نہ ہوتی۔ ان پر بوجھ ہلکا کیجئے یہ ان سے بے انصافی ہے ان کے پاس اتنا کام ہے جتنا یہ ساری گورنمنٹ مل کر بھی نہیں کرتی۔ سیدھی سی بات ہے آپ دیکھیں ان کے یہ تمام پلان اور پروجیکٹ اور منصوبے۔ ان کا خرچ ہماری صوبائی حکومت کے ایک سال کے خرچ سے زیادہ ہے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تین یا چار آدمی اسے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں وہ تو سرخ فیتہ کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں ان کا اور کوئی کام ہی نہیں۔ اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرکزی حکومت سے کہا جائے کہ وہ اس کام میں ہمارا ہاتھ بٹائے۔

جہاں تک صوبائی حکومت کا ان کے کام سے مطابقت ہونے کا تعلق ہے پاور ہوزیشن کے متعلق صوبائی حکومت نے ایک ریونیو کمیٹی بنا دی ہے کہ انہیں دیکھا جائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں بجلی گھر کیوں خراب ہو گئے ہیں اور ان کی اصلاح کیسے ہو رہی ہے۔

میں آپ کا اور اس ایوان کا شکر گزار ہوں کہ ایوان نے کل اور آج صبری گزارشات کو نہایت توجہ سے سنا۔ اگر کوئی تلخ بابت ہو گئی ہو تو

میں اس کے لئے مہذرت چاہتا ہوں حقائق جو مجھے معلوم تھے میں عرض کر دیتے ہیں۔ میرے ذرائع میری اس فائل تک محدود ہیں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایسے حقائق ہوں جو مجھے معلوم نہ ہوں۔ اور اگر وہ مجھے معلوم ہوتے تو میں اپنی رائے تبدیل کر لیتا۔ اس ابوان کا ایک ادنیٰ رکن ہونے کی حیثیت سے میں نے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔

ملک محمد اسلم خان (کیمبل پور۔۱)۔ جناب والا۔ میں بھی اس بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ درست ہے جیسا کہ خواجہ صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا ہے کہ واہڈا میں بہت سی خرابیاں ہیں جن کو دور کرنا چاہئیں میرے خیال میں منسٹر صاحب نے ان کو نوٹ کیا ہوگا اور وہ انہیں دور کرنے کی کوشش بھی کریں گے ہمارے ہاں ہمیشہ سے یہ طریقہ چلا آتا ہے کہ جب کوئی بات اس ہاؤس میں آتی ہے تو وزیر صاحب یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ان باتوں یا ان اعتراضات کو جھٹلایا جائے وہ یہ کوشش نہیں کریں گے کہ جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیا جائے جہاں تک خواجہ صاحب کی تقریر کا تعلق ہے وہ بھی بات کا بتنگڑ بنانے میں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھرپور حملہ کیا جا سکے کر دیں اگر ان کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان میں کہیں بھی بجلی نہیں ہونی چاہئیں اور ہر طرف اندھیرا ہونا چاہئیں مگر آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے میں تو کرتا ہوں کہ اب بجلی پہلے سے بہت زیادہ ہے ہر محلہ اور گلی اور گاؤں میں بجلی پہنچ گئی ہے مگر ہمیں ابھی اور زیادہ بجلی کی ضرورت ہے (قطع کلامیاں) یہ بات غلط ہے جلتی بھی ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنی تجویز یہ دینی چاہتا ہوں

کہ جیسا کہ خواجہ صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا ہے کہ جب واپڈا معرض وجود میں آیا تھا تو یہ خیال نہیں تھا کہ واپڈا کے پاس زیادہ کام ہو جائے گا یا واپڈا پر کام کا بوجھ اتنا ہو جائے گا یا واپڈا میں اتنی خدایاں پیدا ہو جائیں گی۔ جب واپڈا معرض وجود میں آیا تو ہمیں یہ خیال یا گمان نہیں تھا کہ واپڈا بہت بڑی اتھارٹی ہے لیکن اس کے باوجود بھی واپڈا بہت بڑی اتھارٹی بن گئی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک ٹیکنیکل ممبر اور ہونا چاہئے میرے خیال میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہم ایک عظیم منصوبہ تربیلا بند کا بنا رہے ہیں میرے خیال میں بیماریاں اس حد تک زیادہ بڑھ گئی ہیں ان کے لئے ٹیکنیکل ممبر کو ہونا چاہئے۔ اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہئے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ دوسرے ممالک میں جہاں اس قسم کی اٹانمنس باڈیز ہیں ان میں عوام کے نمائندے بھی رکھے جاتے ہیں۔ میری یہ تجویز ہے کہ وزیر صاحب اس معاملہ پر اچھی طرح غور کریں اگر یہ ممکن ہو سکے کہ عوام کے ایک دو نمائندے آپ کے واپڈا کے بورڈ کے ممبر بن سکیں تو ان کو ضرور ممبر بنایا جائے۔ جس طرح یہ فرماتے ہیں کہ ٹیکنیکل ممبر اس لئے ضروری ہے کہ وہ ٹیکنیکل ساڈ کو دیکھے اسی طرح عوام کے نمائندے ہوں گے اور وہ عوام کی ضروریات کو ان کے سامنے اچھی طرح سے پیش کر سکیں گے (ہیئر۔ ہیئر) میرے خیال میں عوام کا ممبر کبھی کوئی زیادتی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو ہر وقت عوام کے سامنے جوابدہ ہونا پڑتا ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہاں کوئی بددیانتی کی تو کل کو عوام مجھے دوبارہ نمائندہ بنا کر نہیں

بھیجیں گے۔ میری یہ تجویز نہایت ضروری ہے آپ اس معاملہ کو زیر غور رکھیں اگر ممکن ہو سکے تو یہاں عوام کی طرف سے ایک دو نمائندے بورڈ میں ضرور رکھیں تاکہ وہ پبلک کے مفاد اور ان کے خیالات کو بورڈ کے سامنے رکھیں۔ اگر بورڈ policy matter کے متعلق فیصلہ دینا چاہے تو وہ ان کی بات کو بھی مد نظر رکھے۔

خان نثار محمد خان (پشاور۔) - (پشتو) - جناب سپیکر - اس وقت واہڈا میں ایک چیئرمین اور دو ممبران ہیں اس قانون کی رو سے ایک چیئرمین اور تین ممبران ہو جائیں گے۔ (قطع کلامیاں) - میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے جو interpreters ہیں ان کے لئے بھی تو کوئی کام ہونا چاہئیے۔

جناب والا - میں تو پشتو میں تقریر کروں گا کیونکہ مجھے میرے ہٹھان بھائیوں نے درخواست کی ہے کہ میں پشتو میں تقریر کروں۔

میاں معراج دین - اس طرح واہڈا والوں کو کچھ ہتہ نہیں چلے گا۔

خان نثار محمد خان - ان کو خود ہی ہتہ چل جائے گا۔ پشتو میں یہ میری پہلی تقریر ہوگی۔

(پشتو) جناب والا - اس آرڈیننس کے ذریعہ تین ممبر ہو جائیں گے اور اس کے لئے یہ وجوہات بتائے گئے ہیں کہ اس طرح ایک ممبر کی زیادتی سے اس ادارہ کی کارکردگی بڑھ جائے گی۔ جناب سپیکر - پشتو میں

ایک مثال ہے کہ ”دو ملاں میں مرغی حرام“ جناب آپ کو بھی بخوبی علم ہے کہ پرانی مثالیں غلط نہیں ہوا کرتیں۔ جناب والا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ آرڈیننس اس لئے پیش کیا گیا ہے کہ ایک ممبر کے بڑھ جانے سے ادارہ کی کارکردگی بڑھ جائے گی تو یہ غلط ہے۔ کیونکہ ہمیں ہر حال میں پرانی مثالوں کو پیش نظر رکھنا چاہئے اور پاکستان میں تو ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اگر آپ اس کو غور سے ملاحظہ فرمائیں جو مثال میں نے ابھی عرض کی ہے تو آپ کو اس کا ثبوت مل جائے گا کہ اس طرح ایک ممبر کے بڑھانے سے کارکردگی میں کوئی فرق نہ ہوگا۔

جناب والا۔ ہماری حکومت مصر ہے کہ صدارتی نظام ہونا چاہئے اور اسی وجہ سے وہ جمہوری نظام کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جب تک یہاں ہر اس قسم کا نظام رائج ہو جس میں اختیارات لوگوں کے ہاتھ میں ہوں تو یہ چیز نہیں چل سکتی۔ جناب والا۔ مگر موجودہ نظام حکومت اس بات کو غلط ثابت کر رہی ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس قسم کے اداروں میں کارکردگی اس طریقہ سے بڑھا سکتے ہیں کہ انہیں مرکزیت سے دور رکھا جائے اور ان کے اختیارات کو مختلف علاقوں میں تقسیم کر دیں اس بارہ میں میں گزشتہ بجٹ اجلاس میں بھی عرض کر چکا ہوں اور مجھے اس بات سے از حد خوشی ہے کہ صدر مملکت نے اس ضمن میں تین چار ماہ قبل پاکستان ٹائمز میں ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جتنے بھی بڑے یونٹ ہیں اب ایسا وقت آگیا ہے کہ جب تک ہم ان کو چھوٹے چھوٹے

اداروں میں تقسیم نہ کریں تب تک ہم اتنی ترقی نہیں کر سکتے۔ جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ لہذا میں واپڈا والوں کو صدر مملکت کی یہ تقریر بھی یاد دلاتا ہوں اور آپ کی وساطت سے ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ازراہ کرم جناب صدر مملکت کی اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں اور اس کے علاوہ جس طرح جناب خواجہ صفدر صاحب نے انجینئرنگ سوسائٹی آف پاکستان کے صدر کا جو حوالہ دیا ہے جس میں صدر انجینئرنگ سوسائٹی آف پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر نا اہلی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو There should be an embargo on the recruitment of fresh staff. This is in yesterday's Pakistan Times. تو مہربانی آپ یہ سوچیں کہ اگر واپڈا جیسے محکموں میں بہترین کارکردگی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو decentralization کریں اور اختیارات کو چھوٹے چھوٹے اداروں میں تقسیم کریں ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔

خان اجون بخان جلدون (سردان-۳)۔ جناب والا۔ یہ ہنگامی قانون جس کو وزیر آب پاشی نے اس ایوان میں پیش کیا ہے۔ چائے تو یہ تھا کہ یہ بحث صرف ہنگامی قانون کے مقصد تک محدود رکھی جاتی۔ ار ہنگامی قانون کا مقصد یہ ہے کہ واپڈا کو چلانے والی اتھارٹی کے ممبران میں ایک ممبر کا اضافہ کیا جائے یعنی ایک ٹیکنیکل ممبر رکھا جائے۔ لیکن پھر حال اس کا تعلق efficiency سے ہے۔ اس لئے باقی مضامین پر بھی خواجہ محمد صفدر صاحب نے ڈسکشن کی ہے۔

مسٹر محمود اعظم فاروقی - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب والا - میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس مسئلہ کے متعلق چیئر کی رولنگ ہو - کیا اس کے خلاف کوئی شخص رائے دے سکتا ہے کہ اس میں یہ ہونا چاہئے یا کسی سبب کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس ایوان میں دوبارہ اس مسئلہ پر رائے دے۔

مسٹر سپنڈر ڈپٹی سپیکر - وہ رائے نہیں دے سکتا ہے۔

بخان اجون نخان جاون - جناب والا - میں نے روپنگ کو پینچ نہیں کیا ہے - خواجہ صاحب کی efficiency سے متعلق ڈسکشن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور جتنی خامیاں انہوں نے بتائی ہیں ان سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور اس بات کو بھی تقویت پہنچتی ہے کہ ٹیکنیکل سپر کا ہونا لازمی ہے - خواجہ صاحب نے جو نکات رکھے ہیں - اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس اتھارٹی میں پہلے ٹیکنیکل سپر نہ تھا - جہاں تک واہدا گی کارکردگی کا تعلق ہے - مجموعی طور پر اس اتھارٹی نے بے پناہ خدمات سرانجام دی ہیں - اس سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا - اب چونکہ واہدا بہت وسیع ادارہ بن چکا ہے - اس لئے اس میں بے شمار خامیاں ہوں گی - بے شمار مسائل حل طلب ہوں گے جن کو ابھی تک یہ حل نہیں کر سکے - مثال کے طور پر صوبہ سرحد کا ایک مسئلہ جس کو بار بار پیش کیا گیا ہے وہ آب پاشی کے لئے بجلی مہیا کرنے کا مسئلہ ہے - انہوں نے سارے مغربی پاکستان کے لئے ۱۵ فی صد return پر ایم سی جی بھی لگائی ہے جس سے سابقہ صوبہ سرحد کو نقصان پہنچ رہا ہے - ابھی تک واہدا کو ہم سمجھتا نہیں تھے - یہ شرائط وہاں لاکھوں میں اور ان شرائط کے باوجود ہم بجلی حاصل نہیں کر

سکتے - جناب والا - میں اس کو ذرا وضاحت سے عرض کرتا چاہتا ہوں -
 سابقہ صوبہ سرحد میں آب پاشی کے لئے بجلی کی شرح صوبہ کے باقی حصوں
 سے کم ہے - جب ان کو بجلی کا کرایہ آتا ہے - ۱۵ فی صد جو خرچ ہوتا
 ہے - اس سے خرچہ اتنا ہو جاتا ہے - جتنا باقی حصوں کا رکھا گیا ہے -
 اس لئے کرایہ کی نسبت فی صد بہت زیادہ ہو جاتی ہے - اور وہ لوگ اس
 کو ادا نہیں کر سکتے - اس لئے بہت سے لوگ بجلی لینے سے محروم ہیں -
 اور اس وجہ سے آبپاشی میں دقت پیدا ہوتی ہے - اور چونکہ زراعت کی پیداوار
 بڑھانا ملک کی اہم ضرورت ہے - اس لئے میں یہ امید کرتا ہوں کہ ایک
 ممبر (ٹیکنیکل) کے اضافے سے واہڈا کے کام میں سہولت پیدا ہو جائے گی -
 اور ایسے بہت سے مسائل کا حل خوش اسلوبی سے تلاش کیا جا سکے گا -
 بلکہ مہری تو یہ تجویز تھی کہ ایم - سی - جی - کو آب پاشی پر سے اڑا
 دیا جائے - کیوں کہ حکومت تو پیداوار بڑھانے کے لئے لاکھوں روپے
 کی امداد دیتی ہے - مثلاً بیج اور کھاد وغیرہ خریدنے کے لئے حکومت امداد
 دیتی ہے - تو پھر کیا وجہ ہے کہ بجلی مہیا کرنے کے لئے اس قسم کی
 سہولت نہ دی جائے - اس میں شک نہیں کہ یہ ایک تجارتی ادارہ ہے لیکن
 ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ یہ ایک قومی ادارہ بھی ہے - اس
 لئے مجھے یہ توقع ہے کہ مذکورہ ممبر (ٹیکنیکل) کے بڑھ جانے سے
 واہڈا کی کارکردگی میں ضرور اضافہ ہوگا - اور جو قومی مسائل دوپیش
 ہیں ، ان کو حل کرنے میں کامیابی ہوگی -

رانا پھول محمد خان (پنجابی) - جناب سپیکر - میں بھی جناب وزیر

متعلقہ کے اس بجلی اور پانی کے آرڈی ننس کی حمایت کرتا ہوں - جیسا کہ

خواجہ صفدر صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ اس محکمے کے پاس کام بہت زیادہ ہے۔ اس لئے اس محکمے کے لئے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی مشکل ہیں۔ اس لئے خواجہ صاحب کی تقریر سے بھی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔۔۔۔

(آوازیں - آردو میں بولیں)۔

رانا پھول محمد خان - یہاں پر سب ہی اپنی زبان میں تقریر کر سکتے ہیں۔

مسٹر سینئر ڈپٹی سپیکر - رانا صاحب - ہمارے پاس پنجابی زبان کا رپورٹر نہیں ہے۔ اس لئے بہتر ہے کہ آپ آردو ہی میں تقریر کریں۔

رانا پھول محمد خان (پنجابی) - جناب سپیکر - ہم سب اس صوبے کے رہنے والے ہیں۔ اور ہم اپنی اپنی زبان میں یہاں پر تقریر کر سکتے ہیں۔

مسٹر نثار محمد خان - جناب والا - یہ بڑا ظلم ہے کہ پنجاب جو کہ اس صوبے کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اور ایک بہت ہی پرانا اور بڑا صوبہ ہے۔ اس کی ترجمانی یہاں پر نہ ہو سکے اور اس کا کوئی ترجمان یہاں پر موجود نہ ہو۔

مسٹر محمود اعظم فاروقی - جناب والا - اگر رانا صاحب پنجابی میں تقریر کریں گے۔ تو پھر میں بھی پنجابی میں ہی تقریر کروں گا۔

مسٹر سینئر ڈپٹی سپیکر - رانا صاحب - میں آپ سے درخواست

کروں گا کہ آپ اردو میں ہی تقریر کریں۔

رانا پھول محمد خان (پنجابی) - جناب والا - میں تو آدمی تقریر کر بھی چکا ہوں۔ اور اب بقایا آدمی تقریر کو کہاں لے جاؤں۔ اس لئے میں صرف یہی کہوں گا کہ جیسا کہ یہاں پر کہا گیا ہے۔ اس محکمہ میں کوئی سے دو معتبر افراد بھی شامل کئے جائیں۔ تاکہ اس محکمے کا کام بطریق احسن چل سکے۔

مسٹر حمزہ (لائپور-۶) - جناب سپیکر۔ واہڈا کی کارگزاری کے متعلق محض حزب اختلاف ہی نہیں بلکہ سرکاری پارٹی کے بیشتر ارکان کو بلکہ میں تو اس سے بھی بڑھ کر کہوں گا کہ مغربی پاکستان کی بیشتر آبادی کو بھی سخت اعتراض رہا ہے اور اخبارات میں تو خصوصی طور پر اس کے خلاف کافی عرصے سے سننے اور دیکھنے میں آتا رہا ہے۔ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بچائے اس کے کہ حکومت تجربہ کار افراد کی ایک وسیع اختیاراتی کمیشن مقرر کرتی تاکہ وہ یہ جائزہ لے سکتی کہ اس خود مختار ادارے کی کارگزاری اس حد تک کیوں خراب ہے اور یہ کہ اس کے نقائص دور کرنے کے لئے کیا کچھ اقدامات کرنے چاہئیں۔

جناب سپیکر۔ اس ادارے کی کارگزاری سے محض صوبے کی عام آبادی ہی نالاں نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جناب صدر مملکت نے اکتوبر ۱۹۶۷ء میں ایک رسم افتتاح کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ حکومت اس خود مختار ادارے کے کام کر دو حصوں میں تقسیم کرنے کے متعلق سوچ رہی ہے۔ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ جناب صدر مملکت کے فرمودات کی روشنی میں

حکومت نے واہڈا کے تمام کام کا جائزہ لینے کی بجائے یہ کیوں پسند کیا گئے اس خود مختار ادارے کو چلانے والے تین ممبروں کی تعداد میں اضافہ کر کے اس کی تعداد کو چار کر دیا جائے۔

جناب سپیکر - مغربی پاکستان میں ۱۹۳۸ء سے خود مختار ادارے قائم ہونے شروع ہوئے تھے اور سب سے پہلا خود مختار ادارہ پی۔ آئی۔ ڈی۔ سی۔ تھا۔ بعض معقول وجوہات کی بنا پر حکومت نے خود مختار اداروں کے ذریعے ملکی ترقی یا بعض دوسرے کام کرانا انتہائی مناسب سمجھا۔ بلکہ ۱۹۵۸ء سے تو خود مختار اداروں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات یا زیادہ سے زیادہ کام سونپا جا رہا ہے۔ لیکن وہ تمام کے تمام خود مختار ادارے جو اس وقت مغربی پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ ان میں ممبران کی تعداد وہی ہے جو کہ اس سے پہلے واہڈا کی تھی۔

پاکستان کے ایک مندوب نے I. L. U. Centre میں ایک مقالہ پڑھا تھا۔ جو کہ اس وقت میرے پاس ہے اور جس میں کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تھل ڈیویلپمنٹ اتھارٹی ٹینسی ویلی اتھارٹی کی بنیادوں پر معرض وجود میں آئی اور یہ کہ پی۔ آئی۔ ڈی۔ سی۔ ائی کے ایک خود مختار ادارے آر۔ آئی۔ کی ایک نقل ہے اور اسی طرح پی۔ آئی۔ اے۔ کارپوریشن کو پانام (PANAM) کی بنیادوں پر بنایا گیا۔ لیکن جیسا کہ اس میں بتایا گیا ہے۔ یہ تمام کے تمام ادارے تین ممبروں پر مشتمل ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ

"Now practically all semi-autonomous bodies or Corporations are headed by a Board of three members—one of them is called the Chairman, the other Member Finance and the third member is usually called the Member Administration."

ہمیں جناب وزیر برقیات و آب پاشی نے یہ بتایا ہے کہ اس خود مختار ادارے کو ایک فنی ماہر کی ضرورت تھی۔ یہ محسوس کیا گیا کہ ایک، فنی ماہر کی خدمات سے استفادہ کیا جائے۔ تاکہ شائد اس طرح سے وہ تمام بیماریاں جو کہ اس ادارے کو لاحق ہیں۔ ان کا علاج ہو سکے۔

درحقیقت ایک خود مختار ادارے کو چلانے کے لئے اس خصوصی محکمہ میں انتہائی تجربہ کار اور ذہین افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے بلا کسی تمیز کے اور بغیر سوچے سمجھے ہر کام سی۔ ایس۔ بی۔ افسران کو سونپنا پسند کیا ہے۔ ہم نے اس قوم سے ہمدردی نہیں کی۔ ہم نے یہ کام ایسے افسران کو سونپنا پسند کیا ہے۔ بلکہ بیشتر اوقات ایسے افسران کو کام سونپا گیا جنہیں اس میدان میں قطعی کوئی تجربہ نہ تھا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں جہاں حکومت کا انتظامی ڈھانچہ بالکل بے کار ہو چکا ہے۔ وہ مقاصد جن کے حصول کے لئے ان اداروں کو بنایا گیا تھا وہ حاصل نہیں ہو رہے۔ بلکہ ان مقاصد کو حاصل کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ جناب سپیکر۔ جیسا کہ وزیر موصوف نے بتایا ہے اس وقت واہدا کے تین ارکان ہیں۔ ان میں سے ایک چیئرمین ہے۔ دوسرا ممبر مالیات اور تیسرا ممبر نظم و نسق ہے۔ اس ہنگامی قانون کی منشاء ہے کہ اب ان میں ایک اعلیٰ معیار کا ممبر ٹیکنیکل شامل کر دیا جائے۔ کیا میں جناب وزیر موصوف سے یہ دریافت کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اس سے پہلے بلکہ اس وقت فنانس ممبر کا کام ایک (ممبر فنانس اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں) بی۔ سی۔ ایس۔ آفیسر سرانجام دے رہے ہیں۔

کیا ممبر ایڈمنسٹریشن اور ممبر ٹیکنیکل کا کام محض ایک ممبر ٹیکنیکل سر انجام نہیں دے سکتا۔ کیا وہ فرد یا وہ انسان جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے۔ کہ وہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور انجینئر ہیں۔ کہا ان انجینئروں کو وہ کام سونپا نہیں جا سکتا جو کہ آپ نے سی۔ ایس۔ پی۔ انسٹران کو سونپا ہے۔ جناب سپیکر۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری حکومت اوپر سے لے کر نیچے تک انتظامیہ کے بڑے بڑے انسٹران ان سی۔ ایس۔ پی۔ انسٹران سے مرعوب ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری حکومت ہی مرعوب نہیں بلکہ وہ تعیناتیاں جو پاکستان میں کی جاتی رہی ہیں اور کی جا رہی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صدر بھی ان سی۔ ایس۔ پی۔ انسٹران سے مرعوب ہو چکے ہیں۔ جناب وہ کام جو سیاست دانوں کو کسی زمانے میں سونپا جاتا تھا۔ اب محض نوکر شاہی کے ارکان کو سونپا جاتا ہے۔

جناب سپیکر۔ میں یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان بناتے وقت وہ علاقہ جو کہ آج مغربی پاکستان میں شامل ہے۔ اس میں محض ۶۰ ہزار کلوواٹ بجلی پیدا کی جاتی تھی۔ ۱۹۶۰ء تک اس میں مزید ۶۰ ہزار کلوواٹ کا اضافہ کیا گیا۔ یعنی بجلی کی پیداوار ۱۲۰,۰۰۰ کلوواٹ تھی۔ اور واپڈا کے معرض وجود میں آنے کے بعد اس وقت بجلی کی پیداوار دس لاکھ کلوواٹ ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں تسلیم کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں حکومت سے یہ دریافت کرتا ہوں۔ کہا آپ

گروڑھا روپے صرف کرنے کے بعد اس خود مختار ادارے کی کارروائی یا کارگزاری سے مطمئن ہیں۔ آپ تمام کے تمام اداروں کی مشینری کو وصول کرنے کے بعد محض ایک ممبر ٹیکنیکل کا اضافہ کیوں مناسب سمجھتے ہیں۔ کیا اس سے تمام بیماریاں رفع ہو جائیں گی۔ آپ کا یہ خیال بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ جناب سپیکر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی تعمیر اور ترقی کے لئے بجلی اور آب پاشی کے وسائل کو بہتر طور پر بروئے کار لانا انتہائی ضروری ہے۔ کوئی قوم اس زمانے میں یعنی بیسویں صدی کے آخری حصہ میں بجلی کے استعمال کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ اور خصوصی طور پر پاکستان جیسا زرعی ملک جس کی بیشتر آبادی کا انحصار زراعت پر ہے۔ وہ پانی کے وسائل ملک میں پورے اور مکمل طور پر استعمال کئے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ واہڈا کا یہ خود مختار ادارہ محض ادھار رقم اور ادھار افراد کے بل بوتے پر چل رہا ہے۔ میں جناب وزیر موصوف سے یہ پوچھتا ہوں کہ پچھلے ۱۰ سال میں کیا واہڈا نے اپنے افسران کو مناسب ٹریننگ دی تا کہ وہ اس ادارے کو بیرونی دباؤ سے متاثر ہوئے بغیر اس ادارے کے ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لئے وابستہ کر کے منظم اور احسن طریق سے چلا سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام کی تمام رقومات جو کہ آج تک واہڈا پر خرچ کی جاتی رہی ہیں۔ وہ ہم نے بغیر ممالک سے ادھار کے طور پر لین اور بیشتر عملہ جو کہ آج واہڈا کو چلا رہا ہے۔ وہ ہم نے دوسرے محکموں سے ادھار لیا ہوا ہے۔ یہ بھی حقیقت

ہے کہ اظہار کے لئے ہوئے افراد اتنا کام نہیں کر سکتے۔ جتنا کہ وہ افراد کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو اس ادارے سے ہمیشہ کے لئے وابستہ کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ وہ افراد یا وہ حضرات جن کو اس محکمہ میں on deputation بھیجا جاتا ہے۔ ان کو ایک درجہ نہیں بلکہ کئی درجہ ترقی دے دی جاتی ہے۔ اگر ایک شخص محکمہ آبپاشی میں کام کرتا تھا اور وہاں S.D.O. کے عہدے پر مامور تھا اس کو واہڈا میں بطور X.E.N. تعینات کیا گیا اور ان کو اتنے بڑے بڑے عہدوں پر مامور کیا گیا۔ آپ ہی بتائیں کہ یہ لوٹ کھسوٹ نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ نے اس طرح ملک کے وسائل میں اضافہ نہیں کیا بلکہ الٹا نقصان کیا ہے اس پر طرہ یہ کہ کثیر تنخواہیں وصول کرنے کے علاوہ ہذا من فیضی وڈی کا خوب اہتمام کرتے ہیں جس سے بد انتظامی اور بد اخلاق پھیل گئی ہے۔

جناب سپیکر۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ واہڈا کے ان افراد کے ذریعہ یا اس عملہ کے ذریعہ کس طرح ان تمام فرائض کو سرانجام دے سکیں گے۔ جو کہ مغربی پاکستان کی حکومت نے یا مغربی پاکستان کے عوام نے واہڈا کے ذمہ لگائے ہیں۔ جناب سپیکر۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہم عوام کی تکالیف سے اس حد تک بے نیاز ہو گئے ہیں۔ جب کہ جناب صدر مملکت نے بھی اس ادارے کی کارگزاری سے بے اطمینانی کا اظہار کیا ہے اور دوسری جانب ان کے مقرر کئے ہوئے ایجنٹ جناب گورنر صاحب نے واہڈا کی اس

حد تک تعریف کی ہے جو انہیں زیب نہیں دیتی - میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح انہوں نے محض قوم سے ہی نہیں بلکہ جناب صدر مملکت سے بھی زیادتی کی ہے -

جناب سپیکر - آج سے چند دن پہلے یعنی ۶-۵-۶۸ کو واہڈا ویکلی میں واہڈا کے متعلق یہ تعریفی کلمات استعمال کئے گئے جن سے *X X X X X

"I sincerely feel that the activities of WAPDA in the field of water and power are laying a very sound and reliable economic basis for the development of the country."

وزیر آبپاشی و برقیات - یہ صحیح ہے -

مسٹر حمزہ - میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ کس حد تک ان کا یہ فرمالا بجا یا موزوں تھا -

Malik Qadir Bakhsh : On a point of order. Sir, no reference to the Governor or the President can be made in the House.

مسٹر حمزہ - جناب والا - میں نے گورنر صاحب کے متعلق کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کئے بلکہ میں نے تو ان کی تعریف کی ہے کہ وہ آئے دن سیاسی بیانات دیتے ہیں - وہ عظیم انسان ہیں اور *X X X X X جہاں تک سندھ طاس کے منصوبہ کا اور واہڈا کی کارگزاریوں کا تعلق ہے آپ اس بات کو تسلیم کریں گے -

(interruptions)

مسٹر سینیئر ڈپٹی سپیکر - آپ نے کیا فرمایا ہے ؟

Minister for Irrigation & Power : Sir, I rise on a point of order. He cannot mention the Governor or the President in this manner as has also been objected to by Malik Qadir Bakhsh.

Khawaja Muhammad Safdar : Why not? Why can't he mention ? They are the chief executives. Their policies can be discussed, their names can be mentioned.

ملک قادر بخش - یہ کہنا کہ وہ ناواقف ہیں یا ان کی سبجہ میں نہیں آیا یہ مناسب نہیں -

These are personal remarks.

Khawaja Muhammad Safdar : No personal aspersions against the President or the Governor I agree. These are the Rules. But their policies can be discussed.

Minister for Irrigation & Power : He was involving their person.

مسٹر سینیئر ڈپٹی سپیکر - آپ نے اپنی تقریر میں کون سے ایسے الفاظ کہے تھے -

مسٹر حمزہ - میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ * X X X X X

مسٹر سینیئر ڈپٹی سپیکر - حمزہ صاحب نے جو الفاظ کہے ہیں وہ کارروائی سے حذف کئے جاتے ہیں -

چودھری انور عزیز - کیا ملک قادر بخش صاحب ایسا قانون quote کریں گے کہ ہم ان کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے -

مسٹر محمود اعظم فاروقی - ہوائنٹ آف آرڈر - اگر کارروائی سے یہ

الفاظ نکال دیں کہ X X X X * تو کیا آپ پھر پچھلے گورنروں کی مثال دیں گے۔

مسٹر حمزہ // جناب سپیکر۔ طاس سندھ کے منصوبہ کی تکمیل کے متعلق دعویٰ کئے جاتے ہیں لیکن واپڈا محض پاکستان کے ایک ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے اور عدلیٰ طور پر اس خود مختار ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی تعلق تھا تو محض یہ کہ انسران غیر ملکی مشیروں اور ٹھیکے داروں سے بہت سی مراعات حاصل کریں ان کے رشتہ داروں کو بیرونی ممالک میں سیر و سیاحت کے مواقع مہیا کئے گئے۔ اس بات سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس ادارہ نے قومی وسائل کو غیر موزوں طریقہ پر استعمال کیا ہے اور قومی دولت اور افرادی قوت کو اس ادارہ نے نظر انداز کرنے کا جو وطیرہ اختیار کیا ہے اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس خود مختار ادارے کی کارگزاری سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ پاکستان جیسا غریب ملک اس قسم کے خود مختار اداروں کا جو سفید ہاتھی کی مانند ہیں۔ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا //

جناب سپیکر۔ کسی Public Corporation کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ان کے دو لوازمات ہوتے ہیں جو ان کے پیش نظر رہتے ہیں۔ میں وہ لوازمات پڑھ کر سناتا ہوں۔

"A Corporation allotted with the powers of Government but possessed with the flexibility and initiative of private enterprise..."

(اس مرحلہ پر مسٹر سپیکر کرسی صدارت پر متعین ہوئے)

// جناب سپیکر۔ ہم نے اس خود مختار ادارے کو حکومت کا سا اختیار

دیا ہے حکومت تو پھر بھی اس حد تک پابند ہے کہ جو کچھ خرچ کرے یا جو محاصل وصول کرے اس کا حساب اسے اس ایوان میں پیش کرنا پڑتا ہے۔ اور ایوان سے اجازت لے کر اخراجات کرنے پڑتے ہیں لیکن یہ خود مختار ادارہ اس پابندی سے بھی بے نیاز ہے۔ اب دوسرا رخ دیکھیں کہ آیا یہ خود مختار ادارہ ایک پرائیویٹ کارپوریٹ ادارے یا فرد کی حیثیت سے کام کرتا ہے یا نہیں اور اپنے گاہکوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے یا نہیں اور آیا یہ کوشش کرتا ہے کہ اس میں کاروباری لچک رہے۔ جو ایک پرائیویٹ ادارے یا فرد کا امتیازی نشان یا خوبی ہوتی ہے۔ یہ خوبی ہمیں اس کی پچھلی کارگزاری سے دیکھنی پڑے گی۔

جناب سپیکر۔ اس کی پچھلے دس سال کی تاریخ کو دیکھیں۔ حالانکہ اس کیوے تجاذا اختیارات دئے گئے ہیں۔ اس کے باوجود اس نے نہ تو ایک کارپوریٹ ادارہ یا فرد کی حیثیت سے اپنے گاہکوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور نہ ہی لڈ کی جانب سے نکتہ چینی کو کبھی کوئی اہمیت دی ہے۔ آپ اس ادارہ کی کارگزاری سے یہ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ اس ادارہ نے ملک یا قوم کی کون سی بہتر خدمت انجام دی ہے۔ تمام وسائل جو اس پر خرچ کیے گئے ہیں ان کے عوض ہم کو جو کچھ ملا ہے وہ محض بدنامی اور بد انتظامی ہے۔ کیوں کہ اس نے کوئی ذمہ دارانہ کارروائی نہیں کی۔ تمام پراجیکٹ یا منصوبہ جات جن پر عمل درآمد کرنے کا کام اس ادارے کے سپرد تھا مگر آپ ان کو بد نظر عمیق ملاحظہ فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ بڑی ہی غیر ذمہ داری سے ان پر عمل درآمد کیا گیا۔ اور ملک اور قوم کا کروڑوں روپہ ضائع کیا گیا ہے۔

جناب سپیکر - جہاں تک کسی اچھی حکومت کا تعلق ہے وہ عوام سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں ہوتا یہ رہا ہے کہ ایک جانب تو ترقی کا دعویٰ کرتے رہے ہیں اور دوسری جانب عوام کی تکالیف سے بے نیازی اختیار کی گئی۔ پچھلے دو سال سے پیس و پکار ہو رہی ہے کہ بجلی کی بے حد کمی ہے لیکن آج تک عوام کی اس جائز شکایت کو رفع کرنے کے لیے کوئی کامیاب کوشش نہیں کی گئی۔ اس لحاظ سے اس ادارہ کی کلرگزاری نہایت مایوس کن ہے۔ اس ادارہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک برقیات - دوسرے پانی۔ اور تیسرے یہ ادارہ بذات خود ہے۔ اس ادارہ کے اختیارات کا اندازہ آپ ان رقومات سے لگا سکتے ہیں جو وہ ہر سال خرچ کر رہا ہے۔

اگر ہم اس ادارے کو چلانے والے مہران کی قابلیت کا جائزہ لیں گے تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ ان میں سے بیشتر سول ملازمین تھے جن کا تعلق دوسرے محکموں سے تھا اور اس ادارے کو اس قسم کے اداروں کو چلانے کا تجربہ بھی ان کے پاس نہیں تھا اور فنی تربیت سے تو ان کو کسی قسم کا واسطہ ہی نہیں تھا۔ ان میں سے بیشتر افراد کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ فنی تربیت کیا چیز ہوتی ہے۔ یا اسے ادارے کو چلانے کے لیے کون کون سی خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے۔

جناب سپیکر - ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہماری حکومت نے خود مختار اداروں پر یہ پابندی لگائی تھی کہ وہ افراد جو کہ دوسرے محکموں سے عارضی طور پر لیے گئے ہیں چھ سال سے زیادہ عرصہ تک تعینات نہیں رہیں گے۔ اس کا جو انجام یا اس فیصلہ کا جو انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیشتر افراد جو دوسرے

محکموں سے تعلق رکھتے ہیں ان کا اس محکمہ میں ملازمت کا جو عرصہ ہے وہ چھ سال سے زیادہ ہے حکومت ایک پالیسی بناتی ہے اور دوسری جانب یہی خود مختار ادارے اس پالیسی کو ماننے یا اس پر عمل درآمد کرنے کو قطعی تیار نہیں تو پھر آپ خود مختار ادارے سے اچھے کام کی کیا توقع کر سکتے ہیں۔ پچھلے چار سال میں واہڈا میں چار سیکرٹری تعینات کئے گئے اور ان کا تبادلہ کیا گیا اور اسی طرح چار ڈائریکٹر مالیات وقتاً فوقتاً مقرر کئے گئے اور ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا آپ خود اندازہ لگائیں کہ اتنے اہم عہدوں پر چھ چھ ماہ کے لیے یا چار چار ماہ ماہ کے لیے آپ مختلف افراد کو تعینات کرتے ہیں تو وہ ایسے اداروں کی خدمت کیسے کر سکیں گے وہ اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے اور وہ کام جو ان کو سونپا جائے گا اس کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکیں گے۔

①

اگر آپ کی یہی پالیسی ہے تو ہم آپ سے کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں۔ یا ایسے ادارے سے کیسے توقع کر سکتے ہیں جو کہ اپنی کلیدی اسامیوں پر اس قسم کے افراد کو تعینات کرے جو نا تجربہ کار ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ میں جا کر جو تجربہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ آپ ان مواقع سے بھی ان کو محروم کر دیتے ہیں اس کار گزار اور اس طریقہ کار کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ ادارہ بد انتظامی کا شکار ہے اس میں کثرتوں کا فقدان ہے۔ ایسی صورت میں ہلکے کی مشکلات سے بے نیازی اور اختیارات کے غلط استعمال کے علاوہ ان سے آپ کس چیز کی توقع کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی ضمیمہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ اس ادارہ پر نوکر شاہی کو مسلط رکھیں گے تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس ماحول میں ملک کی ترقی کی رفتار

②

- (3) بیورو میں جا کر مکتبہ کی انتظامیہ سپیکر۔ حالات یہ ہیں کہ اس جانب سے ہر وقت مکتبہ کی کارگزاری پر نکتہ چینی کی گئی لیکن اس ادارے نے کبھی یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس کی غیر جانب دارانہ/ تحقیقات کروا کر اس کی رپورٹ منظر عام پر لائے۔ چھ ماہ تک اس ادارے کے مالیاتی حساب کتاب کا تعلق ہے اور اس کے حساب لگانے کا جو طریقہ کار ہے وہ دوسرے اداروں سے بالکل مختلف ہے تمام کے تمام ادارے کا جو حساب کتاب ہے وہ ایک ہی قسم کا نہیں ہے اگر ادارہ کے اندر حساب کتاب کی یہی صورت حال ہے تو اس ادارہ کی کارگزاری کس طرح بہتر ہو سکتی ہے پھر اس سے بڑھ کر اور کیا سہم طریقہ ہو سکتی ہے کہ اس ادارہ کے ذمہ اتنا اہم کام ہے اور اس کو کروڑوں روپیہ صرف کرنے کے لیے دئے جاتے ہیں لیکن آج تک آپ یہ سن کر خیراں ہوں گے کہ اس ادارہ کے باقاعدہ سروس رولز مرتب نہیں کئے گئے نتیجتاً اس ادارے کے بڑے افسران کو جو اتنے وسیع اختیارات حاصل ہیں وہ جس سے خوں ہونے لگتے ہیں اس کو ترقی دینے کا نتیجہ نہیں اور جس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس کو کٹھالی کا شکار بنا لیتے ہیں۔ جناب سپیکر۔ جس ادارے میں جو کہ اتنے اہم کام کر رہا ہو اور جس کے پاس اتنے وسیع اختیارات ہوں اس میں کام کرنے والے عہدے اور اس کے ملازمین کو تحفظ حاصل نہ ہو وہ یکدموں اور ٹیکہ نہیں بنے اؤد گرد کے ماعول سے متاثر ہونے بغیر کس طرح خدمت کر سکتے ہیں وہ محکمہ جو اس حد تک بد نظمی کا شکار ہو اس کو اتنے وسیع اختیارات حاصل ہوں اس کے پاس مشیروں کی فوج ہو لیکن وہ ان کی قابلیت اور عظمت سے استفادہ کر کے اپنے سروس رولز لکھنے کے عرصہ میں بھی مرتب نہ کر سکا ہو تو اس کے متعلق اور کیا
- (4) دہ اتنا اہم کام ہے اور اس کو کروڑوں روپیہ صرف کرنے کے لیے دئے جاتے ہیں لیکن آج تک آپ یہ سن کر خیراں ہوں گے کہ اس ادارہ کے باقاعدہ سروس رولز مرتب نہیں کئے گئے نتیجتاً اس ادارے کے بڑے افسران کو جو اتنے وسیع اختیارات حاصل ہیں وہ جس سے خوں ہونے لگتے ہیں اس کو ترقی دینے کا نتیجہ نہیں اور جس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس کو کٹھالی کا شکار بنا لیتے ہیں۔ جناب سپیکر۔ جس ادارے میں جو کہ اتنے اہم کام کر رہا ہو اور جس کے پاس اتنے وسیع اختیارات ہوں اس میں کام کرنے والے عہدے اور اس کے ملازمین کو تحفظ حاصل نہ ہو وہ یکدموں اور ٹیکہ نہیں بنے اؤد گرد کے ماعول سے متاثر ہونے بغیر کس طرح خدمت کر سکتے ہیں وہ محکمہ جو اس حد تک بد نظمی کا شکار ہو اس کو اتنے وسیع اختیارات حاصل ہوں اس کے پاس مشیروں کی فوج ہو لیکن وہ ان کی قابلیت اور عظمت سے استفادہ کر کے اپنے سروس رولز لکھنے کے عرصہ میں بھی مرتب نہ کر سکا ہو تو اس کے متعلق اور کیا
- (5) دہ اتنا اہم کام ہے اور اس کو کروڑوں روپیہ صرف کرنے کے لیے دئے جاتے ہیں لیکن آج تک آپ یہ سن کر خیراں ہوں گے کہ اس ادارہ کے باقاعدہ سروس رولز مرتب نہیں کئے گئے نتیجتاً اس ادارے کے بڑے افسران کو جو اتنے وسیع اختیارات حاصل ہیں وہ جس سے خوں ہونے لگتے ہیں اس کو ترقی دینے کا نتیجہ نہیں اور جس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس کو کٹھالی کا شکار بنا لیتے ہیں۔ جناب سپیکر۔ جس ادارے میں جو کہ اتنے اہم کام کر رہا ہو اور جس کے پاس اتنے وسیع اختیارات ہوں اس میں کام کرنے والے عہدے اور اس کے ملازمین کو تحفظ حاصل نہ ہو وہ یکدموں اور ٹیکہ نہیں بنے اؤد گرد کے ماعول سے متاثر ہونے بغیر کس طرح خدمت کر سکتے ہیں وہ محکمہ جو اس حد تک بد نظمی کا شکار ہو اس کو اتنے وسیع اختیارات حاصل ہوں اس کے پاس مشیروں کی فوج ہو لیکن وہ ان کی قابلیت اور عظمت سے استفادہ کر کے اپنے سروس رولز لکھنے کے عرصہ میں بھی مرتب نہ کر سکا ہو تو اس کے متعلق اور کیا

کہنا چاہتا تھا ہے اور آپ اس سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ننگہ می
ترقی اور آبپاشی کے میدان میں کوئی بڑا کارنامہ سرانجام دے گا جس کے لیے
یہ ادارہ بنایا گیا تھا ۔

جناب سپیکر - کام کے بارے میں جناب وزیر موصوف نے یہ بتایا کہ
ملک کی ترقی کا راز اس ادارہ کو ٹھیک طور پر چلانے میں ہے لیکن جہاں
تک وہ عملہ جو کہ اس ادارہ میں کام کرتا ہے اس کو تربیت دینے کا
تعمل ہے محض لائل پور میں تربیت کے لیے ایک کالج اور ایک ٹریننگ
سنٹر کھولا گیا ہے جن میں لائن سپرنٹنڈنٹ اور انجینیرز کو تربیت دی
جاتی ہے لیکن ان چھوٹے افسروں کی تربیت کے علاوہ بجلی کے شعبہ
میں تربیت کا اہتمام کسی شیج پر بھی نہیں کیا گیا۔ آپ کو ظاہر
ہے کہ بجلی کا کام کس حد تک نازک اور اس میں کس حد تک ہاریکمال
قوتیں ہیں وہ عملہ جسے کہ اتنا پیچیدہ کام سونپا گیا ہے اگر آپ اس کو
باضابطہ اور مسلسل تربیت نہ دیں - زمانے کی جو نئی نئی ایجادات ہیں ان
سے روشناس اور بہرہ ور نہ کریں تو وہ کس طرح اس ادارہ کی خدمت
کر سکتے ہیں جس کی قوم کو ان سے توقع ہے - دراصل ایک جانب تو
تربیت کا فقدان ہے اور دوسری جانب بیرونی ممالک سے جو بھی مشیر مقرر
کئے جاتے ہیں ان کی رائے کو عقل کل سمجھ کر اپنایا جاتا ہے
اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض منصوبے جن پر اس ادارے نے
عمل درآمد کیا وہ آج ٹھیک طریقہ سے نہیں چل رہے ہیں -
جو بیرونی مشر چلے گئے تو ہمارے انجینیرز نے ان کی ذمہ داری لینے
سے انکار کر دیا یا وہ ان کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہیں - آپ

ہی بتائیں کہ آج ہماری قوم کس سے استفادہ کرے اور اس کا ذمہ دار کس کو ٹوہرائے؟

جناب سپیکر - اس ادارہ کو چاہئے تو یہ تھا کہ آبپاشی اور برقیات کے شعبے میں اوپر سے لے کر نیچے تک بہترین تربیت کا انتظام کرتا۔ محض ایک ٹیکنیکل ممبر کی تعیناتی سے یہ تمام نقائص رفع نہیں ہو سکتے۔ ممبر ٹیکنیکل عقل کل نہیں ہوگا۔ وہ ہر شیچ پر ہر کارخانے میں ہر شعبہ میں کام نہیں کر سکتا۔ پچھلے دس سال سے یہ بالکل سو رہے ہیں۔ اگر تین کی بجائے ایک چوتھا ممبر تعینات کر دیا جائے تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔

اب میں برقیات کے شعبہ کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے ۱۰ سالوں میں بجلی کی پیداوار میں ۱۰ گنا اضافہ ہو گیا لیکن کیا جناب وزیر موصوف کو علم ہے کہ آج سے ۱۰ سال پہلے برقیات کے شعبہ میں محض ایک چیف انجینیر ہوتا تھا اور آج ۱۰ چیف انجینیرز ہیں کیا کام ۱۰ گنا بڑھ گیا ہے کہ ۱۰ چیف انجینیرز رکھے جائیں یا تعینات کئے جائیں۔ آخر اتنے بڑے بڑے افسروں کی اتنی زیادہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ آپ نے اس محکمہ کی کارگزاری کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی بلکہ بعض لوگوں کو نوازنے کی کوشش کی ہے۔ ایک طرف آپ مصر ہیں کہ کم از کم بجلی فروغ کرنے کی کارروائی minimum consumption guarantee صارفین سے وصول کریں گے وگرنہ ادارے کو مالی نقصان پہنچے گا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس قسم کے غیر ضروری عہدے بڑھا کر یا ایجاد کر کے کہا آپ نے اس محکمہ کی خدمت کی ہے؟ آپ نے بہت سے سفید ہاتھی لا کر باندھ دئے ہیں جو اس ادارہ کو لوٹتے رہے ہیں اور بالواسطہ اس قوم کو بھی لوٹتے رہے ہیں

جناب سپیکر۔ کس کو علم نہیں کہ ایک جانب تو ۱۹۶۶-۶۷ کا برقیات کا
 crisis ہے جب بھی واہڈا کا نام لیا جاتا ہے تو وہ دور ہاری آنکھوں کے
 سامنے آ جاتا ہے۔ محض کاشت کار ہی مصیبت کا شکار نہیں ہوئے۔ صنعت
 کاروں نے ہی کروڑوں روپیہ کا نقصان نہیں اٹھایا۔ صارفین نے ہی انتہائی
 پریشانی کے دن نہیں گزارے بلکہ لاکھوں مزدور اس ادارے کی ناکامیوں
 اور نا اہلیوں کی وجہ سے بے روزگاری کا شکار ہوئے اور بات یہیں ختم نہیں
 ہوتی۔ اس ادارے نے ہر کام غیر ملکی مشینوں سے ہی نہیں کرایا بلکہ
 میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ اس ملک میں غیر ملکی سرمایہ داروں کے
 ایجنٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بجلی کی وولٹیج میں جو کمی بیشی ہوتی
 رہتی ہے اس سے بجلی کے باپ ہی فیل نہیں ہوتے بلکہ کروڑوں روپیہ
 کی مشینری۔ بجلی کی موٹریں اور ریفریجریٹرز اور جو مشینری یا سامان
 بجلی سے چلایا جاتا ہے یا جن میں بجلی استعمال ہوتی ہے وہ
 تباہ و برباد اور خراب ہوتے رہے ہیں۔ اس کی ذمہ داری کس
 پر ہے۔ اگر آپ اخبار پڑھتے ہوں تو آپ کو علم ہوگا کہ پریس ٹرسٹ
 کے اخبار بھی بعض دفعہ سچ بات لکھ دیتے ہیں۔ اگلے دن پاکستان
 ٹائمز میں ننھے کا کارٹون تھا جو اپنے باپ کو کہہ رہا تھا کہ کیا گھر
 میں جن بھوت تو نہیں آگئے کیونکہ بجلی کے یکدم چلنے جانے سے کمرہ میں
 اور گھر میں تاریکی ہو جاتی ہے اور کبھی یکدم روشنی۔ تو مجھے بھی اب آپ کا
 مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ آپ کے محکمہ کی اہلیت کا حال ہے۔ حکومت کی طرف سے
 ترقی اور خدمت کے جو دعوے کئے جاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔
 یہ فرماتے ہیں کہ ۱۹۵۸ کے مقابلہ میں بجلی کی پیداوار ۱۰ گنا ہو گئی ہے اس
 میں کوئی شک نہیں لیکن خدارا دوسرے پہلو کا بھی جائزہ لیجئے۔ کیا یہ

حقیقت نہیں ہے کہ سن ۵۸ میں وارسک کا بجلی گھر ۹ فیصد تیار ہو چکا تھا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ چیچو کی ملیاں کا چیئریشن سیٹ مکمل ہو چکا تھا۔ شادی وال کا ہائیڈل سٹیشن زیر تعمیر تھا۔ رسول۔ ہالا کنڈ۔ درگئی اور ندی پور کا سٹیشن بھی زیر تعمیر تھا۔ منگلا کی تیاریاں شروع تو ہیں اور اس محکمہ کی نالائقیوں کا اندازہ آپ نے اسمبلی کے پچھلے اجلاس میں لگا لیا ہوگا۔ میں نے سوال کیا تھا کہ ندی پور کا ہائیڈل سٹیشن ایک دفعہ وہ تمام کا تمام اور اس کی مشینری بہہ گئی تھی وزیر موصوف نے فرمایا کہ واپڈا کو ۲۰ لاکھ کا نقصان برداشت کرنا پڑا اور میں نے پوچھا کہ کیا غیر ملکی ٹھیکے داروں سے رقم وصول کی گئی تو انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ ہمارا ارادہ ہے کہ اس کمپنی کو ایک اور ٹھیکہ دے دیا جائے جب اس کو کچھ آمدنی ہوگی تو ان سے رقم وصول کر لی جائے گی۔ جناب سپیکر۔ آپ اس جواب سے اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن ہمارے وزیر صاحب تو اس ادارے کی حمایت کرنے کے لئے مقرر ہیں۔ مجھے ان کے حال پر رحم آتا ہے۔ یہ ادارہ کس حد تک قومی مفادات کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے فرائض کو کس طریقہ سے سر انجام دیتا ہے۔ ان کی نااہلی سے لاکھوں روپیہ ضائع ہو گیا ہے اور یہ ادارہ یہ نقصان غیرملکی ٹھیکے داروں سے وصول نہیں کر سکا۔ آپ یہ تسلیم کریں گے کہ اس ادارہ کے معرض وجود میں آنے کے بعد محض ایک ہی بجلی گھر جو تمام کا تمام بس نے تیار کروایا چالو ہوا ہے۔ اور وہ منگلا ہے۔ اس پر ضمناً خواجہ صاحب معروضات پیش کر چکے ہیں۔ اب میں ان پراجیکٹس کے بارے میں عرض کروں گا جو پانی گیس بہاؤ سے بجلی بناتے ہیں جناب سپیکر۔ آپ کو اچھی طرح علم ہوگا کہ وہ بجلی جو پانی سے پیدا کی جاتی ہے یہ بجلی کو بنانا کرنے کا سب سے

سستا اور آسان اور مفید طریقہ ہے۔ ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں کہ مجھے وارنٹک جانے کا اتفاق ہوا وہ بہت ہی اچھا کارخانہ ہے لیکن یہ جو بجلی ہانی سے پیدا کی جاتی ہے یہ سب سے آسان اور سستا طریقہ ہے۔ ہانی جب جنیور میں سے گزرتا ہے تو اس سے اتنی زیادہ گرمی پیدا نہیں ہوتی جتنی گرمی کہ تھرمل سٹیشن میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک جائزہ لیں تو پائیں گے کہ ایک تھرمل پلانٹ بھی آج تک ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ لیکن بھاپ یا گرمی سے چلنے والے بجلی گھروں کا تعلق ہے۔ چاہے وہ ملتان کا ہو یا لائل پور کا ہو حیدرآباد کا ہو یا سکھر کا ہو سب کے سب وقتاً فوقتاً خراب ہوتے رہے ہیں۔

جناب سپیکر۔ چونکہ تھرمل پاور سٹیشن کی مشینری بہت پیچیدہ ہوتی ہے اس لیے ضروری تھا کہ ہمارے ملک کے انجینیروں کو اس کے چلانے کی باقاعدہ تربیت دی جاتی لیکن افسوس کا مقام ہے کہ دوسرے ملکوں سے ادھار لینے پر تو یہ فخر کرتے رہتے ہیں مگر انہیں یہ احساس ہی نہ ہوا کہ کل ہم نے یہ کارخانے خود چلانے ہیں۔ اس کوتاہ اندیشانہ پالیسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک تو قرضہ دینے والے ملکوں نے ہمیں وہ مشینری دی جسے دوسروں نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ جیسا کہ ابھی خواجہ صاحب نے فرمایا ہے وہ مشینری جو کوٹری میں نصب ہے اسے انڈونیشیا نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ مگر ہم نے اسے حاصل کرنا پسند کیا پھر انجینیر اور مشینر اس مشینری کے ساتھ آئے جنہوں نے اسے نصب کیا۔ غیر مالک کے وہ چھوٹے چھوٹے مستری یہاں آ کر مشین بن جاتے ہیں اور ہمارے وسائل کو مفت اور حرام کا مال سمجھ کر کھا جاتے ہیں اگر انہیں ذمہ داری کا احساس ہوتا تو یہ سوچتے کہ ان تمام سٹیشنوں کو ہم نے خود چلانا ہے اور ان کی تنصیب کے دوران اور ان کے چالو ہونے سے

ہم نے اپنے انجینئروں اور انجینئروں کو تربیت دینے اگر انہیں پہلے تربیت دی جاتی تو یہ لازماً مفید ثابت ہوتی۔ پاکستانی انجینئرز دیکھ لیتے کہ یہ مشینری ٹھیک طریقہ سے نصب ہو رہی ہے یا نہیں موجودہ صورت میں ہمارے انجینئر محض خاموش تماشائی رہے وہ بیرونی مشینوں کے کسی معاملہ میں دخل نہیں دے سکتے تھے نہ ان کی سمجھ میں آتا تھا اگر کبھی انہوں نے مداخلت کی تو اسے برداشت نہ کیا گیا اگر کسی جگہ پاکستانی انجینئروں نے احتجاج کیا تو اسے رد کر دیا گیا وہ بات جو غیروں نے ہمارے دشمنوں نے ہمارا نقصان کرنے والوں نے کہی اسے آپ مانتے پر مجبور تھے اور آپ نے خوشی سے مانا اور قوم کے ساتھ زیادتی کی۔

جناب سپیکر۔ میں آپ کے سامنے زیادہ تر ملتان تھرمل پاور سٹیشن کے بارے میں معروضات پیش کروں گا کیوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ دوسرے تھرمل سٹیشنوں میں کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوتا ہے یا کیا ہونے والا ہے۔ الیکٹریکل و مکینیکل انجینئرز ایسوسی ایشن نے ایک باضابطہ رپورٹ ہماری حکومت کو پیش کی ہے میں اس کے بعض حصے ایوان میں پڑھنا پسند کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بعض ایک ممبر کو پڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہمارے ملک و قوم کی ترقی بلکہ زیست کا مسئلہ ہے ہم نے اس ادارے سے محض کارخانے ہی نہیں چلانے بلکہ ہزار ہا ٹیوب ویل بھی چلانے ہیں اس وقت ہزار ہا چل رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مزید نصب کرنے ہیں اگر اس ادارے کا نظام ٹھیک نہیں تو ہمارا ملک ہمیشہ کے لیے غیروں کا محتاج اور غلام ہو کر رہ جائے گا۔ جناب سپیکر

انہوں نے ملتان کے اس کارخانے کا باقاعدہ جائزہ لینے اور اس کی انکوائری کرنے کے بعد یہ لکھا ہے :-

"The breakdown in Multan was due to failure of management-failure of Management to grasp the relationship between machine and its operations. As a corollary, more complicated plant was selected than was within the technical grasp of talent and experience available with the operation staff, at the time of installation. Subsequently, lack of foresight was shown, in planning, by not considering human factor and not imparting practical training which takes time and cannot be reduced. During operation, missing the crux of the matter again, the Management shuffled and re-shuffled the operation staff, which had gained experience."

جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ اعلیٰ احتیارات والی انتظامیہ انسٹالمنٹ کو چار چار ماہ بعد بدلتے رہے ہیں بلکہ جو ٹیکنیکل سٹاف تھا وہ بھی اس سے مبرا نہ تھا۔ جسے ذرا تجربہ ہوا اسے دوسری جگہ بھیج دیا۔ نتیجہ یہ ہے جو ہم اب بھکتے رہے ہیں۔ اور یہ محض حمزہ نہیں کہتا انجینئرز کہتے ہیں وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہماری ہلت نہیں مانتے تو نہ مانیں لیکن کم از کم ایک ہائی پاور کمیشن تو مقرر کریں۔ اگر آپ کا حساب ٹھیک ٹھاکا ہے تو آپ کو کس چیز کا خوف ہے۔

Mr. Speaker : No repetition.

مسٹر حمزہ - اس میں یہ بتایا گیا ہے یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔

"It is strongly recommended that a High Powered Technical Commission be appointed to thoroughly investigate all aspects of the matter starting from the planning stage and publish results."

جناب سپیکر - پھر سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ اگر حکومت کوئی انکوائری کمیٹی مقرر کرتی ہے تو اس کی رپورٹ سے ہمیں لاکھ نہیں کیا جاتا۔ تمام غورممالک میں یہ طریقہ رائج ہے کہ اگر حکومت کسی شعبہ کے

بارہ میں گولی انکوائری کمیٹی مقرر کرے تو وہ اس کی رپورٹ سے عوام کو مطلع کرتی ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت عوام کو اعتماد میں لینا گناہ سمجھتی ہے اور یہی حال ہمارے خود مختار اداروں کا ہے۔ ملتان کے ہاور سٹیشن کی ناکامی یا خرابی کے بارے میں انہوں نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی تھی۔ اس کمیٹی کی رپورٹ اس وقت ہماری حکومت کے پاس ہے۔ آج ایوان کو یہ کہا جاتا ہے۔ کہ آپ منظور کیجئے تیسرا ممبر ہم نے مقرر کرنا ہے اور وہ ٹیکنیکل ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ سمجھدار انسان وہ تجربہ کار افراد وہ لوگ جن کو اس حکومت نے بذات خود اس تھرمل سٹیشن کی تحقیقات کے لئے مامور کیا تھا ان کی رپورٹ اس ایوان کے سامنے بھی نہیں آئی۔ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اس ایوان کے ممبر عوام کے نمائندے ہیں لیکن عدلاً وہ ہمیں اس حد تک غیر ذمہ دار اور نا اہل سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس انکوائری رپورٹ کو ہمارے سامنے پیش کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔

یہی نہیں بلکہ انجینئرز کی اس ایسوسی ایشن کو بھی گم ہے کہ انہوں نے استدعا کی کہ انہیں وہ انکوائری رپورٹ دی جائے تاکہ وہ اس سے استفادہ کر سکیں بھلا ہم تو نا تجربہ کار اور نا اہل laymen ہیں۔ ہم انجینئرز نہیں ہیں۔ مگر انجینئرز کی اس ایسوسی ایشن نے ان سے تحریری مطالبہ کیا مگر انہوں نے ان کو بھی یہ رپورٹ دکھانا پسند نہیں کیا۔ جناب سپیکر۔ عرض یہ ہے کہ ہم تو ترقی پذیر ملک ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی جو تحقیقاتی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں عام طور پر ان کی رپورٹ پبلک میں باقاعدہ

مشہور کی جاتی ہے۔ یہ امر ان کے بارہ میں تحقیقاتی رپورٹ نہ تھی یہ
 سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی رپورٹ نہ تھی جسے حکومت چھپاتی ہے
 تو مہن توڑمل ناور سٹیشن کے بارہ میں رپورٹ تھی ان کا کہ سن لیجیٹ
 وہ کہتے ہیں :-

"In developed countries, investigation of failures is a recognised process of learning."

لوگ اس سے سیکھتے ہیں :-

"For example, in the U.S.A. the recent major power breakdown was fully investigated and a report was published by such respectable journals as 'POWER'."

یعنی امریکہ والے جن کے ہم بھکاری ہیں جو ہمیں ناکارہ مشینری
 بھی دیتے ہیں ان کا بھی یہ طریقہ ہے کہ اگر وہاں بجلی ٹول ہو جائے
 یا بجلی بنانے کا کارخانہ خراب ہو جائے تو وہ اس کے بارہ میں تحقیقات
 کراتے ہیں اور پھر اس تحقیقات کو باقاعدہ رسالے میں چھاپ دیا جاتا ہے۔

Mr. Speaker : Will the Member please conclude now ?

مسٹر حمزہ - جناب والا - میں نے ہائی کے متعلق بھی عرض کرنا
 ہے۔ جناب سپیکر - جو انجینئرز تحقیقات کے لئے بیٹھے تھے ان کی رپورٹ
 یہ بتاتی ہے -

The point which comes out is :

The Technical Advisers to the Management were as unaware of the intricacies as planners and consultants were and that the management had no grasp of the situation. They delayed the decision in the hope that time will solve them till they were faced with disaster. It has been reported that when the Chairman wanted to know from the Technical aides about the situation and causes of the failure none could explain the causes. None knew what had happened.

وہ انجنیئرز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نقطہ نظر سے ملتان کے باہر سٹیشن
کی خرابی کی وجوہات یہ ہیں :-

In our opinion reasons of breakdown can be summed up :

- (1) Bad planning.
- (2) Wrong consultation and improper selection of plant.
- (3) Lack of imagination in not training the staff for sufficient time.
- (4) Failure of management to provide proper working conditions.
- (5) Failure of management to delegate necessary powers to local managers in power house, particularly financial powers and a free hand in the purchase of spares etc.
- (6) Failure of management to provide guidance and sympathy to the frustrated and over-worked staff.

یہ کیفیت تو ایک تھرمل سٹیشن کی ہے جس کے متعلق جناب
خواجہ صدر صاحب نے فرمایا ہے۔ محض یہ کیفیت ملتان میں ہی
نہیں بلکہ مجھے آج صبح ایک انجنیئر ملے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ
مسئلہ محض ملتان تک محدود نہیں بلکہ تمام تھرمل سٹیشن جو کروڑھا
روپیہ کے خرچہ سے صوبہ میں لاکھوں گاواٹ بجلی پیدا کرنے کے لئے
بنائے ہیں ان میں آج ایک بھی تھرمل سٹیشن ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے
ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے چند سال بعد وہ مشینری کسی کبازئی کی
دوکان پر بڑی ہوگی۔ یہ تمام کی تمام دولت ضائع جا رہی ہے۔ اس کے
ازالہ کے لئے انہوں نے کیا کیا ہے۔ اس کے نقائص کو دور کرنے کے لئے کیا
اقدامات کئے ہیں۔ محض اس کا ازالہ کرنے کے لئے ایک Resident Engineer
کو ذمہ دار گردان کر ملازمت سے علیحدہ کر دیا ہے۔ اس کے متعلق
تمام وائعات انجنیئرز ایسوسی ایشن نے آپ کے سامنے بیان کئے ہیں کہ یہ

ذمہ داری تمام کی تمام واہدا کے افسران کی تھی۔ اگر آج اس ملک میں کوئی ذمہ دار حکومت ہوتی تو ایک ٹیکنیکل ممبر کی تعیناتی یا اضافہ کرنے کی بجائے تین ممبران جو اس وقت واہدا کے ممبر ہیں گنو علیحدہ کرتی اور ان کی جگہ کوئی بہتر دماغ جو زیادہ قابلیت کے مالک ہوں۔ زیادہ تجربہ کار ہوں اور زیادہ ذہانت کے مالک ہوں۔ زیادہ ڈینک ٹیٹ ہوں گو یہاں تعینات کیا جانا چاہیے تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے واہدا کے حضرات نے جو کچھ سلوک کرنا تھا یا کر رہے ہیں وزیر صاحب نے بھی اسی طرح اپنی پالیسی یا اپنا رویہ بدل لیا ہے۔ جناب سپیکر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب غلام فاروق صاحب جو مرکزی وزیر تھے جب ملتان کا تھرمل سٹیشن بعض نقائص کی بنا پر بند ہو گیا۔ اس موقع پر جناب غلام فاروق صاحب نے کم از کم اتنی جرأت، اتنی ہمت اور اتنی صاف گوئی سے بر ملا بیان کیا کہ اس پونٹ کے بند ہو جانے سے گورنمنٹ کو روزانہ ۷۱ لاکھ روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے اور اس پونٹ میں جو خرابی ہے اس کی بڑی وجہ واہدا کے ذمہ دار افسران ہیں لیکن جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے نقائص بڑھتے جا رہے ہیں۔ خرابیاں سامنے آرہی ہیں لیکن بچارے ہمارے وزرا صاحبان ان کی غلطیوں کی حمایت کرتے ہیں بجائے اس کے کہ بر ملا وہ ہمارے سامنے آئیں اور اعتراف کریں کہ ہمارے اہلکاروں نے یہ یہ غلطیاں سچی ہیں اور ان غلطیوں کا ازالہ اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ بجائے اس کے کہ ہم کیوٹر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں ہمیں چاہیے کہ ہم مجتمع اور اکٹھے ہو کر اس پر سوچ بچار کر کے اس کا حل تلاش کریں ہمیں اس کا انکار کرنا تو کوئی علاج نہیں ہے۔

جناب سپیکر - اب میں پانی کے شعبہ کی جانب آتا ہوں - جیسا کہ آپ کو بھی علم ہے کہ زیر زمین پانی کے وسائل کو ترقی دینا واہڈا کی ذمہ داری ہے - یہ بھی مسلمہ امر ہے کہ واہڈا ان تمام سکیموں کو غیر ملکی قرضوں سے چلا رہا ہے - ٹیوب ویلز جو اس ملک کا انجینئر ، مستری ، کارخانہ دار ، صنعت کار اس ملک کے خام مال کو استعمال کر کے ، اس ملک کے مزدوروں کو روزگار مہیا کر کے ہمیں زیادہ سے زیادہ ۱۵ ہزار روپیہ میں مہیا کر سکتا ہے وہ ٹیوب ویل ہم نے غیر ممالک سے ۶۰ یا ۷۰ ہزار میں درآمد کیا یا نصب کیا ہے - اس وقت وہ تمام منصوبے جن کو سکارپ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے وہ سکارپ نمبر ۱-۲-۳ اور ۴ ہیں - ان میں کوئی منصوبہ اگر کسی حد تک کامیاب ہوا ہے تو وہ سکارپ نمبر ۱ ہے جس کو رچنا دو آب کہتے ہیں - جناب وزیر موصوف کو یاد ہوگا کہ یہ منصوبہ بدنام سیاستدانوں کے زمانے میں بنایا گیا تھا اور اس پر آج عمل درآمد کیا جا رہا ہے - جناب سپیکر - پہلے منصوبہ پر عمل درآمد کرتے ہوئے واہڈا کو بہت سے تلخ تجربات ہوئے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ واہڈا نے ان تلخ تجربات سے آج تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا - اس ایوان میں متعدد بار میں عرض کر چکا ہوں اور سوالات کے ذریعہ جناب وزیر موصوف کی توجہ اس جانب دلا چکا ہوں کہ بعض چکوک میں یا بعض جگہوں پر ایسے ٹیوب ویلز چالو کئے گئے ہیں جن کا پانی آبپاشی کے لئے مناسب اور موزوں نہیں ہے - سکارپ نمبر ۱ میں جتنے ٹیوب ویلز نصب

کئے گئے ہیں ان سے آبپاشی کا کیا کام لیا جانا تھا۔ اس خود مختار ادارہ نے اس حد تک خود مختاری کی ہے کہ لوگ چیخ و پکار کرتے رہے کہ پانی میں نقص ہے لیکن اس کے باوجود ٹیوب ویلز بند نہیں کئے گئے۔ اگر بند کئے گئے تو جو کاشتکار اس پانی سے استفادہ نہیں کرتے تھے ان کو مجبور کیا گیا کہ ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جناب سپیکر۔ آج اس ایوان میں جناب رائے وحید اللہ موجود نہیں ہیں ورنہ اگر اس بیچارے کو اس ایوان میں کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوتی یا وہ یہاں کچھ کہنا مناسب سمجھتے آپ علیحدگی میں ان سے دریافت کر سکتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگ SCARPI کے افسران اور اس منصوبے کے تحت ان پر لگائے ہوئے لگان کی ادائیگی سے کتنے پریشان ہیں۔

جناب سپیکر۔ SCARP دو، تین اور چار کا بھی زیادہ تر انحصار بیرونی مشینوں پر ہی کیا گیا ہے اور اس میں جو مشینری استعمال کی جاتی ہے اس مشینری کا بیشتر حصہ بیرونی ممالک سے ہی درآمد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس خود مختار ادارے نے پانی کے چھوٹے چھوٹے بند تعمیر کئے ہیں جن سے آبپاشی کا کام لیا جاتا ہے۔ چھوٹے بندوں کی تعمیر کے منصوبے اس وقت بدنام ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک بدنام بند راول بند ہے جس پر کہ اس ادارے نے دو کروڑ روپیہ صرف کیا ہے۔ دوسرا بند ٹانڈا بند ہے جس کی تعمیر پر اس ادارے نے چھ کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے۔

جناب سپیکر۔ اس ادارے کے کام میں جہاں تک غیر ملکی مشینوں

کی خدمات سے استفادہ کا تعلق ہے۔ غیر ملکی مشیر اس ادارے کے لئے تخمینہ جات تیار کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں اور انٹرنیشنل بینک آف ریکانسٹرکشن کو بھیجتے ہیں اور اس کے بعد محض عمل درآمد ان کے سامنے کرایا جاتا ہے۔ آپ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ جہاں تک ٹھیکے دینے کا تعلق ہے، آپ بھی یہی کہیں گے کہ ٹھیکے دینا بھی اس ادارے کے دائرہ اختیار میں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹھیکے بھی بعض سیاسی وجوہات کو مد نظر رکھ کر ہی دیئے جاتے ہیں اور ایسے منصوبے جن کی تکمیل کے لئے کم رقومات کے ٹھیکے دیئے گئے، ہماری حکومت ان کو رد کرنے پر مجبور ہوتی اور واپڈا بھی اس میں شامل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ قرضے جو ہمیں بیرونی ممالک سے موصول ہوئے، ان کے متعلق آج تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان میں سے پچاس فیصد رقم قرضہ دینے والے ملکوں کو ہی مختلف شکلوں میں واپس چلی جاتی ہیں۔۔۔۔

Mr. Speaker : The Member is not relevant.

مسٹر حمزہ - جناب سپیکر - میں پانی کے شعبے کے متعلق عرض کر رہا ہوں اور بتانا یہ مقصود ہے کہ ان قرضہ جات میں پچاس فیصد رقم ان ہی ملکوں کو واپس چلی جاتی ہے کہ جو ممالک ہمیں وہ قرضے دیتے ہیں۔ زیریں تھل پراجیکٹ جو کہ ملک قادر بخش صاحب کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کو اچھی طرح یاد ہوگا اور ان کو اچھی طرح علم ہے کہ زیریں تھل بری طرح سیم و تھور کا شکار ہو چکا ہے، وہ ہمارے اسی خود مختار ادارے کے باعث ہوا ہے

اور اسی کا دوسرا بھائی جو کہ بذات خود ایک الگ خود مختار ادارہ ہے اور جسے کل ”اندھا دھند کارپوریشن“ کا نام دیا گیا تھا ، اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ اس علاقے کو سیم اور تھور کی وبا سے بچایا جائے۔ لیکن عملاً کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ لاڑکانہ اور شکرپور کا جو منصوبہ ہے اس پر کافی عرصے سے عملدرآمد کیا جا رہا ہے لیکن وہ بھی تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک علاقہ سیم اور تھور کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس بیماری سے بچانے کے لئے اقدامات کئے جاتے ہیں۔ لیکن جب کاشتکار بھی ایسے کام میں کچھ نہ کچھ حصہ بنا سکتے ہیں اور اس علاقے کے لوگوں میں بھی کچھ نہ کچھ اقتصادی جان ہوتی ہے ، اس وقت یہ ادارہ خاموش ہی رہتا ہے یا پھر اس کے منصوبے تاخیر سے چلتے ہیں۔

جناب سپیکر - اس خود مختار ادارے کا ایک شعبہ کا نام ڈیویلپمنٹ ڈویژن ہے اس ڈیویلپمنٹ ڈویژن کے فرائض میں بندوں کی منصوبہ بندی ان کے ڈیزائن بنانا ہے ان پر عمل درآمد کرانا شامل ہے۔ میں ضمناً عرض کر چکا ہوں کہ راول بند اور ٹانڈا بند کی تعمیر بھی ان کے ذمہ تھی اور آپ کو علم ہے کہ جب راول بند کا تخمینہ پہلے تیار کیا گیا اس کے مطابق اس بند پر ستر لاکھ روپیہ خرچ ہونا تھا لیکن اس پر دو کروڑ روپے سے بھی زائد خرچ کر کے اس کو تیار کیا گیا۔ اسی طرح ٹانڈا بند کی تعمیر کا تخمینہ چار کروڑ روپے کا تھا لیکن اس پر چھ کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ اسی طرح کراچی کے لئے آبپاشی کا جو منصوبہ ۱۹۷۰ میں مکمل

ہونا تھا اس کا بیس فیصد حصہ تیار ہو چکنے کے بعد اب تخمینہ جات پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہزارہ میں واقع خان پور کے منصوبے کے تخمینے مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان بندوں پر اخراجات تخمینوں سے کہیں زیادہ اور روز بروز بڑھ رہے ہیں۔

جناب سپیکر۔ اس خود مختار ادارے کا ایک اور بھی ادارہ ہے جس کو Machinery Pool Organisation کہتے ہیں۔ یہ تنظیم ۱۹۵۹ء میں معرض وجود میں آئی اس کی غرض و غایت یہ تھی کہ ہم غیر ممالک سے جو مشینری منگواتے ہیں اس سے نجات حاصل کی جائے یا کسی حد تک ہم اپنے ملکی وسائل پر ہی انحصار کریں۔ جیسا کہ میں ابھی ابھی عرض کر چکا ہوں یہ M.P.O. بھی بد انتظامی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اسے امریکی امداد میں سے سات کروڑ روپے مشینری خریدنے کے لئے دیئے گئے اور جو مشینری امریکن امداد کے تحت درآمد کی گئی ہے اگر آپ ایک انجینئر نہ ہوتے ہوئے بھی اس کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام کی تمام یا اس کا بیشتر حصہ بیکار پڑا ہوا ہے M.P.O. کو دوسرے بہت سے اداروں کی طرح غیر تربیت یافتہ اور نا تجربہ کار لوگوں کے سپرد کیا گیا جس کی وجہ سے اس کی بیشتر مشینری خراب ہو گئی ہے اور یا غیر استعمال شدہ صورت میں۔ کار پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہیں اس ادارے کی کارکردگیاں۔ یہ ادارہ جو کہ مقاصد کے حصول میں ناکام رہا ہے اور بد نظمی کا بد ترین نمونہ ہے اور کروڑوں

روپے ضائع کر چکا ہے منصوبوں کی تکمیل یا ان کو چلانے میں بری طرح ناکام ہوا ہے اور پاکستانی ماہرین کو نظر انداز کر کے غیر ملکی مشیروں کے ذریعے اپنے منصوبوں کی تکمیل میں ناکام رہا ہے حالانکہ اس کی تنظیم پہلے ہی سے top heavy ہے اور جن افراد کے سپرد یہ سب کام کیا گیا ہے وہ سب ہی غیر تربیت یافتہ ، نا تجربہ کار اور اپنے کام سے نا واقف ہیں اب بجائے اس کے کہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی - جو اس قوم کے لئے پیدا کر دیئے گئے ہیں - بجائے اس کے کہ اس ادارہ کو مناسب تقسیم کر دیا جانا انہوں نے محض ایک ممبر ڈیپلٹمنٹ کا اضافہ کر دیا ہے - میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پہلے عوام سے مذاق کرتی ہے اور یہ بھی ایک مذاق کرنے کا بلواسطہ طریقہ ہے - لیکن عوام سے تو آپ کافی دیر تک مذاق کر سکتے ہیں - لیکن آپ مشینری سے کتنی دیر تک مذاق کرتے رہیں گے - مشینری کو تو صحیح طریقہ سے چلائیں - ورنہ وہ ضائع اور - کار ہو جائے گی - یہ ٹھیک ہے کہ انسان کو کچھ عرصہ کے لئے غلام بنایا گیا ہے لیکن مشینری بعض چیزوں کا تقاضا کرتی ہے - لوازمات کا تقاضا کرتی ہے - اگر وہ آپ پوری نہیں کر سکیں گے - تو آپ اس کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک نہیں سکیں گے -

ملک محمد اختر (لاہور-۲) - جناب سپیکر - بہت کچھ اس ایوان میں کہا جا چکا ہے - میں اب اس سے کافی پرے ہٹ کر کچھ عرض کرتا ہوں - میں چند باتیں اختصار کے ساتھ جناب وزیر برقیات کے نوٹس میں اور چند اس قسم کی تجویز لانا چاہتا ہوں - جناب سپیکر - میں ذرا ترتیب سے

چلتے ہوئے جناب منسٹر کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اتھارٹی ایک آرڈی نمنس کے ذریعہ یکم فروری ۱۹۵۸ء کو معرض وجود میں لائی گئی۔ اور اس آرڈی نمنس کو ۲۴ اپریل ۱۹۵۸ء کو ایکٹ بنا دیا گیا اور اس میں ۲۷ مارچ ۱۹۵۹ء کو ترمیم کی گئی۔ جناب سپیکر۔ میں اچھے پیرائے میں ایک نہایت ہی مستند کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ سیری مراد "Friends Not Masters" کے ایک پیرا کے متعلق ہے۔ جس میں اتھارٹی کے فرائض کو سراہا گیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پیرا بالکل درست ہے اور حرف بہ حرف اتھارٹی کے فرائض کی عکاسی کرتا ہے۔ جناب والا۔ "Friends Not Masters" کا مذکورہ پیرا جس کو میں تیزی سے نہیں پڑھوں گا اور شاید وزیر صاحب کی نظروں سے بھی وہ پیرا گزرا ہو گا۔ اس ایوان میں پڑھتا ہوں۔

Friends Not Masters—Page 111—

The Indus Water Treaty was based on the division of the rivers, according to which, after a transitional period of ten years, extendable at Pakistan's request up to thirteen years, the three eastern rivers—Ravi, Beas and Sutlej—will be allocated exclusively to India, while the waters of the three western rivers—Indus, Jhelum and Chenab—will be available exclusively for Pakistan, except for limited uses by India in upstream areas in Indian-occupied Kashmir, eastern Punjab, and Himachal Pradesh. During the transitional period, Pakistan will undertake to construct a system of works, part of which would replace, from the western rivers, such irrigation uses in Pakistan as had hitherto been met from the eastern rivers.

The Indus works programme will be the largest of its kind to be undertaken anywhere in the world and will cost about 1,070 million dollars, of which about 870 million dollars will be spent on the works in Pakistan. These works will include two large storage dams, one on the Jhelum river (with a reservoir capacity of 4.75 million acre-feet) and the other on the upper Indus (with a capacity of 4.2 million acre-feet), five barrages and eight link canals near-

by 400 miles in total length, transferring waters from the western rivers to areas formerly irrigated by the eastern rivers; that is, to replace the supplies for areas served by the Central Bari Doab and Sutlej Valley canals. Power stations will be installed at the Jhelum dam with a capacity of more than 800,000 kw. Tube-wells will be installed and drainage undertaken to overcome waterlogging and salinity in irrigated areas totalling 2,500,000 acres. While this system of work is being built, India will continue deliveries from the eastern rivers according to an agreed programme, which will take into account some development needs of Pakistan as well.

جناب والا۔ "Friends Not Masters" دراصل ایک ایسی کتاب ہے۔ جس میں اتنا مواد دیا گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مجھے کتاب سیاسی اختلافات کے ہوتے ہوئے، ۱۰ ہزار روپے میں بھی ملتی تو میں اسے خرید لیتا۔ اس میں واہڈا کی تمام functions اور کارکردگیوں کو صدر مملکت نے نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بجائے اس کے کہ میں آپ کے سامنے واہڈا کی کارکردگیوں کو بیان کرنے کے لئے اس ایوان میں ایک گھنٹہ ضائع کرتا۔ انہوں نے اس محکمہ کی اہمیت اور کارکردگیوں کو چند الفاظ میں بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ جناب والا۔ کیا وہ محکمہ جس کے functions کو اس قدر سراہا گیا ہے۔ کیا حقیقت میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو رہا ہے۔ اب میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مجھے صرف یہ گزارش کرنی ہے کہ میرے پاس ایک رپورٹ کا extract ہے۔ ان سب چیزوں سے پہلے مجھے آپ کے نوٹس میں یہ بات لانی ہے کہ یہ ایک statutory obligation ہے۔ کہ واہڈا اپنی سالانہ رپورٹ ہمارے سامنے پیش کرے اور ایسا عموماً ہوتا رہا ہے۔ مگر ہماری لائبریری میں صرف ۱۹۶۳ء تک کی رپورٹیں موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو ۱۹۶۳ء کے اعداد و شمار دے سکوں گا۔ جناب والا۔ یہ جو

ہمارا Indus Basin Treaty ہوا اس کی مدت ختم ہونے کو ہے۔ لیکن معاہدہ کے مطابق جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ ابھی تک ہم نہیں کر پائے۔ اور شاید ہمیں یہ بھی درخواست کرنی پڑے کہ پاکستان اس arrangement کو continue رکھے جو ہمارا ہندوستان کے ساتھ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جو Agricultural Projects کو complete کرنا تھا وہ بھی ہم نہیں کر پائے۔ اس کے علاوہ ہمارے مغربی پاکستان میں جو Water & Power کے ذرائع ہیں جو ہم کو ۱۹۸ ملین ایکڑ کو provide کرنے تھے۔ Indus Basin ان میں سے صرف ۱۳۰ ملین ایکڑ کو cover کرتا ہے۔ اور بقایا ۵۸ یا ۶۰ ملین ایکڑ کے لئے ہمارا کوئلہ، قلات اور بلوچستان کا ہائیڈرو لوجیکل سسٹم ہے۔ ۱۳۰ ملین کی بجائے ابھی تک صرف ۷۵ ملین ایکڑ کو cater کیا جا سکا ہے۔ international agreement کے مطابق ہم نے ۱۳۰ ملین ایکڑ رقبہ کو cater کرنا تھا۔ اس میں سے ہم آج آٹھ یا دس سال گزر جانے پر صرف ۷۵ ملین ایکڑ کو cater کر سکے ہیں۔ یعنی ہم ۵۵ ملین ایکڑ کو cater کرنے میں شیڈول میں پیچھے ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ۔۔۔۔۔ (قطع کامی)

Mr. Speaker : Order please.

ملک محمد اختر - کہ واہڈا کا شیڈول ۳۳ فی صد ہمارے شیڈول سے پیچھے ہے اور اس طرح سے میری یہ assertion درست ثابت ہو گی۔ کہ پاکستان کو اس Indus Basin کو extend کرانے کے لئے تین سال کے لئے اور request کرنی ہو گی۔ جناب سپیکر - ۶۲-۱۹۶۱ء کی میرے پاس واہڈا رپورٹ ہے۔ جس کو میں پڑھتا ہوں۔ جس میں انہوں نے حکومت پر

نکتہ چینی کی ہے۔ یعنی Indus Basin Treaty پر۔ میں وزیر متعلقہ سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی ۱۹۶۱-۶۲ کی واہڈا رپورٹ لے لیں۔ اس رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں :

"West Pakistan will be losing 33 million acre feet to India as a result of the Indus Waters Treaty, leaving us with an annual average of 135 million acre feet. A decade from now when the Tarbela and Mangla dams have been built and the irrigation projects of Ghulam Mohammad, Guddu, Tsunsa, Thal and Panjnad barrages have reached full development we shall be using 95 million acre feet of water and the area under irrigation will have increased from 24 million acres to 27 million acres."

جناب سپیکر۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ ہمارا area ۲۳ ملین ایکڑ سے بڑھ کر ۲۷ ملین ایکڑ ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ہم نے انڈیا کو ۳۳ ملین کیوسک پانی surrender کر دیا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں میں اس کا جواب چاہتا ہوں۔

جناب سپیکر۔ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے۔ قوم اس کا جواب مانگنے کا حق رکھتی ہے۔ آپ واہڈا سے رپورٹ منگوا لیں۔ اور دیکھ لیں اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اتنے عرصہ میں صرف تین ملین ایکڑ کا اضافہ ہوا ہے۔ یعنی غلام محمد بیراج اور دوسرے ایسے پراجیکٹ کی وجہ سے اندازے سے بہت کم زمین زیر کاشت آئی ہے۔ اس نکتہ کو چھوڑ کر اب میں اگلے نکتہ پر آتا ہوں۔ اور میں کوشش کروں گا کہ کوئی بات نہ دہراؤں۔ میں نے اپنے notes کو edit کر کے اس میں سے بہت سی باتیں کم کر دی ہیں۔

جناب سپیکر۔ ۱۹۵۰ء میں excluding Karachi آپ کے ۷۸۰۰۰ con-

sumers تھے۔ آپ نوٹ کر لیں۔ اور اس کا جواب دیں۔ پھر ۶۳-۱۹۶۲ء میں ۸۲۰۰۰ ہو گئے۔ گویا اربوں روپیہ کے قرضہ جات اور کروڑوں روپیہ کے سود سے صرف ۴۰۰۰ یونٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ زرعی سیکٹر کے متعلق میں نے جو باتیں عرض کی ہیں آپ انہیں refute نہیں کر سکتے۔ آپ واہڈا سے تمام documents منگوا سکتے ہیں۔

Mr. Speaker: The Member is talking of 1961-62. Has he not got up-to-date figures?

Malik Muhammad Akhtar: I have got the figures Sir.

میں ادھر بھی آؤں گا۔

جناب سپیکر۔ اب میں comparison کی طرف آتا ہوں۔ یہاں تقریباً ۴۴۲۰۰۰ کنکشن تھے۔ اور آبادی چالیس ملین تھی۔ کیا مغربی پاکستان کے صوبہ میں ۹ آدمیوں کو ایک کنکشن حاصل ہوا۔ اگر آپ دوسرے ممالک کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں ہر تین یا چار آدمیوں کو ایک کنکشن دیا جاتا ہے۔

اس کے بعد آپ consumption کو دیکھیں۔ یہاں per capita consumption ۲۳ یونٹ ہے۔ جب کہ کسی ممالک میں ایک ہزار یونٹ ہے۔

جناب سپیکر۔ میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگرچہ آپ نے Indus Water Treaty کے تحت راوی بیاس اور ستلج کو انڈیا کے پاس surrender کر دیا ہے۔

Mr. Speaker : No discussion about that.

ملک محمد اختر - لیکن یہ دیکھئے کہ آپ نے جو agreement کیا ہے - اس کے مطابق آپ اسے دس سال میں مکمل کریں گے - لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ تیرہ سال میں بھی پورا نہیں کر سکیں گے -

اپنے arguments کو repeat نہ کرنے ہوئے اب میں اگلے نکتہ پر آتا ہوں - میں شیڈول کے مطابق اپنی گزارشات پیش کروں گا -

جناب سپیکر - ہمیں جو developments کے لئے فنڈز ہو - ایس - اے -، ہو - کے ،، کینیڈا ، نیوزی لینڈ اور دوسرے ممالک سے ملے ہیں - ان کو انٹرنیشنل بنک operate کرتا ہے - اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو foreign consultants رکھنا پڑتے ہیں - جن کی تنخواہیں بیس ہزار روپے سے بھی زیادہ ہوتی ہیں - آپ کہیں گے کہ میں کہاں سے یہ کوڑی ڈھونڈ کر لایا ہوں - یہ حقیقت ہے - اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آپ کا واہڈا پراجیکٹ ایک سو روپیہ کی investment پر صرف ۷۵ سے متاثر کماتا ہے - دوسری طرف آپ لوگوں کی بحالیات پر فخر کرتے ہیں - میں پوچھتا ہوں کہ یہ ترقی کی گئی ہے کہ ۱۰۰ روپیہ پر صرف ۷۵ سے profit دکھتا سکیں -

Mr. Speaker : But do not be sentimental. (interruptions)

ملک محمد اختر - جناب سپیکر - مینگا ڈیم تو مکمل ہو گیا ہے اور تریلا ڈیم under construction ہے - ان کی link canals کے لئے آپ نے باہر کے لوگوں کو کام دیا ہے - کیا اپنے ملک کے انجینئرز یہ کام نہیں

کر سکتے - میں Indus Basin Treaty کو چھوڑتا ہوں - میں over all result کو چھوڑتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو breakdowns کی figures دی گئی ہیں - یعنی ۱۶۷۰۰ بتائی گئی ہیں - میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیس ہزار سے زیادہ breakdowns ہوتی ہیں - مصلحتاً طور پر اگر آپ ان کے نقصان کا اندازہ لگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ صرف agricultural sector میں حکومت کو ایک کروڑ روپیہ cost کرتا ہے اور slowing down of power پر ایک گھنٹہ میں پچاس ہزار روپیہ صرف ہوتا ہے -

جناب سپیکر - ملتان پاور ہاؤس کے breakdowns کے متعلق بہت کچھ کہا جا چکا ہے - میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ جو breakdowns ہوتی ہیں ان کو recover کیا گیا ہے یا نہیں - ملتان پاور ہاؤس سے ۲۶۵۰۰۰ کلوواٹ بجلی پیدا ہونی چاہئے اس کی بجائے صرف ۱۱۵۰۰۰ کلوواٹ بجلی generate ہوئی - لائل پور پاور ہاؤس کو تو یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ بن گیا ہے - حالانکہ وہ مکمل ہو چکا ہے لیکن اس کی پروڈکشن نہیں ہو رہی - کیوں کہ اس کا پائلر خراب ہے - اس کے ساتھ ہی میں دو اور references کوٹری اور منگا کی دوں گا - کوٹری میں پروڈکشن چار ہزار کلوواٹ ہونی چاہئے - وہاں صرف تیرہ سو ہے -

(اس مرحلہ پر مسٹر ڈپٹی سپیکر میاں احمد بیگ سمرق کرسی صدارت پر متمکن ہوئے) -

منگا کی پروڈکشن کا اندازہ تین لاکھ تھا - وہاں بھی ایک لاکھ کی

کمی ہے۔ ان حقائق سے ان لوگوں کی کارگزاری کا پتہ چلتا ہے۔ کہتا ہوں وزیر متعلقہ۔ میں ان کی خدمت میں عرض کروں۔

وزیر آبپاشی و برقیات۔ میں حاضر ہوں۔

ملک محمد اختر۔ جناب سپیکر۔ عوام کا جو تسخیر اڑایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ breakdowns ہوتی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ

“It is due to unauthorised extensions and animals being tied to the poles, defective domestic wirings and public tampering with meters.”

جناب والا۔ اب بتائیے کہ ہبلک شکایتیں کرتی ہے لیکن کچھ شنوائی نہیں ہوتی۔ ملتان میں کیا حشر ہوا۔ وہ آپ سنب جائے ہیں۔ وہاں انہوں نے distilled water نہیں دیا اور undistilled water دیا جس کے باعث وہاں بہت disturbances ہوئے۔ اور کروڑوں روپے کا روزانہ نقصان ہوا۔ اسے میں نہیں دھراؤں گا۔

جناب والا۔ اب میں ان کی خدمت میں کچھ تجاویز پیش کرتا ہوں اگر جناب وزیر متعلقہ مناسب سمجھیں تو نوٹ فرما لیں۔ جناب والا۔ تجاویز پیش کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے تین دریا ہندوستان کے پاس surrender کر کے۔۔۔۔۔

Mr. Deputy Speaker : Please be relevant. The Member is not relevant.

ملک محمد اختر۔ - Alright Sir. جناب والا۔ اب میں ان کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں۔ تقریر نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ وقت بہت کم

ہے۔ جناب والا۔ ان کے افسروں کا فوج ظفر موج ہے۔ اور ان کے جو آفیسرز ہیں۔ خواہ وہ پاکستانی ہوں یا غیر پاکستانی۔ ان سب میں فنی تربیت کا فقدان ہے اور بیرونی ممالک سے انہوں نے مشیر منگوائے ہیں اور انہوں نے جو اپنے انجینئرز مقرر کئے ہیں ان کو یہ ٹریننگ نہیں دیتے۔ میرا پہلا نکتہ یہ ہے۔ دوسرا نکتہ میں یہ عرض کروں گا کہ واہڈا میں میٹاف بہت ہے۔ اور غیر تربیت یافتہ سٹاف ہے۔ تیسرا میرا نکتہ یہ ہے کہ تمام دفتروں کا وہ عملہ جو اپنی ملازمت کی مدت ختم کر چکا تھا اور جس کو کہیں نوکری نہیں ملتی تھی۔ اور جس کو کوئی تھرڈ کلاس میونسپلٹی بھی نہیں قبول کرتی تھی۔ یعنی ۶۔۶ سال ملازمت کرنے کے بعد وہ لوگ اس ادارہ میں رکھے گئے ہیں۔ پھر جناب والا۔ lack of training in leader- ship بھی ہے۔ یعنی جو وزراء اور ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ہیں۔ وہ بھی نان ٹیکنیکل ہیں۔

Mr. Deputy Speaker : How do 'wuzara' come in WAPDA ?

ملک محمد اختر۔ جناب والا۔ اب ان کے لئے دو ہی راستے ہیں یا یہ صارفین کو بجلی دینا بند کر دیں یا اپنا نظام بہتر کر لیں۔ جناب والا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہر شخص اور مجھ جیسا آدمی بھی دو قسم کے گھر میں بجلی کے کنکشن رکھتا ہے۔ اس لئے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کب اے۔ سی۔ بجلی فیل ہو جائے اور کب ڈی۔ سی۔ بجلی فیل ہو جائے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ رات ہی کو اسمبلی کا کام کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے دو قسم کے کنکشن رکھنا پڑتے ہیں۔

Mr. Deputy Speaker : Does the Member want to tell the Assembly that he works till late in the night.

Malik Muhammad Akhtar : That everybody knows.

جناب والا - اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ ان کو ایک سکول کھولنا چاہئے - جس میں کم سے کم بارہ سے اٹھارہ ماہ تک ٹریننگ دینے کے بعد لوگوں کو اس اہم مسئلہ کے قریب لائیں - جناب والا - اس کے بعد مجھے یہ گزارش کرنا ہے - اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ آج ہر چھوٹے چھوٹے اداروں میں ان کے یہاں تعلقات عامہ کے شعبے بھی قائم ہیں مثلاً ریلوے کا محکمہ اور اسی طرح دوسرے محکمہ جات ہیں - جہاں اس قسم کے شعبے ہیں مگر اس ادارہ میں تعلقات عامہ کے طور پر شعبے صفر کے برابر ہیں - اس کے بعد مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جس وقت بجلی فیمل ہوتی ہے تو کئی کئی گھنٹے انتظار کرنے کے باوجود اس کی شنوائی نہیں ہوتی - میں تو خیر کسی عورت سے اپنے یہاں بجلی ٹھیک کروا لیتا ہوں - مگر اداہیان لاہور اس بات کے شاہد ہیں کہ ان کی شکایتیں گھنٹوں کوئی نہیں سنتا اور ان کی تکلیف رفع نہیں ہوتی -

Mr. Deputy Speaker : No repetition. I think the Member has nothing more to say.

Malik Muhammad Akhtar : I have a lot to say.

Mr. Deputy Speaker : Then there would be no repetition.

Malik Muhammad Akhtar : Nothing will be repeated.

جناب والا - اب مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو پاکستان میں واہڈا

----- pay scale کے

Mr. Deputy Speaker : But it is not relevant. The Member is not talking about the scales of pay of the Members of WAPDA.

Malik Muhammad Akhtar : Everybody according to your ruling can discuss the defects in WAPDA.....

Mr. Deputy Speaker: Yes. But the scales of pay of the Members of WAPDA would be irrelevant.

Malik Muhammad Akhtar : Alright Sir.

اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں -

جناب والا - اب میں چیلنج کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ انکا جو سپروائزری سٹاف ہے وہ کسی بھی پولیٹیکنک انسٹیٹیوٹ کا سندیافتہ نہیں ہے۔ انکے لائن مین اور پرنٹنگ جنکو پبلک سے تعلق رکھنا پڑتا ہے انکو تو جانے دیجئے انکے انجینیرز چھوٹے چھوٹے کاسوں کو سرانجام نہیں دے سکتے۔ اس طرح ان کا چھوٹا سٹاف ٹیکنیکل معلومات کے فقدان کیوجہ سے کام نہیں کر سکتا۔ جناب والا - جہاں تک سیری معلومات ہیں . . . لگانے پر انکو ۷۵ پیسے کی آمدنی ہوتی ہے تو اسکے لئے میں ان کی خدمت میں حقیر تجاویز پیش کروں گا سب سے پہلے ان کو چاہئے کہ مختلف شہروں میں بجلی کے نرخ مختلف رکھیں جہاں development ہو رہا ہے وہاں یہ بجلی کے نرخ کم رکھیں اور بڑے بڑے شہروں میں مثلاً کراچی جہاں بڑے بڑے consumers اور بڑے بڑے صنعتکار ہیں وہاں یہ بجلی کے نرخ بڑھا دیں - جب گورنمنٹ انکم ٹیکس کے مختلف نرخ رکھے ہوتے ہے تو بجلی کے مختلف نرخ کیوں نہیں ہو سکتے - لہذا میری رائے میں بڑے صنعتکاروں سے یہ بجلی کے نرخ بڑھا کر لیا کریں اور چھوٹے اور غریب لوگوں سے کم لیا کریں یا انکو فری اس قسم کی سہولتیں مہیا کریں جسکو ہم دوسرے الفاظ میں ٹیکس کی چھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں - اسکے بعد جناب والا میری ایک بہت اہم تجویز ہے اور وہ یہ کہ ایک ایڈوائزری Consultant بورڈ بنایا جائے جس میں ایسے لوگ ہوں جنہوں نے تمام عمر بجلی کے محکمہ میں کام کیا ہو

بجائے اسکے کہ وہ ٹائٹلڈ آدمیوں کو ہم تنخواہ دے کر نوکری رکھیں اور وہ بورڈ ہر ٹیسٹ کے اوزر ٹاؤن میں بنائے جائیں اور وہ بورڈ اس محکمہ کو مشورہ دیا کرے۔

جناب والا۔ آپ کے پانچوں بجلی گھروں میں جو کروڑوں روپے کے نقصانات ہوئے ہیں وہ اس چیز کی اور تصدیق کرتے ہیں کہ ہمیں بجلی کے سسٹم کو درست کرنا چاہئے۔ پھر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کا top heavy ایڈمنسٹریشن ٹیکنیکل knowledge نہیں رکھتا ہے۔ اسکے بعد مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ان کے رولز اور ریگولیشن اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ جنکی وجہ سے ٹھیک ٹھیک کام نہیں ہو سکتا اور جسکے باعث محکمہ میں frustration پیدا ہو گیا ہے۔ اب مجھے صرف فارن ایکسچینج کی نسبت عرض کرنا ہے۔

Mr. Deputy Speaker : Irrelevant ; foreign exchange is not a Provincial subject.

ملک محمد اختر۔ چھا جناب والا ہم اس نقطہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جناب والا مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ واہڈا کا محکمہ ایک سفید ہاتھی کی طرح ہمارے عوام پر ایک قسم کا بوجھ ہے۔ ہماری جتنی سرمایہ کاری ہے اس پر جو return ہے.....

Mr. Deputy Speaker : No repetition ; please that has already been said by Khawaja Sahib.

ملک محمد اختر۔ بہتر جناب والا۔ اب مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ اس محکمہ کا طریقہ کار ہی عجیب ہے یہ کسی طرح بھی صوبائی اسمبلی

کے سامنے جو اہلہ نہیں۔ جناب والا۔ ریلوے بجٹ اور تمام دیگر بجٹ بنانے وقت ہمیں کافی محنت کرنی پڑتی ہے افسران بھی اس کام میں بہت مصروف رہتے ہیں لیکن اس autonomous body کا کوئی بجٹ نہیں اور نہ ہی یہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے کافی تجربہ کار لوگوں کو یہ بات کہتے سنا ہے کہ واہڈا کا جو چیئرمین ہے وہ پاکستان کے پریذیڈنٹ سے بھی زیادہ اختیارات اپنے محکمہ میں رکھتے ہیں۔ میں کسی پر یا کسی کی شخصیت پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کر رہا ان کے محکمہ کی سروس کی terms and conditions اپنی ہی ہیں ریکروٹمنٹ کے لئے یہ پبلک سروس کمیشن سے لینا ہے۔ آڈیٹر جنرل کی بات کو چاہے مانیں یا مانیں ان کو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ یہ ایک ریاست ہے جس کا بجٹ صوبے کے بجٹ سے کٹی گیا ہے اور یہ وہ ریاست ہے جس پر کسی کا کوئی چیک نہیں جس کا نظام دن بدن خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جناب سپیکر۔ اب شاید زندگی میں موقع نہ آئے بات کہنے کا۔ آج پہلی بار یہ محکمہ زیر غور آیا ہے۔ جناب والا۔ مجھے ایک گزارش کرنی ہے۔ میں کسی پر reflection cast نہیں کرتا کیا وزیر متعلقہ اپنے واہڈا اتھارٹی کے افسران کی جائیدادوں کے گوشوارے حاصل کر کے اس ہاؤس میں پیش کرنے کو تیار ہیں؟

Mr. Deputy Speaker : No repetition ; that has already been said by Khawaja Safdar.

ملک محمد احقر - کیا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ان افسران کا معیار

زندگی ان کی تنخواہوں کے مطابق ہے؟

Minister of Basic Democracies : Sir, he is again not relevant.

Malik Muhammad Akhtar : But, Sir, you are not the judge, I humbly submit.

Mr. Deputy Speaker : Malik Sahib, he has a right to raise an objection.

ملک محمد اختر - جناب والا - میں اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں - آخر میں مجھے باور کرایا جائے کہ یونائیٹڈ سٹیشن کی ریاست جو آپ نے پاکستان میں قائم کر دی ہے جس کا نام واہڈا ہے جس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہے یہ سول اور کریمنل پروسیجر کوڈ سے بھی محفوظ ہے - اور اسکے خلاف ان قوانین کے تحت کوئی کارروائی نہیں کیجا سکتی - یہ جس کو چاہیں جھٹ نکال سکتے ہیں - آپ ایسے شتر بے منہار کے لئے کون سی لگام تجویز کرتے ہیں - جناب والا - بزنس رولز کے ہوتے ہوئے جہاں یہ قرار دیا گیا ہے کہ سیکرٹری اور منسٹر کی پاورز برابر کی ہیں -

Mr. Deputy Speaker : Irrelevant. I think the Member has nothing further to say.

ملک محمد اختر - جناب والا - مجھے بتایا جائے میں آپ سے تجویز مانگتا ہوں کہ آپ کا کس طریقہ سے واہڈا پر کنٹرول ہے - میں نے ایک دفعہ بھی دیکھی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس میں رپورٹ آتی چاہئے تھی - مجھے وہ لائبریری میں نہیں ملی - اگر رپورٹ ہوتی بھی تو یہ توڑ مروڑ کر اپنے طور پر پیش کر دینے - ٹینڈرز کا مسئلہ لے لیں جو منگلا ڈیم کے لئے دئے گئے - جتنے بھی دئے گئے یہ سیاسی وجوہ کی بنا پر دئے گئے اور اربوں روپیہ کا مقروض ہمیں اس محکمہ نے کر کے رکھ دیا ہے - ۶ فیصد ماہرین کو ٹینڈرز کا زیادہ ریٹ دیا گیا - آپ خفا نہ ہوں - میں سچی بات کہہ رہا ہوں - اگر یہ جواب دینے کی کوشش بھی کریں

گے تو یہ نہ دے سکیں گے۔ جناب والا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بار ہمارے کندھوں پر کیوں ڈالا گیا ہے۔ اس خود مختار ادارے پر کسی کا کوئی چیک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے یہ کام اپنے ذمہ کیوں نہیں رکھا۔ یہ واہڈا کے لوگ تو پراونشل اسمبلی سے بھی بے نیاز ہیں۔

Mr. Deputy Speaker : It is irrelevant.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, the Water & Power Development Authority has ignored the lowest tender.

جناب والا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ صورتحال کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مجھے ایک اور بات عرض کرنی ہے۔ اگر آپ واہڈا کی کاروں کو مال روڈ پر چلتے دیکھیں تو آپ ان میں کس قسم کی سواریاں پائیں گے۔ یہ چیز ان لوگوں کے اخلاق کی عکس کرتی ہے جنکے قبضے میں وہ گئی ہیں۔ فارن یا بیرونی ماہرین بھی ان میں ہوتے ہیں اور باقی جو persons ہوتے ہیں ان کے متعلق میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ یہ میری قوم کے لئے توہین اور بے عزتی کا باعث ہو گا۔ میں نے اکثر دیکھی ہیں۔ مشکلا میں چل کر آپ اس کالونی کو ملاحظہ فرماویں۔ جبکہ آپ کا ڈیم مکمل ہو چکا ہے تو foreign consultants کو کیوں نہیں نکالتے۔ جناب والا۔ یہ بڑے کام کی باتیں ہیں جو پبلک میٹنگ میں نہیں کہی جا سکتیں اور اگر میں اس فورم سے بھی نہ کروں تو مجھ سے زیادہ ہدیانت کوئی شخص نہ ہو گا۔ جناب والا اس کے بعد مجھے یہ عرض کرنا ہے۔ منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کے پاس سیپر پارٹس ہر ڈیم کے لئے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر دس ہزار روپیہ کا ہرزہ بھی خراب ہو جائے تو اس کے لئے بھکاری کی طرح امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ سپر پارٹس میں یہ بری طرح

lag کرتے ہیں۔ دوسری بات میں نے ہاور ہاؤس کے خراب ہونے کے متعلق کرنی ہے یہ اس بات کی عکسی کرتی ہے کہ اس میں sabotage ہوئی ہے۔

X X X X X X X X X X

Mr. Deputy Speaker : It is irrelevant. These remarks are expunged. The Member may please resume his seat. I think he has nothing more to say.

Malik Muhammad Akhtar : Please let me say one thing ; I will be relevant.

Mr. Deputy Speaker : How are America and India concerned with the Water & Power Development Authority Ordinance ?

ملک محمد اختر - آپ منگلا سے جلد ان کو رخصت کریں -

Mr. Deputy Speaker : Next time I find the Member irrelevant, I will ask him to resume his seat.

ملک محمد اختر - میں جناب والا آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ جناب والا آپ دیکھیں کہ بجلی گھر میں کنکشن کے لئے ایک درخواست دی جاتی ہے۔ آپ لاہور ہی میں سوال کریں کہ کتنے لوگوں نے اے۔ سی کزنڈ کے لئے درخواستیں دی ہوئی ہیں۔ انہیں جواب کیا ملتا ہے کہ میٹر نہیں، واٹر نہیں۔ تو کیا یہ صرف عجائب گھر بنانے کے لئے ہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے لئے ہیں۔ اگر یہ بجلی کو آگے عوام تک نہیں پھیلا سکتے تو ان کا کیا فائدہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے منصوبے بروقت ختم ہو گئے ہیں بے کار ہے۔ میری یہ مودبانہ گزارش ہے کہ ان تمام باتوں کی نفی ہو جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ

*Expunged as ordered by the Deputy Speaker.

بجلی آگے عوام تک نہیں پہنچائی جا رہی۔ جب تک آپ ٹیوب ویلوں کے لئے بجلی نہ دیں گے ہم اپنے ایگریکلچرل سیکٹر کو ترقی نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد ایک عجیب تماشا ہوا ہے میرے علاقہ میں۔ میں ایک محلہ با ایک گلی یا ایک سٹریٹ میں رہتا ہوں۔ وہ یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں ایلومونیم کی موٹی واٹر لگا دی ہے۔ ایک دن اس محلہ میں ۵۱ جگہ تاروں سے شعلے نکلے۔ میں نے ملک خدا بخش صاحب کو فون کیا کہ یہ تو ہمارا سارا محلہ خاکستر ہو جائیگا۔ اس کا علاج کیجئے بعد میں یہ معلوم ہوا وہ جو بیچ میں ایک راڈ لگاتے ہیں وہ نہیں لگایا گیا تھا۔

Mr. Deputy Speaker : The Member is irrelevant and he should resume his seat. Dewan Syed Ghulam Abbas Bokhari.

دیوان سید غلام عباس بخاری (ملتان۔)۔ جناب سپیکر۔ اب جب اجلاس کا وقت ختم ہونے کو آیا ہے تو جناب نے مجھے موقع عطا کیا ہے۔ میں نے کچھ پوائنٹ نوٹ کئے ہوئے تھے جن میں سے بہت سے میں حمزہ صاحب کی تقریر سن کر بھول گیا۔ اس کے بعد آپ نے ملک صاحب کو ٹائم دے دیا ان کی ڈیڑھ گھنٹہ کی مختصر تقریر کے دوران میں باقی پوائنٹ بھی بھول گیا۔ جناب والا۔ ہمارے منسٹر صاحب نے جو تحریک یہاں پیش کی ہے وہ ایک ٹیکنیکل ممبر کے لئے ہے کہ کنٹرولنگ اتھارٹی میں ایک ٹیکنیکل ممبر کا اضافہ کر دیا جائے۔ جناب والا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا محکمہ ہیڈ سے ٹیل تک ٹیکنیکل ہے اور یہ عہدہ جو اب بڑھایا جا رہا ہے چاہئے تھا کہ یہ بہت پہلے مقرر کیا جاتا۔ میں حیران ہوں کہ یہ محکمہ جہاں قدم قدم پر ٹیکنیکل مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ وہاں اب تک کیوں ٹیکنیکل ممبر مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ میرے دوستوں نے ظاہر کیا ہے کہ ہمارے

بہت سے باور سٹیشن خراب ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں تو اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل ممبر کا ہونا بہت ضروری تھا جس کا تقرر اب تک نہیں کیا گیا تھا۔ اب اگر یہ کیا جا رہا ہے تو ہمیں چاہئے کہ ہم اس کے لئے اپنے منسٹر صاحب کی تائید کریں۔ (قالیاں)

جناب والا۔ ہمارا ملک under developed ہے ہم ترقی یافتہ ممالک کی طرح قدم نہیں اٹھا سکتے نہ ہم ان کی طرح اخراجات کر سکتے ہیں۔ اس لئے ہماری پالیسی یہ نہیں ہونی چاہئے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عہدے قائم کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے چیف انجینیرز ٹیکنیکل ہوتے ہوئے بھی انتظامی امور اور فنانس کو سنبھالتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ واہڈ میں تین چار ممبروں کو کیوں رکھا جائے میں پر زور الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا ملک امیر نہیں ہے ٹیکنیکل ممبر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو وہی کیوں نہ ہیڈ ہو، وہی کیوں نہ پورے محکمہ کو کنٹرول کرے۔ ایڈمنسٹریشن سائنڈ کو بھی اور فنانس کو بھی۔

جناب والا۔ مجھے خواجہ صاحب کی اس تجویز سے پورا اتفاق ہے کہ یہ محکمہ اس لئے آزاد رکھا گیا تھا تاکہ اس کی کارکردگی بڑھ جائے اس میں سرخ فیتہ نہ ہو۔ رشوت نہ ہو۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسے آزاد رکھنے کے باوجود اس میں خرابیاں آگئی ہیں اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ ہماری پالیسی جس کے تحت یہ محکمہ وجود میں آیا ہے درست نہیں۔ اس صورت میں ہم اپنی پالیسی کو تبدیل کریں تاکہ اس محکمہ کی کارکردگی بڑھ سکے۔ دوسرے یہ خرابیاں اس محکمہ کے

کارکنوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ میں خواجہ صاحب کی اس تجویز کی پرزور تائید کرتا ہوں کہ اس محکمہ کا جو حصہ سنٹر سے متعلق ہے اسے علیحدہ کر کے سنٹر سے واپستہ کر دیا جائے۔ کیونکہ کوئی فرد یا ادارہ جو دو اداروں کے سامنے جواب دہ ہو گا۔ اس کی اعلیٰ کارکردگی بحال نہیں رہ سکتی۔ اور اس کے جن امور کا تعلق ہمارے صوبہ سے ہے ان کو بھی چھوٹے چھوٹے یونٹوں میں تقسیم کر کے ان کی کارکردگی میں اضافہ کیا جائے جناب والا ہمارے صدر محترم کا جو مقصد تھا۔ آزاد اتھارٹیز مثلاً پی آئی ڈی سی یا پی آئی اے یا واہڈا بنانے سے یہ تھا کہ یہ ادارے کسی سیاسی مداخلت کے بغیر کام کر سکیں تاکہ ملک جلدی ترقی کر سکے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پی آئی ڈی سی اور پی آئی اے رشوت اور نا اہلی سے کافی حد تک بچے ہوئے ہیں واہڈا میں یہ چیزیں کافی حد تک آچکی ہیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ کیوں نہ ایک کمیشن مقرر کیا جائے جو واہڈا کے متعلق پوری تحقیقات کرے کہ اس میں خرابیاں ہونے کی وجہ کیا ہے اور وہ کیسے دور کی جا سکتی ہیں۔ میرے دوست اس بات کو جانتے ہیں کہ زمینداروں اور کاشتکاروں کو واہڈا کے کنکشن حاصل کرنے میں بے حد دقتیں پیش آتی ہیں جب تک رشوت پیش نہیں کی جاتی درخواست قبول نہیں ہوتی۔ اس لئے میری یہ تجویز ہے کہ ہر زمیندار یا کاشتکار جو ٹیوب ویل کے لئے درخواست دے اس کی درخواست کسی خاص دفتر میں درج رجسٹر کی جائے۔ تاکہ معلوم کیا جاسکے کہ

ہر ایک کو اس کی باری پر کنکشن ملا ہے یا نہیں۔ میں جناب کی معرفت پرزور الفاظ میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ کاشتکاروں اور زمینداروں کی یہ دقتیں دور کی جائیں تاکہ وہ رشوت دینے اور دفتروں کے چکر کھاننے سے بچ جائیں۔ جناب والا۔ آخر میں میں یہ عرض کروں گا کہ اس ڈیپارٹمنٹ کی ذمہ داری کو محدود رکھا جائے اور اسے چھوٹے یونٹوں میں تقسیم کر کے اس کی کارکردگی کو بڑھایا جائے۔ (تالیاں)

Mr. Deputy Speaker : The House is adjourned to meet again tomorrow, the 3rd May, 1968, at 8.00 A.M.

The Assembly then adjourned (at 1.30 p.m.) till 8.00 a.m. on Friday, the 3rd May, 1968.

APPENDIX I

(Ref: Starred Question No. 9994)

STATEMENT

District	(i) Rice	(ii) Wheat	No. of persons involved in cases men- tioned in (a)	Punishment given to each one of them
Peshawar	1	5	Pending trial in Court.
Mardan ...	6	2	11	In three cases accused were fined Rs. 100 each. In one case accused fined Rs. 150. In one case accused ned Rs. 30. In one case accused fined Rs. 50. In one case accused fined Rs. 20. In one case accused fined Rs. 35.
Hazara
Kohat	1	3	Pending investigation.
D.I. Khan
Bannu
Sargodha

Lyalpur	...	12	12	46	All the cases were registered under Food Stuff Act for illegal movement.
					<p>In one case the accused was fined Rs. 100 or in default six months' R.I. In the second case one accused was sentenced to two years R.I. One was fined R. 500 or in default six months' R.I. and in the third accused was fined Rs. 200 or in default three months' R.I. with punishment till rising of Court. One case was acquitted, one case cancelled and the remaining cases are pending in Court.</p>
Jhang	...	4	...	10	Two cases have so far been decided. Three accused sentenced to pay a fine of Rs. 100 each and four persons were sentenced to pay a fine of Rs. 1000 each.
Mianwali	...	2	6	19	<p>In one case of rice smuggling two accused were sentenced to two years each and also fined Rs. 2,000 each under Section 6 of Food Stuff Control Act. They were further sentenced under Section 3 of the Licensing Control Order two years' R.I. each and also a fine of Rs. 1,000 each. 400</p>

bags of rice were also forfeited in favour of the State. In the 2nd case one accused was convicted and fined Rs. 5. The rice was also confiscated.

In the wheat smuggling cases, two cases have so far been decided as follows :—

In one case accused was fined Rs. 50 and also to undergo imprisonment till the rising of the Court ; the wheat was confiscated. In the other case two accused were fined Rs. 500 each.

Rawalpindi	
Jhelum ...	3	1	12	No punishment was given in these cases during the said period.
Gujrat ...	25	1	45	<p>11 cases were convicted as follows :—</p> <p>(1) In one case accused fined Rs. 200 or 6 months' R.I.</p> <p>(2) In one case accused fined Rs. 180 or 6 months' R.I.</p> <p>(3) In one case accused fined Rs. 150 or 3 months' R.I. and the other accused acquitted.</p>

- (4) In 3 cases all the 3 accused fined Rs. 50 or 1 month's R. I. each.
- (5) In one case accused fined Rs. 50 or 2 months' R.I.
- (6) In one case accused fined Rs.30 or 15 days R.I.
- (7) In one case two accused fined Rs. 10 or 10 days' R.I. each.
- (8) In one case accused fined Rs. 20 or 3 months' R.I.
- (9) In one case accused sentenced till rising of the Court. Two cases were cancelled, 4 acquitted and 9 cases are pending in the Court.

Campbellpur 2 25

56 The 25 wheat cases were registered under Section 6 of Food Stuff Control Act, and 2 cases under Rice Paddy Movement Control Ordinance. All the cases are pending trial in the Court.

Lahore ... 148 61

221 21 cases acquitted, 80 pending trial in Court and 86 under investigation. 22 cases were convicted as under :—

In one case accused was sentenced to 9 months' R.I. In two cases accused were sentenced to 6 months' R.I. each.

In one case accused was sentenced to 1 year's R.I. In one case accused was sentenced to 1 months' R.I. In one case accused was fined Rs. 200.

In one case accused was fined Rs. 80.

In six cases accused were fined Rs. 50 each.

In 3 cases accused fined Rs. 40 each, in 2 cases fined Rs. 30 each 1 each case fined Rs. 25 and in 3 cases fined Rs. 20 each.

Gujranwala ...	22	...	54	Only one case has so far been decided in which 3 accused have been fined Rs. 100 each or in default one months' R.I. The rest of the cases are still pending.
Sheikhpura	51	...	130	13 cases have so far ended in conviction. In one case fine of Rs. 300 was imposed or in default 3 months' R.I.

In 2 cases fine of Rs 200 was imposed or in default 6 month's R.I. each.

In 3 cases fine of Rs. 150 was imposed or in default 3 month's R.I. each.

In 3 cases fine of Rs. 100 was imposed or in default 2 months' R. I. each.

In 1 case fine of Rs. 50 was imposed or in default 2 months' R.I.

In 1 case fine of Rs. 30 was imposed or in default 1 months' R.I.

In 1 case the accused was ordered to furnish security of Rs. 2,000 or 1 years' R.I.

In one case the accused were sentenced to six months' R.I. each.

Multan
Sahiwal	10	25	59	...
Muzaffargarh
D.G. Khan
Bahawalpur
Bahawalnagar

Only 2 cases involving rice have so far been convicted and 3 months' R.I. had been awarded in each case.

Rahimyarkhan	...	5	5	All the case are pending trial in the court.
Khairpur	...	1	1	Pending in Court.
Sukkur	...	7	22	Two persons were discharged and 20 are facing trial in court.
Larkana	...	2	5	One case has been cancelled and one case against 5 persons is pending trial in the court.
Nawabshah	...	3	17	The cases are still pending in court.
Jacobabad	...	3	7	All the cases are still pending in court.
Hyderabad
Tharparkar	...	12	19	In one case two persons sentenced to one year. In two cases 4 persons sentenced to fine of Rs. 125.
Dadu	...	5	8	In 2 cases accused were fined Rs. 30 and Rs. 50 in each case. In one case accused sentenced to one months' R.I. One case acquitted and one is still pending trial.
Thatta
Sanghar
Quetta	...	2	3	Pending in court.
Kalat

Zhob
Loralai
Kachhi
Mekran
East Division					
Karachi
West Division					
Karachi
Central Division					
Karachi
Railway
Karachi					
Railway	77	9	87	In one case fine imposed	
Lahore				Rs. 450.	
				In one case fine imposed	
				Rs. 300.	
				In one case fine imposed	
				Rs. 200.	
				In 3 cases fine imposed	
				Rs. 150 in each case.	
				In 3 cases fine imposed	
				Rs. 100 in each case.	
				In 2 cases fine imposed	
				Rs. 50 in each case.	
				In 2 cases fine imposed	
				Rs. 40 in each case.	
				In one case fine imposed	
				Rs. 0.	
				Three cases were cancelled.	
				The remaining cases are	
				pending.	

APPENDIX II

(Ref : Starred Question No. 10170)

ALLOCATION MADE TO VARIOUS PROJECTS UNDER RURAL
WORKS PROGRAMME

Year.	Budget Allocation :	Number of schemes and location.		
		Bara	Jamrud.	Landikotal
1963-64(Dev) (B D)	80000	2	4	2
1963-64.	836582	40	56	46
1964-65.	681999	53	75	43
1965-66.	816000	42	16	31
1966-67.	290800	9	4	13

The details of projects as have been implemented under the Rural Works Programme are contained in the attached statement.

Allocation made for various projects under Five Year Plan with their progress is detailed as follows :—

Name of the scheme :	Budget allocation.	Upto date progress.
Education Sector.		
1. Construction of Technical Workshop in Government High School Jamrud.	1963-64 Rs. 45,000/-	Completed.
2. Construction of High School at Mohd Khan Killi.	1963-64 Rs. 40,000/-	Completed.
3. Construction of Primary School at Zardad Khan Killi.	1964-65 Rs. 15, 000/-	Completed.

4. Construction of Primary School at Yar Mast Jan Killi.	1964-65 Rs. 15,000/-	Completed.
Construction of Primary School at Yar Mast Jan Killi.	1965-66 Rs. 15,000	Completed.
6. Construction of Primary Schools at :—		
1. Dora Mera		1. Completed.
2. Sama Garhi	1966-67	2. Completed.
3. Jabba	Rs. 55,000/-	3. Completed.
4. Jumabaz Killi.		4. Work to start as soon as funds received

HEALTH SECTOR

1. Construction of 30 Bed Hospital at Dogra Picqust.	1963-64	3,00,000	Completed
	1964-65	5,50,000	
	1965-66	63,000	
	1966-67	46,000	
	<hr/>		
		9,59,000/-	
	<hr/>		
2. Construction of Dispensary at Qadam.	1964-65	10,000	Completed
3. Construction of Dispensary at Sultan Khel.	1964-65	20,000	Completed
4. 8 Bed Hospital at Lwara Miana.	1963-64	2,00,000	Completed
	1964-65	17,600	

IRRIGATION SECTOR

1. Bara Rive. Canals scheme.	1960-61	57,000	The scheme has since been approved for implementation by the National Economic Coun- cil.
	1961-62	26,700	
	1962-63	27,000	
	1963-64	71,300	
	1964-65	10,00,000	
	1965-66	2,50,000	
	1966-67	—	
		----- 14,32,0.0 -----	
2. Construction of 6 number Persian Wells in Spin Pokh Village.	1965-66	53,625/-	Completed

ROADS SECTOR

1. Construction of 1½ Miles Road from Landi Kotal Mullagori to Kambela Khowar.	1963-64	1,67,600	Completed
	1964-65	70,000/-	
2. Improvement to Mullagori Road.	1963-64	8,000/-	Completed
	1964-65	45,000/-	Completed

**PROGRESS REPORT OF THE RURAL WORKS PROGRAMME
SCHEME EXECUTED IN KHYBER AGENCY
DURING THE YEAR 1965-66.**

S. No.	Name of Scheme.	Estimated Cost.	Progress
-----------	-----------------	--------------------	----------

I.—SCHOOLS

1.	Constn. of G. P. S. Building (one room with Verandah) at Kamar Khel Attari.	5,000	100%
----	--	-------	------

2.	Constn. of One Addl. Hall, One Room with Verandah at G.M.S. Illamudat.	28, 500	92%
3.	Constn. of G.P.S. Building (One Room with Verandah at Village Madghafi Attari.	5, 000	100%
4.	—do— Karawal.	5, 000	100%
5.	—do— Zari Khan Killi.	5, 000	dropped.
6.	—do— Sanzal Khel.	5, 000	100%
7.	—do— Sur Kamar	5, 000	100%
8.	—do— Chargi Daggar.	5, 000	100%
9.	—do— Chaprai.	5, 000	100%
10.	—do— Parangdara.	5, 000	100%
11.	—do— Charbagh.	5, 000	100%
12.	—do— Durna Kor.	5, 000	100%
13.	Constn. of a complete Verandah at G L.M.S. Uchalgadh.	10, 000	100%
14.	Constn. of 2 addl. rooms with Verandah at G.P.S. No. 2. Jamrud.	10, 000	100%
15.	Provision of a pipe line to G.P.S. Malik Gul Ahmad Killi.	650	100%
16.	Constn. of a approach road to G.M.S. Mohammad Khan Killi.	800	100%
17.	Improvement of Hissara G.P.S.	400	100%
18.	Improvement of Kambela G.P.S.	200	100%
19.	Constn. of 2 addl : rooms with Verandah at G.H.S. Jamrud (Pry: Section).	10, 000	100%
Total :		<u>1, 15, 550/90</u>	

II.—COMMUNITY BUILDINGS

20.	Constn. of Community House at Peshawar (Headquarter of Agency).	25, 000	100%
21.	Constn. of Community House at Landi Kotal	30, 250	100%
22.	—do— at Bara.	25, 000	100%
23.	Enlargement of existing Jirga Hall at Landi Kotal.	3, 875	100%
24.	Constn. of Community House at Ghakhi Sar Loi Shilman.	10, 000	Disputed.
Total :		94, 125	

III.—IRRIGATION

25.	Improvement of existing Well with P/Wheel at Jahlandar.	2, 000	100%
26.	Provision of 2 persian wheels for Kam & Loi Shilman.	14, 000	100%
27.	Provision of 1 Persian wheel for Shinalli and Shinpokh.	14, 000	100
Total :		30, 000	
28.	Constn. of Marketting Centre (Block A) at Landi Kotal.	40, 000	90%
29.	—do— (Block B)	46, 000	100%
30.	—do— (Block C)	38, 000	100%
31.	Constn. of Marketting Centre at Jamrud.	46, 000	100%
Total :		1, 70, 000	

V.—SOIL CONSERVATION

32.	Constn. of a Medium Spur for the Protection of Vill : & Agri : Lands at Sherdan (Z. Khel).	1,520	100%
33.	—do— at Bozakai; Z. Khel.	1,520	100%
34.	Constn. of big spur for the protection of Vill : Abadi & Agri : Lands at Ghulam Dastagir.	2,100	100%
35.	—do— at Gul Haider Killi.	2,100	100%
36.	Constn. of $\frac{1}{2}$ size spur for the protection of Vill : abadi & Agri : Lands of Jan Khan Killi.	600	100%
37.	Constn. of one small spur on left side of S. Hayat Khan Fateh Khan etc.	1,020	100%
38.	Constn. of $\frac{1}{2}$ size of spur at Gul Baz.	600	100%
39.	Constn. of spur for the protection of Agri : Lands of Feroz Khan, Shinwari Killi.	4,000	100%
40.	Constn. of protection of bund for the protection of Agri : Lands of Abdul Latif Khan Killi.	5,000	100%
41.	Constn. of R/Wall for the protection of Agri : lands of Gharib Ullah Killi.	4,000	100%
42.	Constn. of R/Wall for the protection of Agri : lands of Uchalghadh.	2,100	100%
43.	Constn. of small spur on right side of Sher Ahmed Killi.	1,020	100%
Total :		25,580	

VI.—RURAL ROADS

44. Improvement of a road from Range to Amal Chabutra.	3,000	100%

Total :	3,000	

VII.—RURAL DISPENSARIES

45. Constn. of Civil Dispensary with Compound wall at Fortslop.	22,750	98%
46. Constn. of Civil Dispensary with compound Wall at Jan Khan Killi (Q. Khel).	22,750	100%
47. Provision of ground reservoir at G.H. Jamrud.	3,500	85%

Total :	49,000	

VIII.—RURAL DRINKING WATER SUPPLY SCHEMES

48. Extension of a pipe line from Malik Ali Akbar Killi to G.M.S. Illamgudar.	2,500	100%
49. Sinking of a well at Tauda China.	4,500	100%
50. Constn. of a diggi at Miran Khel Akka Khel Akhtar Jan Killi.	3,500	100%
51. Constn. of diggi 1000 gallons at existing Tap Point at Mira Jan, Z.K. Killi.	2,500	100%
52. Constn. of a new well & installation of Hand Pump at Chora.	5,000	40%
53. Improvement of Ulas Koi.	6,550	90%
54. Surface Well with electric pump and constn. of diggi for augmenting Bazar Landi Kotal Water Supply.	19,250	100%

55. Said Rehman Drinking Water Supply Scheme.	800	100%
56. Installation of an Electric Pump (5 HP) at Said Afzal Killi.	6,000	85%
57. Installation of an Electric Pump (5 HP) at Tahir Killi.	6,000	85%
58. —do— at Nimak Killi.	6,000	85%
59. Sinking of a Well at Khyber Agency, Malik Wali Khan Killi.	4,500	90%
60. Improvement of existing well with hand pump at Dohra.	3,000	65%
61. Providing Drinking Water facilities to SQK Area by extending a pipe line connection from Tehsil Bara to SQ Khel Area and Constn. of Diggi.	12,000	disputed.
62. Extension of a pipe line and constn. of Diggi at Durma Kor.	10,000	100%
63. Sinking of a well at Kamar Khel.	4,500	100%
64. Extension of pipe line 1" Dia from Mazz Khan Killi Rahim Mukhtiar Khel Killi.	6,000	100%
65. Improvement of a Water Spring at Chargi Daggar.	11,000	100%
66. Constn. of a Diggi and extension of pipe line at Sher Haider Killi.	6,000	100%
67. Improvement of a Wall at Sub-Badshah Mir K. K. Killi.	3,500	100%
68. Extension of a pipe line from Mian Pipe Line to Habib Gul Killi.	7,000	100%

69.	Sinking of a well in Qamaber Khel Area	H. Ullah.	4, 500	40%
70.	—do—	Mir Baz.	4, 500	25%
71.	—do—	Baz Khan.	4, 500	100%
72.	Sinking of a well in Akka Khel Area Taroo		4, 500	40%
73.	—do—		4, 500	40%
74.	Sinking a of well in M.D. Khel Area Taroo		4, 500	100%
75.	—do—	Rahman.	4, 500	100%
76.	—do—	Zais Haider.	4, 500	100%
77.	Sinking of a well in Sepah Area Nur Abdas.		4, 500	100%
78.	—do—	Chandars.	4, 500	100%
79.	—do—	M.K.Z.S. Badshah.	4, 500	40%
80.	Improvement of a well at Nur Rehman Killi.		2, 000	100%
81.	Sinking of a Well at Aqal Khan Kam Shilman.		4, 500	100%
82.	Installation of an Electric Pump at Sohabat Khan Killi.		6, 000	85%
83.	Improvement of an existing Talab at S.Q.K.		1, 000	100%
84.	Constn. of a Diggi and extension of pipe line to Sahib Shah, Z. Khel Killi.		3, 000	100%
85.	Extension of pipe line from Tauda China to Kamar Khel Area.		22, 000	20%
86.	Constn. of a Diggi and installation of a diesel pump at Haji Abbas Khan Killi (KK).		4, 000	100%
Total :			2, 22, 100	

Grand Total : 7, 10, 305/—

**PROGRESS REPORT OF THE SCHEMES TAKEN IN
HAND DURING THE YEAR 1966-67.**

Progress up to 31-8-1967.

S. No.	Name of Schemes	Estimated cost.	Physical Progress.
1.	Constn. of GPS bld. at Haji Dhand Akka Khel.	5,000	100%
2.	Construction of compound wall in GPS Parangdra.	5,000	100%
3.	Construction of Verandah to existing school bld. of GPS Gudar.	8,000	100%
4.	Constn. of one addl. room with verandah.	5,000	55%
5.	Constn. of Verandah to the existing bld. of Jan Khan Killi.	8,000	100%
6.	Constn. of compound wall at GPS No. 2 Id.	8,000	5%
7.	Constn. of one addl. room with verandah at GPS Ashraf Khan Killi.	5,000	100%
8.	Constn. of one compound wall at GPS Shair Haider Killi.	4,800	100%
9.	Constn. of one addl. room with verandah for gps Shair Haider Killi.	5,000	100%

Marketting Centre.

1.	Constn. of marketting centre Block "D" at Landikotal.	48,000	dropped.
2.	Improvement to shops drain at Marketting Centre Jamrud.	2,500	100%

Rural Drinking Water Supply Scheme.

1. Extension of pipe line from existing pipe connection Haji Nasrullah Sheikmal Khel.	4, 000	100%
2. Providing of electric machine for lifting water for drinking purposes in the village of Haji Murad Jan Shin.	4, 000	5%
3. Constn. of a diggi at existing tape point at Khan Mohd elder Killi Sultan Khel Zakka Khel.	1, 000	25%
4. Constn. of a diggi at existing point at M. Miras Gul village Sultan Khel, Z. K.	1, 000	25%
5. Extension of pipe line and constn. of a diggi at Pir Khanan village Sultan Khel Z. K.	4, 000	100%
6. Improvement to the existing well and installation of electric pump with motor and constn. of an overhead shortage water diggi for H. Rasam Khan Shinwari.	6, 000	Nomina- tion not done.
7. Constn. of two diggies and GI pipe line from saidki spring for Abdul Ghafoor Khan Killi.	14, 000	-- do --
8. Improvement of existing well in Gul Akbar Killi well in Gul Akbar Killi.	2, 500	70%
9. Provision of a Gate valve in main pipe line for H. Gul Mohd Killi.	500	100%
10. Constn. of diggi for Gul Mohd Killi.	9, 500	100%
11. Sinking of a Well in Azmat Khan Killi.	4, 500	not stated.
12. Providing of GI Pipe service line for community house Landikotal.	4, 000	100%

13. Extension of pipe line to diggi at Shagai.	2, 628	to be execu- ted by E&M P.W.D.
14. Extension of $\frac{1}{2}$ " Water pipe connection to water diggi at Surkamar.	676	—do—
15. Providing and fixing water supply line in Civil dispensary Lain china.	641	—do—
16. Extension of water pipe connection from Ashraf Khan Killi to GP School.	1500	100%

COMMUNITY BUILDING

1. Constn. of compound wall to community house Landikotal.	15800	100%
2. Extra Cost community house Landikotal	5150	100%

MINOR IRRIGATION

1. Improvement to the irrigation channel at Qadam.	2000	100%
--	------	------

SOIL CONSERVATION

1. Constn. of a spur for the protection of irrigation land and village abadi of Gul Mohd Killi.	5000	100%
2. Const. of a spur for the protection of agricultural land and village ababi at Zawar Khan Killi.	10000	100%
3. Const. of retaining wall for Jumz Baz Killi.	8400	100%
4. Const. of retaining wall Gul Mohd Killi.	8000	100%
5. Const. of spur type No. ifor Haji Abbas Killi.	2100	100%
6. Const. of spur type No. ifor said Akbar Killi.	2100	100%

ANNUAL MAINTENANCE PROGRAMME.

7795 work could not be started due to later receipt of sanction.

**LIST OF COMPLETED SCHEMES EXECUTED UNDER THE RURAL WORKS PROGRAMME IN KHYBER AGENCY
DURING THE YEAR 1963-64**

S. No.	Name of Schemes	Allocation	Estimated cost.
1.	Const. of 2 Addl. Rooms with verandah GPS (Pry Section) of GPS L. Kotal.	Landikotal	10,000
2.	Const. of 1 Addl. Room with verandah and boundary wall at GPS. Khan Killi	Ashraf Khan Killi	10,000
3.	Const. of one room with verandah at GPS Karaghali	Karghali	3,200
4.	Const. of one room with verandah at GPS Tehmas Khan Killi	Tehmas Khan Killi	4,600
5.	Const. of Boundary wall at GHS Landikotal	Landikotal	10,000
6.	Const. of one room with verandah at GPS No. 2 Jamrud	Jamrud	3,200
7.	—do—	Kata Khusta	3,200
8.	—do—	Lashore Gudar	3,200
9.	Const. of boundary wall at GHS Jamrud	Jamrud	17,000
10.	Const. of compound wall at GPS Yar Mohd Khan Killi	Yar Mohd Khan Killi	4,700
11.	Const. of one room with verandah at GPS Kambella	Kambella	3,200

12.	Const. of GPS building at Hisara	Hisara	10,000
13.	Const. of GPS building at Madghali Attari	Madghali	3,200
14.	—do— Karawal	Karawal	3,200
15.	—do— Maruf Khel near Jani Ghari	Jani Ghari	3,200
16.	Const. of boundary wall and water diggi at GPS Jan Khan Killi	Jan Khan Killi	4,700
17.	Const. of compound wall at GPS Jaffar Khan Killi	Jaffar Khan Killi	12,551
18.	Installation of water Tap in GMS Mohd Khan Killi	Mohd Khan Killi	1,124
19.	Const. of compound wall etc. at GPS Amir Khan Killi	Mohd Khan Killi	12,700
20.	Provision of a connection from Main pipe line to GPS Jamrud	Jamrud	1,688
21.	Const. of Drain in GHS Jamrud	Jamrud	1,000
Medical Dispensaries			
22.	Const. of Gariage for Ambulance car for C.H. Landikotal	Landi Kotal	6,144
23.	Const. of Civil Dispensary at Khaista Khullah	Khaista Kullah	27,000
Minor Irrigation			
24.	Protection of Qadam Channel (S. Ahmad Shah)	Qadam Channel (S.A. Shah)	3,000

25.	—do—	Mohammad Jan	Mohammad Jan	1,000
26.	Const. of Band to facilitate the irrigation water supply at Lashora		Lashora Gudar	10,000
27.	Const. and Improvement of Water Courses in Kam Shilman		Kam Shilman	5,500
28.	Special repairs to breaches at Uchalgadh village		Uchalgadh	10,000
Community Buildings				
29.	Improvement of existing slaughter House at Landikotal		Landikotal	5,500
30.	Improvement to existing gents and ladies Latrines in		Landikotal	4,000
31.	Const. of 4 Urinals at suitable places in Serai L. Kotal		Landikotal	4,000
32.	Sanitary Improvement to the frontage of information centre L. Kotal		Landikotal	3,500
33.	Electrification and provision of furniture for the newly constructed information centre at Landikotal		Landikotal	1,200
34.	Const. of Information Centre at Landikotal		Landikotal	8,000
35.	Const. of Union Ghar at Jamrud		Jamrud	12,000
36.	Const. of Jirga Hall at Jamrud		Jamrud	44,000

37.	Ordinary repairs to office rooms of RWP scheme staff	RWP	687
Rural Road			
38.	Const. of 4 Miles Road Alimasjid and Chora	Alimasjid	4,000
Rural Drinking Water Supply Schemes			
39.	Enlargement of existing water diggins at Landikotal	Landikotal	6,000
40.	Const. of 4 storage drinking water diggins in Serai L. Kotai	Landikotal	5,000
41.	Const. of a Talab in Tore Jan Village	Tore Jan village	2,000
42.	Const. of Well at village sparai qadam	Separi Qadam	6,000
43.	Const. of a small diggi at Malik Gul Ahmad Killi	Gul Ahmad Killi	500
44.	Provision of a water Tap with small diggi at GPA A. Latif Khan	GPA A. Latif Khan	600
45.	Const. of a well at GPS Kam Shilman	Kam Shilman	6,850
46.	Const. of 2 water diggins at Nikki Khel area	Nikki Khel Area	20,000
47.	Const. and Improvement of a well at Challani	Ghallani	6,850
48.	Digging of a well at Khandad Killi	Khandad Killi	6,850
49.	Digging and const. of Mehrband in Talab	Mehrbandin	6,500
50.	Const. of a well at Rekalli	Rekali	7,000

51.	Const. of a diggi near Hira Jan Killi	Hirajan killi	5,000
52.	Const. of R.C.C. Roof on the drinking water tank at Malik Aliman Shah Killi.	Malik Ali Man Shah Killi	5000
53.	Construction and Repair to Too Talab.	Toot Talab	6,500
54.	Const. of Repair to Spin Kabar Talab	Spin Kabar Talab	6,500
55.	—do— Opposite Jehani fort Solop crossing.	Fort Solop Jehani	6,500
56.	—do— Amin Talab	Amin Talab	6 500
57.	—do— Jani Talab	Jani Talab	6,500
58.	—do— Nawaz Talab	Nawaz Talab	6,500
59.	—do— Shahbaz Talab	Shahbaz Talab	6,500
60.	—do— Mirwal Talab	Mirwal Talab	6,500
61.	—do— Khisro Talab	Khisro Talab	6,500
62.	—do— Beri Dhand Talab	Beri Dhand Talab	6,500
63.	—do— Mian Talab	Mian Talab	6,500
64.	—do— Shamsudin Talab	Shamsudin Talab	6,500
65.	Const of 2 spurs for the protection of the Hisara well.	Hisara	6,500

66.	Const. & Improvement to existing well at Uchalgadh.	Uchalgadh	2,000
67.	Const. of New Digg with pipes line and with set of Pump at Bara Tehsil.	Bara Tehsil	8,000
68.	Const. of Ashpola Talab	Ashpola	65,000
69.	Const. of a Digi with a pipe line at No. 1 Shapola Tangi	Tangi	16,000
70.	Const. and installation of Elec. Pump at Mir Azam	Mir Azam	15,000
71.	Improvement and repair to well near Lal Mullah Killi	Lal Mullah Killi	3,000
72.	Const. of water Talab on diggi with pipe line Jem Sher Shah	Jem Sher Shah	10,000
73.	Installation of an Electric Pump at Mirza Khan Killi	Mirza Khan Killi	8,000
74.	Const. of a water diggi and extension of Pipe line at same Ghari	Sama Ghari	3,750
75.	--do--	--do--	3,750
76.	Const. of a diggi and reservior at Malik Khan Killi	Malik Khan Killi	16,000
77.	Const. of a water diggi at Gul Wali	Gul Wali	777
78.	Installation of an Electric Pump and const. of diggi at MA Killi	MA Killi	10,000

79.	Const. and sinking of well at Mohd Akbar Killi	Mohd Akbar Killi	6,000
80.	Const. and Improvement of well (H. Shahzada)	H. Shehzada	1,588
81.	Improvement of 6 talabs	--	1,700
82.	Const./sinking of well at Said Ahmad Shah Killi	S.A. Shah Killi	7,000
83.	Const./sinking of well at Navi Qamar	Navi Qamar	8,350
84.	Const./sinking of well at Jan Khan Killi	Jan Khan Killi	7,000
85.	Const./Improvement of well at Takhtabaig Khawar	Takhta Baig	6,850
86.	Const./Installation of Electric Pump of Paindi Iulma well	Paindi Iulma	10,000
87.	Sinking of New Well at Guddar	Guddar	7,000
88.	Const. & Repair of Tandri Talab	Tandri	6,500
89.	Sinking of a well in Sub Wali Village	Sub Wali Village	2,000
Flood Protection Bunds.			
90.	Const. of spur for the protection of Agri. Lands in the bed of T.B. Chora Jabba	Ghora Jabba	10,000
91.	Const. of small spur 'T/B Khawar Khanzada Gul	Khawar	1,020
92.	-- do --	Left Side H.A. Rehman	1,020

93.	--do--	--do--	"	,020
94.	--do--	--do--	"	1,020
95.	--do--	on the right side T. B. Khawar	"	1,020
96.	--do--	--do--	"	1,020
97.	--do--	left side --do--	"	1,020
98.	Const. of Bidg spur	--do--	"	2,100
99.	--do--	R/Wall for the protection of fields	"	2,000
100.	"	Small spur near water Channel	Water Channel	10,20
101.	"	one spur of the left side T. B. Khawar	Khawar	2,100
102.	"	small bund on right side T. B. Khawar	"	1,020
103.	"	Jawari outside	"	1,020
104.	"	1/2 size spur for the protection of Flood Irrigation channel	Channel	600
105.	Const. of Small Spur	on the left side T. B. Khawar	Khawar	1,020
106.	--do--	one small spur on the right side T. B. Khawar	"	1,000
107.	"	1/2 size spur on the right side T. B. Khawar	"	600

108.	"	Small Bund	—do—	"	600
109.	"	—do—	"	"	600
110.	"	of small spur on the left side	Mastal Khel		1,020
111.	"	Medium size spur on the left side	T.B. Khawar	Khawar	1,520
112.	"	one small spur on the left side	T.B. Khawar	"	1,020
113.	"	Medium size spur on the right side	T.B. Khawar	"	1,520
114.	"	—do—	left	"	600
115.	"	1/2 —do—	"	"	600
116.	"	—do—	"	"	600
117.	"	one small spur on the right side	"	"	1,020
118.	"	—do—	"	"	1,020
119.	"	"	"	"	1,020
120.		Const. one dry stone wall for the protection of fields from Shin Tang Algalad		Algalad	2,000
121.		Const. of small spur on the left side	T.B. Khawar	Khawar	1,020
122.		—do— a small spur on the right side	T.B. Khawar	"	1,020

123.	Const. of R/Wall and spur for the protection of Agri. Lands of Kam Shilmam	Kam Shilmam	10,000
124.	Const. of R/Wall and spur for the protection of Agri. Land of Loi Shalman	Loi Shilmam	10,000
125.	Const. of R/Wall and spur for the protection of Agri. Lands of Rehmat Ullah Killi	Rehmat Ullah Killi	9,700
126.	Const. of R/Wall and spur for the protection of Agri. Lands of Lal Mullah Killi	Lal Mullah Killi	5,000
127.	Const. of R/Wall and spur for the protection of Agri. Lands of H. Murad Khan Killi	H. Murad Khan Killi	10,000
128.	Const. of R/Wall and spur for the protection of Agri. Lands at H.N. Killi	H.N. Killi	10,000
129.	Const. of R/Wall and spur for the protection of Agri. Lands at H. Miran village	H. Miran village	15,000
130.	Const. of R/Wall and spur for the protection of Agri. Lands at Abdul Latif Khan Killi	Abdul Latif Khan	10,000
131.	Const. of R/Wall and spur for the protection of Agri. Lands at Sajib Jan Killi	S.J. Killi	9,000

132.	Const. of R/Wall and spur for the protection of Agri. Lands at Bara River	Bara River	20,000
133.	Const. and Repair to Uchalgadh wall	Uchalgadh	10,000
134.	Const. of Retaining Wall to Uchlgadh wall	—do—	8,000
135.	—do— protection bund near Badshah Mir Killi	B. Mir Killi	12,500
136.	“ R/Wall for Ghulam Dastgir Killi	G.D. Killi	12,517
137.	“ Retaining Wall and spur near Shahid Jaranda	Jranda	8,000
138.	“ spur at Takhtabaig Khawar (Malik Aliman Shah)	Takhtabaig	35,000
139.	“ one small spur on the right side T.B. Khawar	Khawar	1,020
140.	“ R/Wall and 3 spur for the protection of Agri. Lands of Malik Ali Man Shah Khan Killi	M.A.M. Shah Killi	9,825
141.	Const. of Small spur on the left side T.B. Khawar	Khawar	1,020
SCHEMES TAKEN IN HAND OUT OF SAVING OF 1963-64			
S. No.	Name of Scheme	Location	Estimated Cost.
1.	Extension of pipe line from Kafila Serai to Ghaza village with const. of a diggi .000 gallons already sanctioned under 1964-65 Rs. 3,50,004 Hameesh Gul K.K.)	Ghaza village	2,233

2. Revised estimated const. of diggi and provision of GIP pipe line for Gara Hill near Kafia Serai Landikotal already sanctioned Rs. 3,000 1964-65 (61) H. Shimal Din Shinwari	Gara-village	3,000
3. Revised estimate Improvement of a well at Sub Anwar Shah Killi already sanctioned Rs. 3,000—1964-65 (64) S. Anwar Shah	Anwar Shah Killi	1,000
4. Revised estimate levelling of play ground and const. of open terraced stadium at GHS Jamrud already sanctioned Rs. 8,000 1964-65 (7) Inayat Shah K. Khel	Jamrud	3,000
5. Extension of pipe line and const. of a diggi at Fort Salop MD Khel area (Sub Yar Badshah)	Fort Salop	6,000
6. Improvement of Hisara well Malik Waris Khan Q. Khel	Malik Waris Khan Q Khel.	2,000
7. Improvement of a well in Sahib Shah Killi Kala Khel	Sahib Shah K. Khel Khel.	2,000
8. Improvement of a New well at Rehmattullah Shinwari	Rehmat Ullah Shinwari.	2,000
9. Improvement of GPS Karaghali S. Habib-ur-Rehman	Karghari	944

10. Revised Estimate of improvement of Ulss Koj Shaikhmal Khel already sanctioned Rs. 6,560 (1965-66) H. Samar Din

SheikhmaljKbel

1,450

RURAL WORKS PROGRAMME SCHEMES FOR THE YEAR 1964-65

S. No.	Name of Scheme	Location	Estimated cost.
1.	Completion of the remaining portion of compound wall at GHS Jamrud	Jamrud	15,800
2.	Completion of the remaining portion of compound wall at GHS Landikotal	Landikotal	10,000
3.	Const. of a diggi and extension of a pipe line at GLMS Shahgai	Shahgai	3,000
4.	Const. of two addl. Room with verandah at GLMS Paindi Lalma	Paindi Lalma	9,000
5.	Const. of water diggi at GIMS Oaubdul Kakna	"	2,000
6.	Const. of one addl. Room with verandah at GPS No. 2 Jamrud	Jamrud	5,000
7.	Levelling of Play ground and const. of open teraged stadium at GHS Jamrud	"	8,000

3.	Const. of one addl. Room at GPS Malik Gul Mohammad Killi	Malik Gul Mohammad Killi	4,500
	Const. of one Addl. Room with verandah and compound wall at GHS Mohd Khan Killi	Mohd Khan Killi	24,500
10.	Const. of a diggi at GHS Mohd Khan Killi	" "	3,500
11.	Const. of complete verandah and 2 addl. rooms at GPS Abdul Latif Khan Killi	Abdul Latif Khan Killi	14,000
12.	Const. of Retaining wall at Mohd Khan Killi	Mohd Khan Killi	6,000
13.	—do— compound wall at GPS Khewazai	Khewazai	7,500
14.	" pipe line from spring with diggi at GPS Khewazai	"	1,500
15.	" one Room with verandah at GPS Shinpohk	Shinpohk	4,500
16.	" Boundry wall for CD Lalachina	Lalachina	6,000
17.	" water diggi and pipe line at CD Lalachina	"	3,000
18.	" Boundry wall at CD Sultan Khel	Sultan Khel	6,000
19.	Provision of water diggi and pipe line connection for C.D. Lalachina	Lalachina	3,200

20.	Const. of cemented platform with small water tank tap round in female section C.H. Landikotal	Landikotal	1,000
21.	Const. of 2 laterines patient towards GH Landikotal	"	2,800
22.	Const. of spill escape and strengthening of right bank of inundation Irrigation and Uchalgadh	Uchalgadh	6,500
23.	Special repair to damaged apron etc. of Irrigation bund at Uchalgadh	"	4,500
24.	Protection walls for 2 water coursed crossing in Lashore Yar Afzal Killi and to Jan Killi	Yar Afzal Killi	1,000
25.	Redigging of drainage channel irrigation for the lands Mian Khan	Mian Khan	1,000
26.	Const. of small size spur for the protection of lands right side Shabid Gul	Shabid Gul	1,000
27.	Revised estimate construction of Agency Council Hall at Jamrud	Jamrud	5,000
28.	Electrification for the union ghar at Jamrud	"	675.50
29.	Electric Installation of Agency council hall at Jamrud	"	4,150
30.	Provision of 1" Water connection at Agency Council Hall at Jamrud	"	7,943

31.	Const. of Male and Female Latrine Block for visitors at Torkham	Torkham	3,412
32.	Provision of Furniture for the Agency Council Hall at Jamrud	Jamrud	2,550
33.	Sinking of a well at Shaikhmal Nikka Takke (OK)	Shaikhmal	4,500
34.	—do— Mir Rehman Killi	Mir Rehman Killi	4,500
35.	” Totki Dhand Deeplare Area	Totki Dhand	4,500
36.	” Sambada Area	Sambada	4,500
37.	” Surkao Deeplare Area	Surkao	4,500
38.	Improvement of a well at Master Ziarat Khan Killi	Master Ziarat Khan Killi	2,000
39.	Sinking of a well at Khial Din Killi	Khial Din Killi	4,500
40.	—do— Maruf Khel near Jani Ghari	Jani Ghari	4,500
41.	Const. of 3rd Digg at Sama Ghari	Sama Ghari	4,500
42.	Sinking of a well at GPS Unchalgadh	Unchalgadh	4,500
43.	—do— Gulzeer Killi	Gulzeer Killi	4,500
44.	” Charogha	Charogha	4,500

45.	Const. of a water diggi 1,000 gallon at Sur Kamar with 1" dia 300 ft. pipe line	Sur Kamar	2,000
46.	Const. of a new Well at Warmande Mela 140 ft. Depth Zar Shah	Warmand Mela	4,500
47.	Provision of regular side of drinking water well surface at Ghallani	Ghallani	4,000
48.	Const. of a water diggi with existing tap at Jallandar Ali Masjid	Ali Masjid	2,000
49.	Improvement of a well at Gul Rehman	Gul Rehman	1,000
50.	Const. of a diggi and extension of a pipe line in Thickly populated cros of sado khel	Sado Khel	11,000
51.	Const. of a water diggi and extension of a pipe line in Sheikhmal Khel N.K. Area	Sheikhmal Khel	10,000
52.	Const. of water diggi on the existing spring in well Khel Sultan Khel M. Menar Shah	Sultan Khel	3,000
53.	Extension of pipe line and const. of a small diggi in Gulaz Khan Killi	Gulaz Khan Killi	4,000

54.	Provision of pipe line 100 ft. GI pipe and a diggi N.K.Z.K. Passani	Passani	6,000
55.	Const. of drinking water diggi on the existing spring side and extension of pipe line for Mohd Shah Killi	Mohd Shah Killi	7,500
56.	Provision of startihing and raised plant form to well in Shahzad Khan Killi	Shahzad Khan Killi	5,000
57.	Diggi of a well in Mir Hasan Killi	Mir Hasan Killi	5,000
58.	Const. of a well in H. Harun Jan Killi	H. Harun Jan Killi	4,000
59.	Const. of water diggi in Mukhtiar Khel area Mazz Khan Killi including 1% pipe extension	Mazz Khan Killi	12,000
60.	Const. of a water diggi and extension pipe line at Hayat Khan	Hayat Khan Khel	6,000
61.	Const. of a diggi and provision of pipe line for gara Killi near Kafila Serai Landikotal	Kafila Sarai Landikotal	3,000
62.	Const. of 2 diggies and provision of GI pipe line for Ghakhisar to Khassadar Post	Ghakhisar	6,000
63.	Provision of GI pipe line from Khanaki spring Malik diggi durma kor	Malik Diggi durma kor.	12,000

64.	Improvement to existing well for Sub-Anwar Shah	Sub Anwar Shah	3,000
65.	Sinking of a well at Badshah gul Killi	Badshah gul Killi	4,500
66.	—————do———— Allah Dad Killi	Allah Dad Killi	4,500
67.	Charangi Area Dereplari	Dereplari	4,500
68.	Haji Gul Killi	Haji Gul Killi	4,500
69.	Malikzada Zarif Khan Killi	Zarif Khan Killi	4,500
70.	Yar No. 2 Killi Gulmat Khan	Gulmat Khan	4,500
71.	Between Gulamat Khan Killi Sheikhmal Killi	Sheikhmel Khel	4,500
72.	with pretention well at Tawiz gul Killi	Tawceez gul Killi	4,500
73.	Sheikhmal Khel Arjali Naudi near nisar school in Q. Khel Izzat Khan Killi	Izzat Khan Killi (Q. Khel)	4,500
74.	Sultan Khan Killi	Sultan Khan Killi	4,500
75.	Induresh Khan Killi	Induresh Khan Killi	4,500

76.	Spain dband Malik Niaz Mohd. Khan Killi	Mohd Khan Killi	4,500
77.	Rahim Jan Killi	Rahim Khan Killi	4,500
78.	Ghallani near Jani Ghari	Jan Ghari Killi	4,500
79.	Saindrog and Sanzel Khel	Sanzel Khel	4,500
80.	Sur Kamara Sultan Khel	Sultan Khel	4,500
81.	Sinking well at Mir Badshah Killi	Mir Badshah Killi	4,500
82.	Uhailmat Shah Killi khara manzai at Maruf Khel	Maruf Khei	4,500
83.	Sinking of a well near Ghurij Hul Killi	Ghurij Khan Killi	4,500
84.	Const. of a storage tank of existing top point at Khasadar Post Milward	Milward	4,500
85.	Sinking of a well in Nasar Din Killi	Nasar Din Killi	4,500
86.	————— Akhuzada Qambar Baz Killi.	Qambar Baz Killi	4,500

78.	Landai Mel near Umar Din Killi	Umar Din Killi	4,500
88.	Juma Baz Killi	Juma Baz Killi	4,500
89.	Uchi Navi cut.	Uchi Navi cut	4,500
90.	Sinking of a well near Ghundai Killi	Ghundai Killi	4,500
91.	Sinking of a well at Gul Khan & Z.G. Khan	Gul Khan and Z.G. Khan	4,500
92.	Sinking of a well at Star Killi	Star Killi	4,500
93.	Sinking of a well in Shaikhal Killi (Warmandi)	Warmandi	4,500
94.	Provision of 1/2 GI Pipe line with diggi from Jha si camp to spine Kanar	Spin Kabar	8000
95.	Const. of a well Lauddai Killi	Landai Killi	4,500
96.	Improvement and installation of Head Pump and deeping the existing well at Durmai including retaringing well	Durmai	4,500
97.	Sinking of a well at Susekai Killi	Susekai	4,500
98.	Installation of an electric pump and cost of diggi at Bara Tehsil	Bara Tehsil	3,000

99.	Sinking of a well at Akka Khel Shah Killi	Akka Khel	4,500
100.	Installation of a Head pump at Bara River in Muz Nasir Khan Killi	Nasir Khan Killi	10,000
101.	Sinking of a well at Shaikhmal Khel Arjali Nandai near Nisara School	Shaikhmal Khan	4,500
102.	Improvement of a well at Uchalgaadh A. H. Killi	Uchalgaadh	4,500
103.	Extension of pipe line and cost of small diggi from Hav Chavki to K. K. Population	K. Khel	3,500
104.	Extension of pipe line from Kafila serai to Ghaz village with const. of diggi 1,000 gallons	Ghaz village	3,500
105.	Sinking of a well in Guli Sher killi	Sher killi	4,500
106.	— do — Kheror mala Azad Khan, Yar Mohd Khan	Kheror	4,500
107.	.. UJO Mela Sher Bahadur	Mela Sher	4,500

108.	Const. of a well at Lala China Malook kili	Lala china	4,000
109.	Const. of 4 wells 60' each A. Rehman etc.	A. Rehman	10,000
Flood Protection Bands.			
110.	Const. of spur for the protection of village abdi of Zakha Khel	Zakha Khel	3,000
111.	--do--	Kha Mohd Z. Khel	2,500
112.	"	Pir Hauan Z. Khel	5,000
113.	"	Margha Jan Z. Khel	5,000
114.	"	Mkz Mohd Jan Z. Khel	3,000
115.	"	Mkz Ashraf Khan Z. Khel	2,000
116.	"	Mkz Ashraf Khan Z.K.	3,000
117.	"	Rehmat Ullah Z. Khel	4,000
118.	"	Sher Haider Z. K.	3,000

119.	"	"	Malik Sardar Khan Z.K.	"	4,000
120.	"	"	Mr. Ghul Ahmad Z. Khel	"	3,000
121.	"	"	Malik Abdul Halim Z. Khel	"	3,000
122.	"	"	Saidra Gul Killi	"	2,000
123.	"	"	Hav Hakim Khan Killi	"	3,000
124.	Const. of retaining walls to Haider Jan Killi			Haider Jan Killi	1,000
125.	Const. of one Big Spur for the protection of Agri. Lands at Sama Ghari			Sama Ghari	2,000
126.	Const. of protection Bund at Malik Wali Khan Killi			Wali Khan Killi	7,500
127.	Const. of small spur right T.B. Khawar Ghandal Shah			Ghandal Shah	1,020
128.	--do--	Left	--do--	H. Wambar Gul	1,020

129.	"	Right	"	Aman Shah	Aman Shah	1,020
130.	"	Right	"	Faiz Mama	Faiz Mama	1,020
131.	"	Right	"	Faqir Hussain	Faqir Hussain	1,020
132.	"	Right	"	Gulab Shah	Gulab Shah	1,020
133.	"	Right	"	Mohd Hussain	Mohd Hussain	1,020
134.	"	Left	"	Maidan	Maidan	1,020
135.	"	Left	"	Ziarat Gul	Ziarat Gul	1,020
136.	"	Left	"	Zarnat Gul Adam Khel	Zarnat Gul	1,020
137.	Const. of Big spur at Takhtabaig			Khawar Rogha Shah	Takhtabaig	2,800
138.	—do— of Big spur at Takhtabaig			Left Bank Khawar Sher Hassan	—do—	2,100
139.	" of Medium spur left Bank T. B. Khawar			(Gudar) Bila Jan	"	1,520

140.	of 3v small spurs (Gudar) Sher Rahman Torkhel killi	Tor Khel killi	3,000
141.	of 4 half size spurs left bank gudar Azad Khan Yar Mohd to	Gudar	2,400
142.	Provision of a pacca walls for spur passage to protect Agri. land from hill side catchment drain lashora gudar guar Afzal Killi	Lashore gudar	2,000
143.	Protection wall in Zardad Shah and Zardad Killi	Zardad Killi	1,300
144.	2 Small spur $\frac{1}{2}$ size Badshah Khan F. Ahmad & Ghazi	Ghani	1,200
145.	$\frac{1}{2}$ size spur left side protection irrigation in water channel Saidan gul	Saidan Gul	600
146.	$\frac{1}{2}$ size spur left side protection irrigation in water channel Khan and Bhatti	Khan and Bhatti	600
147.	Big spur for protection of Shari Khel land	Shari Khel	2,100
148.	2 Small spurs for the protection of irrigation lands left side Malook	Malook	2,040

149.	One Small spur on the left side No. 6 of Khan Shah	Khan Shah	1,020
150.	Small spur to right side Nur Haider	Nur Haider	1,020
151.	Large size spur on the right side for the protection of lands A. Mohd.	A. Mohd	2,100
152.	1/4 size spur for the protection of lands on the left side Mohd Ghani	Mohd Ghani	600
153.	1/4 size spur left side Nur Mast.	Nur Mast	600
154.	—do—left side Abdul Wahab	Abdul Wahab	600
155.	” Right side Gul Rehman	Gul Rehman	600
155.	” Right side Lando	Lando	600
157.	” Right side Right Abdul Rashid	Abdul Rashid Khan	600
158.	” Left side H. Hawas	H. Hawas	600
159.	” Left side Zaman Gul	Zaman Gul	600
160.	” Right side Nadar Khan	Nadar Khan	600

161.	..	Left side Nur Haider	Nur Haider	600
162.	..	Left side Sber Dast	Sher Dast	600
163.	..	Left side Faqir etc.	Faqir	600
164.	..	Left side Zaman Gul	Zaman Gul	600
165.	..	Right side Sarfaraz	Sarfaraz	600
166.	..	Left side Mullah Sowati	Mullah Sowati	600
167.	..	Left side Mir Akbar	Mir Akbar	1,020
168.	..	Right side Khan Khel	Khan Khel	1,020
169.	Const. of a Big spur for the protection of Agri. Lands at Katta Khueta Malik Waris Khan MDK			8,400
170.	Const. of one small spur on the Right side opposite gul Badshah			1,020

APPENDIX III

(Ref : Starred Question No. 1028)

STATEMENT OF UNITS OF MAGISTRATE FROM 1st JULY 1966 TO 31st OCTOBER 1967

Serial No.	Name of the Magistrate	Name of Ist Class Magistrate in Karachi as on 31-10-67	July 1966	August	September	October	November
1.	Mr. Zafar Altaf, S.D.M., Civil	Same
2.	Mr. Bashir Ahmad, S.D.M., Harbour	Do.	62½	59	68	84½	65½
3.	Mr. Ali Mohd Sh., Cantt ...	Do.	35½	36	35	31	36
4.	Mr. Muhammad Ishaq Sh., New Town.	Do.	50½	63½	35½	41	40½
5.	Mr. J.M. Soares, S.D.M., Old Town	Do.	52½	49½	10	34	44½
6.	Mr. G. Rabbani S.D.M., Nazim Abad.				...	15½	58
1	Mr. Ghulam Nabi Qasmani, A.C.M. 1	Do.	41	44	27	34	51
2	Mr. Taj Muhammad Qureshi, A.C.M. 2	Do.	77	95	43½	67	97
3.	Mr. Mohd Ali Hashmi, A.C.M 3.	Do.

Decem- ber	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	Over one year	Over two years	Over three years
...	5	16	61	65
68	70½	83	43½	37	77	58	121	116	67	41	65	15	5
38½	26½	37	36	75	55	47	41	48½	51	74½	21
77½	24½	56½	57½	54½	61½	38	35½	72½	36	48	9
19	35½	41½	53½	37	54	39½	35	59	38	85	17	3	3
64½	61½	60½	66½	50½	76½	76½	30	48½	74	76	13
44	47	38	47	41	41	63½	29	54½	40	65
147	124	104	128	140	122	95½	99½	149	114	22
...	34	41	44	7	2	...

...	21	31	45	4	...
...	5½	30	63	3	...
...	5½	34	56	51½	44½	55	51	47½	51	44
54½	79	86	58	88	101	100½	75½	112	118	104	17	...
54½	57½	65	63	66	50½	63	37	55½	87	67	1	...
41	26½	41	25	38½	35½	49	35½	42½	44	51½	3	...
78	56	48	61	76	125	81	75	66	129	36
...	40	50	35	14	...
40	33½	37	38	42	42	44	70½	58½	...	33½	3	...
74	50	69	74½	70½	79½	62½	55	72	65	48	5	...
...	102½	76	129	159½	2	...

APPENDIX IV

(Ref : Starred Question No. 10312)

Annexure 'A'

LIST OF KUTCHA AND PUCCA JAILS SHOWING THE NUMBER OF PRISONERS, STRENGTH OF STAFF,
EXPENDITURE AND INCOME IN HYDERABAD AND KHAIRPUR DIVISIONS.

Name of the Jail.	Strength of staff		Average population	Expenditure	Receipts (Income)
	Gazetted	Non- Gazetted			
Hyderabad Division :					
Central Prison, Hyderabad (pucca)	3	173	1965-66—1590	10,43,067	81,114
			1966-67—1567	9,88,925	1,10,686
			1 67-68—1910 (upto 31-12-67)	3,27,231	44,251
District Jail Dadu, (Building pucca and main wall kutcha)	—	32	1965-66—122	66,985	—
			1966-67—176	51,735	—

	1967-68— 204		46,374	272
	(upto 31-12-67)			
District Jail, Mirpur Khas.	32			
(pucca)	—			
	1965-66— 162		81,286	4,376
	1966-67 — 131		90,728	1,149
	1967-68— 115		22,782	242
	(upto 31-12-67)			
Special Prison, Nara. (kutch)	3	67		
	1965-66— 425		1,72,229	1,97,349
	1966-67— 451		2,14,440	2,28,104
	1967-68— 429		1,04,673	25,124
	(upto 31-12-67)			
Khairpur Division				
Central Prison, Sukkur. (pucca)	3	63		
	1965-66—1536		9,15,189	1,31,370
	1966-67—1550		10,68,977	1,36,755
	1967-68—1573		4,02,465	63,403
	(upto 31-12-67)			

Central Jail, Khairpur. (pucca)	2	63	1965-66—473	3,41,264	1,34,988
			1966-67—533	3,68,531	10,941
			1967-68—509 (upto 31-12-67)	1,09,815	638
District Jail, Sukkur. (pucca)	2	7	1965-66—609	2,83,711	501
			1966-67—635	3,23,706	2,095
			1967-68—623 (upto 31-12-67)	1,39,534	445
District Jail Nawabshah. (pucca)	1	20	1965-66—133	94,790	—
			1966-67—137	1,27,912	—
			1967-68—258 (upto 31-12-67)	50,913	—
District Jail, Larkana. (pucca)	1	20	1965-66—325	93,110	—
			1966-67—395	2,03,893	—
			1967-68—341 (upto 31-12-67)	59,785	—

during the years 1965-66 to 1967 alongwith the number of cases in which the accused were apprehended and challaned.)	No. of accused convicted.	No. of accused convicted.	No. of accused convicted.
(b) The number of accused out of these mention- ed in (a) above who were con- victed and the steps taken or intended to be taken to put an end to such cases.)	40	98	119

Steps taken or intended to be taken to put an end to such cases.

1. Intensive patrolling of the area where the wires are embedded was carried out.
2. A vigilance was kept on the suspected employees of the Department of the Telephone and Telegraph.
3. Shops dealing in metal and electric goods were watched by Police for prospective sellers of telegraph wires.

Steps intended to be taken.

1. More men and Police Officers are being deployed to scour the area, particularly away from the roads and population to stop the crime and catch hold of the thieves red-handed round the clock.
2. The Telephone and Telegraph department will be advised to screen out their staff who are suspected to have a hand in the thefts.
3. Regular meetings between the Police and Officers of Telephone & Telegraph Department are being proposed.
4. Special campaigns to be launched for the recovery of stolen wires.

APPENDIX VI

(Ref : Starred Question No. 10812)

ضلع رحیم یار خان

منسلکہ ”الف“

کیفیت نامہ واردات قتل وغیرہ

۱۹۶۰ تا ۱۹۶۷

سال	قتل	ڈکیتی	اغوا وغیرہ	سرقہ	زنا بالجبر	کیفیت
۱۹۶۰	۵۱	۱	۳۳	۲۳۰	۸	
۱۹۶۱	۶۳	۱	۶۱	۲۷۶	۱۰	
۱۹۶۲	۷۸	۲	۵۵	۳۰۶	۳	
۱۹۶۳	۸۵	۹	۷۳	۳۶۰	۸	
۱۹۶۴	۵۷	۲	۳۸	۲۵۳	۳	
۱۹۶۵	۷۸	۱	۷۹	۲۸۶	۷	
۱۹۶۶	۷۸	۱	۷۱	۳۷۱	۱۵	
۱۹۶۷	۷۸	—	۹۲	۳۸۷	۱۱	

منسلکہ ”ب“

کیفیت نامہ جس میں تھانوں کی تعداد مع دیہات و آبادی ظاہر کی

گئی ہے۔

سال	تعداد تھانہ	تعداد دیہات	آبادی
۱۹۶۰	۱۳	۹۶۶	۱۰۶۱۲۵۰۶
۱۹۶۱	۱۳	۹۶۶	۱۰۶۱۳۵۰۳
۱۹۶۲	۱۳	۹۶۶	۱۰۶۱۱۵۵۹
۱۹۶۳	۱۳	۹۶۶	۱۰۶۱۵۷۱۵
۱۹۶۴	۱۳	۹۶۶	۱۰۶۱۵۸۱۸
۱۹۶۵	۱۳	۹۶۶	۱۰۶۱۶۷۱۳
۱۹۶۶	۱۳	۹۶۶	۱۱۶۸۰۷۳۵
۱۹۶۷	۱۶	۹۶۶	۱۱۶۸۱۶۸۳۶

رحم یار خان

”ج“

تھانہ جات ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۷

تصریحات

۱۹۶۷ تا ۱۹۶۷

محافظت و نگرانی (واج اینڈ وارڈ)

باز تنظیم کردہ جمعیت

اے ایڈ

۱-۷-۱۹۶۷ء

ایس آئی اے ایس آئی ایڈ کنسٹیبل سپاہی ایس آئی ایس آئی کنسٹیبل سپاہی

—	—	—	—	۱۳	—	۲	۲
—	—	—	—	۱۲	—	۱	۲
—	—	—	—	۱۲	—	۱	۲
—	—	—	—	۱۲	—	۱	۲
—	—	—	—	۱۱	—	۲	۱
—	—	—	—	۱۱	—	۲	۱
—	—	—	—	۱۰	—	۱	۱
—	—	—	—	۱۲	—	۱	۲
—	—	—	—	۱۱	—	۲	۱
—	—	—	—	۱۱	—	۲	۱
—	۱	—	—	۱۵	—	۲	۳
—	—	—	—	۱۰	—	۱	۱
—	—	—	—	۱۱	—	۲	۱
—	—	—	—	۱۳	—	۲	۲
—	۳	۱	—	۱۵	—	۲	۳
—	—	۱	—	۱۳	—	۲	۲

منسلکہ

کیفیت نامہ بابت منظور شدہ جمعیت

موجودہ جمعیت				۱۹۶۰ تا ۱۹۶۷					
(نگرانی و محافظت (واج اینڈ وارڈ)				منظور شدہ جمعیت					
ایس آئی اے ہیڈ ایس آئی کنسٹیبل سپاہی				ایس آئی اے ہیڈ ایس آئی کنسٹیبل					
—	—	—	—	۱۳	۱	۳	۱	۱	لیاقت پور
—	—	—	—	۱۲	۱	۱	۱	۲	شاہدانی
—	—	—	—	۱۲	۱	۱	۱	۳	پکالاران
—	—	—	—	۱۸	۱	۳	۱	۴	خانپور صدر
۵	۱	—	—	۱۲	۱	۱	۱	۵	چاچران
—	—	—	—	۱۲	۱	۱	۱	۶	رکن پور
—	—	—	—	۷	۱	۱	۱	۷	اسلام گڑھ
—	—	—	—	۱۳	۱	۱	۱	۸	کوٹ سمبا
—	—	—	—	۱۲	۱	۱	۱	۹	آباد پور
—	—	—	—	۱۰	۱	۱	۱	۱۰	ٹی ایم شاہ
۵	۱	—	—	۱۲	۱	۳	۱	۱۱	صادق آباد
—	—	—	—	۱۰	۱	۱	۱	۱۲	بھنگ
—	—	—	—	۱۲	۱	۱	۱	۱۳	کوٹ سبزل
—	—	—	—	—	—	—	—	۱۴	رحیم یار خان
۱۰	۱	—	—	۱۸	۱	۳	۱	۱۵	صدر
—	—	—	—	—	—	—	—	۱۶	رحیم یار خان
—	—	—	—	—	—	—	—	—	شہر
—	—	—	—	—	—	—	—	—	خانپور شہر

APPENDIX VII

(Ref : Starred Question No. 10900)

POLICE DEPARTMENT

Tharparkar District

STATEMENT SHOWING PARTICULARS OF TRANSFERS OF S.H.Os.

S. No.	Name of S.H.O.	From	Transfer To	Date of last posting.	Date of posting to new place.	Reason for transfer
1.	SI Zafar Muhammad	Taluka	Town	22-5-65	14-9-65	Emergency.
2.	SI Moosa Khan.	Mithi	Digri	7-8-64	20-9-65	Emergency.
3.	SI Zafar Muhammad	Town	Digri	14-9-65	14-10-65	In vacant post, due to transfer of SI Moosa Khan out of District.

4.	SI Umer Hayat	Kunri	Jhudo	6-6-64	30-3-66	Administrative grounds. Deputy I.G.P. Hyderabad Range consulted.
5.	SI Dodo Khan	Chachro	Jhudo	18-9-65	14-6-66	Leave vacancy of SI Umer Hayat. Administrative grounds.
6.	SI Ali Bakhsh	Digri	Umerkot	9-2-65	9-9-65	Emergency.
7.	SI Muhammad Hussain Mithi		Samaro	9-3-66	17-7-66	To fill vacant post tem- porarily due to deputation of S.I. Qazi Ghulam Muhammad for Special duty at Hyderabad.
8.	SI Muhammad Hussain Samaro		Chachro	17-7-66	29-12-66	On re-promotion, vide SI Ali Nawab Daoudpota transferred out of dis- trict. This was done as

smuggling was reported in
Taluka Chachro.

9.	SI Ali Hassan	Umerkot	Nargarparkar	29-1-65	9-9-65	Emergency.
10.	SI Ali Hassan	Nagarparkar	Diplo	6-9-65	24-6-66	Adjusment of vacant post. due to tranfer of SJ Nazir Shahabuddin, Sanghar District.
11.	SI Ghulam Sarwar	Digni	Taluka	2-6-66	8-2-67	Administrative grounds. Dy. I.G.P. Hyderabad Range consulted.
12.	SI Muhammad Laiq	Diplo	Jhudo	25-8-66	22-2-67	Administrative grounds. Dy. I.G.P. Hyderabad Range consulted.

13.	SI Dodo Khan	Jhudo	Taluka	14-6-66	15-2-67	Administrative grounds. Dy. I.G.P. Hyderabad Range consulted.
14.	SI Abbas Haseain Jafferi	Samaro	Town	25-12-66	8-4-67	Transfer of S.I. Wali Muhammad Almani out of District. Administrative grounds.
15.	SI Gul Muhammad	Nagarparkar	Jamesabad	10-9-66	11-8-67	Vacancy of S.I. Ghulam Rasool Shah, promoted as Inspector. Dy. I.G.P. Hyderabad Range consul- ted.
16.	SI Mansabdar	Kunri	Jamesabad	6-12-66	30-9-67	Administrative grounds. Dy. I.G.P. Hyderabad Range consulted.

17.	SI Gul Muhammad	Jamasabad	Kunri	11-6-67	30-9-67	To make adjustment. Dy. I.G.P. Hyderabad Range consulted.
18.	SI Abdul Rashid	Mithi	Linces	12-9-66	2-10-67	On complaints.
19.	SI Muhammad Siddiq Shoro.	Taluka	Digri	16-9-65	9-2-67	Administrative grounds Dy. I.G.P. Hyderabad Range consulted.

Tharparkar District

Police Department

STATEMENT SHOWING PARTICULARS OF TRANSFERS OF HEAD CONSTABLES

S. No.	Name	Transfer		Date of last posting.	Date of posting to new place.	Reasons for transfer.
		From P.S.	To P.S.			
1.	H.C. No. 107 Abdul Rashid	Samaro	Digri	6-1-64	12-10-65	Emergency.
		Digri	Vijuto	12-10-65	3-9-66	Administrative grounds.
		Vijuto	Kunri	3-9-66	6-1-67	—do—
		Kunri	Linces	6-1-67	24-1-68	On complaint of S.H.O.

2.	H.C. No. 587 Amanullah	Nargarparkar Reader to DSP (Desert)	Reader to CIA MPS.	1-5-65 23-7-65	23-7-65 28-10-66	Administrative grounds. —do—
3.	H.C. No. 772 Maqbool Hussain	Chelhar New Chhore	New Chhore Chelhar	15-3-64 15-1-66	15-1-66 1-2-68	Emergency. Administrative grounds.
4.	H.C. No. 580 Idal Khan	Umerkot	Soofi	8-3-65	1-1-68	—do—
5.	H.C. No. 772 Taneyraj	Shahdipalli	Khan	7-6-65	27-5-66	—do—
6.	H.C. 780 Tahir Mohammad	Danodandal Samaro Dhoromoro	Samaro Dhoromoro Kunri	25-1-66 8-9-66 19-11-66	8-9-66 19-11-66 2-2-68	—do— —do— —do—
7.	H.C. 729 Daoud Khan	Diplo	Balhari	11-4-67	1-1-68	Affected due to the change of Border Police which is to be changed every six months.

8. H.C. 712	Shadipatti	Ghulam Nabi	26-3-63	30-6-65	Administrative grounds.
	G.N. Shah	Balhari	30-6-65	30-8-66	--do--
	Balhari	Jhun	30-8-66	24-5-67	Due to change of Border
	Jhun	Mithi	24-5-67	1-1-68	Police every six months.
	Digri	Lines	29-7-65	5-10-65	Due to change of Border
9. H.C. 700	Lines	Umerkot	4-10-65	3-1-66	Police every six months.
	Umerkot	Chelhar	3-1-66	18-9-66	Emergency.
	Chelbar	Chachro	18-9-66	21-11-66	--do--
	Chachro	C.I.A.	21-11-66	19-7-67	Administrative grounds.
10. H.C. 585	Jamesabad	Chachro	16-11-66	16-11-67	--do--
	Chachro	Khensar	16-11-67	1-1-68	Due to change of Border
	Willayat H. Shah				Police every six months.

11.	H.C. 771	Mohd. Munir, Naukot	C.I.A.	23-12-64	7-6-66	Administrative grounds.
		C.I.A.	Taluka	7-6-66	6-8-66	—do—
		Taluka	Bahrano	6-8-66	6-2-68	Affected in the change of Border Police.
12.	H.C. 583	Crime	C.I.A.	15-8-63	17-10-65	Administrative grounds.
		Br.				
13.	H.C. 576	Tar Ahmed	Gadro	23-10-67	1-1-68	Affected due to change of Border Police every six months.
		Muhammad Anwar				
14.	H.C. 568	Shadiipalli	Town	1-3-65	16-5-67	Administrative grounds.
		Rahim Bakhsh				
15.	H.C. 558	D.I.B.	Crime Br.	1-12-54	13-7-65	3 years.
		Montuddin	N' Parkar	13-7-65	-2-68	On complaints.
16.	H.C. 552	Town	Lines	26-9-65	10-8-66	Administrative grounds.
		Ghulam Mustafa				

17. H.C. 539	Mithi	Jamesabad	24-9-65	6-11-66	—do—
Mohd Ihsan	Jamesabad	Mirwah	6-11-66	16-11-67	—do—
18. H.C. 530	Town	C.I.A.	25-1-55	6-9-65	3 years.
Noor Muhammad	C.I.A.	Digri	6-9-65	3-5-66	Administrative grounds.
	Digri	Kunri	3-5-66	21-11-66	—do—
	Kunri	Lines	21-11-66	16-8-68	—do—
19. H.C. 596	Lines	Mithi	19-9-65	2-10-67	—do—
Abdul Rashid					
20. H.C. 595	Samaro	Chachro	8-10-65	9-9-66	Due to change of Border
Mohd Shafi	Chachro	Tar Ahmed	8-9-66	16-5-67	Police by every six months.
	Tar Ahmed	Chelhar	16-5-67	5-8-67	Administrative grounds.
21. H.C. 598	D.I.B.	Pros. Br.	25-5-62	20-7-65	3 Years.
Ghafoor Bakhsh					

22.	H.C. 564 Abdul Rashid Baig	Crime Br.	Sheet Br.	31-5-62	16-8-65	3 Years.
23.	H.C. 600 Mahtab Khan	Sheet Br.	Accounts Br.	16-8-65	16-10-66	On return from leave.
		Town	Chachro	20-2-66	1-11-65	Administrative grounds.
		Chachro	Chelhar	1-11-66	16-11-66	--do--
		Chelhar	Lines	16-11-66	18-9-67	On complaints.
24.	H.C. 691 Lalumal	Naukot	Jhudo	28-5-66	29-12-67	On return from long leave.
25.	H.C. 692 Misri Khan	Chachro	Islamkot	17-3-65	29-10-67	Administrative grounds.
26.	H.C. 677 Saindad	Jamesabad	Diplo	11-7-66	20-10-66	--do--
		Diplo	Town	20-10-66	23-10-66	On return from long leave.

27.	H.C. 673	Digri	Lines	3-10-65	11-3-66	For Tear Gas Course at Sihala.
	Muhammad Siddique					
		Lines	D.I.B.	11-3-66	5-7-66	After completion of the course.
		D.I.B.	Chachro	5-7-66	21-1-67	Administrative grounds.
28.	H.C. 662	Lines	Town	7-11-65	9-3-67	--do--
	Khalil-ur-Rehman					
29.	H.C. 747	Gadro	Soofi	25-2-62	9-7-65	--do--
	Muhammad Alam	Soofi	Gadro	6-7-65	6-3-67	--do--
		Gadro	Tando Jan	6-3-67	18-11-67	Due to change of Border Police.
		T.J. Mohd	Mohd			
			Tar Ahmed	18-11-67	2-2-68	Administrative grounds.
30.	H.C. 748	Diplo	Nabisar	18-10-65	24-9-66	--do--
	Nabi Bakhsh	Nabisar	Vijuto	24-9-66	29-1-67	--do--
		Vijuto	Lines	29-1-67	1-9-67	On complaints.

31.	H.C. 744	Kunri	Jamesabad	1-3-65	8-8-65	Administrative grounds.
	Altaf Hussain Shah	Jamesabad	Behrano	8-8-65	30-3-67	—do—
		Behrano	Nagarparkar	30-3-67	1-1-68	Due to change of Border Police.
32.	733 HC Jindo Khan.	Tar Ahmed.	Chelhar.	16-1-64	12-12-65	Emergency.
		Chelhar,	Jamesabad.	12-12-65	15-2-68	Administrative grounds.
		Jamesabad.	Kaloi.	15-2-66	14.11-66	—do—
33.	722 HC Muhammad Yaqoob.	Haro.	Jamesabad.	15-6-64	6-9-66	Administrative grounds.
		Jamesabad.	Tando Jan Mohd.	6-9-65	28-5-67	—do—
		T.J. Mohd :	Haro.	28-5-67	12-2-68	On return from long leave.
34.	HC 113 Ghulam Qadir.	Town Lines.	Lines.	9-2-64	18-8-65	Administrative grounds.
		Lines.	Haro	18-8-65	1-8-66	—do—

Harp...	Nagarparkar.	1-8-66	27-5-67	Due to change of Border Police by 6 months.
	Nagarprkar Adhigam.	27-5-67	31-7-67	Administrative grounds.
	Behrano.	31-7-67	19-1-68	Due to change of Border Police by 6 months.
35.	HC 111 Mamaz Diplo.	Mithi.	3-11-65	Administrative grounds.
	Khan.	Jhangro.	26-1-66	Due to change of Border Police by 6 months.
36.	HC 101 Muhsimmad Sameeh.	Pros : Branch Tigri.	29-2-64	Administrative grounds.
		Digri.	15-6-66	—do—
37.	HC 97 Shaabit Khan.	Town.	28-7-66	Emergency.
		CIA	5-12-65	Administrative grounds.
		Danodhandal.	18-9-66	Compulsory retirement from 1-3-67.
		Danodhandal. T. J. Mohd :	15-2-67	On reinstatement in appeal.
		T. J. Mohd.	15-2-67	On reinstatement in appeal.
		Jhun.	23-8-67	On compassionate grounds.
		Jhun.	23-8-67	On compassionate grounds.
		Lines.	28-11-67	On compassionate grounds.

38.	HC 87 Muhammad Usman.	DIB Digri.	Digri Town.	31-5-65 29-4-66	29-4-66 5-12-66	Administrative grounds. —do—
39.	HC 82 Muhammad Hassan.	Pros ; Branch Diplo		22-8-64	1-3-66	Administrative grounds.
40.	HC 66 Gul Hussain Shah	DIB	Lines.	11-4-66	8-10-67	On complaints.
41.	HC 59 Faiz Alam.	Chachro. Islamkot Umerkot	Islamkot Umerkot Shadipali	30-4-65 26-11-65 9-10-66	26-11-65 9-10-66 25-5-67	Emergency. Administrative grounds. On return from long leave.
42.	HC 134 Ghulam Muhammad.	Khan. Khan. Taluka Umerkot	Taluka. Taluka. Umerkot Khinsar	6-6-64 22-7-65 17-9-65 17-9-65	22-7-65 17-9-65 19-11-66	Administrative grounds. Emergency. Administrative grounds.

43.	HC 702 Nawaz Ali.	Gadro.	Kunri.	30-5-65	13-4-67	Due to change of Border Police.
44.	HC 708 Muhammad Usman.	Digri	Lines	3-10-64	20-12-65	Placed under suspension.
		Lines	Town	20-12-65	4-5-66	On reinstatement.
45.	HC 643 Muhammad Bashir.	Mithi	Town	20-10-65	3-10-66	Administrative grounds.
		Town.	Mithi	3-10-66	9-7-67	On return from long leave.
		Mithi	Lines	9-7-67	23-9-67	On complaints.
		Lines	Umerkot.	23-9-67	6-2-68	Administrative grounds.
46.	HC 644 Muhammad Akbar.	Jhudo.	Town	24-5-63	15-10-65	Emergency
		Town	Mithi	15-10-65	10-10-66	Administrative grounds.
47.	HC 639 Bano.	Jhudo.	Naukot.	1-1-66	16-12-67	Administrative grounds.

48. HC 632	Aizaz Baland	DIB	Nabisar	9-10-62	4-10-66	Over 3 years.
		Nabisar,	Pros : Branch	4-10-66	1-2-68	In place of HC Moinudin who has been transferred on complaints.
49. HC 624	Rashid Ahmad	Town	Kunri	11-8-65	19-3-66	Administrative grounds.
		Kunri,	Jhudo.	19-3-66	23-7-67	—do—
50. HC 645	Mahmood Khan.	T.J.Mohd.	Belhari.	20-12-64	28-2-67	On complaints.
		Belhari.	Dipto.	22-2-67	1-1-68	Due to change of Border Police.
51. HC 626	Muhammad Aslam	Umerkot.	Chachro.	7-10-65	16-11-65	Emergency.
		Chachro	Jhudo	16-11-65	7-12-65	Administrative grounds.
		Jhudo	Kupri	7-12-66	14-7-67	—do—

52. HC 745	Rasool Bakhsh.	Tar Ahmed	Town	25-12-65	27-10-66	—do—
		Town	Danodandal	27-10-66	21-1-67	—do—
		Danodandal	Town	21-1-67	1-12-67	—do—
53. HC 161	Fateh Khan	Jhudo	Umerkot.	11-9-63	1-7-65	—do—
		Umerkot	Islamkot	1-7-65	1-10-66	—do—
		Islamkot	Shadipali	1-10-66	29-8-67	—do—
54. HC 172	Amjad H. Shah	Hathrai	Nabisar.	12-10-63	19-6-65	—do—
		Nabisar.	Jhun	19-6-65	12-9-66	—do—
		Jhuap	Mithi.	12-9-66	16-5-67	Due to change of Border Police by every six months.
		Mithi	Jhun	16-5-67	1-1-68	—do—
55. HC 173	Abdul Rehman.	Digni	Umerkot	8-12-64	31-1-67	Administrative grounds.

	Umerkot	Reader to DSP Desert.	31-1-67	8-2-68	--do--
56.	HC 684 Amir Khan Behrano	Adhigam	11-4-67	1-1-68	Due to change of Border Police by every 6 months.
57.	HC 520 Lal Bakhsh G.N. Shah	Samaro.	25-7-67	30-1-68	Administrative grounds.
58.	HC 763 Wazir Mohd. Soofi	Samaro	6-3-67	1-2-8	--do--
59.	HC 439 Wazir Mohd. Dhanodandal	Traffic	15-5-67	24-10-67	--do--
60.	HC 30 Talib Hussain. Nagarparkar.	Haro.	16-6-67	1-1-68	Due to Change of Border Police.
61.	HC 342 Sahib Khan Mirwah Shah	Khan. Mirwah	7-10-65 27-4-66	27-4-66 16-7-67	Administrative grounds. --do--
62.	HC 270 Usman.	Lines	25-9-63	18-4-66	--do--
63.	HC 247 Nisar Ahmed. Tar Ahmed	Town Tar Ahmed Chachro	23-1-65 6-10-66	6-10-66 1-6-67	--do-- Due to change of Border Police.

64.	HC 808	Mehrab Khan.	Jamesabad	Jhudo	2-5-65	6-11-66	Administrative grounds.
			Jhudo	Narkst	6-13-66	28-12-66	--do--
			Nankot	Khan.	28-12-66	26-11-67	On complaints.
65.	HC 803	Muhammad Soomar.	Jhun	Nabioat.	28-6-64	16-1-66	Administrative grounds.
			Nabrar	Jhangro	16-8-66	6-3-67	--do--
			Jhangro	Mithi	6-3-67	1-1-68	Due to Change of Border Politics.
66.	HC 738	Abdul Latif.	Jamesabad	Reader to DSP	17-10-65	6-6-66	
				Desert	6-6-66	8-2-68	On complaints.
67.	HC. 773	Khan Muhammad	Lines	Mithi.	26-5-66	22-8-66	Administrative grounds.
			Mithi	Town	22-8-65	9-11-66	--do--
			Town	N' Parkar	9-11-66	21-12-66	--do--
			Nagarparkar	Harob	21-12-66	31-3-67	--do--

	Haro	N. Parkar	31-3-67	1-1-68	Due to change of Border Police.
68.	H.C. 764 Gul Mohd. Jamesabad	Mithi	12-2-65	28-8-66	Administrative grounds.
	Mithi	Nabisar.	28-8-66	27-5-67	--do--
	Nabisar	Chotal	27-3-67	7-8-67	--do--
69.	H.C. 509 Kabiruddin Lines	Jamesabad	11-3-61	1-8-65	3 years.
	Jamesabad	Gadro	1-8-65	11-9-66	Administrative grounds.
	Gadro	Chachro	11-9-66	6-3-67	Due to change of Border Police.
	Chachro	Lines	6-3-67	2-12-67	Due to suspension.
70.	H.C. 768 Murid Khan. Umerkot	Lines	11-5-64	2-11-65	Emergency.
	Lines	Hathrai	2-11-65	16-3-67	Administrative grounds.
71.	H.C. 24 Muhammad Said. Lines	Town	15-5-63	24-4-66	3 years.
72.	H.C. 765 Miandad Umerkot	Digri	6-1-64	14-3-66	Administrative grounds.

73.	H.C. 732 Ali Mohd.	Khensar	Adhigam	12-1-65	29-8-65	--do--
		Adhigam	Jhudo	29-8-65	16-11-65	Emergencies.
		Jhudo	Town	16-11-65	11-12-66	Administrative grounds.
		Town	Digri	11-12-66	15-2-67	--do--
74.	H.C. 661 Mohd. Hafiz Shah	DJB	Digri	6-8-63	8-7-66	3 years
75.	H.C. 109 Fazal Illahi	Kunri	Umerkot	2-1-63	22-1-66	3 years
76.	H.C. 727 Makhani	Soofi	Chachro	17-1-65	20-9-65	Emergency.
		Chachro	Samaro	20-9-65	22-9-66	Administrative grounds.
77.	H.C. 710 Muhammad	Belhari	Khan	10-3-64	14-9-66	Administrative grounds.
		Khan	Hathrai	14-9-66	29-10-67	--do--
78.	H.C. 713 Allah Ditta	Adhigam	Khensar	28-6-64	17-8-65	--do--
		Khensar	Akri	17-8-66	7-6-66	--do--
		Akri	Lines	7-6-66	25-4-67	On complaints.

79.	H.C. 762 Shadaman Khan.	Chakral Jhangro.	Jhangro.	6-1-66	29-10-66	Administrative grounds.
		Jhangro.	Mithi	29-10-66	18-8-67	On return from Leave.
80.	H.C. 62 Suhman Jan.	Lines	Jhudo	2-8-65	17-10-67	On compassionate grounds.
81.	H.C. 645 Muhammad Khalifq.	Jhudo	CIA	3-7-64	3-5-66	Administrative grounds.
		CIA	Lines	3-5-66	6-5-67	—do—
82.	H.C. 749 Imam Bakhat.	Lines	Hathrai	20-7-65	20-9-65	Emergency.
83.	H.C. 696 Sanaullah.	Chachro	Dhoronaro	27-6-65	21-9-66	Administrative grounds.
84.	H.C. 721 Shahmir	Tar Ahmed	Belhari	24-12-64	7-8-65	Administrative grounds.
		Belhari	Shadipali	7-8-65	9-11-65	Emergency.
85.	H.C. 631 Khizar Muhammad	Lines	Mithi	13-3-65	6-7-67	On complaints.
86.	H.C. 529 Zafaryab	Lines.	Adhigam	10-9-65	20-4-66	Administrative grounds.
87.	H.C. 93 Alim Din	Town	Adhigam	23-3-63	20-4-66	3 years.
		Adhigam	Belirano	20-4-66	30-12-66	—do—

88.	H.C. 522 Nisar Ahmed	Town	Jhudo	23-1-65	18-3-66	—do—
		Jhudo	Lines	18-3-66	2-9-65	—do—
89.	H.C. 293 Khuda Yar	Town	Shadipali	10-2-65	10-1-66	—do—
90.	H.C. 582 Abbas Ali Shah.	Town	Diplo	21-9-65	22-6-66	—do—
91.	H.C. 706 Wali Mohd.	Taluqa	Jhudo	17-9-65	24-4-66	—do—
		Jhudo	Bahrano	24-4-66	16-7-66	—do—
92.	H.C. 636 Mohd. Hussain	Jamesabad	Chotal	19-12-63	17-7-66	—do—
93.	H.C. 125 Hussain Bakhsh.	Jamesabad	Belhari	8-8-65	1-9-66	—do—
94.	H.C. 130 Jam Khan	Dhanodandal	Samaro	7-5-65	18-6-66	—do—
95.	H.C. 152 Saleh Mohammad	Nabisar	Khensar	23-3-65	5-9-66	—do—

96. H.C. 190 Ghulam Mustafa	Shadipali	Islamkot	19-4-64	19-9-66	--do--
97. H.C. 711 Abdul Aziz Lines	Khensar	Khensar	16-6-65	1-2-66	--do--
	Khensar	Ghulam Nabi Shah	1-2-66	6-9-66	--do--
98. H.C. 738 Khair Muhammad	Mitthi	Chotal	29-3-65	22-1-66	--do--
	Chotal	CIA	22-1-66	1-7-66	On complaints.
99. H.C. 82 Muhammad Yousaf.	Pros : Branch	Diplo	18-9-61	4-8-65	3 years.
100. H.C. 149 Mohsammad Alam.	Dhoronaro	Hathrai	11-5-64	5-8-66	Administrative grounds.

PROVINCIAL ASSEMBLY OF WEST PAKISTAN

SEVENTH SESSION OF THE SECOND PROVINCIAL ASSEMBLY OF WEST PAKISTAN

Friday, the 3rd May, 1968.

جمعته المبارک - ۳ صفر المظفر ۱۳۸۸ھ

The Assembly met at the Assembly Chamber, Lahore at 8-00 a.m. of the clock. Mr. Speaker, Chaudhri Muhammad Anwar, in the Chair.

Recitation from the Holy Qur'an by Qari Ali Hussain Siddiqi (Qari of the Assembly) and its translation.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۗ
 وَكَسَيِّبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيُرِيدُ لَهُم مِّن تَفْصِيلِ مَا أَكْفَرُوا لَكُمْ
 هَذَا بِشِدَّةِ يَدِهِ وَكَوَسْطِ اللَّهِ الرَّزَاقِ يُغْنِيكَ اللَّهُ مِمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
 بَعْدَ مَا يَشَاءُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ حَيْثُ يُعِينُهُ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ
 مِن مَّ بَعْدَ مَا تَسْتَلِظُونَ أَوْ يَنْسِفُ سُرْحَمَتَهُمْ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۗ وَمِن آيَاتِهِ
 خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِن دَابَّاتٍ فِيهِمَا مِثْرٌ وَآيَةٌ لَهُ وَهُوَ عَلَى
 جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۗ

پ ۲۵ - س ۲۲ - ع ۴۴ - آیات ۲۵ تا ۲۹

اور وہی (اللہ ہی) تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے قصور معاف کر دیتا ہے۔ اور تم لوگ جو ایمان لائے اور اپنے کام کرتے رہے ان کی دعا قبول کرتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے لئے عذاب شدید ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کیلئے رزق میں فراخی کر دیتا تو وہ زمین میں فنا کرنے لگے۔ لیکن وہ مقدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ بلاشبہ وہ اپنے بندوں سے پوری طرح خبردار ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے۔ اور وہی تو ہے جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد مینہ برساتا ہے اور اپنی رحمت کی بارش دودھ تک پھیلا دیتا ہے۔ وہی کارساز اور سنساز اور مجدد بنا ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانداروں کا جو اس نے اس میں پھیلا رکھے ہیں اور جب چاہے ان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔

وصاعیلنا الا بسلا

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker : The Question Hour. Chaudhri Muhammad Idrees.

**PAYMENT OF FEE TO PUBLIC PROSECUTORS AND GOVERNMENT PLEADERS
IN HYDERABAD DIVISION**

***10021. Chaudhri Mohammad Idrees :** Will the Minister for Law and Parliamentary Affairs be pleased to state the amount paid as fee to the Public Prosecutors and Government Pleaders including A.P.Ps in each District in Hyderabad Division during the year 1966-67 for pleading (i) criminal cases and (ii) other cases instituted by or against the State ?

Minister for Law and Parliamentary Affairs (Mr. A.B. Akhund) : The requisite information is given in the tabulated statement at Annexure enclosed.

ANNEXURE

STATEMENT SHOWING THE FEE PAID TO THE PUBLIC PROSECUTORS AND GOVERNMENT PLEADERS INCLUDING ASSISTANT PUBLIC PROSECUTORS IN EACH DISTRICT IN HYDERABAD DIVISION DURING THE YEAR 1966-67

Serial No.	Name of district	Fees paid in Criminal cases	Fee paid in other cases instituted by or against the State
		Rs.	Rs.
1	Hyderabad	66,878.25	5,328.25
2	Tharparkar at Mirpurkhas ..	37,103.49	1,890.98
3	Thatta	14,522.50	—
4	Dadu	32,255.00	756.99
5	Sanghar	17,789.04	303.04
	Total ..	1,68,548.28	8,279.27

چودھری محمد نواز - کیا وزیر موصوف یہ ارشاد فرمائیں گے کہ محکمہ قانون کے زیر غور ایسی کوئی تجویز ہے کہ ان پبلک پراسیکیوٹروں کی اسامیوں کو مستقل کر دیا جائے۔

وزیر قانون - جناب والا - اس کے متعلق ایک سوال بھی پوچھا گیا

ہے اور جب آئندہ باری پر اس سوال کا جواب دیا جائے گا تو اس سلسلے میں مفصل اطلاع اس معزز ایوان کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔

پاپو محمد رفیق - کیا وزیر موصوف مجھے بتائیں گے کہ باقی ضلعوں کے مقابلہ میں حیدرآباد میں زیادہ فیس کیوں لیتے ہیں۔

وزیر قانون - وجہ یہ ہے کہ حیدرآباد ڈویژن میں ہیڈ کوارٹر بہت ہیں ، دفتر بہت ہیں اور بہت سی کورٹس بھی ہیں۔ آبادی زیادہ ہے cases بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس لئے خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔

چودھری محمد نواز - کیا وزیر موصوف یہ فرمائیں گے۔ کہ یہ جو فیسوں کا تعین جیسا کہ حیدرآباد ریجن میں کیا گیا ہے۔ کیا اس معیار پر سابقہ پنجاب ، سابقہ فرنٹیر میں فیسوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حیدرآباد ریجن میں کیا گیا ہے۔

وزیر قانون - حیدرآباد ریجن میں جو Public Prosecutors and Govt Pleaders, Assistant Public Prosecutors and Assistant Government Pleaders ہیں یہ ن کی fees میں ان کے لیے fixed سکیل ہیں جو بہت عرصہ سے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہی دیکھے جا رہے ہیں۔

چودھری محمد نواز - جناب والا - میرا مقصد یہ تھا کہ آپ جب گورنمنٹ cases میں کسی Lawyer کو engage کرتے ہیں یا گورنمنٹ پلیڈر کو engage کرتے ہیں۔ تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ آپ اس کو extra payment مقدمہ کی نوعیت کے حساب سے کرتے ہیں۔ تو اصل میں میرا مقصد یہ تھا کہ وہ جو fee ہے جو آپ حیدرآباد ریجن میں دیتے ہیں۔ کیا اسی طرح سابقہ پنجاب اور سابقہ سندھ ، فرنٹیر میں بھی دی جاتی ہیں۔

وزیر قانون - جناب والا - وہاں پر یہ سسٹم تھا۔ جو وہاں اب بھی چلا آ رہا ہے۔ وہ یہ تھا کہ Public Prosecutor ماہانہ سو روپیہ یا اس کے لک بھگ office expenses اس کے علاوہ criminal کام کے لیے

جتنے بھی وہ cases کرے تو تیس روپے روزانہ کے حساب سے ملتے ہیں۔ اور Assistant Public Prosecutor کو تنخواہ ملتی ہے۔ جس روز وہ حکومت کا کام کرتا ہے اسے پچیس روپے روزانہ کے حساب سے ملتے ہیں۔ civil cases میں زیادہ تر decree میں جو عدالت کی طرف memo of cost بن جاتی ہے وہ دیا جاتا ہے۔ سابقہ پنجاب میں جو سسٹم پہلے تھا۔ وہی چلا آ رہا ہے اس کے علاوہ فرنٹیر میں بھی یہی ہے۔ Public Prosecutor and Assistant Public Prosecutor are paid a fixed salary per month and for civil cases they are paid separately.

مسٹر حمزہ - کیا وزیر قانون مجھے بتائیں گے کہ انہوں نے چودھری محمد نواز کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا کیا ہے کہ سرکاری وکلاء کی فیسوں کا معیار سابقہ صوبہ پنجاب اور سابقہ صوبہ سندھ اور فرنٹیر میں بالکل مختلف ہے۔ کیا آپ ایک ہی معیار مقرر کرنے کے لئے تیار ہیں اگر آپ تیار ہیں تو کب تک اور یہ بھی بتائیں کہ اتنا عرصہ گذر جانے کے باوجود اب یہ صورت حال کیوں ہے؟

وزیر قانون - جناب والا - جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے ممبر صاحب نے اس کے لئے ایک علیحدہ سوال کیا ہے۔ میں نے اس سوال کا جواب ممبر صاحب کو دے دیا ہے۔ اس کا جواب میں مفصل دے دوں گا لیکن اس وقت میں یہ عرض کروں گا کہ - - - -

مسٹر سپیکر - اخوند صاحب وہ جو سوال ہوگا وہ تو گورنمنٹ پلیڈرز کا ایک cadre بنانے کے لئے ہوگا۔ - - - - اور یہ سوال ان کے معاوضہ کے متعلق ہے۔

Minister of Law : This also amounts to that whether there is going to be unification of service of Public Prosecutors in the various integrating units. This amounts to the same thing. In any case the Government is considering a scheme for bringing the Public Prosecutors of the various regions, particularly those who are working in the former Punjab and Frontier Provinces on par with other services. That is to say that they should be given a fixed scale of pay, increment, leave, pension and other benefits of Government service. That is under consideration and very soon I think that will be finalised.

RESUMED LAND

***10021. Chaudhri Muhammad Idrees :** Will the Minister for Land Reforms be pleased to state the area of land out of that resumed under land reforms which remain unallotted in each District of the Province on 15th September, 1967 ?

Parliamentary Secretary (Malik Muhammad Muzaffar Khan) : Information available at Headquarters in respect of all districts has been incorporated in a statement, a copy of which is laid on the table.*

چودھری محمد ادریس - جناب والا - یہ 4,51,261 ایکڑ اراضی جو ابھی تک undisposed پڑی ہے - میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں - آپ کب تک اس کو dispose of کر دیں گے - اور اب تک یہ کیوں نہیں dispose of ہوئی ؟

پارلیمنٹری سیکریٹری - اس زمین کا زیادہ رقبہ حیدرآباد ڈویژن میں ہے اور اس کی قیمت جو پہلے مقرر کی گئی تھی 20 روپے فی یونٹ تھی جس کی وجہ سے وہ رقبہ زیادہ رہ گیا ہے - اور اب وہاں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کا جلد انتظام کیا جائے ۔

مسٹر حمزہ - اس انقلابی حکومت کے زرین کارناموں میں سے ایک کارنامہ زرعی اصلاحات کا تھا - کیا جناب پارلیمنٹری سیکریٹری یہ بتائیں گے کہ ان زرعی اصلاحات کے نفاذ کی رفتار جو ان اعداد و شمار سے ظاہر ہے گورنمنٹ اس سے مطمئن ہے ؟

پارلیمنٹری سیکریٹری - میرے خیال میں آپ کو علم ہے کہ جو کچھ اس سلسلے میں ہوا ہے اتنا کچھ اس سے پہلے کوئی حکومت نہیں کر سکی - جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے - اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی زمین الاٹ ہو چکی ہے - اور بہت تھوڑی زمین باقی رہ گئی ہے اور وہ زمین ایسی رہ گئی ہے جو بالکل بے کار ہے -

مسٹر حمزہ - پارلیمنٹری سیکریٹری صاحب نے جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ بہت تھوڑی اراضی ہے - اگر 4,51,261 ایکڑ اراضی بہت تھوڑی ہے

*Please see Appendix I at the end.

زیادہ اراضی آپ کس کو کہتے ہیں ؟
 پارلیمنٹری سیکریٹری - میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ زمینی
 وہ ہیں جن کی قیمت پہلے زیادہ مقرر کی گئی تھی - اب لینڈ کمیشن نے اس
 کا فیصلہ کر کے - - - - -

مسٹر حمزہ - کیا پارلیمنٹری سیکریٹری صاحب یہ بیان فرمائیں گے کہ
 لینڈ کمیشن نے یہ فیصلہ کب کیا ہے تاکہ میں جائزہ لے سکوں کہ
 فیصلہ کب ہوا - اور اب تک اس پر عمل درآمد ہوا ہے یا کہ نہیں ؟

پارلیمنٹری سیکریٹری - جناب والا - یہ فیصلہ جب
 land reform ہوا تھا اس وقت ہوا تھا -

مسٹر حمزہ - جناب پارلیمنٹری سیکریٹری صاحب نے بتایا ہے کہ
 دو سال کا عرصہ گذر گیا ہے - کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ اتنا لمبا عرصہ
 گذر جانے کے بعد ۳۵۱۲۶۱ ایکڑ رقبہ ابھی تک کیوں بقایا ہے - اس وقت
 مغربی پاکستان میں لکھو کسا افراد زمین کو ترستے ہیں اور حکومت سے
 ہمیشہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان کو سرکاری اراضیات دی جائیں -

Mr. Speaker : This question has already been answered.

CONFISCATION OF RESUMED LAND

*10023. Chaudhri Muhammad Idrees : Will the Minister for Land Reforms be pleased to state the area of the resumed land under land reforms which was allotted to the tenants but was subsequently confiscated for non-payment of instalments ?

Parliamentary Secretary (Malik Muhammad Muzaffar Khan) : 89,726 acres.

Name of the District	Area allotted to tenant but was subsequently confiscated for non-payment of instalments (Acres)
RAWALPINDI DIVISION	
1. Rawalpindi
2. Campbellpur	.. 4,393
3. Gujrat	.. 4
4. Jhelum	.. 2
Total	.. 4399

QUETTA DIVISION		(Acres)
1. Quetta	..	—
2. Loralai	..	—
Total

BAHAWALPUR DIVISION		
1. Bahawalpur	..	12
2. Bahawalnagar	..	963
3. Rahimyar Khan	..	654
Total	..	1,629

KHAIRPUR DIVISION		
1. Larkana	..	602
2. Nawabshah	..	343
3. Jacobabad	..	8,144
4. Sukkur	..	2,053
5. Khairpur	..	160
Total	..	11,302

D.I. KHAN DIVISION		
1. D. I. Khan	..	7,112
2. Bannu	..	—
Total	..	7,112

MULTAN DIVISION		
1. Multan	..	498
2. Sahiwal	..	215
3. Dera Ghazi Khan	..	7,561
4. Muzaffargarh	..	1,217
Total	..	9,491

HYDERABAD DIVISION		
1. Sanghar	..	14,279
2. Dadu	..	86
3. Tharparkar	..	16,198
4. Thatta	..	4,360
5. Hyderabad	..	15,112
Total	..	50,035

LAHORE DIVISION		
1. Lahore	..	—
2. Gujranwala	..	—
3. Sialkot	..	—
4. Sheikhupura	..	39
Total	..	39

SARGODHA DIVISION		(Acres)
1. Mianwali	..	2,451
2. Sargodha	..	395
3. Jhang	..	2,338
4. Lyallpur	..	58
	Total	.. 5,242
<hr/>		
PESHAWAR DIVISION		
1. Kohat	..	53
2. Abbottabad	..	369
3. Mardan	..	45
4. Peshawar	..	10
	Total	.. 477
<hr/>		
KARACHI DIVISION		
1. Karachi	..	—
2. Lasbella	..	—
	GRAND TOTAL	.. 89,726

APPOINTMENT OF LAW GRADUATE ASSISTANTS AS ADDITIONAL PUBLIC PROSECUTORS

***10102. Mr. Hamza :** Will the Minister for Law and Parliamentary Affairs be pleased to state :—

(a) whether the Law Graduate Assistants working in the Law Department of the Provincial Civil Secretariat and its attached offices are eligible for appointment as Additional Public Prosecutors ;

(b) if answer to (a) above be in the negative, whether Government intend to make the said Assistants eligible for appointment as Additional Public Prosecutors ?

Minister for Law and Parliamentary Affairs (Mr. A.B. Akhund): (a) Yes. (b) The question does not arise.

CLASS I AND CLASS II OFFICERS UNDER THE ADMINISTRATIVE CONTROL OF LAW DEPARTMENT RETIRED AND GRANTED EXTENSIONS IN SERVICE

***10248. Mr. Hamza :** Will the Minister for Law and Parliamentary Affairs be pleased to state the names and designations of Class I and Class II Officers under the administrative control of the Law Department who were (i) retired and (ii) granted extension in service from time to time after attaining the age of retirement from 1st January 1963 to 31st December 1967, along with reasons for granting extension each time ?

Minister for Law and Parliamentary Affairs (Mr. A.B. Akhund) : There

are no Class I or Class II Officers under the administrative control of the Law Department. As such, the answer to parts (a) and (b) of the question is Nil.

**CLASS I AND II OFFICERS UNDER THE ADMINISTRATIVE
CONTROL OF THE LAND AND WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT RETIRED
AND GRANTED EXTENSIONS IN SERVICE**

***10249. Mr. Hamza:** Will the Parliamentary Secretary, Land and Water Development be pleased to state the names and designations of Class I and Class II Officers under the administrative control of the Land and Water Development Department, who were (i) retired and (ii) granted extension in service from time to time after attaining the age of retirement from 1st January 1963 to 31st December 1967, alongwith reasons for granting extension each time ?

Parliamentary Secretary (Mian Ghulam Muhammad Ahmad Khan Maneka): (i) No Class I and II Officers of this Department has retired. (ii) None of the Class I and II Officers has been granted extension in service (after attaining the age of retirement) from 1st January 1963 to 31st December 1967.

مسٹر حمزہ - جناب پارلیمنٹری سیکریٹری صاحب نے فرمایا ہے کہ یکم جنوری ۶۳ سے ۳۱ دسمبر ۶۷ تک Land and Water Development Department کے افسران کو نہ تو ملازمت میں توسیع دی گئی ہے اور نہ ہی کوئی ریٹائر ہوا ہے۔ کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ آیا انہوں نے جواب دیتے وقت تمام ریکارڈ کو ملاحظہ فرما لیا تھا؟

Minister of Law : Yes Sir, it is quite correct.

***۱۰۳۲۰۔ حاجی سردار عطا محمد -** کیا وزیر اصلاحات اراضی ازراہ کرم بیان فرمائیں گے۔

(الف) آیا یہ امر واقعہ ہے کہ ضلع تھرپارکر کے تعلقہ نگر پارکے رکن بنیادی جمہوریت، قیصر سنگھ کے لڑکے ٹھاکر تھانجی کی والدہ حال ہی میں کچھ زرعی زمین چھوڑ کر مر گئی ہے۔

(ب) آیا یہ امر واقعہ ہے کہ متذکرہ رکن بنیادی جمہوریت اس سے پیشتر ہی ۳۶۰۰۰ یونٹ زمین کا مالک ہے اس لئے وہ اپنی آنجہانی ماں کے ورثے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہی ہو تو کیا متذکرہ اراضی زرعی اصلاحات کی رو سے حکومت کے قبضہ میں لی گئی ہے۔ اگر نہیں لی گئی تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔

(ج) ان اشخاص کے نام کیا ہیں جو کہ متوفیہ کی اراضی پر کاشت کاری کرتے ہیں اور حکومت کو اس کا مالیہ ادا کرتے ہیں ؟
پارلیمنٹری سیکریٹری (ملک محمد مظفر خان) - (الف) جی ہاں -

(ب) (اول) جی ہاں وہ کسی اراضی کا وارث نہیں ہو سکتا - اگرچہ اس کے پاس صرف ۲۲۱ ، ۲۲ یونٹ ہیں -

(دوم) اپنی ۲۳۹-۲۴۱ ایکڑ ملکیت میں سے اس کی مرحوم والدہ نے اپنی زندگی ہی میں ۲۷-۲۳۲۹ ایکڑ فروخت کر دی تھی - بقایا رقبہ اراضی کے حصول کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے -

(سوم) سوال ہی پیدا نہیں ہوتا -

(ج) یہ سمجھا گیا ہے کہ ٹھاکر تھانجی نے اپنی متوفی والدہ کے چھوڑے ہوئے رقبہ پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور زیر بحث اراضی پر اس کے ناجائز قبضے کی مدت کے لئے اس سے لینڈ کمیشن کی ہدایت کے مطابق تمزیری کرایہ وصول کیا جائے گا -

مسٹر حمزہ - سوال کے آخری حصہ کے جواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹھاکر تھانجی نے اس زمین پر ناجائز طور پر قبضہ کیا ہوا ہے - حاجی صاحب نے یہ دریافت کیا تھا کہ ان لوگوں کے نام بتائے جائیں جو اس زمین کو کاشت کرتے ہیں اور مالیہ ادا کرتے ہیں - آپ درست جواب دیں -

پارلیمنٹری سیکریٹری - اس زمین پر اس کے لڑکے کا قبضہ ہے - جب اس کی والدہ کی وفات ہوئی تو ایل - سی فارم نمبر ۲۱ اور ۲۲ مانگے گئے تھے - مگر اس نے یہ فارم داخل نہیں کئے جب کہ اوروں نے داخل کر دیئے تھے - اس کے پاس پہلے بھی کچھ رقبہ موجود تھا - اس کے بعد ڈپٹی لینڈ کمشنر نے اس کو نوٹس دیے لیکن اس نے پھر بھی ایل - سی فارم داخل نہیں کیا - اب جو عوضانہ وہ لے رہا ہے اس کو دینا پڑے گا -

خواجہ محمد صفدر - اس لڑکے کی والدہ کب فوت ہوئی تھی ؟
پارلیمنٹری سیکریٹری - یہ تو نہیں پوچھا گیا تھا -

خواجہ محمد صفدر - لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہئے تھی -
پارلیمنٹری سیکریٹری - اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ زمین اس کے
قبضہ میں دو سال سے ہے مگر اس نے ایل - سی فارم داخل نہیں کیا -

مسٹر حمزہ - اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹھاکر تھانجی کی والدہ کو
فوت ہوئے دو سال گذر گئے ہیں - لیکن لینڈ کمشنر نے حتیٰ فیصلہ کیوں
نہیں کیا - یا اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرایا گیا ؟

پارلیمنٹری سیکریٹری - لینڈ کمشنر نے نوٹس دیا تھا لیکن اس نے
ایل - سی فارم داخل نہیں کئے اس لئے اب مزید کارروائی شروع کی
گئی ہے -

خواجہ محمد صفدر - یہ نوٹس کب دیا گیا تھا ؟

پارلیمنٹری سیکریٹری - میں نہیں کہہ سکتا -

خواجہ محمد صفدر - آپ یہ بتائیں کہ سوال کا نوٹس کس تاریخ
کو دیا گیا تھا ؟

مسٹر سپیکر - وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تاریخ نہیں بتا سکتا -

مسٹر حمزہ - کیا ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ لینڈ کمشنر
بالکل نا اہل ہے اور پارلیمنٹری سیکریٹری صاحب نا تجربہ کار ہیں ؟

پارلیمنٹری سیکریٹری - خدا آپ کا ما تجربہ کسی کو نہ دے -

Mr. Speaker : Disallowed.

ATTESTATION OF MUTATION No. 72 IN CHAK No. 4, GAJANI

*10347. Sahibzada Noor Hassan : Will the Minister for Land Reforms
be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that mutation No. 72 in Chak No. 4, Gajiani was attested by the Revenue Officer concerned,—vide No. 47-57;

(b) whether it is a fact that the said mutation was reviewed after a period of one and a half years due to the fact that it was against the provisions of Martial Law Regulation No. 64 ;

(c) if answer to (a) and (b) above be in the affirmative, the action taken against the said Revenue Officer?

Parliamentary Secretary (Malik Muhammad Muzaffar Khan): (a) Yes.
(b) Yes.

(c) No action has been taken against the Revenue Officer concerned since he is no longer in service.

• سٹر حمزہ - کیا پارلیمنٹری سیکریٹری صاحب بتائیں گے کہ انتقال جس کا ذکر سوال میں کیا گیا ہے وہ کس سال میں درج کیا گیا تھا - اور افسر مال کب ریٹائر ہوا تھا ؟

پارلیمنٹری سیکریٹری - تین سال ہو چکے ہیں -

خواجہ محمد صفدر - انتقال کب ہوا تھا ؟

پارلیمنٹری سیکریٹری - ان کی موجودگی میں ہوا تھا -

خواجہ محمد صفدر - یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کی موجودگی میں انتقال درج ہوا تھا - لیکن آپ یہ بتائیں کہ کس تاریخ کو درج ہوا تھا ؟

پارلیمنٹری سیکریٹری - تاریخ معلوم نہیں -

Mr. Speaker : This supplementary question is very pertinent and arises out of this answer. The Parliamentary Secretary should have been furnished with this information.

ملک صاحب جب انتقال کی تصدیق ہوئی تو اس کی نظرثانی بھی ہوئی تھی - نیز ان کو ریٹائر ہوئے تین سال ہو گئے ہیں - تو آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ انتقال کس روز یا کس تاریخ کو تصدیق کیا گیا تھا -

پارلیمنٹری سیکریٹری - تاریخ کے متعلق تو پوچھا نہیں گیا تھا - البتہ میں اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ دفعہ ۲۰ (۲) کے تحت جب کوئی

زمین فروخت ہوتی ہے تو . . . ایکڑ کا رقبہ اکٹھا فروخت ہو سکتا ہے اس کے ٹکڑے نہیں کر سکتے ۔

مسٹر سپیکر ۔ کیا آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ انتقال کب ہوا اور نظرثانی کب کی گئی تھی ؟

Minister for Law : This is given in the question—

“whether it is a fact that the said mutation was reviewed after a period of one and a half year.”

Mr. Speaker : If we have the date of the passing of the review, we can come to the date of the attestation of the mutation.

پارلیمنٹری سیکریٹری ۔ یہ تاریخ میں پوچھ کر بتا دوں گا ۔

خان اجون خان جلدون ۔ اگر کوئی ریونیو آفیسر دوران ملازمت میں کوئی ریونیو کی غلطی کرے اور پھر ریٹائر ہو جائے تو کیا ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی ؟

پارلیمنٹری سیکریٹری ۔ ہم پتہ کر رہے ہیں اگر زندہ ہوا تو اس کے خلاف ضرور کارروائی کی جائے گی ۔
(تہقہہ)

چودھری محمد سرور خان ۔ کیا پارلیمنٹری سیکریٹری صاحب کو پتہ ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم ملازمت کے دوران کوئی جرم کرے تو اس کے ریٹائرمنٹ کے ایک سال کے اندر اس کے خلاف ضابطہ کی کارروائی کی جا سکتی ہے لیکن اگر اس معاملہ میں ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی ؟

مسٹر سپیکر ۔ آپ کا مطلب محکمانہ کارروائی سے ہے یا فوجداری کارروائی سے ؟

چودھری محمد سرور خان ۔ محکمانہ کارروائی سے ؟

پارلیمنٹری سیکریٹری ۔ جناب اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ

اس کی کارروائی ڈپٹی لینڈ کمشنر کے حوالے کر دی گئی ہے کہ وہ اس کی انکوائری کریں -

مسٹر حمزہ - جناب سپیکر - آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تاریخ دریافت کی ہے وہ اس سوال سے قطعی متعلق تھی جس کا جواب جناب پارلیمنٹری سیکریٹری صاحب نہیں دے سکے - مجھے اس سے یہ اندازہ لگانا تھا کہ آیا حکومت نے اس معاملہ میں مناسب دلچسپی لی ہے، یا نہیں اور بروقت فیصلہ کیا ہے یا نہیں - اس لئے میں آپ سے التجا کروں گا کہ یہ سوال اگلی باری تک ملتوی کر دیا جائے اور ساتھ ہی میں یہ بھی التجا کروں گا کہ کیا یہ مناسب نہیں ہے اور کیا آپ حکومت کو یہ سفارش نہیں کر سکتے کہ حکومت وزراء اور پارلیمنٹری سیکریٹری صاحبان کی تربیت کا اہتمام کرے -

مسٹر سپیکر - میرا خیال ہے کہ میں ممبران کی تربیت کے لئے provision کر سکتا ہوں لیکن پارلیمنٹری سیکریٹریوں کے لیے سفارش نہیں کر سکتا -

LAND RESUMED IN D. G. KHAN DISTRICT

*10381. Sardar Manzur Ahmed Khan Qaisrani : Will the Minister for Land Reforms be pleased to state:—

(a) the total acreage of land resumed in D. G. Khan District under the Land Reforms of 1968;

(b) the total amount so far paid to the concerned Zamindars as compensation in lieu of the surrendered land alongwith the compensation amounts yet to be paid and the names of Zamindars to whom the said payments are yet to be made ;

(c) total acreage of land, out of that mentioned in (a) above which has been given to the tenants ?

Parliamentary Secretary (Malik Muhammad Muzaffar Khan):

	Acres
(a) (i) Proprietary	563,135
(ii) State	.. 25,890
Total .	.. 5,89,025

(b) (i) Rs. 1,00,69,762.00

(ii) Nil

(iii) Does not arise.

(c) (i) Proprietary

(ii) State

.. 105,456

.. 2,281

Total

.. 107,737

سردار منظور احمد خان قیصرانی - کیا پارلیمنٹری سیکریٹری صاحب فرمائیں گے کہ تقریباً ۸۲ لاکھ ۸۲ ہزار ایکڑ رقبہ جو اس وقت تک تقسیم نہیں ہوا اور مزارعین کو نہیں دیا گیا اس کی کیا وجوہات ہیں؟

پارلیمنٹری سیکریٹری - مزارعین کو جو زمین دی جا چکی ہے اس کا ٹوٹل ایک لاکھ ۷ ہزار ۷۳۷ ایکڑ ہے اور بذریعہ نیلام جو زمین دی گئی ہے اس کا ٹوٹل ۲۰ ہزار چار سو ۱۱ - ایکڑ ہے اور جو ویسٹ پاکستان گورنمنٹ نے زمین لی ہے اس کا ٹوٹل ایک لاکھ ۷۷ ہزار ۲۷۰ ایکڑ ہے - جو زمین واپڈا کو دی گئی ہے وہ ۲ ہزار ۵۶۲ - ایکڑ ہے - بقایا زمین تقریباً ۲ لاکھ ایکڑ ہے -

سردار منظور احمد خان قیصرانی - جناب میں نے تفصیل نہیں پوچھی تھی ، انہوں نے تفصیل بتائی ہے کہ دو تین لاکھ ایکڑ زمین ایسے دی گئی ہے - میں نے یہ پوچھا تھا کہ ۸۲ لاکھ ۸۲ ہزار ایکڑ زمین کا رقبہ مزارعین کو کیوں نہیں دیا گیا اس کی وجوہات کیا ہیں؟

پارلیمنٹری سیکریٹری - جناب جو sitting کاشتکار ہیں ان سب کا رقبہ اس میں دیا گیا ہے اور دو لاکھ کے قریب وہ رقبہ ہے جس کے متعلق سردار صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ لیڈی سر جمال خان کی وصیت کا جھگڑا پڑا ہوا ہے ، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اور کچھ رقبہ ایسا تھا کہ وہاں نہریں آنے والی تھیں جس کی وجہ سے اس کا فیصلہ نہ ہو سکا . پچھلے مہینے منسٹر صاحب دورے پر تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے حکم دیا ہے کہ اس رقبہ کو حاصل کیا جائے -

مسٹر حمزہ - جناب سپیکر - جو پارلیمنٹری سیکریٹری صاحب نے
جواب دیا ہے کیا وہ اس سے مطمئن ہیں ؟

MILLS AND FACTORIES ESTABLISHED IN DE EXCLUDED AREA OF
D. G. KHAN.

*10390. **Sardar Manzur Ahmed Khan Qaisrani** : Will the Parliamentary Secretary Planning and Development be pleased to state:—

(a) the date on which de-Excluded Area of Dera Ghazi Khan District was added in the said District ;

(b) the number of Mills and Factories established so far by the Government in the said area for economic development of the people of the said area ;

(c) in case no Mill or Factory has been established whether there is any scheme under the consideration of the Government to establish any factory in the said area during the current Plan period;

(d) whether there is any scheme under the consideration of the Government for the betterment of economic conditions and providing employment to the people of the said area?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan): (a) De-excluded area of Dera Ghazi Khan District was added to the said district on the 13th September, 1961.

(b) Nil.

(c) During the current Plan period provision has been made for the establishment of a large number of new industries in West Pakistan within the frame-work of the current Industrial Investment Schedule. Preference is given to the proposals received for the establishment of units in the under-developed areas of the province. The proposals, in any case, are submitted to the Financing Agencies, I. D. B. P. and PICIC, who are competent to sanction industrial units which are provided in the Industrial Investment Schedule and the broad frame-work of the Government policies.

(d) The WPIDC are proposing to submit to Government a survey scheme to investigate if local deposit of lime stone gypsum and clay in D. G. Khan could be utilised as raw material in an industrial unit of an economic size. The preliminary surveys have revealed the existence of large deposits in that area. WPIDC is also planning to make industrial use of the wool available near Fort Monro in D. G. Khan District. In case these surveys prove successful the possibilities of their exploration in industries will be sympathetically considered by the Government.

WPSIC has also set up a carpet Centre at D. G. Khan to train workers in Carpet making.

سردار منظور احمد خاں قیصرانی - جناب والا - میرے معترم دوست پارلیمنٹری سیکریٹری صاحب کا جواب بہت امید افزا اور دل خوش کن ہے لیکن کیا آپ یہ فرما سکتے ہیں کہ ہلانگ اور سروے کے چکروں سے ہم کب تک نکل آئیں گے اور معکمہ کب تک رپورٹ پیش کرے گا ؟

پارلیمنٹری سیکریٹری - جناب والا - جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ڈیرہ غازی خاں کے ضلع کے لئے لوکل باڈیز یا باہر کے سرمایہ داروں کی طرف سے کوئی سکیم نہیں آئی ہے جس کو گورنمنٹ منظور کرتی اور اس پر عمل درآمد کیا جاتا لیکن ڈبلیو۔ پی۔ آئی۔ ڈی۔ سی کی طرف سے سروے کیا جا رہا ہے جس کی توقع ہے کہ عنقریب مکمل ہو جائے گا۔ بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر حکومت ڈیرہ غازی خاں کے معاملات میں کافی دلچسپی لے رہی ہے اور ریلوے لنک اور سڑکیں مکمل ہونے کے بعد حالات سازگار ہو جائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ پھر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ضرور سرمایہ لگانے کے رجحانات پیدا ہونگے۔ جہاں تک ڈبلیو۔ پی۔ آئی۔ ڈی۔ سی کا تعلق ہے جہاں تک ممکن ہو وہ ہر سکیم کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے گی اور اس پر ہمدردانہ غور کرے گی۔

DISPOSING LAND UNDER LAND REFORMS REGULATION IN MIANWALI DISTRICT

***10474. Khan Gul Hameed Khan :** Will the Minister for Land Reforms be pleased to state :—

(a) tehsil-wise area of land resumed under Land Reforms Regulation in Mianwali District ;

(b) the land, out of that mentioned in (a) above, as was (i) auctioned (ii) otherwise disposed of by Government upto 31st December, 1967 ;

(c) the tehsil-wise total amount paid by Government as compensation for the land resumed and the amount that remains payable ?

Parliamentary Secretary (Malik Muhammad Muzaffar Khan) :

		Acres
(a)	Mianwali	50,204
	Bhakkar	.. 34,896
	Isakhel	.. 28,183
	Total	.. 1,13,283
(b) (i)	Mianwali	.. 8,353
	Bhakkar	.. 7,405
	Isakhel	.. 5,312
	Total	.. 21,070
(ii)	Mianwali	.. 41,507
	Bhakkar	.. 13,892
	Isakhel	.. 21,486
	Total	.. 76,885
(c) (i)	Mianwali	Rs. 7,62,496.00
	Bhakkar	Rs. 2,92,169.00
	Isakhel	Rs. 10,71,095.46
	Total	Rs. 21,25,760.46
(ii)	Mianwali	Rs. —
	Bhakkar	Rs. 5,83,036.00
	Isakhel	*Rs. 7,03,772.00
	Total	Rs. 12,86,808.00

*being the amount of compensation for stud and livestock farms to be paid after the termination of the lease.

SCHEMES WITH PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

*10475. **Khan Gul Hameed Khan** : Will the Parliamentary Secretary Planning and Development be pleased to state :—

(a) the number of the schemes pending consideration and approval with the Planning and Development Department as on 31st December, 1967 ;

(b) the date of preparation of each scheme by the Department concerned and the date of its receipt in the Department ;

(c) approximate period by which each scheme is likely to be approved or disapproved ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : (a) There were 34 schemes pending in the Planning and Development Department, on 31st December, 1967.

(b) and (c) A statement containing the required information is placed on the table.*

خان اجون خان جدون - آپ نے فرمایا تھا کہ ۳۴ سکیمیں تھیں تو میں دریافت کرتا ہوں کہ وہ کون کون سی تھیں ؟

Parliamentary Secretary : Sir, the list has been placed on the table of the House.

بابو محمد رفیق - آپ بتا دیجئے تاکہ ہاؤس کو معلوم ہو جائے -

خان ملنگ خان - یہ درست ہے - بتا دیا جائے کہ کس کس ضلع میں اور کہاں کہاں یہ سکیمیں ہیں -

Mr. Speaker : If the House so desires, the Parliamentary Secretary may please read this statement.

Parliamentary Secretary : Sir, these are the schemes which were pending approval up to 31st December, 1967. These schemes are as under :

AGRICULTURE SECTOR

1. Installation of an Animal Feed Mill at the Agricultural Research Institute, Lyallpur.
2. Import and sale of lining pipes for achieving the targets of Tube-well installation in the private sector.
3. Agricultural Development in SCARP-II
4. Establishment of Assembly Plant for Zadrugar Tractors and Perkins Diesel Engine.
5. Thal Fruit Product Factory at Kallurkot.
6. Construction of A.D.C. Workshop at Hyderabad.
7. Scheme for the Establishment of Cold Storages in West Pakistan.
8. Scheme regarding construction of Storage Accommodation for Seed and Fertilizer in West Pakistan.
9. Sericulture Research Institute in West Pakistan.
10. Development of Sericulture Industries in West Pakistan.
11. Installation of a Rosin Factory at Sihala.
12. Additional Storage accommodation 1,80,000 tons in West Pakistan.
13. Construction of American type grain elevators to provide 1,20,000 tons storage capacity at Khanewal, Sukkur, Lyallpur, Okara, Sargodha and Nawabshah, etc.

*Please see Appendix II at the end.

WATER AND POWER SECTOR

14. Tube-wells in Dadu Canal Command.
15. Feasibility of Mirani Dam Project.
16. Construction of Makhi Dhand Drainage Scheme (Revised).
17. Remodelling Mona Drainage System.
18. Meclodganj Drainage Scheme (Revised).
19. Construction of Supro Bund in Rice Canal Division.
20. Regrading Channels of Farash Sub-Division NCC and providing APM outlets.

PHYSICAL PLANNING AND HOUSING SECTOR

21. Katcha Multan Road.

TRANSPORT AND COMMUNICATION SECTOR

22. Lahore-Lyallpur and Lahore-Sargodha—Khushab Highway (Revised PC-I).
23. Halani—Mehrabpur (Revised).

INDUSTRIES SECTOR

24. Service-cum-Production Centre for Textile Industries at Korangi, Karachi.
25. Light Engineering Service Centre Sukkur.
26. Small Industries Estate Sahiwal.
27. Small Industries Estate, Hyderabad.
28. Small Industries Estate, Sargodha.
29. Common Facility Centre for Power Loom Industry at Kasur, Lahore.
30. Woollen Spinnery Masehra.
31. Wood Working Centre, Peshawar.
32. Industrial Estate Sheikhpura.
33. Specific Investigation for and preparation of mineral dev: schemes for selected Minerals.
34. Specific Investigation for Dev : of Marble Industry.

چودھری محمد نواز - جناب پارلیمنٹری سیکریٹری صاحب نے ساهیوال کا ذکر فرمایا وہاں ہرکیا سماں انڈسٹریز اسٹیبلشمنٹ سکیم بن رہی ہے یا بن چکی ہے ؟

پارلیمنٹری سیکریٹری - میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ یہ سکیم ابھی pending ہے ۳۱-۱۲-۶۷ سے -

These are pending for approval as on 31st December, 1967.

SCHEMES APPROVED BY THE PLANNING AND DEVELOPMENT
DEPARTMENT

***10476. Khan Gul Ham'ed Khan :** Will the Parliamentary Secretary Planning and Development be pleased to state :—

(a) the number of schemes approved by the Planning and Development Department during the year 1967 alongwith (i) the details and estimated cost of each scheme and (ii) the date of receipt of each scheme in the Department and the date of its approval ;

(b) the number of schemes disapproved by the Department during the year 1967 alongwith (i) name and estimated cost of each such scheme (ii) the date of receipt of the scheme in the Department and (iii) the date of disapproval of the scheme and reasons for disapproval?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : (a) The Planning and Development Department, Government of West Pakistan, coordinates the work relating to processing of the development schemes through the Provincial Development working party which is headed by the Chairman, Planning and Development Board and includes Finance Secretary to Government of West Pakistan, and Administrative Secretary of Sponsoring Department as its members. All the schemes referred to the Planning and Development Department are placed before the Provincial Development Working Party whose decisions are then conveyed to the Sponsoring Departments for further necessary action. A Statement containing the required information about the schemes cleared by the Provincial Development Working Party during the year 1967 is placed before the House.*

(b) A Statement containing the required information about the schemes not approved by the Provincial Development Working Party during the year 1967 is placed before the House.*

خان گل حمید خان - جناب والا - یہ سٹیٹمنٹ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی - پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب اگر اس کو پڑھ دیں تو بہتر ہوگا -

Parliamentary Secretary : Sir, it is very clear; it may not be very good. I can supply another statement to the Member if he is not satisfied with that.

Mr. Speaker : Next question.

SCARP No. 5.

***11083. Chaudhri Muhammad Idrees :** Will the Parliamentary Secretary Planning and Development be pleased to state :—

(a) the proposed area of SCARP No. 5 and details thereof;

**Please see Appendix III at the end.*

(b) the estimated cost of the said project ;

(c) the likely date by which the said project will be taken in hand and the action taken thereon so far;

(d) the expenditure incurred on the preparation, planning and survey of the said project and the agency, firm or department to whom payment of the said expenditure has been made ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : (a) The SCARP No.5 covers the areas of Samundri, Tandlianwala, Murid Wala, Sundianwala, Rajiana, Kamalia, Bhusi, Pir Mahal, Sandehilam Wala and Shorkot.

(b) This project is estimated to cost Rs. 16.64 crores.

(c) The project has been sanctioned for implementation by the competent authority only in November, 1967, after necessary surveys and scrutiny of the scheme. It is scheduled to commence during the year 1969-70.

(d) The investigation, planning and survey of this project has been done as a part of a big scheme known as 'General investigation'. The information regarding expenditure on the survey and investigation of SCARP 5 only is, therefore, not available separately.

The payment for planning and survey of this project is to be made to M/S. TIPTON AND KALMBACH, INC OF U.S.A. who have prepared the project report in collaboration with the WAPDA staff.

خواجہ محمد صفدر - جنرل سکیم کی تیاری پر کیا خرچ آیا جس کا یہ ایک حصہ ہے؟ اپنے فرمایا ہے کہ علیحدہ علیحدہ نہیں بتایا جا سکتا -

Parliamentary Secretary : For the general scheme, it cannot be ascertained at this stage what expenditure will be made on it. However, I had tried my best to get an idea regarding the expenditure to be made on this. According to the PC I form, however, an estimated amount of Rs. 15.32 lacs is proposed to be spent on investigation, projects preparation etc. on Scarp 5.

سٹر حمزہ - جناب پارلیمنٹری سیکریٹری نے فرمایا ہے کہ سکارپ نمبر 5 کا سروے اور منصوبہ اپنے غیر ملکی فرم سے تیار کروایا ہے - آپ کا محکمہ منصوبہ بندی کیا یہ اپنے ملک کی کسی فرم اور انجینئرز سے یہ کام نہیں کروا سکتا تھا - اگر یہ کام اپنے ملک کی کسی فرم یا انجینئرز کو سونپا جا سکتا تھا تو پھر غیر ملکی فرم کو کیوں یہ کام سپرد کیا گیا اور اس طرح ہمارے ملک پر زرمبادلہ کا بوجھ کیوں ڈالا گیا -

پارلیمنٹری سیکریٹری - جناب والا - میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کام اس فرم نے واہڈا کے سٹاف سے مل کر کیا ہے۔ یہ بہت بڑا پراجیکٹ ہے جس میں غیر ملکی ماہرین کی امداد لازمی تھی۔ اسے مدنظر رکھتے ہوئے یہ کام کیا گیا ہے۔ جہاں تک فاضل اخراجات کا تعلق ہے میں نے کل حمزہ صاحب کی تقریر سنی ہے۔ حکومت پاکستان کی انتہائی کوشش ہے کہ جہاں تک ہو سکے زر مبادلہ کم سے کم صرف میں لایا جائے۔ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ موجودہ حکومت کسی صورت میں بھی زر مبادلہ کا صرف بے جا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔

میاں محمد شفیع - جناب والا - انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک غیر ملکی فرم کے ساتھ واہڈا نے مل کر یہ سکیم بنائی ہے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہیں ٹوٹل سکیم کا کتنے فیصد ادا کیا گیا ہے؟

پارلیمنٹری سیکریٹری - اس کا تعلق واہڈا سے ہے محکمہ پلاننگ سے نہیں ہے اس لئے اس کا جواب واہڈا سے حاصل کریں۔

مسٹر حمزہ - کیا جناب پارلیمنٹری سیکریٹری صاحب فرمائیں گے کہ پچھلے بارہ سال میں آپ نے غیر ملکی مشیروں کی وساطت سے کتنے ایسے منصوبے تیار کئے۔ کیا آپ بارہ سال میں بھی اپنے ملک کے انجینئرز کو یہ تربیت کیوں نہیں دے سکے کہ وہ اس قسم کے منصوبے بغیر بیرونی امداد کے خود تیار کر سکیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

پارلیمنٹری سیکریٹری - میں نے عرض کیا ہے کہ جس حد تک ممکن سمجھا جاتا ہے۔ غیر ملکی ماہرین کے بغیر کام چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب ان کی ضرورت نہ رہے تو بغیر کسی تاخیر کے انہیں فارغ کر دیا جاتا ہے۔ جہاں انتہائی ضروری ٹیکنیکل کام ہو صرف وہیں ان کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔

چودھری محمد ادیس - انہوں نے جواب میں فرمایا ہے کہ یہ ایک

بہت بڑی سکیم کا حصہ ہے۔ کیا وہ بتائیں گے کہ اس بڑی سکیم کے اور کون کون سے حصے ہیں ؟

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : This is a fresh question.

چودھری محمد ادریس - (d) کے جواب میں کہا گیا ہے۔

“....part of a big scheme....”

Parliamentary Secretary : This is a general investigation that is being carried out by experts of the WAPDA continuously. If you require all the survey proceedings you may put a fresh question and I will supply complete details.

میاں محمد شفیع - جناب والا۔ میرے ضمنی سوال کا جواب تسلی بخش نہیں دیا گیا۔ میں نے یہ پوچھا تھا کہ اس غیر ملکی فرم کو کتنی رقم دی گئی ہے۔

Mr. Speaker : The Member should give a fresh notice to the WAPDA.

مسٹر حمزہ - کیا جناب پارلیمنٹری سیکریٹری صاحب مجھے بتائیں گے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب اس سکیم کے لئے قرضہ لیا گیا تھا تو اس کی ایک شرط تھی کہ غیر ملکی ماہرین سے سروے کرایا جائیگا اور انہی سے منصوبہ تیار کرایا جائیگا ؟

Parliamentary Secretary : Not to the knowledge of this Department. If the Member requires any such information I may tell him that firstly it is out of the jurisdiction of the Provincial Government. If at all there is any information available he should put a question to the WAPDA.

LAND RESUMED BY LAND REFORMS COMMISSION IN VILLAGE
MEGA KADI, DISTRICT SHAHPUR

*11339. Chaudhri Muhammad Idrees : Will the Minister for Land Reforms be pleased to state :—

(a) the total area of Land resumed by the Land Reforms Commission under M.L.R. No. 64 in village Mega Kadi, Tehsil and District Shahpur alongwith the following information :—

- (i) the names of the landlords to whom the said land belonged,
- (ii) the total area sold out of the resumed land,

(iii) the names, parentage and addresses of the purchasers, and

(iv) the sale price and rate of sale in each case ;

(b) whether it is a fact that the said land was sold much below the reserve price ; if so, what was the minimum rate of sale ;

(c) whether it is a fact that one Mubarak Ali made an offer to purchase this land at the reserve price; if answer be in the affirmative, reasons for not selling this land to him ;

(d) whether it is a fact that another application to purchase this land at the reserve price was made by Saghir Ahmad and Muhammad Yusuf, etc.; if answer be in affirmative, reasons for not selling this land to them ;

(e) reasons for not putting the said land to public auction ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : (a) 2,923.282 acres.

(i) Malik Khizar Hayat Khan Tiwana.

(ii) to (iv) A statement is laid on the table.*

(b) No. In most cases the area was sold above the reserve price.

(c) Yes, But land in question could not be sold to Mubarak Ali at the reserve price by private treaty because the sale of resumed land by private treaty is not allowed as a general policy.

(d) No.

(e) The said land is being put to auction shortly.

چودھری محمد ادریس - جناب والا - میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ملک خضر حیات کی زمین میں سے اب تک کتنا رقبہ فروخت ہو چکا ہے۔ میں نے یہ اصل سوال میں بھی پوچھا تھا مگر انہوں نے بتایا نہیں۔

Mr. Speaker : Is that not given in the statement ?

چودھری محمد ادریس - وہ بہت لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ ہے - اگر وہ خود بتا دیں تو آسانی رہے گی -

Mr. Speaker : Has not the Member got the statement?

چودھری محمد ادریس - وہ کتنے ایکڑ ہے یہ بتا دیں - کتنا رقبہ تھا یا ہے اور کتنا آپ نے فروخت کر دیا ہے -

*Please see Appendix IV at the end.

پارلیمنٹری سیکریٹری - سارا رقبہ تو ۲۹۲۳۶۲۸۲ ایکڑ ہے۔
جس میں سے ۹۶۲ ایکڑ بقایا رہ گیا ہے۔ باقی تمام بک چکا ہے۔

خواجہ محمد صفدر - یہ زمین کس سال قبضے میں لی گئی تھی؟
پارلیمنٹری سیکریٹری - جب لینڈ ریفارمز ہوئیں۔

خواجہ محمد صفدر - نو سو کچھ ایکڑ رقبہ جو فروخت نہیں کیا
جا سکا اسے نو سال سے کون استعمال کر رہا ہے؟

پارلیمنٹری سیکریٹری - یہ زمین دریا کے کنارے کے اوپر ہے اور
بالکل بے کار زمین ہے۔ ہم نے کئی بار اسے نیلام کرنے کا اعلان کیا
ہے۔ ۲۶ لائیں بنائی ہیں۔ جن میں سے صرف تین نکل سکی ہیں۔ باقی نہیں
نکل سکیں۔

چودھری محمد ادیس - یہ جواب میں خود تسلیم کرتے ہیں کہ
ایک شخص یہ ساری زمین مقررہ قیمت پر لینے کے لئے درخواست دیتا ہے مگر
یہ اسے زمین دینے کو تیار نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ کوئی بولی دینے کے لیے
نہیں آتا۔ جواب کے سیریل نمبر ۳۱، ۳۲، ۳۳ ملاحظہ فرمائیں۔

پارلیمنٹری سیکریٹری - ان کے ساتھ ۲۳ اور بھی لائیں تھیں۔

چودھری محمد ادیس - مجھے سوال تو پوچھ لینے دیں۔ ۳۱،
۳۲، ۳۳ انہوں نے فروخت کی ہیں۔ ملک خضر حیات کی اپنی لڑکی کو یہ
فروخت کی گئی ہیں اور مقررہ قیمت سے کم قیمت پر۔ جب ایک شخص
مقررہ قیمت سے زیادہ دینے کو تیار تھا تو آپ نے انہیں کم قیمت پر کیوں
فروخت کیا۔

پارلیمنٹری سیکریٹری - یہ وہی لائیں ہیں جو بیکار تھیں۔ انہیں
مقررہ قیمت سے کم پر فروخت کرنے کے لئے چیف لینڈ کمشنر سے منظوری
لی ہے۔ اس کے ساتھ ۲۳ لائیں پڑی ہوئی ہیں جنہیں کوئی نہیں لے رہا۔

مبارک علی کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ بولی دیں مگر وہ بولی میں شامل نہیں ہوا۔ جو زمین دریا کے کنارے پر ہے کوئی اس کے نزدیک بھی نہیں جا رہا۔ مبارک علی ساری زمین اکٹھی لینا چاہتا تھا۔ وہاں نیلام عام تھا مگر اس میں وہ نہیں آیا۔

چودھری محمد ادیس۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس لینڈ کے متعلق اس نے درخواست دی تھی کہ یہ آکشن گھر میں بیٹھ کر کیا گیا ہے اور اسے بتایا بھی نہیں گیا؟

پارلیمنٹری سیکریٹری۔ یہ میرے علم میں نہیں ہے۔

* ۱۱۴۸۰۔ چودھری محمد نواز۔ کیا پارلیمنٹری سیکریٹری ترقیات آب و اراضی از راہ کرم ۶۱۔ ۱۹۶۰ سے لے کر ۶۶۔ ۱۹۶۵ تک کی میعاد کے لئے سکارپ پروجیکٹوں کی سالانہ رپورٹوں کی نقل ایوان کی میز پر رکھیں گے۔

پارلیمنٹری سیکریٹری (میاں غلام محمد احمد خان مانیکا)۔ لینڈ اینڈ واٹر ڈویلپمنٹ بورڈ ۶۳۔ ۷۔ ۱ کو معرض وجود میں آیا۔ کچھ عرصہ قبل تک بورڈ صرف ایک پروجیکٹ (سکارپ نمبر ۱) کو چلانے کا ذمہ دار تھا۔

سکارپ نمبر کی کارکردگی کی رپورٹ برائے سال ۶۳۔ ۱۹۶۳ اور ۶۵۔ ۱۹۶۳ میں پیش کر دی گئی ہے۔*

چودھری محمد نواز۔ یہ سیرے پاس CARP-I کی سالانہ رپورٹ 1964 ہے۔ اس کے صفحہ 63 پر آپ نے یہ تحریر کیا ہوا ہے۔

"However, it was experienced that due to frequent mechanical defect, the servicing Sub-Division was unable to attend to all the defective tube-wells in time and thus many tube-wells remained shut down for a longer period."

But at page 14, it is stated :

"By far the largest stoppages were due to no demand by the water users."

میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے ٹھیک کون سی بات ہے۔ (قطع کلامیاں)

مسٹر سپیکر - مائیکا صاحب آپ پہلے سوال سن لیں اس کے بعد آپ جواب دیں۔

چودھری محمد نواز - جناب والا - رپورٹ کے صفحہ ۶۳ پر تحریر ہے کہ زیادہ ٹیوب ویلز due to mechanical defect یا کسی اور وجہ سے بند رہے۔ رپورٹ کے صفحہ ۱۳ پر فرماتے ہیں کہ ٹیوب ویلز کے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ زمینداروں کی اس کے لئے ڈیمانڈ نہیں تھی۔ میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہے؟ وزیر قانون - جناب والا - یہ progress report اتنی بڑی ہے اگر اس پر thesis لکھنا پڑے تو اتنے مختصر عرصہ میں اس کو explain نہیں کیا جا سکتا۔

چودھری محمد نواز - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب والا - وقفہ سوالات میں اس رپورٹ کے ساتھ مجھے دو تین اور statements بھی ملی ہیں۔ میں ان کو اس وقت پڑھ کر ضمنی سوال پوچھ سکتا ہوں تو جناب پارلیمنٹری سیکریٹری کے پاس ۲۰ دن سے سوال آیا ہوا ہے وہ اس کو کیوں نہیں پڑھ سکے؟

پارلیمنٹری سیکریٹری - جناب والا - میں اتنے مختصر عرصہ میں اس رپورٹ کو نہیں پڑھ سکتا۔

Mr. Speaker: The position is that in his question the Member only asked for the copies of the Annual Reports of the SCARP Projects, and those reports have been made available to him.

چودھری محمد نواز - حضور والا - رپورٹ اس لئے مانگی گئی تھی کہ اس میں جو غلطی تھی وہ آپ کے سامنے لائے جائیں۔

Mr. Speaker: The Member may now please put fresh questions on the basis of these reports.

LAND RESUMED UNDER MARTIAL LAW REGULATION NO.64 IN
QUETTA-KALAT DIVISIONS

*11604. **Babu Muhammad Rafiq:** Will the Minister for Land Reforms be pleased to state :—

(a) the total land resumed under Martial Law Regulation No. 64 in Quetta-Kalat Division ;

(b) the total amount paid to the Zamindars of Quetta-Kalat Divisions as compensation for the land resumed from them ;

(c) the amount collected on account of sale of the said resumed land as remains undistributed in each District of the said Divisions ?

Parliamentary Secretary (Malik Muhammad Muzaffar Khan) : (a) Nil.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

چودھری محمد نواز - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب والا - سکارپ نمبر ۱
کی کارکردگی کی رپورٹ کیا میں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں - تاکہ اس کو
دیکھ کر fresh question کر سکوں -

Mr. Speaker: Yes.

خواجہ محمد صفدر - جناب والا - کیا یہ کتاب ایوان کی میز پر
رکھی جائے گی ، ہمیں بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے - میں درخواست کروں
گا کہ اس کی اور کاپیاں منگوائی جائیں تاکہ اور ممبر صاحبان بھی اس کو
ملاحظہ فرما سکیں -

سٹرا سپیکر - مائیکا صاحب ممبر صاحبان یہ رپورٹ چاہتے ہیں اس
لئے آپ اور کاپیوں کا بندوبست کریں تاکہ ان کو ایوان میں تقسیم کیا جاسکے -
پارلیمنٹری سیکریٹری (میاں غلام محمد احمد خان مائیکا) - جناب والا
خواجہ صفدر صاحب کو اس کی کاپی دے دوں گا -

چودھری محمد نواز - جناب والا - اس رپورٹ کی سپلائی کم ہے
اور ڈیمانڈ زیادہ ہے -

Mr. Speaker: The Parliamentary Secretary may please supply ten copies to the Assembly Secretariat.

HEALTH EDUCATION CENTRES SCHEME

***11640 Kazi Muhammad Azam Abbasi :** Will the Parliamentary Secretary Planning and Development be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Provincial Development Working Party has disapproved "The Health Education Centres Scheme" submitted by the Health Department with a view to educating the people on health ;

(b) if answer to (a) be in the affirmative (i) reasons for its disapproval (ii) how the purpose for which the said scheme was prepared will now be achieved ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : (a) The correct name of the scheme is "Expansion of Health Education Services in West Pakistan". This was approved by the PDWP at its meeting held on 8th, 9th January, 1968, subject to its scrutiny by a Sub-Committee consisting of Additional Finance Secretary, Government of West Pakistan and Chief, Education and Health Sector, Planning and Development Department.

(b) In view of (a) above, this does not arise.

Kazi Muhammad Azam Abbasi : Sir, five months have passed when this scheme had been referred to the Sub-Committee; may I ask the Parliamentary Secretary whether this scheme has been scrutinized by the Sub-Committee or it is under scrutiny of the Committee ?

Parliamentary Secretary : It is still under the scrutiny of the Sub-Committee?

Kazi Muhammad Azam Abbasi : How long will the Committee take to scrutinize this scheme because five months have already passed ?

Parliamentary Secretary : Decisions have already been taken. If the Member desires I can inform him that the Sub-Committee is there just to see the minor things, but the major decisions have already been taken by the Provincial Development Working Party.

ADJOURNMENT MOTIONS

GOVT. INSTRUCTIONS TO CEMENT FACTORIES TO STOP SUPPLIES
TO PUBLIC FOR INDEFINITE PERIOD

Mr. Speaker : We will now take up the Adjournment Motions, and the first adjournment motion today is 37 by Malik Muhammad Akhtar, which was moved by him yesterday.

Minister of Law (Mr. Allah Bachayo Ghulam Ali Akhund) : Sir, I oppose this motion. It is not correct factually that the Government of West Pakistan have issued instructions to the cement factories to stop the supply of cement to the public. What has really happened is this, Sir, that East Pakistan was in need of cement and there were only two possibilities of procuring cement, either the cement from West Pakistan may be supplied or foreign exchange had to be sanctioned for this, so that they might import cement from other countries. While it was not in the interest of the country that foreign exchange should be wasted on this, it was thought proper to give them cement from the

factories in West Pakistan, and a quantity of about 2.09 lakh tons of cement had been shipped to East Pakistan by the end of April 1968. This has consequently reduced the supply to the public but it has not been altogether stopped. That is number one.

Number two is that there is no embargo put by the Government on the cement factories that they should not sell cement to the public in West Pakistan. The position will certainly improve in the next month and the supply will be augmented and there will be enough of cement available. This is only a temporary decision which had to be taken in the interest of the country. Therefore, factually it is not correct that Government have stopped the sale to the public, and it is also not correct that total stoppage is there, but there has been reduced supply to the public, and this action is taken in the interest of the country.

Therefore, I request the motion may be ruled out of order.

Mr. Speaker : That reduction in supply has not been done at the instance of the Government ?

Minister of Law : No Sir, Government has not taken any step to stop it. There was a meeting under the chairmanship of the Defence Minister of the Government of Pakistan where certain decisions were taken that supply of cement to East Pakistan may be augmented. The total production per month in West Pakistan is two lakh tons, and the public is being supplied, but in reduced quantities.

Malik Muhammad Akhtar : As a matter of fact, the statement made by the Minister is not based on facts. I will read only three or four lines from this Paper.

”مغربی پاکستان میں سیمنٹ کی کمیابی اور گرانے
غیر معمولی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اسکی وجہ یہ نہیں ہے کہ
سیمنٹ کی پیداوار میں کمی واقع ہو گئی ہے بلکہ اسکا جواز یہ
پیش کیا جاتا ہے کہ زیادہ تر پیداوار مشرقی پاکستان کی ضروریات
کے لئے مخصوص کر دی گئی ہے۔ یہ ضروریات لازماً پوری ہونی
چاہئیں لیکن مغربی پاکستان میں سیمنٹ کی رسد غیر معینہ عرصہ
تک معطل کر دینا کسی صورت میں بھی دانشمندانہ اقدام نہیں،
میں اس میں سے کچھ حصہ چھوڑ کر تحریک التوا سے متعلق
حصہ پڑھتا ہوں۔ کہ ”جبکہ موجودہ حالت میں یعنی مہینے
کے لئے یا دو مہینے کے لئے یا غیر معینہ عرصہ تک مقامی ضروریات
پوری کرنے سے نہ صرف یہ کہ صارفین کو پریشانی اور تکلیف

ہوتی ہے بلکہ ذخیرہ اندوزی کا رجحان بھی مضبوط ہوتا ہے۔“

Mr. Speaker : Will the Member please read the report wherein it has been mentioned that the Provincial Government has issued any direction or order ?

Minister for Law : It is not there in the whole report.

ملک محمد اختر - ”مغربی پاکستان کے بیشتر حصوں میں دسمبر سے مارچ تک بارشوں کا غیر معمولی سلسلہ جاری رہا - چنانچہ مکانات اور دوسری تعمیرات کافی متاثر ہوئیں۔“

Mr. Speaker : Does it mean order of the Provincial Government ?

Malik Muhammad Akhtar : I am coming to that, Sir.

”اب ان کی تعمیرات کا سلسلہ بحال ہوا تو مغربی پاکستان بھر کو سیمنٹ کی گرافی“

Mr. Speaker : As the facts have been denied by the Minister for Law and no case has been made out by the mover of this motion, the motion is against the facts. It is, therefore, ruled out of order.

—————

**MISBEHAVIOUR OF THREE TICKET-COLLECTORS WITH A LADY
PASSENGER AT BAHAWALPUR RLY. STATION**

Mr. Speaker : Next motion please.

Malik Muhammad Akhtar : I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely, three Ticket-Collectors at Bahawalpur Railway Station misbehaved with a lady passenger and forced her to unveil her face. The Railway authorities have failed to take action against the culprits. The news has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Minister for Law (Mr. Allah Bachayo Ghulam Ali Akhund) : I oppose it. The incident which is the subject matter of this motion is also now the subject matter of a criminal case. Sir, the Police have taken cognizance of the incident which took place on the 7th March and they are investigating. Therefore, I think, it will not be proper to discuss this motion.

Mr. Speaker : Who is the accused person in this case?

Minister for Law : The Railway employee. A case has been registered under Sections 120 and 121 of the Railway Act and under Section 354 PPC and the same is under investigation.

Malik Muhammad Akhtar : But there is negligence on the part of the Railway Authorities because they have not suspended him.

Mr. Speaker : Since the case is subjudice, the motion is ruled out of order.

DEMAND OF SEVEN MONTH'S FEES ETC. FROM ARAB STUDENTS BY THE
EXECUTIVE OF THE K.E. MEDICAL COLLEGE, LAHORE

Mr. Speaker : Next motion.

Malik Muhammad Akhtar : I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely, contrary to the instructions issued by the Provincial Governor, the Executive of the King Edward Medical College, Lahore, has demanded seven month's fees and other hostel charges from the Arab students whose parents are residents of area occupied by Israel, which has caused great resentment among the people of West Pakistan.

وزیر صحت (بیگم زاہدہ خلیق الزمان) - جناب والا - میں اس کی مخالفت کرتی ہوں۔ دراصل بات یہ تھی کہ ہم نے ان سے سات ماہ کی فیس مانگی ہیں۔ ہمارے ہاں اس قسم کا کوئی انتظام نہیں ہے کہ فیس کی ادائیگی کے بغیر لڑکے کالج میں رہیں اور خرچ برداشت کئے بغیر ہی ہوسٹل میں رہائش پذیر ہو سکیں۔ لیکن جوڑی گورنر صاحب کا حکم ملا ہم تب سے ہی ان کو معمول کے مطابق کھانا وغیرہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرکزی حکومت کے ذریعے ہی عرب ممالک کے طلباء ان اداروں میں داخلے لیتے ہیں۔ لیکن ہم نے تو بہر حال ان سے فیسوں کا مطالبہ کرنا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہاں کے ایڈمنسٹریٹرز نے ان کو سات ماہ کی فیس ادا کرنے کے لئے کہا تھا۔ لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکی ہوں۔ گورنر صاحب کا حکم پہنچتے ہی ہم ان کو باقاعدگی کے ساتھ کھانا وغیرہ دے رہے ہیں اور ان کو ہر قسم کی سہولت بھی فراہم کر رہے ہیں۔ انہیں نہ تو کسی نے کالج سے نکالا ہے اور نہ ہی ہوسٹل سے ان کو نکالا گیا ہے۔ وہ اسی طرح باقاعدگی سے وہاں رہ رہے ہیں اور جب کہ ہمارے پاکستانی طلباء کو اسی روپے ماہوار کا کھانا دیا جاتا ہے، ان کو ڈیڑھ سو روپے ماہوار کا کھانا دیا جاتا ہے اور یہ کہ انہیں کھانا بھی مفت ہی فراہم کرتے ہیں۔

ڈسٹر سپیکنگ - کیا گورنر صاحب نے ان کی فیسوں کے متعلق بھی کوئی احکام جاری کئے تھے -

وزیر صحت - فیسوں کے متعلق تو کوئی احکام نہیں تھے صرف کھانے وغیرہ کے لئے تھے کہ جب تک مرکزی حکومت سے بات چیت نہیں ہو چکتی اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان سے پیسے نہ لیں۔

ملک محمد اختر - جناب سپیکر - میں یہ دستاویز آپ کو پڑھ کر سنا تا ہوں۔

”کننگ ایڈورڈ میڈیکل میں تعلیم پانے والے عرب طلباء کے ایک وفد نے آج یہاں پر بتایا کہ کالج کی انتظامیہ حکومت کی رائے کے برعکس ابھی تک ان سے سات مہینے کی رہائش اور کالج کے دیگر اخراجات مانگ رہی ہے۔ ان تیس طلباء میں سے چھبیس طلباء ایسے علاقہ جات سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن پر گزشتہ برس جون میں اسرائیل نے جارحانہ حملہ کر کے غاصبانہ طور پر قبضہ کر لیا ہے، ان طلباء نے بتایا ہے کہ ان کے والدین اسرائیل کے زیر عتاب ہیں اور جن کے لئے موجودہ حالت میں یہ ممکن نہیں کہ وہ اخراجات کی ادائیگی کا انتظام کریں۔“

مسٹر سپیکر - آپ یہ فرمائیے کہ کیا اس حکم میں گورنر صاحب نے یہ تحریر کیا تھا کہ ان سے فیسیں وصول نہ کی جائیں۔

ملک محمد اختر -

”وفد نے افسوس کا اظہار کیا کہ اس صوبے کے تمام تعلیمی اداروں میں صوبائی گورنر محمد موسیٰ کی ہدایت پر عرب طلباء کو تمام اخراجات کی معافی دیدی گئی ہے۔ لیکن میڈیکل کالج کی انتظامیہ نے ابھی تک ان ہدایات پر عمل درآمد نہیں کیا اور ان سے یکدمشت ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا ہے جن کا ادا کرنا ان کے لئے ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے گورنر محمد موسیٰ اور صوبائی وزیر تعلیم محمد علی خان آف ہوتی سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ وفد نے بتایا ہے کہ اس وقت انہیں . . .“

Mr. Speaker: As the Press Report has not been correctly interpreted by the mover of this motion, the motion is against the established facts. It is ruled out of order.

TWELVE RURAL DISPENSARIES WITHOUT DOCTORS IN NAWABSHAH DISTRICT

Mr. Speaker: Next motion.

Malik Muhammad Akhtar: I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely, twelve rural dispensaries are without a doctor in Nawabshah District. The negligence of the health Department to appoint doctors have rendered the dispensaries useless. The serious patients have been exposed to the danger of death. The news has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

وزیر صحت (بیگم زاہدہ خلیق الزمان) - میں اس تحریک التوا کی مخالفت کرتی ہوں، اس تحریک التوا میں ملک اختر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نواب شاہ کی جو بارہ ڈسپنسریاں ہیں ان میں کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہیں۔ میں اس کی تردید کرتی ہوں اور آپ کی وساطت سے ان کی اطلاع کے لئے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ڈسپنسریاں ہیں اور ان میں جو ڈاکٹر تعینات کئے گئے ہیں، یہ سب ڈسٹرکٹ کونسل کے زیر اثر ہیں اور ان کا محکمہ صحت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر ڈاکٹر موجود ہیں۔

مسٹر سپیکر - آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈسپنسریاں آپ کے زیر اہتمام نہیں ہیں بلکہ یہ محکمہ بنیادی جمہوریت کے زیر اہتمام ہیں۔

وزیر صحت - جی ہاں۔ یہ بارہ ڈسپنسریاں ڈسٹرکٹ کونسل کی ہیں جس کے متعلق ملک اختر صاحب نے اپنی تحریک التوا پیش کی ہے۔

مسٹر سپیکر - تو پھر یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر آپ اس تحریک التوا کو فاضل وزیر بنیادی جمہوریت کے پاس بھجوا دیتیں۔

وزیر صحت - جناب والا - اس کے متعلق تو فاضل محرک کو علم ہونا چاہئے۔ وہ تو ویسے ہی اوٹ پٹانگ۔۔۔۔

Mr. Speaker: Please refer this adjournment motion to the Minister for Basic Democracies and we will take it up on Monday.

USE OF CONTAMINATED AND CHEMICALLY IMPURE WATER IN THE
LADY WELLINGTON HOSPITAL, LAHORE

Mr. Speaker: Next motion.

Malik Muhammad Akhtar: I ask for leave to make a motion for the ad-

jourment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and urgent public importance, namely. contaminated and chemically impure water is being used in the Lady Wellington Hospital, Lahore. The water is unsuitable for human consumption and for sterilization of instruments. The water spoils surgical instruments and patients' laundry. The negligence of the Hospital has exposed the life of the patients to the danger of death. The news has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

وزیر صحت (بیگم زاہدہ خلیق الزمان)۔ Opposed جناب والا۔ میں اس تحریک التوا کی مخالفت کرتی ہوں۔ انہوں نے لیڈی ولنگڈن ہسپتال کے پانی کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے اس کی تردید میں اس لئے کرتی ہوں کہ اسکا پانی مریضوں کی ضروریات کے لئے مضر نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ اس کا پانی قدرے بھاری ہے لیکن ہم نے اس پر جو تجربات کئے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مضر صحت نہیں ہے۔ البتہ اس سے اوزار پر زنگ لگ جاتا ہے۔ ہم نے اس کی کھدائی وغیرہ کروائی ہے جس کی وجہ سے اس کا پانی بہتر ہوتا جا رہا ہے اور امید ہے کہ انشا اللہ مزید اچھا ہو جائے گا۔ ہم نے دو نومبر ۱۹۶۶ء کو اس کا تجربہ کرایا تھا اور اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ انسانی استعمال کے قابل ہے لیکن اس کا پانی کچھ بھاری ہے جس کی وجہ سے اوزار پر زنگ لگ جاتا ہے لیکن اگر اس کو اہال کر اس کے مضر اثرات کو خارج کر دیا جائے تو اس طرح یہ پانی بہتر ہو جاتا ہے۔

سٹر سپیکر۔ کیا آپ کے پاس اس کے بارے میں پبلک انالسٹ کی رپورٹ موجود ہے۔

ملک محمد اختر۔ جناب والا۔ میرے پاس موجود ہے۔

سٹر سپیکر۔ بیگم صاحبہ یہ تو رپورٹ نہیں ہے یہ تو میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کی رپورٹ ہے۔

“Summary regarding construction of tube-well and reservoir in the Lady Wellington Hospital, Lahore.”

میں نے تو پبلک انالسٹ کی رپورٹ مانگی تھی۔ جنہوں نے کیمیائی طور پر پانی کا تجزیہ کیا ہے۔

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I produce it. This has not been contradicted and cannot be thrown out like that. It reads :

“According to the Hospital authorities, the water in the tube-well installed at the Hospital in August, 1966, was first tested by the Epidemiological Laboratories, West Pakistan, in September of that year. The analysis report declared the water to be fit for human consumption. But it was found that the water spoiled the surgical instruments and patients' laundry. The Hospital authorities then sent another sample to the Epidemiological Laboratory, and this time the report said that “contamination appeared to be due to dust, and the well needs thorough cleaning and chlorination.”

A report from the Provincial Public Analyst declared the water to be chemically unsuitable for human consumption.

The report was endorsed by the Epidemiological Laboratory, but a month later it contradicted itself and declared the water to be fit for drinking.

Mr. Speaker : I would like to see the report of the Public Analyst on the 7th when this adjournment motion will be taken up.

SUPPLY OF ATTA UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION ON
RATION DEPOTS AT LAHORE

Mr. Speaker : Next motion No. 46.

Malik Muhammad Akhtar : I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and urgent public importance, namely, the supply of Atta on Ration Depots at Lahore is unfit for human consumption. The inhabitants of Lahore and social organisations have protested against standard of Atta being supplied. The indifference of rationing department has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Mr. Speaker : Since the Minister for Food and Agriculture is not here, the motion will be taken up on the 7th.

FALL FROM A BUS AND CONSEQUENT DEATH OF A GIRL STUDENT
OF KHATOON-I-PAKISTAN GIRLS COLLEGE, KARACHI

Mr. Speaker : Next motion No. 48.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and of urgent public importance, namely, a girl student of Khatoon-e-Pakistan Girls College, Karachi, who had boarded a bus fell on the roadside, and the driver did not stop the bus and the girl expired due to injuries. The police did not register the case. The negligence of the police has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Minister for Law : Sir, as the Minister for Home is not here, this may be deferred for some other day.

Mr. Speaker : This motion will be taken up on the 7th May. Adjournment motions Nos. 51 and 55 will also be taken up on the 7th.

**COLLAPSE OF A VERANDAH OF A MIDDLE SCHOOL IN SARGODHA
RESULTING IN INJURIES TO 25 STUDENTS**

Mr. Speaker : Next motion. 59.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and of urgent public importance, namely, 25 students have been seriously injured due to collapse of verandah of a newly built building of a Middle School at Sargodha. Due to the negligence of the Municipal authorities, the building constructed is not up to the specification. The publication of the news has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Minister for Basic Democracies (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo): Opposed. Sir, the latest position is that the matter is subjudice as the Overseer of the Municipal Committee has been handed over to Police and a case is registered against him and the investigation is on. Besides the Municipal Engineer has also been suspended and an inquiry will be held against him as well.

Mr. Speaker : Does the Member press this motion in view of the statement of the Minister ?

Malik Muhammad Akhtar : I do not press Sir.

Mr. Speaker : The motion is not pressed.

**SCARCITY OF TEACHING STAFF, MEDICINES AND SURGICAL INSTRUMENTS
IN NISHTAR MEDICAL COLLEGE, MULTAN**

Mr. Speaker : Next motion No. 60.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and of urgent public importance, namely, it has been reported by an Inspection Team that in Nishtar Medical College Multan, there is not only scarcity of teaching staff but also that of medicines and surgical instruments, which has exposed the life of serious patient to the danger of death. The news has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

وزیر صحت (بیگم زاہدہ خلیق الزمان) - جناب والا - مجھے وقت دیا جائے۔ تاکہ میں پوری طرح سے ان کے اعتراض کا جواب دے سکوں۔

Mr. Speaker : We will take up this motion on the 8th May.

**DACOITY AND FIRING IN A LADIES' COMPARTMENT OF A PASSENGER
TRAIN IN THE SAHIWAL-LYALLPUR-WAZIRABAD SECTION**

Mr. Speaker : Next motion No. 61.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and of urgent public importance, namely, at Sahiwal-Lyallpur-Wazirabad Section, the dacoits invaded ladies compartment of a passenger train and fired. The passengers were harrassed and all ornaments of a marriage party which was travelling in the train were looted. There was no police escort with the train. When the matter was reported at Chak Jhumra police post, it was discovered that there was no constable in the post. The negligence of the police has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Minister for Law : Sir, this motion may also be taken up on the 7th as the Home Minister, to whom it pertains, is not here.

Mr. Speaker : We will take up this motion on the 7th May.

**DAMAGE CAUSED TO A MOSQUE IN MORI GATE, LAHORE DUE TO
FAILURE OF THE CORPORATION TO REPAIR THE
SURROUNDING DRAINS**

Mr. Speaker: Next motion No. 64.

Malik Muhammad Akhtar: Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and of urgent public importance, namely, a mosque situated in Mori Gate, Lahore, has been damaged as the Corporation failed to repair the drains surrounding the mosque. The inhabitants repeatedly requested the Corporation but the Corporation failed to take necessary action. The negligence of the Corporation has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Minister for Basic Democracies (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo): Sir, with your permission, I would like to place actual position before this House.

Sir, the construction of the mosque at present is in the form of a platform, i.e. a 'Tharra', 25 ft. long, 15 ft. wide and 13 ft. high. An inquiry from the people of the area has revealed that the construction of the mosque being old, its roof was dismantled by them some time during last Ramzan. Its walls have cracks. The Lahore Corporation, during its normal maintenance programme, prepared an estimate of Rs. 2980 for the construction of the drains and pavements in Kucha Kalu inside Mori Gate, and the work has since been completed. So Sir, actually there are no cracks now. Hence no damage has been caused to the walls of the mosque. The roof was removed by the local people themselves and the repairs of the drains, as I submitted, have already taken place.

So, factually and technically speaking this deserves to be ruled out of order. Firstly there is no damage and secondly the work has been completed. It is a matter which has no urgency and so it must be ruled out of order.

Malik Muhammad Akhtar (Lahore-II) : There are three points which I would like to raise in this House.

Firstly, Sir, the mosque has been really damaged and I have got a paper of the 15th March, 1968 showing the portions of the damaged mosque. And it was after this news that the Corporation machinery became mobile and they rectified the defects and I am not sure whether the mosque has been completed because the programme of the Corporation was also to rectify its drains and the statement of the Minister does not appear to be correct that the mosque has been reconstructed. With due apology I beg to make that statement.

Minister of B. D. and Local Government: For the information of the Member I may say that I never said that the mosque has been reconstructed.

Malik Muhammad Akhtar: I regret and I withdraw.

As a matter of fact there are certain things which should be brought to the notice of the Minister. Damage to this mosque has caused great resentment among the public of that area. It is in my constituency. I may say that it was only due to the political differences of the local B.D. Members that the Chairman of the Corporation has been negligently sitting over the files. I would humbly request the Minister to look into the date of the estimate and the execution of the work and he will feel that the people who have been installed in the Corporation are not only playing with the feelings of the people but they are also playing with their religious sentiments and the results may be drastic for all of us. I would request the Minister to call for the papers and go through all the papers and he will find.....

Mr. Speaker: With this assurance will the Member still press the motion?

Malik Muhammad Akhtar: Certainly Sir I will press because it is a religious matter.

Mr. Speaker: As the facts are denied by the Minister for Basic Democracies and no cogent evidence has been produced by the mover in support of his motion and as the motion is against established facts it is ruled out of order.

—————

**ATTACK ON THE CHIEF COMMERCIAL MANAGER, P.W.R. BY
A GROUP OF POLICEMEN AFTER THE COLLISION OF HIS CAR
WITH A POLICE VAN.**

Mr. Speaker: No: 66. Malik Muhammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar: Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the Chief Commercial Manager Pakistan Western Railway has been attacked by a group of Police personnel as his car collided with a Police Van. The Officer disclosed his identity while the police party attacked him and attempted to handcuff him. The failure of the Police to register the case has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Minister of Law (Mr. Allah Bachayo Ghulam Ali Akhund): This may be postponed as the Home Minister is not here.

Mr. Speaker: Postponed till the 7th.

PUBLICATION OF A PHOTO OF THE HOLY PROPHET IN AN AMERICAN
JOURNAL, THE SCIENCE DIGEST

Mr. Speaker: Next—69. Malik Muhammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar: Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and of urgent public importance, namely, an American Journal, 'Science Digest' published a photo of the Holy Prophet. The public of Lahore and students have strongly protested against this publication. The failure of the Government to take necessary action against the firm who have been selling this issue of the American Journal has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Minister of Law: This may kindly be postponed as it concerns the Minister for Information.

Mr. Speaker: Postponed for the 7th.

ENHANCEMENT IN THE ASSESSMENT OF URBAN IMMOVABLE PROPERTY
TAX IN RAWALPINDI

Mr. Speaker: Next—70. Malik Muhammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar: Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance namely the assessment of Urban Immovable Property Tax in Rawalpindi has been enhanced to a very great extent. The social workers and political organisations of Rawalpindi have made strong protests against the enhancement of the Urban Immovable Property Tax. The failure of the Government to rectify the illegal increase of assessment of the tax has perturbed the minds of the public.

Mr. Speaker: Deferred for the 7th.

ACUTE SHORTAGE OF WATER IN PAPOSHNAGAR, KARACHI

Mr. Speaker: Next—72. Malik Muhammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar: Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance namely, due to the approach of summer there is acute shortage of water in Paposhnagar. The inhabitants did not get drinking water for many days and the water supply system of Karachi has completely collapsed. The failure of the district authorities to make adequate arrangements for the supply of water has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Minister of B.D. and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo): Sir, I oppose it and would, with your permission, like to place facts before this House.

The bulk supply of water to Paposhnagar, Karachi, is made by the K.M.C through pipelines of four inches diameter. The internal distribution of water supply in Paposhnagar is with the Pakistan Refugees Rehabilitation Finance Corporation. The bulk water supply was regularly made by the K.M.C and internal distribution of water was made regularly by the Pakistan Refugee Rehabilitation Finance Corporation to the residents of the area. Some time ago the pressure of water of Paposhnagar Colony was too low as the colony is located at a high level. However, this is not a fact that no water was supplied to the residents of the Colony and the water supply system collapsed. This is the factual position. Water is being supplied. At times pressure may be low. But as my friend has said in his adjournment motion that they did not get water for many days and the water supply system of Karachi has completely collapsed, is not correct Mr. Speaker, Sir, the factual position has been laid before you.

Malik Muhammad Akhtar: Sir, this is a Karachi paper.

جناب سپیکر - میرے پاس کراچی کے اخبار ”جنگ“ اور ”مشرق“ ہیں۔ ان میں دیا گیا ہے۔

”اس وقت حالت یہ ہے کہ پورے شہر میں پانی کی قلت ہے۔ پاپوش نگر جیسے علاقہ میں جہاں کئی کئی دن پانی غائب رہتا ہے۔ اس کا ذکر تو مثال کے طور پر کیا گیا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ شہر میں ایسی بیسیوں بستیاں ہیں جو پانی سے عملاً محروم ہو کر رہ گئی ہیں۔ حکومت کا فرض ہے کہ زیادہ سے زیادہ وسائل مہیا کر کے کم سے کم وقت میں قلت آب کو دور کیا جائے۔ نیز ان کی مشکلات کو دور کیا جائے۔“

جناب سپیکر - یہ بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی تکالیف کو جلد از جلد دور کیا جائے۔

مسٹر سپیکر - یہ آپ نے کہاں سے لے لیا ہے کہ ”کئی کئی دن سے“۔

ملک محمد اختر - جناب سپیکر - اس میں دیا گیا ہے۔

مسٹر عبدالقیوم - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب والا - فاروقی صاحب پاپوش نگر میں رہتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا کہ وہ صحیح حالات سے آگاہ کریں۔

Mr. Speaker : Does Mr. Farooqi support Malik Akhtar or not?

مسٹر محمود اعظم فاروقی - جناب والا - ملک اختر صاحب کی بات بالکل صحیح ہے اور اخبارات کی خبریں بھی درست ہیں کہ پاپوش نگر میں پانی کی بے حد قلت ہے -

مسٹر سپیکر - کیا آپ کا مطلب ہے کہ وہاں پانی پہنچا ہی نہیں ؟

وزیر بلدیات (میاں محمد یاسین خان وٹو) - جناب والا - فاضل ممبر صاحب ایڈجورنمنٹ موشن کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں اور واقعاتی طور پر پھر ارشاد فرمائیں تو زیادہ مناسب ہوگا - میرے خیال میں تحریک التوا کے الفاظ کی طرف انہوں نے توجہ نہیں فرمائی ان کا کہنا یہ ہے :

"namely due to the approach of summer, there is acute shortage of water in Paposhnagar, Karachi. The inhabitants did not drink water for many days."

Mr. Speaker : But the acute shortage of water in Paposhnagar has also been mentioned in the motion.

Minister of Basic Democracies : I have stated about that. At times, the pressure of water is low there because the location of that colony which is comparatively higher. During the 24 hours the use of water in different areas varies and when the pressure of water supply is comparatively more in the low-lying areas, then pressure in the higher areas comes down, and maybe, that in the cause of supply pressure being low, there may be, during some period in the day, just a limited shortage for the time being. But we have to take the adjournment motion as it is. If the water supply has completely collapsed in Karachi, if the people did not take water for days, then the first man, I feel personally, to complain would have been the Member, who is now confirming what has been stated in the adjournment motion, and if he has been negligent, I cannot....

خواجہ محمد صفدر - وہ تو محترمہ بیگم صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں -

Minister of Basic Democracies : Kindly look to the wording of the adjournment motion.

خواجہ محمد صفدر - اور پارلیمنٹری سیکریٹری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں -

Mr. Speaker : Even if the people have water for drinking purposes and there is acute shortage of water in Paposhnagar, even then that is the responsibility of the Government.

Minister of Basic Democracies : I submit that there is no acute shortage. I have stated that during some period of the day the pressure may be a bit low as this colony is located at a high level, but that does not mean that shortage is there because whatever water supply is available to the city is being provided.

Sir in the case of first phase of the water supply of Karachi, the work has already started, and in the case of second phase, only day before yesterday the Economic Council of the Central Government has approved that scheme and we will be starting work on the second phase also. But the position, as it stands, is that the population of the city is increasing very fast and naturally during the summer as the pressure of population every year increases, there is bound to be some shortage. That can only be met after these first and second parts of the Second Phase are complete.

Now the position is that at present the position is not such as has been stated by the Member. People cannot live without water. He says people did not drink water for many days. My submission is that it is wrong. Secondly, he has stated that water supply system of Karachi has completely collapsed, which is also wrong. Nearly 30 lakhs of people are living in Karachi, and only the Member from that area has, if at all, come forward, he has now just confirmed Malik Akhtar. I would submit that the system has not completely collapsed ; it is working. Three million people are being supplied water everyday. Because of enormous population, there may be shortage of water here and there at times when the pressure is low, but the facts stated in the adjournment motion are not correct. So it should be ruled out of order.

Mr. Speaker : We have the direct evidence of Mr. Farooqi, who lives in that area that there is acute shortage of water. I would request the Minister to please look into this matter and try to remove this difficulty as soon as possible, and I would request the Member not to press this motion.

Malik Muhammad Akhtar : Not pressed Sir.

Minister of Basic Democracies : Although we are already supplying water, but with deference to your desire, I will again direct those people to take more interest in the matter.

**DEATH OF A POST OFFICE CLERK OF GUJRAT DUE TO THE NEGLIGENCE
OF THE MEDICAL OFFICER, GUJRAT**

Mr. Speaker : Next motion No. 77, of Malik Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Sir I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely, due to negligence of Medical Officer, Gujrat, a Clerk of Post Office, Gujrat, expired. The doctor failed to render medical aid to the deceased person when he came to the Hospital and he did not admit him. The patient expired on way back. The news has perturbed the mind of the public of West Pakistan.

وزیر صحت (بیگم زاہدہ خلیق الزمان) - جناب والا - مجھے اس

کے لئے وقت ملنا چاہئے اگر آپ اجازت دیں تو بہتر ہے۔

مسٹر سپیکر - بیگم صاحبہ یہ ایڈجورنمنٹ موشن خاصا پہلے دیا گیا تھا۔

وزیر صحت - جناب والا - اس کی انکوائری ہو رہی ہے جب وہ مکمل ہو جائے گی تو پھر اس کا جواب دے دیا جائے گا اور اس میں پھر کوئی زحمت نہیں ہوگی۔

مسٹر سپیکر - تو کیا ۷ تاریخ تک آپ کی انکوائری مکمل ہو کر رپورٹ آجائے گی؟

وزیر صحت - جی ہاں۔

Mr. Speaker : We will take up this adjournment motion on 7th.

NOTICE OF STRIKE BY 4,400 PATWARIS OF THE IRRIGATION DEPARTMENT

Mr. Speaker : Next motion No. 79 by Malik Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar: Sir I ask for leave to make a motion for adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely the patwaris of the Irrigation Department numbering 4400 have served a notice to go on strike unless their demands to increase pay are fulfilled. The authorities have shown indifference to the notice of strike, which has endangered the agricultural development and has perturbed the mind of the public of West Pakistan.

Minister of Law : Sir, in this connection I would request for time. It may be taken up on Monday or Tuesday.

Mr. Speaker : Let it be taken up on 6th then.

CONFINEMENT WITHOUT TRIAL OF MANY PERSONS IN MACHH CENTRAL JAIL, QUETTA DISTRICT

Mr. Speaker : Next motion No. 80.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely, many persons have been unlawfully confined without trial in Machh Central Jail in Quetta District. They are not being produced in any court of law. The news has perturbed the mind of the public of West Pakistan.

Minister for Jails (Malik Allah Yar Khan) : Sir, I oppose this motion. A similar motion was not admitted by you earlier.

Mr. Speaker : Does it refer to the Home Department or to the Jails Department—detention of a person under trial ?

Minister for Jails : It relates to the Home Department but in fact the news item, which appeared, pertains to my visit to the said jail.

Mr. Speaker : I think it is better that the Home Minister gives an answer to this adjournment motion.

Minister for Jails: If I may be allowed, Sir, I can answer and state a few facts about this statement.

Mr. Speaker : Alright.

وزیر جیل خانہ جات (ملک اللہ یار خان) - جناب والا - میں نے مجھ جیل کا جا کر معائنہ کیا تو ایسے cases میرے نوٹس میں لائے گئے جہاں بہت سے ایسے قیدی جیل میں رکھے گئے تھے جن کے مقدمات کی سماعت کافی عرصہ سے ہو رہی تھی اور ابھی تک ان کے مقدمات کا فیصلہ نہیں ہو پایا تھا۔ لیکن یہ کہنا کہ ان مقدمات کا فیصلہ دو تین سے سات سال کے عرصہ کے دوران بھی ہو سکا غلط ہے۔ ان میں جو cases فیصلہ طلب تھے وہ صرف ۳۸ تھے ان میں سے دو تین cases ایسے تھے جن کا فیصلہ تین سال سے نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی ۲۷ cases ایسے تھے جن کا فیصلہ کوئی ایک اور دو سال کے دوران نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن میں نے ڈی۔ ایم۔ مجھ اور کوئٹہ کو ہدایت کر دی ہے کہ ان مقدمات کا فیصلہ جلد سے جلد کر دیا جائے۔ میرے اس معائنہ کے بعد ان ۳۸ مقدمات میں سے ۸ مقدمات کا ۱۰-۱۵ دن ہی میں فیصلہ کر دیا گیا، باقی صرف ۳۰ مقدمات ہیں جو کہ صرف ایک سال یا دو سال سے زیر سماعت ہیں۔

Mr. Speaker : Does the Minister assure this House that there is no person without trial that Jail ?

وزیر جیل خانہ جات - جی نہیں ایسا کوئی case نہیں ہے۔

Mr. Speaker : Has Malik Akhtar got any evidence ?

ملک محمد اختر - جناب والا - میں یہ پڑھے دیتا ہوں کہ مغربی پاکستان کے جیل خانہ جات کے وزیر نے اپنے کوئٹہ کے دورے کے دوران سنٹرل جیل مچھ کا معائنہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس جیل میں - - - -

Mr. Speaker : Does the Member rely on that press note and not on the statement of the Minister on the floor of the House ?

Malik Muhammad Akhtar : Sir, my personal information is that there are accused persons, who are detained in the jail, without any trial.

Mr. Speaker : Is the Member not satisfied with the authentic statement made by the Minister ?

Malik Muhammad Akhtar : Sir, it may be authentic as far as it has been supplied to my friend on the other side, but my information is that they are detaining certain persons without trial.

مسٹر سپیکر - ماسوائے پریس رپورٹ آپ کے پاس اسکا کوئی اور ثبوت ہے ؟

Malik Muhammad Akhtar : Nothing at present, but I have received some information from my local friends.

Mr. Speaker : As the facts have been denied by the Minister for Jails, the motion is ruled out of order.

CLASH BETWEEN KHOSA AND BUGTI TRIBES IN JACOBABAD RESULTING IN THE DEATH OF ELEVEN PERSONS

Malik Muhammad Akhtar : I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely, due to the negligence of the Police a bloody clash has occurred near Pat Feeder Canal at Jacobabad between the Tribes Khosa and Bugti resulting in death of 11 persons. The clash was apprehended but the Police failed to take necessary preventive measures which have perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Minister for Law : I would request that this motion may also be taken up later on.

Mr. Speaker : We will take up this adjournment motion on the 7th.

COLLISION BETWEEN QUETTA-CHAMAN PASSENGER TRAIN AND A TRUCK RESULTING IN THE DEATH OF FIVE PERSONS

Mr. Speaker : Next motion.

Malik Muhammad Akhtar : I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely, due to collision between Quetta-Chamman passenger train and a truck at a place 31 miles from Quetta, five persons have been killed and seven injured. No Chowkidar has been provided at the level crossing. The negligence of the Railway has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Minister for Law (Mr. Allah Bachayo Ghulam Ali Akhund) : I oppose this motion on the ground that the matter is subjudice. Police investigation is in progress and the facts of the motion are the subject matter of that case. A Committee of Senior Railway Officers has also been appointed to inquire into the incident and it has not yet finalised its report. It is still awaited. I would request that the motion may be ruled out of order because all that is possible has been done to see that the persons who are responsible for this incident may be punished. Therefore, there is no failure on the part of the Government.

Malik Muhammad Akhtar : It is a very very serious matter.

خواجہ محمد صفدر - مسئلہ یہ ہے کہ اس ریلوے کراسنگ پر چوکیدار تھا یا نہ تھا - پچھلے سال بھی محکمہ ریلوے کو کہا گیا تھا کہ ایسے کراسنگ پر چوکیدار رکھنا چاہئے - اگر وہاں چوکیدار موجود تھا تو ریلوے کی ذمہ داری نہیں - اس صورت میں جناب وزیر صاحب بتائیں کہ کیا ٹرک والے نے زبردستی پھانک سے گزرنے کی کوشش کی تھی اگر ایسا کیا تو پھر یہ دوسری بات ہے -

Parliamentary Secretary, (Railways) (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : May I, with your permission, give the facts.

As far as this level-crossing, to which Khawaja Muhammad Safdar has referred, is concerned it was an un-manned level-crossing and hence there was no necessity of a chowkidar. Therefore, obviously, no chowkidar should have been present because this was an un-manned level-crossing. As only three trains pass through this level-crossing in twenty-four hours, it is obvious that there was no necessity from the railway point of view to convert this gate from an un-manned level-crossing to a manned one. As has already been mentioned by the Law Minister, this accident between a truck and train is under inquiry. Moreover, this accident took place due to the negligence of the truck driver. The road runs parallel to the railway line and it is very clear that the truck driver could see whether the train was coming or not. In the inquiry by the Police, it was established that the truck driver was without any valid license and, at the same time, there were sixteen passengers in that truck and there was no permit with the truck driver to carry those passengers. It was established by the Police that the responsibility of the collision was totally on the truck driver and his negligence was the cause of this disaster. As such, no responsibility could be fixed on the Railway Authorities.

Mr. Speaker : But the final report is still awaited ?

Parliamentary Secretary, (Railways) : Yes, Sir, the report of the Inquiry Committee, set up by the Railway, is still awaited.

Malik Muhammad Akhtar : This is a very serious matter.

According to the report—

جناب سپیکر۔ اس حادثہ میں ۵ افراد ہلاک اور ۷ زخمی ہوئے جن میں سے بیشتر شدید زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو سول ہسپتال کوئٹہ پہنچایا گیا پھر ایک ریلیف ٹرین ریلوے افسران کو لیکر فوراً جائے حادثہ پر پہنچی اور ریلوے لائن کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا۔

With due apology to my friends on the other side and the Parliamentary Secretary concerned I would say that the Railway Authorities are playing with the lives of the people. Whether it is the negligence of a truck driver or it is the negligence of a railway driver, I am not concerned with it. I am only concerned with the fact that this level-crossing was un-manned. I do not want to creat heat in the House but I would say that this is positively criminal negligence on the part of the Railway to have continued with un-manned level-crossings after the ruling of the highest judicial authority of your calibre. Sir, you gave a clear ruling that they should not maintain un-manned level-crossing but your ruling appears to have been thrown as a waste paper by the authorities of the Railway. They are negligent and they must be punished. I demand it in public interest and for the safety and security of the public at large.

Mr. Speaker : As has been stated by the Minister for Law and the Parliamentary Secretary, Railways, the matter is subjudice. Moreover, departmental inquiry by the Inquiry Committee is under progress. Final report has not been submitted so far. As action has already been taken in this matter, the motion is ruled out of order.

Mr. Speaker : Next motion No. 83.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I do not move as the doctor concerned has since been recovered from the tribesmen.

Mr. Speaker : Motion not moved.

FAILURE OF THE P.W.D. TO REPAIR THE BUILDING (DECLARED DANGEROUS)
OF GOVT. HIGH SCHOOL, NAROWAL

Mr. Speaker : Next motion No. 84.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and of urgent public importance, namely, the building of Government High School, Narowal has been declared dangerous and the boys are getting education in the open ground. The P.W.D. has failed to take necessary steps to repair the building. The news has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Minister for Education (Khan Muhammad Ali Khan) : Opposed Sir, This was, Sir, an old building of the Islamia High School, Narowal, which was taken over and provincialised in 1960 by the Education Department. At the time of taking over of this school, the building was not in order and in satisfactory condition. Probably, by the passage of time, the condition of the building continued to deteriorate further. During this period, the Education Department added one Science Room, one Drawing Room and two other class-rooms. The offices of the Head-master and the clerks have been vacated and turned into class-room. Recently, we came to know that it was in a dangerous condition. The Education Department accordingly requested P.W.D. authorities to place a sum of Rs. 20,803 out of the amount of Rs. 90 lacs placed at the disposal of the Communications and Works Department for special repairs of school buildings. The Director of Education has taken up this matter with the P.W.D authorities at personal level so that repairs may be started during this financial year. We are cognizant of the situation. The motion may please be ruled out of order.

Mr. Speaker : Is not the Member satisfied, with the Minister's statement?

Malik Muhammad Akhtar : Sir, the Minister has admitted the allegation. The motion is based on a statement made by the Inspector of Schools, Lahore Region, on the 17th January and today, three months have passed and nothing has so far been done. Sir, what is happening to the boys who are sitting in the open air ?

Mr. Speaker : But the main grievance of the Member is that the Government has not taken necessary steps to repair the building, and it has been clarified by the Minister that they have demanded the funds and the repairs will be carried out shortly.

Minister for Education : Sir, we have asked for a sum of Rs. 20,803 to place it at the disposal of the Chief Engineer so that the work could be started immediately during this financial year.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, the statement was made on the 17th January and today it is 3rd May. During this period the boys have been sitting in the open under the scorching heat of the sun and will continue to sit until the repairs are carried out. The defects pointed out by me have not been denied by the Minister hence I consider that it should be admitted.

Mr. Speaker : I hope the Minister for Communications will also please see to it. Will the Member now press his motion ?

Malik Muhammad Akhtar : I don't press Sir.

Mr. Speaker : The motion is not pressed.

DERAILMENT OF A PASSENGER TRAIN FORTY MILES FROM SIALKOT RESULTING
IN THE DEATH OF TWO PERSONS

Mr. Speaker : Next motion No. 86

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter

of recent occurrence and urgent public importance, namely, a passenger train bound for Sialkot from Narowal at a distant of 40 miles from Sialkot, has been derailed causing death of 2 persons and injuries to five persons. The negligence of the railway authorities to properly check up the railway lines has caused the accident. The news has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Minister for Law : Sir, I request that time should be given for this motion.

Mr. Speaker : We will take up this motion on the 7th May. We will take the rest of the motions on Monday, the 6th May, 1968.

ORDINANCES

THE WEST PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 1967

(resumption of discussion)

Mr. Speaker : The House will now resume discussion on the motion that the Assembly do approve of the West Pakistan Water and Power Development Authority (Amendment) Ordinance, 1967. Yes, Major Aslam Jan.

میجر محمد اسلم جان (راولپنڈی - ۱) - جناب والا - یہ کہا جاتا ہے کہ اختیارات انسان کو بگاڑ دیتے ہیں اور مطلق اختیارات اسے مطلقاً بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ مقولہ واہڈا پر بالکل درست ثابت ہوتا ہے۔ ان کے لا محدود اختیارات اس قسم کے ہیں جن کے متعلق حمزہ صاحب اور خواجہ صاحب اپنی تقریر میں فرما چکے ہیں۔ میں ان باتوں کا اعادہ کرنا نہیں چاہتا۔ جس کو چاہا نوکر رکھ لیا جس کو چاہا نکال دیا۔ جسے چاہا ۱۰ یا ۱۵ یا ۲۰ ہزار تک اپنا مشیر رکھ لیا۔ unqualified لوگوں کو بھرتی کر لیا جنہیں باہر ایک سو روپیہ ماہوار تنخواہ بھی نہیں مل سکتی۔ یہ ایسی ریاست در ریاست ہے۔ اور بہت طاقتور ریاست ہے جس کی طاقت کو توڑنا اس ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کا بجٹ جو ہے ہماری اسمبلی میں پیش نہیں ہوتا۔ ہم اس پر نکتہ چینی نہیں کر سکتے۔ ہم اس کی منظوری نہیں دیتے۔ وہ اکتوبر میں اپنا بجٹ تیار کر کے حکومت کو بھیج دیتے ہیں اور انہیں اس کی منظوری مل جاتی ہے۔ ان کے بجٹ کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ صوبائی حکومت کے ۶۷ - ۱۹۶۶ کے مالیاتی محاصل ۱۷۷ کروڑ ۵۵ لاکھ ہیں۔ اور واہڈا کا

اسی سال کا خرچ دو سو اناچاس کروڑ سنتالیس لاکھ ہے۔ یعنی ان کے اخراجات ہمارے ریونیو بجٹ سے تقریباً دوگنے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا معکمہ ہے اور یہ کس قدر طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔

جناب والا۔ اگر کوئی چیز خراب ہو جائے اور وہ ٹھیک نہ ہو سکے تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اسے واپڈا ہو گیا ہے۔ سابقہ صوبہ سرحد میں اسے واپا بادا کہتے ہیں۔ یعنی کماؤ۔ کھاؤ اور پکڑے نہ جاؤ۔ مگر آج ان کی کچھ پکڑ ہونے لگی ہے۔

جناب والا۔ واپڈا کی نا اہلی اور روپے کے ناجائز استعمال کے متعلق جتنا کچھ کہا جائے کم ہے۔ میں اس کی ایک معمولی سی مثال دیتا ہوں جسے معمولی نہیں کہنا چاہیے مگر ان کے خیال میں معمولی ہے۔ اور یہ ان کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ اس کے متعلق میں نے دسمبر ۱۹۶۶ میں یہاں سوال کیا تھا جس کا مجھے جواب نہ دیا گیا۔ بعد میں میں نے دوبارہ سوال کیا تو جون ۱۹۶۷ میں اس کا جواب دیا گیا۔ تب بھی یہ فرمایا کہ انکوائری ہو رہی ہے۔ میں اس بارہ میں نہایت مختصر طور پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ واپڈا فروری ۱۹۵۸ میں معرض وجود میں آیا تھا۔ اور ستمبر ۱۹۶۵ یعنی تقریباً آٹھ سال تک ان کے ہاں کوئی سیکورٹی آفیسر نہ تھا۔ جب کہ ان کے پاس کروڑوں اور اربوں روپے کا سامان تھا۔ ستمبر ۱۹۶۵ء میں جنرل ہیڈ کوارٹرز کے کہنے پر ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر کو انہوں نے سیکورٹی آفیسر بنایا اس نے ان کو بہت سی چیزیں بتائیں جو ان کی نا اہلی کی وجہ سے خراب ہو گئی تھیں اور جن کے بارے میں sabotage کا گمان ہو سکتا تھا۔ اس نے انہیں بتایا کہ گرڈ سٹیشن اور جنریٹر جو خراب ہوئے اس میں sabotage ہو سکتا ہے۔ اس کے متعلق کچھ انکوائری بھی کرائی گئی۔ ٹانڈا ڈیم میں ۱۰ ہزار پونڈ کا آتش گیر مادہ بھٹ گیا جس سے بہت نقصان ہوا۔ اس کی بھی انکوائری کی گئی۔ دینا اور ہٹیاں میں ٹرانسمیشن لائن کے ٹاور گر گئے۔ اس کے متعلق میرے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہوا کی تیزی کی وجہ سے گر گئے۔

مگر ایسا ہو تو غیر ممالک میں جہاں آندھیاں چلتی ہیں اور طوفان آتے ہیں اور برف باری ہوتی ہے وہاں تو کوئی ٹرانسمیشن لائن ٹاور سلامت نہیں رہنا چاہئے۔ انہوں نے وہ کیوں مضبوط نہ بنائے۔ کیا یہ ان کی نا اہلی نہیں ہے، انہوں نے اس پر کیوں ایکشن نہیں لیا۔ ملتان کا ٹربائن اور الیکٹرک جنریٹر خراب ہوا اور حیدرآباد میں ٹربائن کے پہلے ٹرائیل میں بائلر کے پھٹ جانے سے حادثات ہوئے۔ کیا اس کو sabotage نہیں کہا جا سکتا ہے اور انکوٹری رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ sabotage کے امکانات ہیں۔ میرے ایک سوال کے جواب میں کہا گیا تھا کہ sabotage کے امکانات ہیں لیکن آج سیکورٹی کے بندوبست کے یہ انتظامات ہیں جس پر قومی خزانہ سے کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا گیا ہے کہ جب ہم گرڈ سٹیشن میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کا چوکیدار ایس۔ ڈی۔ او کے گھر کام کرتا ہے۔ اسی کا ہی کوئی آدمی sabotage کر سکتا ہے۔ ۱۹۶۶ میں ہوم ڈیپارٹمنٹ نے ایک سروے ٹیم بھیجی جس نے تمام خرابیوں کا ذمہ دار واہڈا کو ٹھہرایا اور اس میں کہا گیا کہ سیکورٹی کے انتظامات اور زیادہ مضبوط کریں۔ آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے سیکورٹی کے انتظامات مضبوط کئے ہیں، اگر کئے ہیں تو کیا کئے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ جب وزیر صاحب تقریر فرمائیں گے تو اس میں یہ ضرور فرمائیں گے کہ سیکورٹی کے انتظامات کیا ہیں۔ آپ وہاں تجربہ کار آدمیوں کو متعین کریں۔

جناب والا۔ واہڈا کے فرائض میں سے بجلی فراہم کرنا بھی ایک فرض ہے، اس پر کروڑوں روپیہ عوام کا خرچ ہوا ہے مگر ہوتا کیا ہے، بجائے بجلی فراہم کرنے کے بجلی کٹی کٹی گھنٹے بند رہتی ہے۔ اس کے متعلق حال ہی میں ایک پریس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ایک گھنٹہ اگر بجلی بند رہے تو اس سے ایک کروڑ روپیہ کا قومی نقصان ہوتا ہے۔ یہ بات بھی اسی رپورٹ میں ہے کہ ایک سال میں ۱۶۷۰۰ دفعہ بجلی بند ہوئی یا خراب ہوئی یعنی گزشتہ ایک سال میں ۱۶۷۰۰ دفعہ بجلی بند ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دن میں ۷۴ دفعہ بجلی بند

رہی یا خرابہ رہی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں ہر سال اگر ایک دن میں ۷۴ دفعہ بجلی بند رہے تو بجلی کے ذریعہ جن چیزوں کا کام ہوتا ہے وہ کہاں تک مکمل ہو سکتی ہیں۔ ہسپتال جہاں اپریشن ہوتے ہیں وہاں iron lungs بند ہو جائیں۔ غیر ممالک میں ایک دفعہ سے دوسری دفعہ اگر بجلی بند ہو جائے تو اس پر انکوائری ہو جاتی ہے۔ وہاں پر وزیر استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ ان کے اتنے بڑے ادارے ہیں کہ تنخواہ ہانے والوں کو معطل یا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اس کے متعلق کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ جناب والا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لال بہادر شاستری جب وزیر ریلوے تھے تو ان کے وقت میں جب دو حادثات ہوئے اس پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کسی کانٹے والے یا کسی اور کی غلطی نہیں مانی۔ یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بجلی کی ہمارے ملک میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مغربی پاکستان کے ہر ایک دفتر میں درخواستیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کو بجلی کے کنکشن نہیں ملتے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کھمبا نہیں ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ تار نہیں ہیں اور کبھی کہا جاتا ہے سویچ نہیں ہیں بلکہ اس کام کے لئے ۵۰۰ روپیہ تک رشوت دینی پڑتی ہے۔

وزیر آبپاشی و برقیات - فنڈز کے مطابق بجلی میں کمی نہیں ہے۔

میجر محمد اسلم جان - جناب والا۔ آپ اپنے فنڈز کے مطابق کم بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ جتنی آپ کی بجلی کی capacity ہے اس سے آپ کم بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ جس کی وجہ سے فی گھنٹہ ۳۹,۳۰۰ روپیہ کا زائد نقصان ہو رہا ہے۔

جناب والا۔ اب میں مختصر طور پر ملتان کے بجلی گھر کے متعلق عرض کروں گا جس پر ۲۶ کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے۔ اس بجلی گھر میں ۲,۶۵,۰۰۰ کلو واٹ بجلی پیدا کرنی چاہیے مگر وہ ۱ لاکھ ۱۵ ہزار کلو واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ کیونکہ اس کا جنریٹر اور اس کا پلانٹ

خراب پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک پلانٹ ۱۹۶۰ میں خراب ہوا جس کا ڈیزائن ایک جرمن فرم سے لیا گیا تھا۔ اس کے متعلق اٹلی کی ایک فرم کو بلایا گیا کہ آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں کیا خرابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا جو پلانٹ لگا ہے اس کا ڈیزائن غلط ہے۔ یہ پلانٹ دوسری دفعہ اس لئے خراب ہوا کہ اس کو distilled water مہیا نہ ہو سکا اور اس کو Resident Engineer نے undistilled water سے چلایا۔ یہ اس لئے کیا گیا تاکہ انڈسٹریز بند نہ ہو جائیں۔ اگر انڈسٹریز دو چار گھنٹے بند ہو جائیں تو اتنا نقصان نہ ہوتا لیکن اس وجہ سے لاکھوں روپے کا نقصان کر دیا۔ اس پر ایک جرمن فرم نے کام کیا تھا۔ جس دن کام شروع ہوا اسی دن اس میں خرابیاں شروع ہو گئیں اور اس کی مرمت کے لئے اخراجات واہڈا نے برداشت کئے۔ لیکن جنہوں نے یہ ٹربائن سپلائی کیا تھا انہیں اس کی مرمت کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لئے نہیں کہا گیا۔ حالانکہ اس قسم کی مشینری بھارت میں Trincomally اور یو۔ اے۔ آر میں اسی کمپنی نے لگائی تھی وہاں بھی اسی نوعیت کی خرابی پیدا ہوئی تھی، لیکن وہاں اس کی مرمت کمپنی کے اخراجات پر ہوئی۔ ان کو ان سے سبق لینا چاہئے تھا۔ بھارت اور یو۔ اے۔ آر کی طرح ان کو پہلے ہی کوئی معاہدہ کر لینا چاہئے تھا۔ بھارت اور یو۔ اے۔ آر میں اس کمپنی نے shaft اپنے اخراجات پر بدلی لیکن یہاں جتنے اخراجات ہوئے وہ واہڈا نے خود برداشت کئے ہیں۔ یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں کیوں ایسا کیا گیا ہے۔ پہلے بھی ۱۹۶۰ میں بجلی گھر بند رہا تھا اس دن سے آج تک بجلی بند رہتی ہے۔ یہاں تو چار ٹربائنز ہیں۔ لیکن حالت یہ ہے کہ ایک ٹربائن بالکل خراب ہو گیا ہے اور اس کی شاٹ جرمنی میں مرمت ہونے کے لئے گئی ہوئی ہے۔ دوسرے میں شکاف پڑے ہوئے ہیں، تیسرا پورا کام کر رہا ہے، چوتھا آدھا کام کر رہا ہے کیونکہ اس کے بائلر میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ یہاں ۲۶ میگا واٹس بجلی پیدا ہونی تھی لیکن یہاں پر ۹۰ میگا واٹس بجلی پیدا ہو رہی ہے۔

جناب والا - اس طریقہ سے لائل پور کے بجلی گھر کے متعلق عرض کروں گا۔ لائل پور کا بجلی گھر گذشتہ سال مکمل ہوا ہے اور وہ commission بھی ہو گیا ہے۔ لیکن واپڈا والے کہتے ہیں کہ وہ ابھی بن رہا ہے۔ ان کی اپنی رپورٹ ہے کہ یہ commission ہو چکا ہے۔

ملک محمد اسلم خان - پوائنٹ آف آرڈر۔ جناب والا - میجر صاحب ہتکاسی قانون کی حمایت کر رہے ہیں یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس کے متعلق ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔

سسٹر سپیکٹر - انتظار کیجئے۔

میجر محمد اسلم خان - جناب والا - لائل پور میں ۱ لاکھ ۲۰ ہزار کلو واٹ بجلی پیدا ہونی تھی، مگر واپڈا والے کہہ رہے ہیں کہ وہ بجلی گھر ابھی مکمل نہیں ہوا اور وہاں پر ایک کلو واٹ بجلی بھی پیدا نہیں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ بائزر کے ڈیزائن میں کوئی بنیادی غلطی یا خرابی ہے یا اس کو غلط طریقے سے لگایا گیا ہے۔ وہاں اس کی بنیادوں میں شکاف پڑ گئے ہیں اور جس دن یہ commission ہوا تھا اسی وقت اس کا کنڈنسر اکھڑ کر باہر نکل گیا اور اس وجہ سے لائل پور کا بجلی گھر کام نہیں کر رہا ہے۔

اسی طریقے سے کوٹری اور منگلا کے متعلق بھی ہے۔ وہاں کے لئے ان کا جواز یہ ہے کہ کوٹری اور منگلا کے بجلی گھروں کے لئے ہمارے پاس Transmission Lines نہیں ہیں۔ کوٹری میں تیرہ ہزار کلو واٹ بجلی پیدا ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جیسا کہ خواجہ صفدر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ وہاں صرف چار سو کلو واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ منگلا میں تین لاکھ کلو واٹ بجلی پیدا ہونی چاہیے تھی لیکن وہاں صرف دو لاکھ کلو واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ منگلا کے تین یونٹ ہیں جن میں سے دو یونٹ تو کام کر رہے ہیں لیکن ایک یونٹ بیکار ہے۔ حالانکہ ایک ایک یونٹ پر ایک ایک کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے۔ اس کے لئے بھی ان کا جواز یہ ہے

کہ ان کے پاس Transmission Lines نہیں ہے۔ انہوں نے ۱۹۶۶ء میں اپنے تخمینہ جات بھیجے تھے لیکن ابھی تک ان کے پاس مذکورہ لائنیں نہیں آئیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جب یہ لائنیں آئیں گی، لوگوں کو بجلی اسی وقت دی جا سکے گی۔ یہ تھرمل پاور سٹیشن پر تو زور دیتے ہیں لیکن منگلا میں جہاں پر کہ آپ ٹربائین میں سے پانی گزار کر بجلی پیدا کرتے ہیں اور یہ طریقہ مقابلتاً سستا بھی ہے وہاں پر پہلے سے ہی Transmission Lines کا بندوبست کیوں نہیں کیا گیا تھا۔ کیا یہ انکی نا اہلی غلط منصوبہ بندی اور دور اندیشی سے کام نہ لینے کی وجہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ Transmission Lines تانبے کی تاریں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ایلومینیم کی تاریں سستی ہوتی ہیں۔ انہوں نے وہاں ایلومینیم کی تاریں لگائیں۔ اور یہ تاریں وہ ہیں جنکو یورپ میں condemn کر دیا گیا تھا اور یہی انہوں نے استعمال کیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کے پاس کوئی متبادل انتظام نہیں ہے تو جب یہ تاریں جل گئیں تو آپ لوگوں کو کسی دوسرے طریقے سے بجلی مہیا نہیں کر سکتے یا اب جیتک یہ ٹھیک نہیں ہوتیں آپ لوگوں کو بجلی نہیں دے سکتے۔ حالانکہ جب آپ کی بجلی خراب ہو جاتی ہے تو لوگوں کے لاکھوں روپے کا سامان مثلاً ریفریجریٹر، کولر اور اسی قسم کی دوسری اشیاء بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر تو کوئی بھی damages claim نہیں کرتا۔ اس لئے آپ اس طرف کچھ زیادہ توجہ نہیں دیتے ورنہ بیرونی ممالک میں تو اس سلسلے میں بڑی لے دے ہوا کرتی ہے۔

اسکے علاوہ خواجہ صاحب نے واپڈا ہاؤس کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اور انہوں نے اس کے بارے میں جو اعداد و شمار یہاں پر پیش کئے ہیں، مجھے ان سے اختلاف ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ واپڈا ہاؤس پر چار کروڑ تیس لاکھ روپیہ خرچ ہوا ہے۔ لیکن حال ہی میں جب صدر مملکت یورپ کے دورے سے واپس تشریف لائے تھے تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہمیں بیرونی قرضوں پر آٹھ سے دس فیصد تک سود ادا کرنا پڑتا

ہے، تو اس حساب چار کروڑ تیس لاکھ روپے پر چونٹیس لاکھ چالیس روپے سالانہ سود بنتا ہے۔ اور اگر سالانہ wear and tear اور depreciation وغیرہ کا حساب لگایا جائے جو کہ کم از کم پانچ فیصد کے حساب سے ہوا کرتا ہے تو اکیس لاکھ پچاس ہزار روپے سالانہ مزید خرچ بنتا ہے۔ یعنی اس واہڈ ہاؤس پر ان کا سالانہ خرچ پچپن لاکھ نوے ہزار روپے بنتا ہے جو کہ اصل رقم یعنی چار کروڑ تیس لاکھ روپے کے علاوہ ہے۔ تو کیا واہڈا والے اپنے تمام دفاتر کا کرایہ پچپن لاکھ نوے ہزار روپے سالانہ ادا کیا کرتے تھے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ وہ اس سے کم ادا کرتے تھے۔ اسکے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ابھی تک انہوں نے اپنے دفاتر کو واہڈا ہاؤس میں منتقل نہیں کیا اور اب بھی بڑی بڑی کوٹھیوں میں ان کے چیف اکاؤنٹنٹ اور ریجنل مینجر کے دفاتر کام کر رہے ہیں اور وہ ان بڑی بڑی کوٹھیوں اور عمارتوں کے کرائے ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک ان دفاتر کو واہڈا ہاؤس میں کیوں منتقل نہیں کیا۔ یہ قاضی صاحبان یعنی چیئرمین صاحب اور یہ نئے ممبر صاحب دونوں ہی قاضی ہیں، خدا کرے اور ہمیں ان سے امید بھی یہی ہے کہ وہ اس ملک اور اپنے محکمے کے ساتھ انصاف کا سلوک کریں گے۔ اس وقت تک تو انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔

مسٹر محمود اعظم فاروقی (کراچی - ۸)۔ جناب والا۔ واہڈا پر اس ایوان میں پرسوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور اس ڈیڑھ دن میں دیگر رفقائے اس محکمے کی ناکار کردگی اور نا اہلی پر اتنی معلومات افروز باتیں کی ہیں کہ ان میں مزید اضافہ کرنا شاید ایوان کے لئے اتنا ہی بے مزہ ہوگا جتنا کہ کسی طرحی مشاعرے میں آخری غزل پڑھنا۔ بآیں ہمہ میں یہ کوشش کروں گا کہ اس ایوان میں کبھی ہوئی باتوں کو دہرائے بغیر کچھ دیگر امور کی طرف جناب وزیر متعلقہ کو متوجہ کر سکوں۔

جناب والا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ادارہ حکومت مغربی پاکستان کی وہ نالائق اولاد ہے کہ جس نے اپنے اسلاف کے جمع کئے ہوئے سرمائے

کو اپنی فضول خرچی، عیاشی، نافرمانی اور ناعاقبت اندیشی کی نذر کر کے اسے قطعی طور پر فضا میں پکھیر دیا ہے، تو شاید میں واہڈا کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا۔ جناب والا۔ اس ادارے کی مثال اس نالائق اولاد کی سی ہے کہ جو اپنی بدچلتی کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اپنے اسلاف کی دولت کو تباہ کرتی ہے بلکہ اسکے عزت و ناموس کو بھی بٹہ لگاتی ہے۔ اس لئے اس ادارے کی اہمیت اور اسکے فرائض کا جائزہ لینے کے لئے یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس طرح کے ادارے کیوں وجود میں لائے جاتے ہیں اور یہ کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور یہ کہ وہ کن کن ذمہ داریوں کے لئے کن کن کے سامنے جوابدہ ہوتے ہیں۔

جناب والا۔ ترقی پذیر ممالک میں اور ایسے ممالک میں جن کی معیشت free economy کی بنیاد پر قائم ہو اور کمیونیزم اور سوشلزم کی بنیاد پر قائم نہ ہو، تو ایسے ممالک کی حکومتوں کو بہت سے ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں جو کاروباری طور پر چلائے جا سکتے ہیں لیکن ترقی پذیر ملک ہونے کی وجہ سے نجی سرمایہ اس کاروبار کی طرف منتقل نہیں ہوتا ~~stay~~ ہوتا ہے، اور دوسری طرف حکومت کی مصلحتوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایسے کاموں کو حکومت کی براہ راست مشینری سے ہٹا کر بالواسطہ کسی مشینری کے ذریعے انجام دیا جائے۔ تو یہ دو گونا گونا گونا ضروریات ہیں کہ جن کی بنیاد پر اس قسم کے آزاد یا نیم خود مختار اداروں کا وجود عمل میں لایا جانا ہے۔

جناب والا۔ اسکے پس منظر میں جو دو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کی وجہ سے اس قسم کے اداروں کی ذمہ داریاں سرکاری براہ راست اداروں سے دگنی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری جس طرح کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کے مہیا کئے ہوئے ذرائع اور وسائل کے لئے عوام کے سامنے جوابدہ ہوتی ہے تو اس ادارے کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کے بالواسطہ مہیا کئے ہوئے سرمائے اور ان کی طرف سے مہیا کئے ہوئے ذرائع اور وسائل کے لئے جو کہ اس ادارے

کے تصرف میں ہونے/ ہیں حکومت کی وساطت سے ان کے لئے عوام کے سامنے جوابدہ ہوتے ہیں۔ اس ادارے کی دوسری ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ اسکے سپرد جو سرمایہ کیا گیا ہو، وہ اسے اس طرح سے استعمال کرے کہ جس سے حکومت اور عوام کو کوئی نفع بخش نتیجہ میسر آسکے۔ بالعموم ایسے اداروں سے جو توقعات وابستہ کی جاتی ہیں، وہ یہی ہوتی/ ہیں کہ اس سرمائے پر کم از کم چار فیصد سے لے کر دس فیصد تک جس طرح کا کام بھی اس ادارے کے سپرد ہو اس کے تناسب سے ہی حکومت کو/ منافع ملنا چاہئے۔ اور بالخصوص وہ ادارہ جس کی ذمہ داری بجلی پیدا کرنا اور فروخت کرنا ہے اس ادارے سے سرمایہ پر اگر کم سے کم ۴ فی صد منافع بھی میسر/ نہ آسکے تو ظاہر ہے کہ یہ ادارہ اپنے فرائض میں کوتاہی برت رہا ہے اور اس نے مہیا کردہ ذرائع و وسائل سے خاطر خواہ استفادہ نہیں

کیا۔ ابھی کل میرے ایک معزز/ دوست نے ~~میں نے اپنے~~ تقریر میں یہ فرمایا تھا/ کہ اس ادارے کی سرمایہ کاری پچھتر پیسہ فی صد ہے۔ ~~یعنی چوتھائی اعشاریہ پچھتر فی صد جو کہ کم سے کم متوقع منافع سے تقریباً~~ آٹھواں حصہ ہے تو/ اس طرح اس ادارے کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے وسائل کو نفع بخش کاموں میں استعمال کرے/ جناب والا حکومت کو منافع دینا جو اس ادارے سے مطلوب تھا اس میں/ وہ بری طرح ناکام ہوا ہے۔ اس ادارہ کی پہلی ذمہ داری یعنی اپنے وسائل کے سلسلے میں حکومت کے سامنے جوابدہی اور اسکو صحیح طریقے، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ استعمال/ کرنا ہے اس سلسلے میں اتنی باتیں کہی جا سکتی ہیں اگر ان میں میرے بیان کردہ نکات کا بھی اضافہ کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا کہ شاید اس ادارے کی پوری/ کارکردگی اس ابوان کے ذریعے ملک کے سامنے آسکے گی۔ اس ادارے نے اپنی ذمہ داریوں کو ~~مجرمانہ غفلت کی تھی~~

جناب والا - جب میں مجرمانہ غفلت کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو صحیح معنوں میں مجرمانہ کہتا ہوں لفظی طور پر/ انہیں کہ وہ ادارہ جو

اپنی مشینری لگانے میں صحیح انتخاب نہ کر سکے، وہ ادارہ جو کہ ٹیکنیکل کام پر ملک کی اہم ضرورت کو پورا کرنے کیلئے قیام میں لایا گیا ہو اور وہ جو مشینیں خریدنے کیلئے، باہر کے ملک میں جائے تو ان کا ایسا انتخاب نہ کر سکے کہ وہ پشینیں ہمارے ملک کے حالات کے لحاظ سے، ملک میں جو ٹیکنیکل **abilities** موجود ہیں ان کے لحاظ سے **suitable** ہو تو اس ادارے کی یہ کارکردگی اگر مجرمانہ نہیں ہے تو میرے نزدیک اس سے کم تر درجے کا کوئی لفظ نہیں ہے جناب والا۔

اس کے علاوہ اس نے جس دیانتداری سے اپنے funds کو استعمال کیا ہے اس میں سے صرف میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ملتان میں ۱۹۵۵ میں ۶۵ میگاواٹ کے دو جنریٹر جو حاصل کئے گئے تھے انکی قیمت ۱۱.۷ کروڑ روپے تھی اور اس قیمت میں زمین عمارت، ورکشاپ اور فاضل ہرزوں کی رقم شامل ہے پھر ۱۹۶۳ میں اس سے بڑی capacity کے دو عدد ٹربائن ۶۶ سے لیکر ۷۰ میگاواٹ کے ۱۹۶۳ میں خریدے گئے اور انکی قیمت ۱۲ کروڑ روپے تھی یہ امریکہ سے منگائے گئے تھے اور اس بارہ کروڑ روپے میں ٹربائن کے ساتھ ساتھ زمین، عمارت، فاضل پرزے اور ورکشاپ کی قیمت بھی اس میں شامل تھی۔ واضح رہے کہ زمین کراچی ملتان کے مقابلہ میں زیادہ سہنگی ہے زیادہ مشکل الحصول ہے اور زیادہ گران ہے پھر ۱۹۵۵ اور ۱۹۶۳ کے درمیانی عرصہ میں جبکہ اسی ملتان کے پاور ہاؤس میں اضافہ کیلئے دو مزید ۶۰ میگاواٹ کے دو ٹربائن خریدے گئے تو ان کی قیمت ۱۰.۷ کروڑ تھی اور اس ۱۰.۷ کروڑ کی قیمت میں واضح رہے کہ زمین کی قیمت شامل نہیں ہے، عمارت شامل نہیں ہیں، ورکشاپ شامل نہیں ہے اور فاضل ہرزوں کی قیمت شامل نہیں ہے۔ میں آپکے وساطت سے وزیر موصوف سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی capacity کے ٹربائن کے بوائلرز ۱۹۵۵ میں ۱۱.۷ کروڑ میں خرید جا سکتے تھے اور پھر ان سے زیادہ capacity کے ٹربائن کے بوائلرز کراچی میں امریکہ سے ۱۹۶۳ میں بارہ کروڑ میں درآمد کئے جا سکتے تھے تو وہ پھر کیا وجوہ ہیں جنکی بنا پر اس

کو ۱۹۰۰ اور ۱۹۶۳ کے درمیان برآمد نہیں کیا گیا جب قیمتیں بھی کم تھیں۔ آپکے ان ٹربائین اور بوائلرز میں کوئی اضافی چیزیں شامل نہیں ہیں جو امریکہ سے ملتی ہیں بلکہ وہ یورپ سے منگائی جا سکتی تھی جنکی قیمت بھی کم ہوتی ہے اور freight بھی کم ہوتا ہے، تو اسطرح ۱۹۶۳ کے مقابلہ میں دو کروڑ روپیہ زیادہ قیمت کیوں؟ اور پھر یہ کہ زیادہ قیمت پر حاصل کئے ہوئے جنریٹر اور بوائلرز کی جو کارکردگی تھی وہ بری طرح سے ناکام ہوئی ہے اور اس طرح سے اس ملک کے عوام کو بھی ناامید کیا ہے اس پر بہت کافی گفتگو ہو چکی ہے جو یقیناً آپ کے دل میں آتر چکی ہوگی اور میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس بات کا جواب دیں گے۔ جناب والا۔ اس معکمہ کی ناکارکردگی کے بارے میں ابھی کچھ دوستوں نے بتایا تھا کہ پرسوں کے اخبار میں وہاں کے انجینئرز کی سب سے بڑی Association پر یہ الزام لگایا گیا کہ سال میں تقریباً سترہ ہزار breakdown ہوتے ہیں ان breakdown کی وجہ سے قوم کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ تقریباً ایک کروڑ روپیہ فی گھنٹہ ہے۔ کل کے اخبار میں واہڈا کی طرف سے ”عذر گناہ بدتر از گناہ“ کے طور پر اس الزام کا جواب دیا گیا ہے۔ اس الزام میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملک کے Gross National Product کے لحاظ سے ایک کروڑ روپے فی گھنٹہ کے نقصان کا تخمینہ بالکل غلط ہے اور Economic لحاظ سے بھی نادرست ہے۔

چلئے میں اس پر گفتگو نہیں کرتا میں آپ کی بات ہی مان لیتا ہوں کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایک کروڑ روپے کا نقصان تو نہیں ہوتا لیکن - - -

The Press release adds that the gross national product attributable, directly or indirectly, to power cannot exceed rupees four lakh per hour. In such circumstances the estimate of loss of rupees one crore per hour, referred to in the press, has no economical foundation.

چلئے میں زیادہ بحث میں نہیں جاتا کہ ایک کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے یا ۴ لاکھ روپے فی گھنٹہ کا۔ میں آپ ہی کی بات مان لیتا ہوں کہ آپ کے بجلی کے breakdown کیوجہ سے ۴ لاکھ روپے فی گھنٹہ کا

ملک اور قوم کو نقصان پہنچتا ہے پھر آپ نے اس میں اس بات کی تردید نہیں کی ہے کہ ۱۶۷۰۰ سالانہ breakdown ہوتے ہیں۔ تو اگر کم سے کم ۱۰ منٹ breakdown کی مدت بھی رکھ لی جائے تو بھی آپ کے ۴ لاکھ روپے کے حساب سے تقریباً ۱۱ کروڑ ۲۰ لاکھ روپے سالانہ کا نقصان ہے جو قوم اور ملک کو ہر سال پہنچ رہا ہے اگر آپ اس کو اور کم کرنا چاہیں کہ ۱۰ منٹ بہت زیادہ ہیں تو ایک منٹ کی آپ breakdown رکھ لیں۔ تو اس طرح آپ کے اپنے حساب سے آپ کے اپنے دیئے ہوئے اعداد و شمار کے مطابق ملک کو تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے سالانہ کا کم سے کم نقصان ہے۔ تو جناب والا میں آپ کی وساطت سے وزیر متعلقہ سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ادارہ جس کا بجٹ یا جس کی مالیات صوبے کی مالیات سے دگنی ہوں وہ ادارہ کہ جس کے بڑے بڑے افسران کی تنخواہیں ہمارے وزراء سے بھی زیادہ ہوں، وہ ادارہ جس کے سپرد ملک کے بیشتر وسائل کر دیئے گئے ہوں تاکہ ملکی ترقی ہو سکے۔ اگر وہ ملک کو بجائے فائدہ پہنچانے کے الٹا کم سے کم ایک کروڑ روپے سالانہ کا اپنی نا اہلی کی بنا پر نقصان پہنچاتا رہا تو کیا اس ادارہ کے لئے یہ ضروری تھا کہ آپ اس ایک ٹیکنیکل آدمی کا اضافہ کرتے یا یہ بہتر تھا کہ آپ اس ادارہ کے تمام موجودہ ممبران کو نکال کر نئے حاکموں کے سپرد کرتے تاکہ وہ اپنے فرائض کو بہتر طریقے پر انجام دے سکتے۔ جناب والا۔ دنیا میں آپ نے کم ہی ایسی مثالیں سنی ہوں گی کہ ایک parent ادارہ کسی دوسرے ادارے کو بنائے اور پھر جو نیا ادارہ یا ماخوذ ادارہ بنایا جائے وہ اتنا خود مختار ہو جائے کہ parent ادارے کے احکام اس کے نزدیک بے وزن ہوں اور ان کی کوئی حیثیت نہ ہو، اگر یہ بات آپ کو دنیا کے کسی ادارے میں نہیں ملتی تو یہ آپ کو واہڈا میں ملے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر متعلقہ کو یاد ہوگا کہ سابقہ گورنر مغربی پاکستان نے واہڈا کو یہ احکام نافذ کئے تھے کہ دوسرے محکموں کے جن افسروں کی خدمات deputation پر واہڈا کے لئے حاصل کی گئی ہوں یا وہ افسران جو لاہور کے کسی دفتر سے یا کسی ایک بلڈنگ سے منتقل ہو کر واہڈا میں آجائیں تو ان کو مزید

کوئی الاؤنس دینا ضروری نہیں۔ صرف ہاؤس الاؤنس دینا کافی ہے اور وہی تنخواہ دینا کافی ہے جو ان کو parent office میں ملتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب مرحوم اس قسم کا حکم جاری کرنے میں حق بجانب تھے۔ یعنی کوئی سرکاری ملازم کسی سرکاری دفتر سے جو ڈیوس روڈ پر ہو واپڈا کے دفتر میں جو کسی اور جگہ ہو منتقل ہو کر چلا جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہئیے۔ حکومت کا دفتر بھی سو فیصد سرکاری ہے اور یہ ادارہ بھی سو فیصد سرکاری ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ براہ راست ہے اور یہ بالواسطہ۔ اگر حکومت کا کوئی ملازم کسی ایک دفتر سے واپڈا کے دفتر میں منتقل ہوتا ہے تو اس کی شرائط ملازمت اور تنخواہ وہی رہنی چاہئے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس کا ساتھی parent office میں اس سے ۴۰۰ روپیہ کم تنخواہ لے اور یہ واپڈا میں منتقل ہو کر زیادہ تنخواہ لے۔ اس لئے سابق گورنر صاحب ایسا حکم جاری کرنے میں حق بجانب تھے کہ اگر کوئی ملازم حکومت مغربی پاکستان کے کسی دفتر سے منتقل ہو کر واپڈا میں جائے تو اسے مزید کوئی الاؤنس نہ دیا جائے۔

یہ ادارہ حکومت مغربی پاکستان کی نالائق اولاد ہے جس نے گورنر مغربی پاکستان کے اس حکم کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور واپڈا کے ملازمین کے لئے ماہ یا دو ماہ نہیں بلکہ سالوں تک ہاؤس الاؤنس اور دوسرے الاؤنسز میں بے پناہ اضافہ کیا گیا اور الاؤنس دیے گئے۔ اس بات کو ان کے اپنے آڈٹ کرنے والوں نے point out کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اب مجبوری ہے کہ اب ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ ان سے اتنی بڑی رقم واپس نہیں لی جا سکتی۔

میں وزیر متعلقہ سے پوچھتا ہوں کہ جب اس ادارہ نے اپنے parent body کے سربراہ اور صوبہ کے سب سے بڑے ذمہ دار شخص کے حکم کو جو صدر مملکت کے نمائندہ کی حیثیت سے کام کرتے ہیں ٹھکرانا گوارا کیا ہے تو اس کی ناکردگی اور بد انتظامی کا اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں اب اس ادارہ کی اس عمارت کا

ذکر کروں گا جو اسمبلی کے دروازہ کے سامنے ۱۰ ممبران اسمبلی کا منہ چڑانے ہوئے سات منزلوں تک کھڑی ہے۔ جس پر ۵ کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب اسمبلی کا سیکریٹریٹ مٹی اور جون کی گرمی میں بغیر ائیر کنڈیشننگ کے کام کر سکتا ہے یا حکومت مغربی پاکستان کے دوسرے دفاتر اور سیکریٹریٹ جب پرانی عمارتوں میں ہیں اور بغیر ائیر کنڈیشننگ کے کام کر سکتے ہیں یا حکومت پاکستان کا مرکزی سیکریٹریٹ راولپنڈی کی گرمی میں بغیر ائیر کنڈیشننگ کے ہے اور وہاں کام ہو رہا ہے تو آپ کے نزدیک کیا وجہ جواز ہے کہ یہ ادارہ حکومت کے خزانہ سے اتنی بڑی رقم حاصل کر کے عالیشان عمارت پر ضائع کر دے۔ میں تو اسے ضائع کرنا ہی کہوں گا۔ جس ملک میں ۹ فیصد ایسے عوام ہیں جن کو اپنے پیروں کو گرمی سے بچانے کے لئے جوتا میسر نہیں اور جس ملک کے ۵۰ فیصد وہ لوگ ہیں جن کے جسم دھوپ سے جلتے ہیں اور پہننے کو کوئی قمیض نہیں۔ اس ملک کے خزانہ سے ۵ کروڑ کی لاگت سے ایک عمارت کا تعمیر کرنا جس میں چند افراد کے لئے عیش و نشاط کا سامان مہیا ہو دولت کا مجرمانہ ضیاع ہے۔ میں اس کو عیش پرستی اور فضول خرچی کہتا ہوں۔ اس مجرمانہ حرکت کے لئے میرے پاس اس سے کم تر اور کوئی الفاظ نہیں ہیں۔

جناب والا۔ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جس ادارہ میں ملازمین کے لیے ابھی تک کوئی قوانین اور قواعد ملازمت مرتب نہیں کئے گئے، جس ادارے کے ملازمین کے لیے کوئی قواعد نہ بنائے گئے ہوں اور جس ادارے کے ۵۰ فیصد افراد دوسرے دفاتر سے حاصل کئے گئے ہوں اس کی کارگردگی یقیناً خراب ہوگی، کیونکہ جب وہ ملازمین دوسرے دفاتر سے آتے ہیں ان کی allegiance یا وفاداریاں اپنے parent office کے ساتھ ہوں گی۔ نئے محکمہ کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ باوجود اس کے کہ آپ ان کو زیادہ تنخواہیں دیں، باوجود اس کے کہ آپ ان کو زیادہ الاؤنس دیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی جب تک ان کو یہ

احساس نہ ہو کہ وہ جس کشتی میں بیٹھے ہیں وہ کسی وقت بھی ڈوب سکتی ہے۔ ان کو اس کشتی کی حفاظت کا احساس پیدا نہیں ہو سکتا جب کہ ان کا سامن اور مسکن کوئی اور کشتی ہے۔ جس کشتی میں وہ بیٹھے ہیں اس سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک وہ کشتی انہیں لے جاسکے گی چلے جائیں گے، بعد میں اپنی کشتی میں چڑھ جائیں گے۔ لیکن اس کشتی کا سوراخ جس میں وہ سوار تھے بند کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سامن اور مسکن اور ہے۔

اس کے علاوہ میں یہ عرض کروں گا کہ وہ افسران جو کسی پراجیکٹ پر کام کرتے ہیں جو محکمہ کی اصل ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں جن کو back bone کہا جاتا ہے، جو پراجیکٹ کو چلانے کے ذمہ دار ہیں ان کی تنخواہیں اپنے ان counterparts سے جو دوسرے اداروں میں ہیں کم ہیں برخلاف اس کے کہ جو لوگ مرکزی دفتر میں ہیں ان کی تنخواہیں ان کے دوسرے counterparts سے زیادہ ہیں۔ میں تفصیل میں جا کر وقت ضائع نہیں کروں گا۔ البتہ اتنا عرض کروں گا کہ پاکستان انجینئرز ایسوسی ایشن نے تحقیقات کے بعد جو فہرست شائع کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس محکمہ میں انجینئرز اور چیف انجینئرز اور دوسرے ٹیکنیکل عملہ کی تنخواہیں ان کے counterparts سے جن کی صلاحیت اور تجربہ وہی ہے اور جو دوسرے محکموں، اداروں اور فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں نصف سے بھی کم ہے۔ اس کے برخلاف سول دفاتر سے آئے ہوئے عملہ کی تنخواہیں اپنے ان counterparts سے جو سیکریٹریٹ میں یا دوسرے سرکاری دفاتر میں ہیں کئی گنا زیادہ ہیں۔

جناب والا۔ جس نجی ادارے میں تنخواہوں اور اس کی آمدنی کی تقسیم کا اندازہ ایسا ہو کہ وہ لوگ جو اس کے back bone ہیں یعنی ٹیکنیکل لوگوں کی کمیابی ہے اور باہر سے درآمد کرنے پڑتے ہیں ان کو تنخواہیں کم دی جاتی ہیں اور پھر وہ لوگ جن کی ملک میں کمی نہیں ہے وہ لوگ سول سروس کے ہیں اور غیر ٹیکنیکل ہیں مگر وہ ٹیکنیکل افراد

سے زیادہ تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس سے واہڈا کی کارکردگی پر بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ بات اس حقیقت پر منتج ہوتی ہے کہ ٹیکنیکل صلاحیتوں کے لوگوں کے ذہن میں یہ رجحان پیدا ہو کہ ان کی قدر دانی نہیں ہو رہی ہے۔ پھر وہ لوگ آہستہ آہستہ اس ادارہ کو چھوڑتے رہیں اور دوسرے اداروں میں ملازمتیں تلاش کرتے رہیں، اور آپ ٹیکنیکل آدمیوں کے لئے باہر کے ممالک کے دورے کرتے رہیں۔

میری تازہ اطلاع کے مطابق کچھ باتیں سامنے آئی ہیں۔ وہ یہ کہ اس ادارے کے سول اور ٹیکنیکل افسران کے درمیان ایک کشمکش برپا ہے۔ ٹیکنیکل افسران یہ کہتے ہیں کہ وہ اس ادارے کو چلانے میں اور اپنی صلاحیتوں سے تمام سکیموں کو بروئے کار لاتے ہیں، لیکن ان کی تنخواہیں اور اختیارات کم ہیں۔ دوسری طرف سول افسران جن کا کام صرف نگرانی کرنا ہے اور جو محکمہ کے مختلف مسائل کو سمجھ بھی نہیں سکتے ان کی تنخواہیں بھی زیادہ ہیں اور اختیارات بھی وسیع ہیں۔ دراصل آپ کے پاس سول سروس کا ایک کورس ہے اور آپ نے اسے ہر مرض کی دوا سمجھ لیا ہے۔ یعنی سول سروس کا ایک فرد انجینئر بھی بن سکتا ہے، ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے اور ہیلتھ منسٹری کا سیکریٹری بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔

اس سلسلہ میں مجھے ایک واقعہ ریاست کپور تھلہ کا یاد آ گیا ہے۔ وہاں ایک انگریز باہر سے دورے کے لئے آیا اور وہاں کے وزیر جیل خانہ جات سے ملا۔ (معزز وزیر کو دیکھ کر مجھے ایسے ہی یاد آ گیا ہے ورنہ مجھے صحیح طور پر پتہ نہیں کہ وہ کس وزارت کا وزیر تھا)۔ انگریز نے کہا کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً آپ نے کہیں دیکھا ہوگا۔ دراصل میں ڈاکٹر ہوں۔ اس سے پہلے سپرنٹنڈنٹ پولیس تھا اور اب وزیر جیل ہوں۔ آپ نے مجھے فلاں جگہ دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ پھر یہاں آئیں گے تو آپ مجھے سول سرجن پائیں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں پہلے وہ ایس ہی تھا، پھر وزیر بنا اور اس کے بعد سول سرجن بننے کا خیال ہے۔ یہی حالت ہمارے سول سروس کے افسران کی ہے، ان کو جس جگہ چاہا لگا دیا خواہ وہ جگہ موزوں ہو یا نہ ہو۔

صحیح طریق کار تو یہ ہے کہ جہاں ٹیکنیکل صلاحیت کی ضرورت ہو وہاں ایسے لوگ ہوں جو پلاننگ کر سکیں۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں ذمہ داری دینی چاہئے جو اس کام کو سمجھ سکیں۔ جس کی خامیوں کا جواب ان کو دینا ہے۔ اس پراجیکٹ کو صحیح طریقہ سے انجام دینے کے ذمہ دار ہیں، اس لئے انہیں ذمہ دار بنانا چاہئے۔

جناب والا۔ یہ اس محکمہ کے حالات ہیں جو پچھلے دو دن سے سنائے جا رہے ہیں۔ اگر کسی جمہوری ملک میں اور کسی ملک میں جہاں جمہوری نظام مملکت ہوتا اگر کسی ایسے محکمہ کی اتنی گہری اور دور رس شکایات عوام کے سامنے لائی جاتیں اور وہ بھی زبانی نہیں بلکہ اخبارات اور مستند دستاویزات کے حوالوں سے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کی وزارت مستعفی ہو جاتی اور حکومت مستعفی ہو جاتی اور اپنے سیاہ چہروں کو حکومت سے استفادہ کے پردوں میں نہ چھپاتی، لیکن جس ملک میں آمرانہ نظام ہو، اختیارات چند افراد کے ہاتھوں میں ہوں وہاں عوام کی آواز صدا بھرا ثابت ہوتی ہے۔ اس ادارہ میں یا اس محکمہ میں مزید ایک آدمی کی توسیع اس ادارہ کی کارکردگی پر اور خراب اثر ڈالے گی۔

بابو محمد رفیق (لورالائی - سبی) - جناب سپیکر۔ کسی ادارہ کی اچھائی یا برائی جانچنے کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اس ادارہ نے کون سے اچھے کام کئے ہیں اور کون سے برے کام کئے ہیں اور جو ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی تھی اس سے وہ کس طرح عہدہ برآ ہوا ہے۔ اس ہاؤس میں پچھلے دو دنوں سے واہڈا کے متعلق کافی لے دے کی گئی ہے اور تمام مغربی پاکستان کے مسائل اس ایوان میں فاضل ممبران لائے ہیں اور ان پر تنقید کی گئی ہے تو کچھ ایسے ہی مسائل آج کوئٹہ قلات ڈویژن سے بھی وابستہ ہیں وہ میں آپ کے سامنے اور اس ایوان کے سامنے لاؤں گا کیوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ عارضی طور پر بورڈ میں ایک ممبر بڑھا دینے سے وقتی طور پر یہ مسئلہ حل ہو جائے لیکن بنیادی

طور پر واہڈا کے پاس اتنا کام بڑھ گیا ہے کہ وہ اس محکمہ کو کنٹرول کرنے سے عاجز ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کی توجہ کوئٹہ تھرمل سٹیشن کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو کہ تقریباً ۴۰ کروڑ کی لاگت کا منصوبہ ہے اور اس علاقہ میں تقریباً مکمل ہو چکا ہے یا مکمل کیا جا رہا ہے، لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے کہ بجلی کی generation تو ہو گئی ہے لیکن اس کے لئے لائنوں کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو پروجیکٹ ۴۰ کروڑ روپے کے خرچ سے تیار کیا جائے اس کا اگر distribution سسٹم نامکمل ہو تو کیا یہ قومی ضیاع نہیں ہے اس کو ایک سال کا عرصہ بھی ابھی نہیں گذرا تھا کہ اس کا کولنگ پلانٹ سردیوں میں پھٹ گیا جس سے کافی دن تک پاور ہاؤس ناکارہ رہا۔ یہ صرف واہڈا کی صحیح پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے اور ایسی خرابیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ دو دن سے یہاں ہزاروں اور لاکھوں کلوواٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں۔

لورا لائی میں ایک چھوٹا یعنی ۱۰۰ کلوواٹ کا بجلی گھر ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ماہ رمضان میں وہاں لوگوں نے اس کی خرابی کی وجہ سے اور بجلی میسر نہ آنے کی صورت میں رات رات بھر مسجدوں میں اور گھروں میں موم بتیاں جلائی تھیں اور موم بتیاں جلا کر راتیں گزاریں تھیں۔ آخر میں نے چیئرمین واہڈا کو جب تار دیا تو پھر ہمارے پاور ہاؤس کی حالت ٹھیک ہوئی۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ میں اور بتانا چاہتا ہوں، ہر علاقہ کی ترقی کے سلسلے میں جو کچھ کہا گیا ہے اور جو کچھ خواجہ صفدر صاحب نے کہا ہے میں ان سے متفق ہوں اور ان کا ہمنوا ہوں۔

(اس مرحلہ پر چودھری عبدالغنی ایم پی اے مقرر کے سامنے سے گذرے)۔

مسٹر سپیکر - چودھری عبدالغنی جب کوئی فاضل ممبر بول رہے ہوں تو ان کے اور سپیکر کے درمیان سے نہیں گذرنا چاہئے۔

بابو محمد رفیق - میں لورالائی کے پاور ہاؤس کے extension کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ یہ چار پانچ لاکھ روپے کا منصوبہ ہے اور

اس بارے میں رشید صاحب ممبر بورڈ اور یوسف ضیا صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس معاملہ میں ذاتی دلچسپی لی، لیکن ایک سال ہو گیا ہے اور یہ سکیم کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ لائن بچھانے والے جو XEN ہیں وہ سکھر میں ہیں اور دوسرے بجلی والے XEN جو ہیں وہ کوئٹہ میں ہیں جب بجلی والے XEN سے کہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اور جب لائن بچھانے والے XEN سے کہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام ختم کر لیا ہے۔ اگر ایسی چھوٹی سکیم کے سلسلے میں کام کی یہ حالت ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پورے صوبے میں اتنے بڑے نظام کو کیسے چلایا جائے گا۔ لہذا میں یہ عرض کروں گا کہ اس ادارے کو چھوٹے چھوٹے یونٹوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ان معروضات کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔

حاجی سردار عطا محمد (خیبرپور-۲)۔ جناب سپیکر۔ اس کے اوپر کافی گرما گرم بحث ہو رہی ہے اور بہت روشنی ڈالی گئی ہے اور دائیں اور بائیں بازو کے ممبران نے اس پر کھل کر روشنی ڈالی ہے لیکن ہماری حکومت تو مان نہ مان میں تیرا مہمان والا حساب کر رہی ہے۔ اگر ایک ممبر کے بڑھانے سے یہ یقین ہو کہ یہ محکمہ دیانتداری سے اور ایمان داری سے اور سمجھ کر اس ملک کو صحیح فائدہ پہنچائے گا تو اس سے قطعی انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن تجربہ نے یہ بتایا ہے اور تجربہ نے دکھایا ہے کہ عوام اس سے قطعی نا امید ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کے معزز ممبران اس کی تائید کریں گے اور حکومت کے ساتھ مل کر اپنی رائے کو حکومت کے ساتھ شامل کر دیں گے لیکن میں خود اپنی رائے رکھتا ہوں کہ اس پر جو روپیہ خرچ ہوگا وہ قوم کے خزانہ سے جائے گا۔ موجودہ حالات میں میں اس عیاشی کو قبول نہیں کرتا۔ اس سے پہلے یہ بورڈ تین ممبروں پر مشتمل تھا اور جو اس کے ممبران ہیں ان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جہاں تک میرا علم ہے وہ بہت دیانتدار اور سمجھ دار ہیں اور ایماندار ہیں لیکن افسوس کہ ان کی رائے پر کوئی نہیں چلتا اور اس محکمہ میں سیاست چلائی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو گورنمنٹ ان کی مرضی

کے مطابق کام نہیں کرنے دیتی۔ میں مسلمان ہونے کا دعوے دار ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی بادشاہت ہے وہ مجھے دنیا اور آخرت میں کبھی معاف نہیں کرے گا اگر میں اپنا فرض نہ ادا کروں گا۔ میں اپنی حکومت کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ شہنشاہی صرف خدا کی ہے اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے وہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ”وَاللّٰهُ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب خدا کا ہے اور اس کی بادشاہی ہے۔ سب کو اسی کی طرف رجوع ہونا ہے۔ جناب سپیکر۔ میں اس سلسلے میں صرف چند باتیں اپنی دیکھی ہوئی اور اپنے تجربے کے مطابق عرض کروں گا۔ میں اپنے ضلع خیر پور جہاں کا میں رہنے والا ہوں اور جہاں کے عوام کی حالت بیان کر کے میں ان کی نمائندگی کرنا اپنا حق اور فرض سمجھتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی گورنمنٹ کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کام وہاں ہونا چاہئے تھا وہ وہاں ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے لیکن جو لوگ وہاں کام کے لئے بھیجے گئے ہیں ان کے ایر کنڈیشنڈ محل ضرور تیار ہو گئے ہیں۔ شاہی محلات اور شاہی طریقہ پر کالونیاں ضرور بن گئی ہیں۔ جو کام وہاں ہونا تھا اس کو دو برس میں مکمل ہونا تھا لیکن دو برس کی بجائے معلوم نہیں کتنے برس گذر چکے ہیں نہ وہاں کھمبے ہیں نہ وہاں تاریں ہیں اور نہ کوئی کام شروع ہوا ہے۔ وہاں بہت نقصان پہنچا کہ شہر میں کوئی باقی مکان نہیں ہے، نہ کچی جھونپڑی باقی ہے، نہ مردہ دفن کرنے کے لئے کوئی زمین ہے، نہ بھیڑ بکریاں چرانے کے لئے کوئی زمین باقی ہے۔ وہاں تمام چیزیں پانی میں چلتی ہیں۔ لوگ مہاجر بن گئے ہیں لوگ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ یہ صرف اس لئے کہ دیر ہی سے یہ کام ہو رہا ہے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ میں گزارش کروں گا اپنی گورنمنٹ کو کہ بجائے ممبر بڑھانے کے پہلے تمام واپڈا کے ہاؤس کو اوور ہال کریں اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ بھی اپنے آپ کو اوور ہال کرے۔ اتنے سیمینار ہو رہے ہیں جن پر اتنا خرچ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ بجلی کو اتنا بڑھایا گیا اور بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ لوگ اس گورنمنٹ سے

متنفر ہو گئے ہیں۔ اگر آپ اس کو دیانتدار سمجھتے ہیں تو ہمارے ساتھ ٹرائبل ایریا میں چلیں میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا۔ پھر دیکھیں لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آسمان والے لوگ بات کرتے ہیں زمین، والے لوگوں کے ساتھ۔ میری گزارش یہ ہے اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اس ہاؤس میں غلط بیانی سے کام نہ لیں۔ غلط بیانی کرنا غیرت مند قوم کو چیلنج کرنا ہے۔ میں اپنے بر سراقندار لوگوں کو جو واپڈا کو چلانے والے ہیں مشورہ دوں گا کہ اس محکمے کا نئے سرے سے سروے کریں اور میری گزارش ہے کہ یہ پیسہ قوم کا ہے اور کسی واحد شخص کا نہیں نہ کسی واحد شخص کے باپ کا ہے۔ قوم مسلمان قوم ہے۔ ان کے آگے ان کے رہنماؤں کی تاریخ ہے جو ان کو نظر آ رہی ہے۔ جو اس وقت ملک کے رہنما تھے سربراہ تھے، وہ پیوند لگا کر کپڑے پہنتے تھے، درختوں کے نیچے رہتے تھے اور ان کے ارد گرد کوئی باڈی گارڈ نہ تھا۔ ان کی تاریخ بھی ان کے سامنے ہے۔ اس لئے میں گزارش کروں گا کہ غلط بیانی سے کام نہ لیں اور کام کرنے کا کوئی طریقہ سوچیں۔ پرانے راہنماؤں کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ پیدل چلتے تھے ان کے اوپر کوئی پہرہ دار نہ تھا۔ فیصلہ و کسریٰ کی حکومتیں بھی ان سے ڈرا کرتی تھیں اس لئے میں گزارش کروں گا کہ آپ اسراف سے پرہیز کریں کیوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ بلاشبہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔

اس لئے جناب سپیکر میں حکومت کو عرض کرتا ہوں کہ حکومت تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کا ڈر دور کرنے کے لئے ان کو استعفیٰ دے دینا چاہئے ان کو کرسیاں چھوڑ دینی چاہئیں۔ خدا جانے یہاں کیا ہوگا۔ ہماری گورنمنٹ کے لئے کوئی روک تھام نہیں۔ آخر کوئی حد ہونی چاہئے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی چاہئے کہ جہاں سے آئے ہیں وہیں لوٹ کر چلے جانا ہے لیکن یہ تو قوم کو ڈبو رہے ہیں لیکن قوم نہیں ڈوبے گی اگر انہوں نے خود کو ڈبونا ہے تو پھر یہ ان کی مرضی۔ ان کو استعفیٰ دینا چاہئے بس اس مشورے سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔

Mr. Ahmed Mian Soomro (Jacobabad-II) : Mr. Speaker, as far as the principle of the present Ordinance is concerned, I support the Ordinance because of the reason that it seeks to bring in a Member (Technical) into the Authority's fold. Actually this should have been there when this Authority was created because the most important work of this Authority is on the technical side. There is no doubt that not only the person, who has been appointed to this post but also other Officers heading the Authority as Chairman or Members, are people whose efficiency and integrity, I think, would be second to none in this Province. But I do certainly disagree with this having been brought as an Ordinance. The Authority is in being since 1958 by the Water and Power Development Act. There was nothing so very urgent to necessitate the use of the urgent powers given under the Constitution for bringing this as an Ordinance. It could very well have been brought as a bill in the earlier sessions or even in this session.

Sir, seeing as far as this Ordinance seeks to bring in a Member (Technical), as I said that is a good step, but let us see, as we have in the last two days been hearing the various sections of this House, as to whether there is something basically wrong in having an Authority of this type to look after such a large area. With the best of people at the helm of affairs, at the head of this Authority, I think there are hardly one or two persons who are not against the working of this Authority. We know of the power failures, and the bad name that WAPDA has got is mainly because of its being in charge of electricity.

We know how undependable electricity is. We know what has happened in Multan Generating Station but I do not want to touch any of the other things which have been debated upon by my other learned friends of this House. Of course, I would support the view that is already being studied by the Centre for creating authorities with smaller spheres of operation. Decentralisation and splitting up of this Authority with much smaller areas, which they can look after, would be more feasible and serve the purpose because the area of the present Authority is not at all feasible. Electricity is being developed and the area of operation is no doubt being developed but not its efficiency which is going down. I would, through you, draw the attention of my worthy Minister to the state of affairs of electricity as far as my own district is concerned. Electricity has gone through different areas and it has passed through one of the town areas of Ghauspur but it has not been supplied to the Town Committee. But a zamindar by the name of Haji Wahid Bux, although his village is situated a few miles away from that town, has been given electricity. He did get electricity from WAPDA to his village but not the Town Committee. What could be the reason ; I don't want to say anything about it. You know better. How is it that a zamindar living miles away from the Town Committee gets electricity from WAPDA through a special line but the Town Committee cannot get electricity ? You are uprooting the confidence of the people put in you by such instances. You are no doubt trying, through this Authority, to by-pass all the red-tapism with a view to increase efficiency. The powers enjoyed by WAPDA, this parallel government, are more than those enjoyed by the government itself. I do not want to go into the details of the amount of wastage, of the rates given by WAPDA and the amounts incurred on these huge buildings because that has already been pointed out in detail by the worthy Members of this House but I would, once again, draw the attention of the learned Minister to giving a very early consideration to the splitting up of this Authority into smaller spheres in order to serve the purpose of efficiency which you are so determinedly and with great efforts trying to seek.

سید عنایت علی شاہ (پشاور - م) - جناب سپیکر - مسئلہ زیر بحث تو یہ ہے کہ واپڈا کو ایک چوتھا ممبر جو ٹیکنیکل ممبر کہلانے گا دیا جائے۔ یہ سادہ سی ترمیم تھی اور اسے بلا چون و چرا مان لینا چاہئے تھا۔ لیکن حزب اختلاف نے اپنے سابقہ رویہ کو مدنظر رکھتے ہوئے اس پر نکتہ چینی کی اور نہایت شد و مد سے اس کی مخالفت کی۔ مگر ان کے تمام اعتراضات حقائق سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتے ان میں کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے۔ جناب سپیکر - ایک محکمہ کے تجزیہ کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے اس کی جانچ پڑتال کرائی جائے یہ معلوم کیا جائے کہ یہ ماضی میں کیا کرچکے ہیں۔ اس کی کیا کارکردگی ہو چکی ہے۔ حزب اختلاف کے ممبران بھی یہ ماننے کے لئے تیار ہیں کہ برق کی پیداوار پہلے سے بہت بڑھ چکی ہے۔ جہاں تک آب کا تعلق ہے ٹانڈا ڈیم - وارسک ڈیم - منگلا ڈیم اور دیگر پراج اس کے بڑھنے پر دلالت کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ یہ محکمہ خاصہ کام کر چکا ہے۔ لہذا اگر یہ ایک چوتھا ممبر طلب کرتا ہے تو اس میں پس و پیش نہیں ہونی چاہئے۔

جناب سپیکر - حزب اختلاف کے معزز اراکین نے چند اعتراضات کئے ہیں جن کے متعلق میں کچھ عرض کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ زیادہ تر اعتراض تو یہ تھا کہ افسران کی تعداد زیادہ ہونے سے کام بگڑ جاتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہو تو پھر فوج میں صرف کمانڈر انچیف ہونا چاہئے نہ کوئی جرنیل ہونا چاہئے نہ میجر جرنل نہ بریگیڈیئر۔ ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح صوبے میں صرف چیف سیکرٹری کافی ہے۔ دیگر سیکرٹریوں کی ضرورت نہیں۔ مگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ ان کا یہ خیال غلط ہے۔ بہترین کارکردگی کے لئے افسران کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ انتظامیہ آفسر زیادہ ہوں تو ایڈمنسٹریشن کا کام اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ محکمہ بہت لمبا چوڑا ہے اور اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں چار ممبروں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تین ممبروں پر جو بوجھ تھا وہ چار پر تقسیم ہو جائے گا۔

اس لئے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ چوتھے ممبر کی ایزادی کی اجازت دی جائے۔ جناب سپیکر۔ واہڈا کی بہتر کارکردگی کے باوجود اس میں چند تقاضے ہیں اور میں اپنا فرض اولین سمجھتا ہوں کہ اس بارہ میں کچھ معروضات پیش کروں۔ مجھے توقع ہے کہ اس سلسلہ میں مناسب تحقیقات کی جائے گی اور انہیں پورا کیا جائے گا۔

سب سے پہلے تو ایم۔ سی۔ جی کا مسئلہ ہے۔ اس کے متعلق جناب سپیکر۔ آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور اس ہاؤس کے سب اراکین اس کے متعلق کچھ بیان کر چکے ہیں۔ جہاں تک صارفین کا تعلق ہے یہ صارفین پر ایک ٹیکس اور بوجھ ہے۔ جہاں تک کارخانوں اور نجی بجلی کا تعلق ہے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن جہاں تک آبپاشی کا تعلق ہے مجھے اس پر زبردست اعتراض ہے کیونکہ یہ ”زیادہ اناج اگاؤ“، مہم میں زبردست رکاوٹ ہے۔ لہذا میں جناب وزیر صاحب اور واہڈا کے افسران کی خدمت میں نہایت واشگاف الفاظ میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے آبپاشی کے سلسلہ میں ایم۔ سی۔ جی کو برقرار رکھا تو یہ صدر ایوب کی ہالیسی کے منافی ہوگا اور ان کی یہ ہالیسی کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ اس پر دوبارہ مناسب غور کریں۔

جناب سپیکر۔ میں نوشہرہ میونسپل کمیٹی کا وائس چیئرمین بھی ہوں۔ وہاں چند بلب بدلنے کی ضرورت تھی لیکن تین ماہ تک واہڈا والے وہ بلب نہ بدل سکے۔ چنانچہ ہم نے میونسپل کمیٹی کی طرف سے خود بلب منگوائے۔ میں اس سلسلے میں ایگزیکٹو انجینئر اور چیف انجینئر سے ملا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس خریدنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ صرف لاہور سے انڈنٹ ہوتے ہیں۔ سارے اختیارات کو مرکز میں جمع کر دینے سے عوام مصیبت کا شکار ہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ انہیں decentralize کیا جائے تاکہ ہر علاقے کے ایگزیکٹو انجینئر اور چیف انجینئر کے پاس یہ اختیارات ہوں کہ وہ ضرورت کے وقت عوام کی سہولت کے لئے سامان خرید سکیں۔

علاوہ ازیں میری عرض یہ ہے کہ ایک طرف واہڈا کے آفیسر اور دوسرے

ملازمین ہیں اور دوسری طرف لوگ ہیں جو صارفین ہیں۔ اس لئے بہتر یہ ہوگا کہ ان چار ممبروں کے علاوہ ایک عوامی ممبر بھی رکھ لیا جائے (تالیان) تاکہ وہ وہاں عوام کے نقطہ نظر کو بہتر طریق پر پیش کر سکے۔ اور مناسب یہ ہوگا کہ وہ اس ایوان کا ایک ممبر ہوگا۔ ان معروضات کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اور پر زور اپیل کرتا ہوں کہ چوتھے ممبر کی اجازت دی جائے۔

چودھری انور عزیز (سیالکوٹ - م) - جناب والا - مخدوم حمید الدین صاحب نے ایک بڑا ہی معصوم قسم کا بل اس معزز ایوان میں پیش کیا تھا۔ ان کو ہتہ نہیں تھا کہ وہ بھڑوں کے چہتے کو چھیڑ کر دو دن تک طعنے سنتے رہیں گے۔ (مداخلت) جناب والا - قدرتی طور پر جب کسی محکمہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی کارکردگی درست نہیں ہے تو محکمہ کے لوگ جو آفیشیل کیلری میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وزیر متعلقہ کے چہروں سے خشمگی کا اظہار ہوتا ہے۔ کچھ ان کی جبینوں پر شکنیں بھی پڑ جاتی ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ کوئی انسان بھی اپنی بد تعریفی سننا پسند نہیں کرتا۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس لئے کہی جاتی ہیں کہ ان کو ان کا علم نہیں ہوتا اور عوام کے نمائندے ان کو اس لئے ان کے سامنے لاتے ہیں کہ شائد کارکردگی بہتر ہو سکے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ جو کچھ حزب اختلاف کی طرف سے کہا گیا ہے وہ تمام کا تمام درست نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ واہڈا کی وجہ سے کچھ اچھے کام بھی ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ جناب والا - اکنامک ڈویلپمنٹ میں واہڈا کی بہت بڑی contribution ہے۔ لیکن میں جناب مخدوم صاحب سے بصد عجز اور ان کے محکمہ سے بھی معافی کے ساتھ یہ گزارش ضرور کروں گا کہ جو کچھ یہاں تنقید کی گئی ہے وہ بھی تمام کی تمام غلط نہیں ہے بلکہ کچھ باتیں بین بین ہیں۔ آپ اگر غور سے دیکھیں تو میں یہی کہوں گا کہ میں اس کے لئے نہ مخدوم صاحب کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں اور نہ ہی ان کے افسران کو غلطی پر سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واہڈا کا constitution اور اس کا سسٹم ہی ایسا بن گیا ہے کہ اس میں مجبوراً کچھ کوتاہیاں

اور کچھ اس قسم کی چیزیں نظر انداز ہو گئی ہیں۔ جناب والا۔ آپ زمیندار ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب آپ کنویں سے پانی نکالنے کے لئے کوئی اچھا بیل جوت دیں اور ”گادی“ پر بیچھے آپ خود نہ بیٹھیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بیل کچھ سست پڑ جاتا ہے۔ (قطع کلامیاں) دوسرے جناب والا۔ اگر آپ کو کبھی گھوڑ سواری کرنے کا اتفاق ہوا ہو تو اگر آپ گھوڑے کی لگام اچھی طرح سے نہ پکڑیں تو خواہ کتنا ہی اچھا گھوڑا کیوں نہ ہو وہ سست پڑ جاتا ہے۔ واہڈا کے افسران اور مخدوم صاحب جو اس محکمہ کے وزیر ہیں ان کی نیت اور ان کی قابلیت پر کسی کو شک نہیں ہے لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ واہڈا کی constitution میں کوئی ایسی شق نہیں کہ جس کی رو سے واہڈا والوں سے پوچھا جا سکے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ان کا محکمہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے پوچھتا کہ یہ کام کر لیں یا نہ کر لیں لیکن انکو کوئی بیرونی طاقت روکنے والی نہیں ہے۔ ان کو کوئی بیرونی طاقت بتلانے والی نہیں ہے کہ اس محکمہ میں متعدد غلطیاں ہو رہی ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی نیک نیتی کے باوجود ان کی بہترین کاوش کے باوجود کام صحیح نہیں ہوتا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر آنکھ میں کوئی تل ہوتا ہے جو اسے خود نظر نہیں آتا۔ ان کی آنکھ بہت بڑی ہے اس لئے ان کا تل بھی بہت بڑا ہے کونسی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ان کی نگاہیں دور رس ہونے کے باوجود نہیں پہنچ سکتیں۔

جناب والا۔ انتظامیہ اور لیجسلیچر کا تعلق کچھ میاں بیوی جیسا تعلق ہوتا ہے۔ (تہقہہ) اگر بیوی خود سر ہو جائے حالانکہ خاوند اس کو خود سر کر دیتا ہے کہ یہ خود سر ہو کر خوش ہو جائے گی لیکن وہ پھر بھی چیختی چلاتی زہتی ہے اور خاوند کی بے عزتی کرتی رہتی ہے۔ یہ انتظامیہ ویسے قانون کے مطابق ہماری بیوی ہے۔ لیکن یہ آہستہ آہستہ اتنی خود سر ہو گئی ہے کہ باوجود ہماری بے بسی کے خوش نہیں ہوتی اور کام بھی درست نہیں کرتی۔ اس لئے میں یہ گزارش کروں گا کہ خاوند کو چاہئے

کہ ڈنڈا پکڑ کر اس کو درست کرے اور اس کو سمجھائے کہ اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے انجام دے۔ (قطع کلامیاں) مخدوم صاحب صنف نازک سے امداد کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دوبارہ ان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ (قبضہ)

Mr. Speaker : Is the Member supporting Makhdum Sahib.

Chaudhri Anwar Aziz : I am not, Sir.

ملک محمد اختر - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب والا - انور عزیز صاحب نے جو بھی تجویز کیا ہے یہ most inadvisable ہے اس پر عمل نہ کریں -

Mr. Speaker : This is not a point of order.

چودھری انور عزیز - جناب والا - ملک صاحب ہمیشہ دخل در معقولات کرتے رہتے ہیں - جناب والا - میری گزارش یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ - - -

صاحبزادی محمودہ بیگم - جناب والا - انور عزیز صاحب سے میری یہ عرض ہے کہ عورتوں کے بارے میں انہوں نے یہاں جو غیر پارلیامانی الفاظ استعمال کئے ہیں ان کو وہ الفاظ واپس لینے چاہئیں -

مسٹر سپیکر - چودھری صاحب آپ اس چیز کی وضاحت فرمائیں گے۔ (قبضہ)

چودھری انور عزیز - جناب والا - اگر آپ کا حکم ہے تو میں ضرور اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں - یہ سنا ہے اور مذہب میں بھی آیا ہے کہ عورت کو مارو لیکن زور سے نہ مارو کہ اس کے نشان پڑ جائیں اور پھر ایک جگہ قانون میں بھی ہے کہ عورت کو مارنا جائز ہے بشرطیکہ جس سوئی سے مارا جائے وہ انگوٹھے سے موٹی نہ ہو۔ (قبضہ اور قطع کلامیاں)

مسٹر سپیکر - چودھری صاحب صاحبزادی صاحبہ کے اعتراض کے پیش نظر مناسب یہ ہوگا کہ آپ وہ الفاظ واپس لے لیں -

چودھری انور عزیز - جناب والا - میں صاحبزادی صاحبہ کی بہت عزت کرتا ہوں - انہوں نے اس پر اعتراض کیا ہے اس لئے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں -

Mr. Speaker : Please pass on to next argument.

چودھری انور عزیز - جناب والا - لیجسلیچر کی حالت کچھ ایسی ہو چکی ہے کہ یہ بات کہنے سے پہلے ہی واپس لے لیتے ہیں وہ بات انتظامیہ تک پہنچتی ہی نہیں ہے - میں تو صرف بات سمجھانا چاہتا تھا - (قطع کلامیاں) جناب والا - میں نے ایک بات کہی ہے جس کی وجہ سے تمام ہاؤس کو طبع آزمائی کا موقع مل گیا ہے - میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا - - -

صاحبزادی محمودہ بیگم - پوائنٹ آف آرڈر - جناب والا - میں اس بات کی معافی چاہتی ہوں اور انور عزیز صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی غیر ملکی بیوی ہے یہ اس کو کتنا مارتے ہیں ؟

Mr. Speaker : No personal remarks please.

صاحبزادی محمود بیگم - اس قسم کے ریمارکس سے عورتوں کی ہتک ہوتی ہے -

مسٹر سپیکر - آپ تشریف رکھیں -

چودھری انور عزیز - جناب والا - میں نے اپنے الفاظ واپس لے لئے تھے نمبر ایک - نمبر دو یہ عرض ہے کہ اگر وہ میری زندگی کے متعلق تفصیل پوچھنا چاہیں وہ یہاں پوچھ لیں یا باہر پوچھ لیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے - (تہقے - قطع کلامیاں)

Mr. Speaker : Now please something about the Ordinance and not about your personal life.

Chaudhri Anwar Aziz : I am also anxious about that.

جناب والا - میں تو گزارش اس لئے کرنا چاہتا تھا کہ اس ہاؤس میں واہڈا کے وزیر صاحب اور واہڈا کے افسران تک جو آفیشیل کیلری میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے خیالات پہنچا سکوں - یہ چیز انسان کی آرگنائزیشن میں ہے

کہ انسان کے اوپر انسان ہی بطور جج کے بیٹھے اور ایک دوسرے کا توازن قائم رکھے۔ جب آپ کسی چیز کے متعلق کسی آرگنائزیشن کو طاقت دے دیں گے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ میں اس وقت ایک خاص فقرہ جو لارڈ ایکن نے کہا تھا عرض کرتا ہوں کہ "Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely" جس میں آپ باوجود بہتر نیت کے باوجود اتنی کاوش کے باوجود بہترین کوشش کے اگر آپ کسی کو نہیں پوچھیں گے تو وہ آئندہ خراب ہوتا چلا جائے گا۔ اس قسم کے روزمرہ کے مشاہدات کے متعلق تاریخ نے بڑی دلیلیں پیش کی ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ آرگنائزیشن فیل ہوئی ہے۔

جناب والا۔ واہڈا نہ صرف اپنے آپ کو الگ تھلگ ادارہ سمجھتا ہے بلکہ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہو تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔

جناب والا۔ آپ دیکھیں گے کہ واہڈا والوں کو جب کبھی یہ کہا جائے کہ حضور کبھی ہمیں بھی اپنا بچٹ دکھا دیا کریں تو وہ اس کے جواب میں فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم تو بیرونی ممالک سے قرضے لیتے ہیں اور ہماری تو direct treaties ہوتی ہیں اور ہمیں تو بہت زیادہ روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور یہ کہ ہمیں تو بیرونی ممالک کی بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ معاہدات طے کرنے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا معلوم کہ یہ باتیں کس طرح کی جاتی ہیں۔ تو میں آپ کی وساطت سے اس ادارے کے ارباب بست و کشاد سے عرض کروں گا کہ بالآخر یہ پیسہ تو قوم نے ہی ادا کرنا ہے۔ واہڈا والوں نے اپنی جیب سے تو ادا نہیں کرنا۔ آخر کار اس کی ذمہ داری ہم پر ہی عائد ہوتی ہے۔ لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ان سب باتوں کے باوجود واہڈا کے کسی کام پر بھی عوام کے کسی نمائندے کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کے علاوہ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ مخدوم صاحب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ

چھوٹا سا ہنگامی قانون اس ایوان میں پیش ہوا جس کی وجہ سے واہڈا کے کچھ افسران ان کے کمرے میں آتے جاتے دیکھے جاتے ہیں ورنہ تو ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اگر مخدوم صاحب کو ان سے کوئی کام پڑ جاتا ہے تو انہیں اس کے لئے کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو واہڈا کے ارباب حل و عقد کو یہ تک نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ یہ جو اے ہوائنٹ سے بی ہوائنٹ تک لائیں لے جا رہے ہیں۔ آپ اس کی بجائے اگر اے ہوائنٹ سے سی ہوائنٹ تک لائیں لے جائیں جو کہ ہمارے علاقے سے گذرتی ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جس کے جواب میں وہ فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے شاید درسیان علاقے میں آپ کا گھر بھی پڑتا ہو یا آپ کا گاؤں بیچ میں آتا ہوگا۔ آپ اس لئے اس بات کے لئے کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ ہم انہیں حلفیہ یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہمارا گھر یا ہمارا گاؤں اس مجوزہ لائین کے درسیان کہیں بھی نہیں پڑتا

مسٹر حمزہ - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب سپیکر - انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ یہ مختصر سا ہنگامی قانون اس معزز ایوان میں پیش کیا گیا ہے، اس لئے اس کی وجہ سے واہڈا کے افسران اکثر و بیشتر مخدوم صاحب کے کمرے میں آتے جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ میری دانست میں انہوں نے صرف آدھی بات کہہ دی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وزراء صاحبان واہڈا والوں کے کمروں میں ہوا کرتے تھے۔

Mr. Speaker: This is not a point of order.

چودھری انور عزیز - جناب والا - حمزہ صاحب میں اور مجھ میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ حمزہ صاحب جب بھی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بڑے غصے میں اسے ادا کرتے ہیں جب کہ میں اپنی گزارشات بڑی عاجزانہ طور پر پیش کرتا ہوں اور اگر میری گزارشات پر غور کیا جائے تو بہتر اور اگر ان کو درخور اعتناء نہ بھی سمجھا جائے تو بھی مجھے اس پر کوئی خاص غصہ نہیں آتا۔ کیوں کہ

میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی اپنے دیگر رفقاء کے ساتھ شامل ہوں۔ لیکن پھر بھی اپنی بات کہہ دینا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اور یہ گزارشات بھی اسی جذبے کے تحت کر رہا ہوں۔

جناب والا - جب تک آپ واپڈا کے بنیادی سسٹم تنظیم اور دستور میں کسی نہ کسی طریقے سے عوامی نمائندوں کو شامل نہیں کریں گے اس وقت تک اس ادارے کی کارکردگی کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس بات میں میں اپنے بھائی سید عنایت علی شاہ صاحب کی حمایت کرتا ہوں کیوں کہ انہوں نے بھی یہی بات ابھی ابھی فرمائی تھی۔ لیکن اگر آپ کو ایسا کرنا منظور نہ ہو تو پھر چونکہ واپڈا کے پاس بے اتنہا پیسہ ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تعلقات عامہ کا ایک علیحدہ محکمہ بھی قائم کر رکھا ہے جس میں ان کا آفسر تعلقات عامہ باقاعدگی سے کام بھی کر رہا ہے۔ کم از کم ان کے ذریعے ہی معلوم کر لیا کریں کہ ہمیں کیا تکالیف ہیں۔ شاید اسی طرح ہمارے اور ان کے تعلقات بہتر ہو سکیں۔ آپ نے بھی ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ اس معزز ایوان میں جتنی تقاریر ہوئی ہیں ان سب میں ہی واپڈا کی مخالفت کی گئی ہے جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر ان کے دیگر شعبے درست طور پر کام کر بھی رہے ہوں تو بھی کم از کم ان کے تعلقات عامہ کا شعبہ ٹھیک طور پر کام نہیں کر رہا ہے۔ ورنہ یہ اتنے سارے لوگ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوتے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ عوام کے جو نمائندے ہیں انہیں ان کی بات بھی کبھی کبھی سن لینی چاہئیں اور ان کی بات بھی کبھی کبھی مان لینی چاہئے اور کبھی کبھی ان کے مشوروں سے استفادہ بھی کرنا چاہئے کیونکہ تاریخ میں یہ بات مستند حیثیت رکھتی ہے کہ جو تا پہننے والے کو ہی صرف معلوم ہوتا ہے کہ اسے جو تا کس جگہ پر کائنا ہے۔ یہ لوگ تو اپنے دفتروں میں بیٹھ کر مختلف مسائل پر اپنے فیصلے صادر کر دیتے ہیں اور جب ان سے کوئی کچھ کہے تو وہ سر ہلا کر کہتے ہیں کہ انہیں تیس سال کا تجربہ ہے اور وہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیوں کہ وہ اس علاقے میں ایس۔ ڈی۔ او۔ ایکس۔ ای۔ این

اور ایس - ای رہ چکے ہیں - اسطرح وہ عقل کل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں - حالانکہ انسانی تجربات اور مشاہدات اس دعویٰ کے بالکل برعکس ہیں - انسان نے صرف یہی ایک بات تو دریافت کی ہے اور وہ یہ کہ انسانوں میں کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا - اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس بات میں مجھ سے متفق ہوں گے - باوجودیکہ آپ سپیکر کی کرسی متمکن ہیں - کہ انسانوں میں عقل کل کوئی بھی نہیں ہوتا اور ہم انسانوں کا ایک دوسرے سے باہمی مشورے پر ہی گزارہ چلتا ہے ، اس لئے ان واہڈا والوں کو کبھی ہم سے بھی مشورہ لے لینا چاہئے ، یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے - ہم کوئی ان کے دشمن تو نہیں ہیں - اگر ان کی کارکردگی سے قوم پر برا اثر پڑتا ہے تو بہر حال ہم بھی اس قوم کے افراد ہیں - ایسا بھی تو ہو سکتا کہ ہم ان کی کسی غلط کارکردگی کی جانب ان کو متوجہ کر سکیں - آخر ہر انسان میں کچھ کمزوریاں اور خامیاں ہوتی ہیں - میں واہڈا کے افسران بالا کی نیتوں پر شک نہیں کرتا ، مجھے واہڈا کے وزیر صاحب کی ذہانت پر کوئی شبہ نہیں ہے - لیکن میں ذاتی طور پر یہ جانتا ہوں کہ ان کے یہ چھوٹے چھوٹے افسر ، افسر نہیں بلکہ خدا بنے ہوئے ہیں - میرے ساتھ اس قسم کے ذاتی واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ میں ٹیوب ویل کے connections کے لئے اپنے غریب بھائیوں کی درخواستیں لے کر ان کے پاس گیا ہوں - - -

حاجی سردار عطا محمد - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب سپیکر - میں چودھری انور عزیز صاحب کے ان الفاظ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا کہ یہ چھوٹے چھوٹے افسر خدا بنے ہوئے ہیں - میرے خیال میں بہتر ہوتا اگر وہ یہ فرماتے کہ وہ تھانیدار بنے ہوئے ہیں -

چودھری انور عزیز - جناب والا - حاجی صاحب کی لغات نرالی ہے -

جناب والا - میرے کچھ دوست اور رشتہ دار اس محکمے میں ملازم ہیں اور میں ان کے توسل سے یہ بات جانتا ہوں کہ کس آسانی کے ساتھ واہڈا والوں کو جیبیں اور کاریں مہیا ہوتی ہیں - جو کہ ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے استعمال کی جاتی ہیں - مثلاً اگر کسی تقریب میں

بیٹھے بیٹھے سگریٹ کی ضرورت پڑی یا تکیے کباب وغیرہ منگوانے پڑ گئے تو فی الفور ان کی گاڑی بھیج دی جاتی ہے۔ انکے اوورسیٹراس شان سے پھرتے ہیں کہ جیسے کسی regular محکمے کا ایس۔ ای۔ بھی نہ پھرتا ہو۔

جناب والا۔ اس ہنگامی قانون کے پیش ہونے پر اتفاق سے یہ موقع ہاتھ آیا ہے کہ میں اس قسم کی گذارشات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اس لئے میں آپ کی وساطت سے مخدوم صاحب اور واہڈا کے انسران کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ ان باتوں کا برا نہ مانیں۔ کیوں کہ یہ سب کچھ ہم اپنی ذات کے لئے نہیں کہہ رہے ہیں اور نہ ہی ان باتوں سے ان کی شان میں گستاخی کرنا مقصود ہے۔ بلکہ جو باتیں پاکستان کی بہتری اور اپنے علاقے کی بہبود کے لئے ضروری سمجھتے ہیں، وہی موقع ملنے پر یہاں بیان کر دیتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی اپنا بجٹ ہمیں بھی دکھا دیا کریں کہ یہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور ٹیوب ویلوں کی تنصیب کس طرح کی جاتی ہے اور جو نصب ہونے کے بعد بند بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کبھی کبھی یہ بتا دیا کریں کہ وہ کس طرح اسقدر روپیہ ادھر ادھر ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کا علم ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی کارکردگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ کیوں کہ یہ کہہ دینا کہ میں حرف آخر عرض کر رہا ہوں اور اس سے بہتر بات کوئی اور نہیں کر سکتا یہ بذات خود بہت بڑی غلطی ہے۔ لیکن انسان نے ہمیشہ سے ہی اسی طرح ترقی کی ہے کہ اس کے موجودہ حالات میں بہتری کی کوئی صورت پیدا کی جائے اور واہڈا کے حالات میں بہتری پیدا کرنے کے تو بہت سے مواقع ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کو یہ توفیق ہو کہ وہ اپنے مسائل کے متعلق ہم سے بھی مشورہ کر لیا کریں تاکہ ہم بھی ان کو مفصل طور پر کچھ عرض کر سکیں۔ ان گذارشات کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔

نوابزادہ رحمدل خان (بنوں - ۲)۔ جناب والا۔ میں اپنے خیالات کے اظہار کا آغاز دو سکھوں کی ایک ملاقات سے کرتا ہوں۔ جناب والا۔ ایک سردار جی کسی دوسرے سردار جی سے ملے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ

وہ کتنے بھائی ہیں - دوسرے سردار جی نے جواب میں بتایا کہ وہ چار بھائی ہیں - اس پر پہلے سردار جی نے کہا کہ اگر وہ چھ یا آٹھ بھائی ہوتے تو کیا کر لیتے - بعینہ اگر واہڈا کے ان دو ممبران کی بجائے چھ ممبران بھی کر دیتے جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا - البتہ اگر کہیں کسی اور طبقے سے یا عوام میں سے ہی یا کسی خاص public interest سے آپ یہ مجوزہ تیسرا رکن منتخب کرتے ہیں تو اس صورت میں واقعی اس ہنگامی قانون کا کچھ فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور عوام بھی اس ادارے سے مستفید ہو سکتے ہیں اور جس طرح کہ یہاں پر میرے تمام بھائیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس ادارے میں اور کچھ نہیں تو کم از کم عوامی نمائندوں کو ہی شامل کرنا چاہئے تاکہ وہ بھی اس ادارے میں بیٹھ کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اور اپنی تجاویز پیش کر سکیں -

جناب والا - میں اس ادارے کی کارکردگی سے متعلق ایک ادنیٰ سی مثال عرض کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک واہڈا میں نئی بھرتی بلاک سسٹم پر نہیں ہو رہی تھی بلکہ اس کے برعکس امیدواروں کا انتخاب ان کی قابلیت کو مدنظر رکھ کر کیا جاتا تھا - لیکن ہفتے عشرے کا ذکر ہے کہ انہوں نے کچھ اسسٹنٹ انجینئرز لینے تھے - اتفاق کی بات ہے کہ پشاور یونیورسٹی کی جانب سے جتنے بھی امیدوار تھے ، وہ سب کے سب First Divisioners تھے اور جو پنجاب یونیورسٹی سے پاس شدہ تھے وہ سب کے سب ہی Second Divisioners تھے - تو جب امیدواروں کے انٹرویو کا وقت آیا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ اب تو واہڈا میں نئی بھرتی کے لئے بلاک سسٹم رائج ہو گیا ہے - حالانکہ جیسا کہ میں شروع ہی میں عرض کر چکا ہوں - اس سے پہلے بلاک سسٹم رائج نہیں تھا - تو اس بلاک سسٹم کے نتیجے کے طور پر وہ امیدوار جو کہ First Divisioners تھے ، وہ سب ناکام ہو گئے اور جو Second Divisioners تھے ان میں سے انہوں نے مطلوبہ تعداد کو لے لیا - ہمیں بلاک سسٹم کے رائج کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے - بھلی سے وہ اس سسٹم کو رائج کریں

لیکن اسے صرف اسی وقت رائج نہ کریں جب کہ ان کے پاس فرسٹ ڈویژن میں پاس ہونے والے امیدوار نہیں تھے اور جب آئندہ کبھی ایسی صورت نہ ہو تو وہ اس طریقے کو ختم کر دیں۔ اس پر طرہ یہ کہ سابق صوبہ سرحد سے جو دو امیدوار لائے گئے ہیں ان میں بھی جو لڑکا پشاور یونیورسٹی میں دوئم نمبر پر آیا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ (اول آنے والے لڑکے نے درخواست نہیں دی تھی)۔ اور جو لڑکے بارہویں اور چودھویں نمبر پر آئے تھے ان کو لیا گیا ہے۔ جب وہ لڑکا جو کہ یونیورسٹی میں دوسرے نمبر پر آیا ہے، کہتا ہے آپ نے مجھے کیوں نہیں لیا تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ تم نے in parts امتحان پاس کیا ہے اور ہم نے جنکو منتخب کیا ہے۔ انہوں نے as a whole امتحان پاس کیا ہے اس لئے ان کو تم پر ترجیح دی گئی ہے۔ جب وہ ان کو یہ جواب دیتا ہے کہ میں آپ کے اس بیان کو چیلنج کرتا ہوں کیونکہ یہ لڑکے تو ضمنی امتحان میں میرے ساتھ ہی شریک ہوئے تھے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ بیمار تھے اس لئے وہ سالانہ امتحان میں شریک نہیں ہو سکے تھے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کم از کم اس امر کی جناب وزیر متعلقہ سے ضرور تحقیق ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ اس ناانصافی کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ میں ایک اور عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ وزیر صاحب نے مجھے فرمایا ہے کہ ایسی ناانصافی نہیں ہوتی ہے۔ جب ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو فوری طور پر ان کو سہیا کی جاتی ہیں "villains we are and villains shall we remain" کے باوجود غریب کو خدا نے پیدا کیا ہے اور غریب زندہ رہے گا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔

صاحبزادی محمودہ بیگم (بی۔ ڈبلیو۔ ۱۵۳ زون - ۳)۔ جناب والا۔ میں مخدوم صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ وہ یہ آرڈیننس اس ہاؤس میں توسیع کے لئے لائے۔ اور اپنے لوگوں کے لئے یہ موقع سہیا کیا۔ کیا وہ واہڈا کی کارکردگی میں اظہار خیال کر سکیں بجٹ سیشن کے اوپر۔

غالباً لوگوں کو یہ موقع نہ ملتا کہ واپڈا کی کارکردگی پر اس درجہ زور شور سے اظہار رائے کرتے۔ جہاں تک واپڈا کا تعلق ہے۔ اس کا کام اچھا ہے یا برا میں نے پچھلے بجٹ سیشن میں یہ عرض کیا تھا اور اب دوبارہ عرض کرتی ہوں کہ خدا کے فضل سے ہمیں یہ موقع مہیا ہو گیا کہ اس کی کارکردگی بری ہو یا بھلی۔ لیکن یہ مصدقہ امر ہے کہ ہماری حکومت کو بھی اس پر غور کرنا چاہئے کہ اس کا بجٹ اس ہاؤس میں ضروری آئے۔ کیونکہ ریلوے بھی ایک independent ادارہ ہے۔ اس کا بجٹ بھی یہاں آتا ہے۔ اور اس پر مجھے خود معلوم ہے کہ میں ریلوے ایڈوائزری کمیٹی کی ممبر ہوں کہ یہ دو تین مہینے ریلوے کے حکام کے لئے۔۔۔۔

ملک محمد اختر۔ پوائنٹ آف آرڈر۔ جناب والا۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہ میں پرائیویٹ ممبر بل لاتا ہوں۔ کہ ان کا بجٹ آیا کرے۔ کیا آپ اس پر ہمارے ساتھ اتفاق کریں گی۔

صاحبزادی محمودہ بیگم۔ میں خود لے آؤں گی۔ آپ تکلیف نہ کریں۔ جناب والا۔ حکومت کو اس پر ضرور غور کرنا چاہئے کہ واپڈا کا بجٹ اس ہاؤس میں ضرور آنا چاہئے۔ اور حکومت کو اس پر بھی غور کرنا چاہئے۔ کہ بورڈ میں non-official ممبران کی بھی کچھ تعداد ہونی چاہئے۔ چونکہ علاقہ کی جو مشکلات ہوتی ہیں۔ یہ درست ہے کہ حکام بالا کو اس کی نسبت معلوم ہوتا۔ لیکن non-official ممبران اور نظر سے دیکھتے ہیں اور حکام بالا اور نظر سے۔ جناب والا۔ واپڈا ہی نہیں دوسرے independent ادارے جو بھی ہیں۔ ان کی نسبت بھی میں یہ عرض کروں گی کہ سب کے بجٹ اس ہاؤس میں ضرور آئے چاہئیں۔ تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کون کون سے اخراجات نہایت غیر ضروری ہیں جیسا کہ واپڈا کی نسبت گذشتہ دنوں ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے، خدا جانے درست ہے یا غلط کہ وہاں انہوں نے اتنے ریٹائرڈ آفیسر بھرتی کئے ہوئے ہیں کہ تین تین ہزار روپیہ ماہوار صرف ان کے علاج کے

ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ درست ہے یا غلط لیکن اگر وہ بجٹ یہاں ہاؤس میں آئے تو یہ فیصلہ ہو سکے۔ کہ کون کونسے اخراجات ضروری ہیں اور کون کون سے اخراجات غیر ضروری ہیں۔ اس لئے میں مخدوم صاحب کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ وہ حکومت کی توجہ اس طرف ضرور مبذول کروائیں کہ اس کا بجٹ ہاؤس میں ضرور آئے تاکہ عوام کے نمائندے اور آپ صاحبان اس کو دیکھ سکیں۔ اور بورڈ میں non-official ممبران کی نسبت بھی یہ ضرور سفارش کریں کہ ان کو بورڈ میں رکھا جائے۔

مسٹر عارف حسین (لاٹلیور - ۵)۔ جناب والا۔ میں مخدوم صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہ یہ آرڈیننس اس ہاؤس میں لے آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ جناب والا۔ جہاں تک واپڈا کی کارگزاری کا تعلق ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ لیکن میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ واپڈا سیم اور تھور کا انسداد بہتر طور پر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جناب سپیکر۔ آپ مجھ سے اتفاق فرمائیں گے کہ لائل پور کا ضلع قیام پاکستان سے قبل اپنی زرخیزی میں نہ صرف پورے ہندوستان میں بلکہ ایشیا میں اس کے مقابلے کا کوئی علاقہ نہ تھا۔ لیکن اب جناب والا۔ سیم اور تھور نے جو اس ضلع کا حال کیا ہے۔ یعنی گت بنائی ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہونگے کہ ضلع لائل پور میں کچھ عرصہ سے واپڈا نے جو زمینوں کا حال برا کیا ہے۔ یعنی ضلع لائل پور کو تباہ کر دیا ہے۔ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ وہاں کے لوگوں کو بہت تکالیف ہو رہی ہیں اور نکھوکھا ایکڑ زمین جو اس وقت سیم اور تھور کی زد میں ہے اور واپڈا اس سے بے خبر ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ حکومت اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتی اور اس پر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ آج پہلی دفعہ مخدوم صاحب نے کہا ہے کہ اس منصوبے پر ۲۵ کروڑ روپیہ صرف کر رہے ہیں۔ تو اس ۲۵ کروڑ روپے میں سے کچھ نہ

کچھ ضلع لائل پور کو ماننے چاہئیں۔ چک جھمرہ کے علاقہ میں بہت زیادہ سیم ہو گئی ہے اس سیم اور تھور کا انسداد ہونا چاہیے۔ جناب سپیکر میں آپ کے توسل سے گورنمنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے دریا کا رخ مشرق سے مغرب کو چلتا ہے اور مغرب سے مشرق کی طرف کر رہے ہیں یعنی اس کو مغرب سے مشرق کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو جناب والا۔ وہاں کے لوگوں میں بد دلی پھیل گئی ہے۔ وہاں یہ جو منصوبہ ہے وہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہتر طور پر کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اس لئے میری یہ گزارش ہے کہ ڈچکوٹ کی زمین بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ سمندری اور ڈچکوٹ کے علاقے کو پہلے لینا چاہئے۔ دوسری اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ ہر سال اس بجٹ میں جو روپیہ رکھا جاتا ہے۔ اس میں سے کچھ ان علاقوں کو بجلی مہیا کرنے پر خرچ کرنا چاہئے۔ اور village electrification ہونی چاہئے اور یہ سال کے اختتام پر کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے تو جناب والا۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیہات کو بجلی مہیا کرنے کے لئے فنڈ مہیا کئے جائیں۔

وزیر آبپاشی (مخدوم حمید الدین)۔ جناب سپیکر۔ میں اس معزز ایوان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ترمیمی آرڈیننس کی بہ وجوہ اس کی سلامت اور وضاحت کے اور بہ وجوہ اس کی ضرورت اور افادیت کے اس کی تائید کی ہے اور حمایت کی ہے۔

خواجہ محمد صفدر۔ کس نے کی ہے؟

وزیر آبپاشی۔ ممبران نے کی ہے۔

جناب سپیکر۔ میں خواجہ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہمیں ان کا بڑا احترام ہے اور بطور خاص مجھے ان کی پارلیمانی اہلیت کے پیش نظر ان کا احترام ہے۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس لئے کہ میں نے ان کے فرمودات سے استفادہ کیا ہے۔ البتہ جس طرح نرم مزاجی اور انصاف پسندی کے اوصاف ان کی ذاتی زندگی میں ہیں اسی طرح اگر وہ اپنی

پارلیمانی زندگی میں بھی اس قسم کی انصاف پسندی سے کام لیں، اس کے حامل ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اور قوم کی عظیم خدمت ہوگی۔ اور ان کا یہ انداز فکر و محاسبہ مثالی طور پر ہی نہیں بلکہ قابل تقلید ہوگا۔

جناب سپیکر۔ اسلام کا ایک امتیازی مزاج ہے اور اس کا یہ اصول ہے کہ ہر انسان اپنے اور ماسوا کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے۔ یہی اسلام کا فلسفہ عدل و انصاف ہے۔ اور یہی اسلام کا امتیازی نشان اور امتیازی پہلو ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے درمیان انصاف کرے اور عدل سے کام لے۔ بلکہ اپنی ذات سے بھی انصاف سے کام لے۔ اپنے اعضاء سے انصاف کرے۔ دونوں آنکھوں کے درمیان انصاف کرے۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان انصاف کرے۔ یہاں تک کہ جسم اور روح کے درمیان بھی انصاف کرے۔

جناب سپیکر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کسی رهبانیت یا ہندوازم کی مجرد پسندی کا قائل نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ضرور ہے کہ خواجہ صاحب نے اپنے اور واہڈا کے درمیان انصاف پسندی سے کام نہیں لیا۔ بلکہ اس کے متعلق پورے تجرد سے کام لیا ہے۔ (تہقہہ)

مجھے اس کا اعتراف ہے کہ انہوں نے انصاف پسندی سے کام نہیں لیا اور وہ واہڈا کی خدمات کا اعتراف کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ جس کا کہ وہ علوی وجہ البصیرت و ہوش مندی مستحق ہے۔

Malik Muhammad Akhtar : I am sorry to interrupt the Minister.

مسٹر سپیکر۔ کیا آپ اس کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں۔

ملک محمد اختر۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ”ہنبہ کجا کجا ہم“۔

مسٹر حمزہ۔ میں مخدوم صاحب کی خدمت میں مودبانہ عرض کرونگا کہ خواجہ صاحب چار بچوں کے باپ ہیں۔

وزیر آبپاشی - میں نے ان کے ذہنی تجرد کے متعلق عرض کیا ہے۔ یہ امر جناب والا کی معلومات میں ہوگا اور معزز ایوان کے علم میں بھی ہے کہ واپڈا کی بہتر کارگزاری بین الاقوامی سطح پر داد تحسین حاصل کر چکی ہے اور جہاں تک صدر مملکت کی خوشنودی کا تعلق ہے۔ انہوں نے بسا اوقات اپنی تقاریر میں واپڈا کی خدمات کو سراہا ہے۔

منگلا ڈیم کی inauguration کے موقع پر انہوں نے جو امتیازی بات کہی تھی وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔

“We meet here today a year ahead of schedule. That a project of this size and magnitude should have been completed in record time and at a cost below the estimates is an attribute to the concentration, earnestness and dedication with which countless men and women have worked day and night to turn a national dream into a concrete reality.”

جناب والا۔ ایک مرتبہ اور ٹانڈو ڈیم کے افتتاح کے وقت انہوں نے واپڈا کے متعلق ان الفاظ سے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا تھا:

“I, therefore, take this opportunity of conveying to them the nation's gratitude for all that they have done and are doing to make Pakistan a better place to live in.”

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ صدر مملکت کے واپڈا کی کارکردگی کے متعلق کیا تاثرات ہیں۔

جناب سپیکر۔ اس کے علاوہ اس صوبہ کے سربراہ جناب گورنر صاحب نے بھی واپڈا کی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ ان کے ایک خاص بیان میں سے کل ہی ایک معزز ممبر نے ایک اقتباس پیش کیا تھا۔ علاوہ ازیں ایک فرد واحد کی حیثیت سے اگر ان ارہاب اختلاف کے دل میں سیری رائے کی کچھ وقعت ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کے پاکستان کا مزاج اور آپ کے پاکستان کا آج کا مزاج تعمیر و ترقی ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لئے واپڈا نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔

جناب سپیکر۔ میری التماس یہ ہے کہ اس آرڈیننس کا اصل مقصد جس کے لئے یہ پیش کیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ واپڈا اتھارٹی میں بغیر چیئرمین کے تین ممبران ہوں یعنی ایک ممبر کا اضافہ کیا جائے۔ میری گزارش

یہ ہے کہ جب اس کا چارٹر تجدید ہوا تو انسانی limitation کے مطابق ۔ اس وقت اس کی ضرورت محسوس نہ ہوئی لیکن اب جب اس کی احتیاج ہوئی تو اس ضرورت کے پیش نظر یہ محسوس ہوا کہ ایک ٹیکنیکل ممبر بھی رکھا جائے۔ فیلڈ میں اگرچہ ہمیں انجینئرنگ سروس میسر ہے مگر جب کوئی پراجیکٹ اتھارٹی لیول پر آتا ہے تو اس کے لئے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس میں ایک ایسا ممبر موجود ہو جو پراجیکٹ کی technical aspects کو دیکھے اور ان کا معائنہ کر سکے۔ صرف اسی وجہ سے میں نے یہ مختصر بل پیش کیا تھا۔ مگر جناب محترم خواجہ صاحب مصر تھے کہ واپڈا سے متعلق ایک full time debate raise کیا جائے تاکہ معزز ممبران کے view معلوم ہو سکیں، تو میں خواجہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ واپڈا کی کارکردگی کو پوری ژرف نگاہی کے ساتھ مطالعہ کرنے کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے جو خاص functions ہیں، ان کو پیش نظر رکھا جائے اور پھر اس کی روشنی میں اس بات کا تجزیہ کیا جائے کہ وہ اپنے کتنے فرائض کی تکمیل میں کامیاب رہا۔ اس کے فرائض کو جناب والا تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو سروے اینڈ پلاننگ یعنی ملک اور صوبے کا سروے اور پلاننگ کیا جائے اس سے متعلق جو معاملات ہیں ان کا ریکارڈ مہیا کیا جائے۔ دوسرے تعمیر اور generation کے فرائض، تیسرا اس کا فرض operate کرانا ہے۔ جناب والا۔ جہاں تک ان فرائض کا تعلق ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ واپڈا نے ایک ۲۰ سالہ ماسٹر پلان تیار کیا ہے، اس میں تقریباً ۲۰ ملین ایکڑ commanded ایگریکلچرل لینڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور اس کی روشنی میں اس بات کا بھی ریکارڈ اکٹھا کیا گیا ہے کہ موجودہ ایریگیشن سسٹم کو کس طریقہ سے ترقی دی جائے اور اس کے ذیل میں واٹر لاگنگ کے جو اثرات ہیں ان کو ختم کر کے crop ایریا کو ڈبل کیا جائے اور salinity کے جو مضر اثرات ہیں ان کو کس طریقہ سے زائل کیا جائے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ۲۰ سالہ منصوبہ آپ کے ملک میں بہترین اور سب سے قیمتی

document ہے۔ خواجہ صاحب کو اسے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا ہے۔ بہ کثیر مصارف کے ساتھ ہم نے تیار کروایا ہے۔ اگر خواجہ صاحب اسے دیکھ لیں، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور دیکھیں گے کیونکہ خواجہ صاحب کو ایسی چیزوں کے دیکھنے کا شغف ہے، وہ اس کو داد دے بغیر نہ رہ سکیں گے۔

خواجہ محمد صفدر - ضرور دکھائیے۔

وزیر آبپاشی و برقیات - اس کی اس وقت ملک میں ۶-۵ کاپیاں ہیں یا ممکن ہے ۶-۷ ہوں۔

(قہقہہ)

چودھری محمد سرور خان- کیا وہ secret document ہے؟

وزیر آبپاشی و برقیات - secret نہیں ہے اسے جناب صدر مملکت کو ورلڈ بینک نے پیش کی ہے اور جو ہمارے consultant اور جو ہمارے آدسی ہیں جن کے ذریعے ہم نے یہ رپورٹ تیار کی ہے وہ بھی اس میں associated ہیں اور انہوں نے پورا پلان تیار کیا ہے اور انہوں نے پیش کیا ہے۔ ابھی اس کی چند کاپیاں سنٹرل گورنمنٹ کے پاس ہیں۔ میرے پاس جو کاپیاں ہیں وہ میں پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ تھوڑے وقت کے بعد وہ کاپیاں اور آ جائیں گی۔ بہر حال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 20 million acre commanded ایریا کا سروے کیا گیا ہے اور intensity کو ڈبل کرنے کے سلسلے میں بھی اقدامات کئے گئے ہیں۔ جہاں تک پاور generation کا تعلق ہے میں آپکی اطلاع کے لئے عرض کروں گا کہ بیشتر اس کے کہ ہم نے اس کو take over کیا، پورے ملک کی برقی پاور ایک لاکھ ۲۰ ہزار کلوواٹ تھی اور آج دس لاکھ کلوواٹ آپکے پورے صوبے کی ہو چکی ہے۔ اس لحاظ سے تقریباً ۹ برس میں ۸ گنا برقی قوت میں اضافہ ہوا ہے اور تقریباً ایک لاکھ نئے کنکشن ہر سال دئے جا رہے ہیں اور ۲۰ ہزار میل برقی تار اس صوبے میں بچھائے جا چکے

ہیں جو کہ آپ چلتے پھرتے وقت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے حمزہ صاحب کے لئے عرض کیا ہے۔ جہاں تک SCARP I کا تعلق ہے تو وہ ۱۲ لاکھ ایکڑ complete کیا جا چکا ہے اور ۵ million ایکڑ reclaim ہوگا اور current پلان period کے end میں ہو جائیگا۔ جہاں تک اس سکیم کا تعلق ہے تو تقریباً ۲ million ایکڑ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ آپ اس سے اندازہ فرما سکتے ہیں کہ reclamation کے سلسلے میں واہڈا نے اب تک کیا خدمت انجام دی ہے۔ جہاں تک سندھ طاس کے منصوبے کا تعلق ہے تو اس کام سے دلچسپی کا آپکو علم ہے کہ تقریباً ایک ہزار کروڑ کی لاگت کا کام تسلی بخش طور پر کیا جا چکا ہے جس کی داد نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک سے بھی حاصل کی جا چکی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ منگلا ڈیم کی تکمیل ہو چکی ہے۔ رسول پور اور قادراآباد ہیڈ ورکس اور اسی طرح دوسری لنک کینال کی تکمیل ہو چکی ہے۔ جہاں تک تربیلا ڈیم، چشمہ بیراج اور چشمہ جہلم لنک کا تعلق ہے یہ زیر تعمیر ہیں اور بڑی کوشش کے ساتھ انشاء اللہ ہم ان کی بھی تکمیل کریں گے۔ پرسوں میرے محترم دوست جناب خواجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اتھارٹی کے پاس کوئی انکے سروس رولز نہیں ہیں اور نہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور نہ اس قسم کا apparatus ہے جس سے ڈسپلن کو enforce کیا جا سکے۔ جس ملازم کو چاہتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں رکھتے ہیں، تو ان کی اطلاع کے لئے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے پاس باقاعدہ رولز آف سروس ہیں جو کہ ہم صوبائی حکومت کی پالیسی ہے، اس کو ہم consultants سے enforce کراتے ہیں اور امتیاز یہ ہے کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ judicially enforceable ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہیں نکال دیں اور جس کو چاہیں لے آئیں۔

خواجہ محمد صفدر - وہ صرف دو اوراق پر مشتمل ہے۔

وزیر ادبپاشی و برقیات - اگر آپ بیٹھیں تو میں آپکو بتاؤں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس ٹرمز آف سروس ہیں۔ رولز آف

سروس ہیں، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ پراونشل گورنمنٹ کی پالیسی انہیں کے مشورے سے فریم کراتے ہیں اور یہ جوڈیشل طور پر لاگو ہوتی ہے۔ اگر ان تین چیزوں میں سے ان کو ایک بات پر بھی اعتراض ہے تو وہ مجھے بتا دیں، مجھے فرما دیں میں اس کا جواب دوں گا۔ جناب والا۔ دوسری بات جو انہوں نے فرمائی تھی وہ واپڈا ہاؤس کے متعلق ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس کے اوپر بہت ضیاع ہوا ہے۔ قومی دولت اور سرمائے کا اور یہ کہ ۵ کروڑ روپیہ سے بھی زیادہ اس پر خرچ ہوا ہے۔ یہ قطعاً نادرست ہے۔ اس کے اوپر ۴ کروڑ صرف ہوا ہے اور اس میں سود اور جتنے ارد گرد کے چارجز ہیں ان سب کو ڈال کر خرچ ۴ کروڑ بنتا ہے۔

خواجہ محمد صفدر - ۳۷۳ کروڑ۔

وزیر آبپاشی و برقیات - تو یہ کہنا نادرست ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی دلچسپ بات جناب محترم خواجہ صاحب نے فرمائی تھی اور وہ یہ تھی کہ ان کے حساب یا تخمینے کے مطابق یا اس کے پیش نظر کہ اگر واپڈا ہاؤس سے تقریباً ۵ لاکھ روپیہ آسکے تو پھر میں اس اعتراض کو واپس لے لوں گا اور میں سمجھوں گا کہ یہ چیز ٹھیک ہے چونکہ ان کے جملہ میں ایک بات مشروط تھی کہ وہ اپنے الفاظ کو بھی واپس لے لیں گے اور فرمائیں گے کہ جو کچھ ہوا وہ صحیح ہوا ہے، تو ان کی اطلاع کے لئے میں عرض کروں گا کہ اس وقت واپڈا سے ہمیں تقریباً ساڑھے باون لاکھ روپیہ مہینے کا فائدہ ہو رہا ہے۔

Khawaja Muhammad Safdar: Question !

مسٹر محمود اعظم فاروقی - واپڈا ہاؤس سے -

وزیر آبپاشی و برقیات - اسی واپڈا ہاؤس سے ساڑھے باون لاکھ

روپیہ کا ہمیں ماہانہ فائدہ ہو رہا ہے۔

(سرکاری نشستوں کی طرف سے نعرہ ہائے تحسین)

(1) Rent from the commercial area.

Rs. 29,00,000 per annum

- | | |
|--|------------------------|
| (2) Rent from Indus Basin Projects offices reimbursable by the World Bank. | Rs. 9,00,000 per annum |
| (3) Rent from Computer centre and Wasid Laboratory. | Rs. 2,50,000 „ „ |

Malik Muhammad Akhtar: On a point of order. Sir, when a person is not seconded in the House can he continue his speech?

Mr. Speaker: I have not followed.

Malik Muhammad Akhtar: The Minister has not been seconded by any Member.

مسٹر سپیکر - اگر یہ اصول اپنایا جائے تو یہ آپ کے مفاد میں نہ ہوگا - یہ آپ کے نقصان میں جائے گا -

وزیر آبپاشی و برقیات - جناب والا - میں ساڑھے باون لاکھ روپیہ کی تفصیل پیش کرتا ہوں -

- | | |
|--|------------------------|
| (4) Saving in rental of buildings | Rs. 4,00,000 per annum |
| (5) Saving in inter-office conveyance. | Rs. 1,00,000 „ „ |
| (6) Saving in watch and ward and malis etc. | Rs. 50,000 „ „ |
| (7) Saving in man hours lost due to inter office travelling and waiting etc. | Rs. 6,50,000 „ „ |

GRAND TOTAL : Rs. 52,50,000

مسٹر محمود اعظم فاروقی - کبھی ساڑھے باون لاکھ کا ایک کروڑ بھی ہو جائے گا -

ملک محمد اختر - پوائنٹ آف آرڈر - جناب سپیکر - انہوں نے ان لوگوں کی تنخواہیں نہیں بتائیں جو واپڈا نے رکھے ہوئے ہیں -

مسٹر سپیکر - یہ کوئی پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہے -

وزیر آبپاشی و برقیات - تو جناب سپیکر اس اعتبار سے جو ہمارا profit ہوگا وہ تقریباً ساڑھے باون لاکھ روپیہ کا ہوگا - اوریجنل net اور اپنی

SCARP savings کو ملا کر۔ اس کے بعد معترم خواجہ صاحب نے کچھ SCARP کے متعلق کہادر اور لالیاں کا ذکر فرمایا مگر وقت کم ہے۔ کیا جناب سپیکر، ٹائم بڑھایا نہیں جائیگا؟

Mr. Speaker : The Minister should try finish by 12.30 because I will put the question at 12.30.

وزیر آبپاشی و برقیات - اگر ۱۲ - ۳۰ تک شیڈول ہے تو یہ بہت تھوڑا وقت ہے۔

Mr. Speaker : The Minister should try to finish by 12.30.

آپ نے ۳۰ منٹ کے متعلق فرمایا تھا۔

چودھری محمد سرور خان - جمعہ کی بے حرمتی نہ کرو۔

وزیر آبپاشی و برقیات - جناب والا . خواجہ صاحب نے کہادر اور لالیاں کے متعلق فرمایا تھا کہ ۸۸ ٹیوب ویل کھاری ہو گئے اور قومی نقصان ہوا۔ میں ان کی اطلاع کے لئے عرض کر دوں کہ SCARP میں ہم نے کاپتاً ۱۳۹۸ ٹیوب ویل لگائے ہیں۔ جہاں تک کہادر کا تعلق ہے ان میں یہ ۸۸ ٹیوب ویل کہتے ہیں تو یہ نا درست ہے۔ اس میں صرف ۳۲ ایسے ٹیوب ویل ہیں کہ جن کی واٹر کوالٹی مارچینل ہے، جب اس کو کینال ایریگیشن کے پانی سے ملایا جائے یعنی mix کیا جائے اور جب ہم نے ان کو treat کیا تو باقی ۱۶ ٹیوب ویل ایسے بچ گئے کہ جن کا پانی اور اس کی کوالٹی مارچینل ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو ۸۸ ٹیوب ویل ہیں، سمندر کے پانی کے برابر ان کی salinity کا ریٹ ہے۔ میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میں اس ایوان کا خادم ہوں اور حکومت کے ایک خادم ہونے کے فرائض انجام دے رہا ہوں لیکن یہ ضرور عرض کروں گا کہ ایک طبقہ جو آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کی اطلاع کا ذریعہ بنتا ہے تو اگر آپ اس کی بجائے مجھے فرما دیا کریں بیشتر اس کے کہ آپ اس معزز ایوان میں نطاب فرمائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اغلاط کا امکان ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائیگا۔

خواجہ محمد صفدر - میں نے جناب والا ”امروز“ اور ”مشرق“ جو پریس ٹرسٹ کے اخبارات ہیں ان سے حوالے دئے تھے - واہڈا کی طرف سے یا ان کے کسی محکمہ کی طرف سے قطعاً ان کی تردید نہیں ہوئی - فروری مارچ میں وہ شائع ہوئے اور میں نے وہ تینوں چاروں آپ کے سامنے پیش کر دئے -

وزیر آبپاشی و برقیات - مارچینل کوالٹی کے پانی کو ٹریٹمنٹ کے ساتھ کارآمد بنایا جا سکتا ہے - جہاں تک سمندری پانی کا تعلق ہے اس کا ریٹ ۳۰ ہزار پارٹس فی ملین ہے - جب کہ ہمارے جو ٹیوب ویلز ہیں اگر ان کا پانی زیادہ سے زیادہ خراب ہو جسے ہم مارچینل کہتے ہیں تو اس میں ۳ ہزار پارٹس فی ملین سے زیادہ نہیں ہونگے - کہاں ۳۰ ہزار کہاں ۳ ہزار ویسے ان ٹیوب ویلز کا ریٹ دو ہزار پارٹس فی ملین ہے - میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ حمزہ صاحب کے ضلع میں ہم نے ۲۱۰۰ ٹیوب ویلز لگائے ہیں - مگر اب تک وہ مفید طور پر استعمال میں آ رہے ہیں - میں یہ عرض کروں گا کہ پانی کھاری ہو تو بھی نئی سائنس کی مدد سے اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے - میں اس کی بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں -

آپ کے علم میں ہونا چاہئے کہ ایکوا فر کو جو سطح زمین سے نیچے ہوتا ہے اس میں بہت سے minerals اور بہت سے salt ہیں - جب ٹیوب ویل کے لئے اتنی heavy suction کرتے ہیں تو وہ اسے disturb کرتے ہیں اور ان minerals اور salts کے چلنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں - ابتدائی طور پر زیر زمین سطح کے متعلق ہمارے نتائج صحیح ہوتے ہیں - مگر اس قسم کی وجوہات سے اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے - اور یہ minerals اور salts پانی میں مل جاتے ہیں - مگر اس کی اصلاح کے سامان بھی ہیں - میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان ٹیوب ویلوں کا پانی کھارا بھی ہو پھر بھی وہ مفید ہے - جہاں تک ہمارے ریکلیمنٹ پراجیکٹس کا تعلق ہے اس کی دو اغراض ہیں - ایک زرعی ضروریات کے لئے پانی کی بہم

رسانی اور دوسرے ڈرینج کی ضرورت کی کفالت کرنا۔ تو جہاں یہ دونوں چیزیں متفق ہوں تو وہ ایک آئیڈیل پوزیشن ہے۔ نیچے کا پانی تازہ، میٹھا اور ہلکا ہو تو اسے زرعی ضروریات کے لئے بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے اور ڈرینج کے لئے بھی۔ مگر جو پانی زرعی ضروریات کے قابل نہ ہو، کھارا ہو، وہ بھی مفید ہے۔ اسے بھی کسی ڈیلیوری چینل یا کینال میں ڈال کر اس سے ڈرینج کا کام لیتے ہیں اگر اس میں دو ہزار یا تین ہزار پائرس فی ملین ہوں تو وہ کسی زرعی نظام کی ضروریات کے منافی نہیں ہے۔

خواجہ محمد صفدر - پھر ان ٹیوب ویلوں کو جو ساڑھے چار سو فٹ گہرائی تک تھے ڈیڑھ سو فٹ پر plug کیوں کیا جا رہا ہے۔

وزیر آبپاشی و برقیات - میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے plug کر کے سطح آب کو اونچا کریں اس سے ہماری دونوں ضروریات پوری ہو سکیں۔

خواجہ محمد صفدر - پھر پہلی بات غلط ہوئی۔

وزیر آبپاشی و برقیات - اگر اس کے باوجود وہ کارآمد نہ ہو تو پھر ہم اس سے ڈرینج کا کام لیں گے۔

مسٹر حمزہ - جناب مخدوم صاحب نے لائل پور کے ٹیوب ویلوں کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ وہ کام دے رہے ہیں۔ میں ان کی اطلاع کے لئے عرض کردوں کہ ہمارے ہاں ۲ ٹیوب ویل ایسے ہیں جن کا پانی کھارا ہے۔ جو آبپاشی کے لئے مفید نہیں ہوتا۔ نہ اسے نالیوں کے ذریعہ نہروں میں ڈالا جا رہا ہے وہ ٹیوب ویل کھڑے ہیں۔ اگر چلائے جاتے ہیں تو لوگ اس پر احتجاج کرتے ہیں۔

خواجہ محمد صفدر - کوئی ڈرینج آپ نے بنایا ہی نہیں۔

وزیر آبپاشی و برقیات - جناب والا۔ میں اپنے محترم دوست کی اطلاع کے حوالے سے ان کے بارے میں میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں،

ممکن ہے بعد میں میں بھول جاؤں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایسوسی ایشن جس کا انہوں نے حوالہ دیا تھا کس نوعیت کی ہے اور اس کا کیریکٹر کیا ہے۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی بات ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو ان کی جو باقی باتیں ہیں یا ان کا جو استدلال ہے شاید اس کی تردید ہو سکے۔

مگر اس سے قبل میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برقی قوت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اور اتنے جنریٹر جو ہیں وہ ٹرانسمیشن لائن نہ ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں ہو رہے۔ اس قسم کی بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ اس کے متعلق میں یہ عرض کروں گا کہ ان محترم حضرات کے پیش نظر صرف ان جنریٹر کی installed capacity یا نصبی استعداد ہے۔ اگر یہ مجھ سے اس بارے میں معلومات طلب فرماتے تو میں زیادہ تفصیل کے ساتھ مہیا کر دیتا۔ تو وہ ان کی نصبی استعداد کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ برقی قوت کا اتنا ضیاع ہو رہا ہے۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ماڈرن ٹربائنز ہیں ان میں آٹومیٹک استعداد رکھ دی گئی ہے۔ ان پر جتنی ڈیمانڈ کا بوجھ ڈالا جائے وہ اتنی بجلی پیدا کرتے ہیں۔ آپ جس حد تک بجلی کی پیداوار چاہیں اس پر انہیں switch on کر سکتے ہیں۔ دوسرے انہیں حساب اس لحاظ سے کرنا چاہئے کہ اس وقت ہماری firm capacity کیا ہے نہ کہ installed capacity پر۔ مثلاً منگلا ڈیم کو لیں وہاں water pressure سال کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً شروع ربیع یا خریف کے اختتام پر بعض دفعہ pressure ایک تہائی یا اس سے بھی کم رہ جاتا ہے اگر پانی کا pressure پورا نہ ہو تو آپ ٹربائن کی installed capacity کو نہیں دیکھ سکتے اس کی firm capacity کو دیکھیں گے۔ چنانچہ اگر آپ firm capacity کو دیکھیں اور ایگریگیشنل ڈیمانڈ کو ملاحظہ فرمائیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری آج کی generation capacity ۰۶ میگاواٹس ہے اور ہماری ڈیمانڈ ۰۳ میگاواٹس ہے۔ تھوڑا سا surplus ہے۔ جو ہونا

چاہئے۔ ہمارے پاس اب ایسے نئے پلانٹ ہیں جو بجلی کی شورج بھی کر سکتے ہیں جسے ہم بعد میں کسی وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ضیاع تو اس وقت کہہ سکتے ہیں جب ملک میں ڈیمانڈ بڑھ گئی ہو جنریشن بھی زیادہ ہو مگر اس کی ترسیل نہ ہو رہی ہو۔

اس کے علاوہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر ایک گھنٹہ بجلی بند رہے تو ایک کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے یہ حساب بھی غلط ہے، نا درست ہے۔ میرے حساب کے مطابق اگر پورے صوبہ میں برقی قوت معطل اور معلق رہے تو چار لاکھ روپے فی گھنٹہ نقصان ہوتا ہے۔

مسٹر حمزہ - لوگوں کا یا واہڈا کا ؟

مسٹر سپیکر - اجلاس کا وقت پندرہ منٹ بڑھا دیا گیا ہے۔

وزیر آبپاشی و برقیات - جناب والا - یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ وہ بھی بیک وقت پورے صوبہ میں معطل رہی۔ ایسا کبھی میں سمجھتا ہوں نہ آپکے علم میں آیا ہے۔ نہ میرے مشاہدے میں آیا ہے اور نہ دوسرے دوستوں کے مشاہدے میں آیا ہے۔ Indus Basin کے متعلق ملک اختر صاحب نے خاص حکم ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس کے متعلق تھوڑا سا عرض کروں۔ یہ لوئر اور اپر سندھ سکیم سے متعلق ہے۔ اور تیسرے حمزہ صاحب نے اپنی تحریک التوا میں جو ان کی اپنی غفلت شعاری کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکی کیونکہ وہ غفلت شعار تو ہیں۔ (تہقہہ) اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اس وقت transmission کے لئے ضرورت محسوس ہوتی تھی ایک لاکھ کی ایزادی ہوتی ہے اس لئے ہم نے جتنے orders place کئے تھے ان کی delivery آگئی اور ان کا جو شیڈولڈ ٹائم تھا اس کے ایک سال پہلے یونٹ کو commission کر دیا تھا، مگر ہم نے کوشش کر کے اور اپنے resources سے منگلا سے re-route کر کے additional power کی ترسیل کا انتظام کر دیا تھا۔ دوسرے یہ بھی احتمال تھا جیسے flood کا موسم شروع ہو گیا generating capacity بڑھ جائیگی اس وقت کیا ہوگا۔ اس کے متعلق میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے جو

آرڈرز place کئے تھے -

Major part of the deliveries has reached us.

میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ flood season کی وجہ سے جیسے جیسے confirmed capacity یا generating capacity بڑھتی جائے گی۔ اس کے مطابق لائنز کو lay کرتے جائیں گے اور انشاء اللہ اس سال کے آخر میں جملہ ضروریات جس کے متعلق اخبارات میں سے اشارہ فرمایا ہے یا جنوری فروری میں transmission lines کا جو کام ہے وہ نصب ہو جائے گا مگر جہاں تک رو کا تعلق ہے یہ جو increase ہو چکی ہے اس increase کو absorb کرنے کے لئے ہمارے پاس اس وقت میجر چیزیں پہنچ چکی ہیں اور ان کی تنصیب کا کام جاری ہے۔ اس کے متعلق آپ اطمینان رکھیں۔ ایک سال پیشتر منگلا تیار ہونے کی وجہ سے یہ عارضی تکلیف لاحق ہوئی تھی مگر میں آپ کو یہ اطمینان دلاتا ہوں کہ آئندہ اس قسم کی کوئی تکلیف باقی نہیں رہے گی۔ جناب والا۔ کوٹری ٹربائن کے متعلق میں صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس فرم کا ہائلر جس کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ وہ اڑ گیا تھا یا پھٹ گیا تھا ایک تو وہ ابھی تک ان کے کنٹرول میں ہے دوسرے قدرت نے بھی ہماری مدد کی۔ ہمارے پاس ایک ایڈیشنل ہائلر تھا اگرچہ وہ اس سے کم capacity کا تھا۔ اتنی capacity کا نہیں تھا وہ ہم لگا کر لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک کوٹری کے ٹربائن کا تعلق ہے اس کے متعلق میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ بات نادرست ہے کہ اس فرم نے کام کرنے سے انکار کیا ہے۔ یہ بات نہ مجھے معلوم ہے نہ واہڈا کو نہ کسی ریکارڈ میں یہ بات آئی ہے۔ اگر فارن آفس کے کہیں ریکارڈ میں ہو اور اس تک آپ کی رسائی ہو تو ٹھیک ہے بہر حال نہ میرے علم میں ہے نہ واہڈا کے علم میں اور نہ ہی صوبائی گورنمنٹ کے علم میں یہ بات ہے کہ انڈونیشیا نے اسے لینے سے انکار کیا ہو۔ لائلپور کے ہاورسٹیشن کے متعلق عرض کر چکا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ Westing House والے اس کو کر رہے ہیں ابھی تک ہم نے اس کو take over نہیں کیا ہے۔ اس میں ضرور کچھ دقتیں ہیں جس کو وہ دور کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ہمیں کسی قسم کی برقی قوت میں کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔

جناب والا۔ انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ سٹاف بالکل خراب ہے،

یہ غیر تربیت یافتہ ہے اس کے متعلق میں یہ عرض کرونگا کہ اس وقت لائلپور میں in-service کے لئے بھی ٹریننگ سنٹر موجود ہے۔ لاهور میں بھی سنٹر کھل رہا ہے۔ اس طریق پر دو سنٹرز کھل چکے ہیں۔ دو اور سنٹرز کھولنے کا ارادہ ہے جن میں ایگزیکٹو انجینئرز کے مرتبے کے آدمی in-service تین مہینے تک ٹریننگ لیا کریں گے۔ اس میں لائن مین سے لیکر ایگزیکٹو انجینئر تک کے درجہ کے لوگ in-service تین سال کے اندر ٹریننگ لیا کریں گے۔ جب ہم غیر ملکی کمپنیوں سے contract دیتے ہیں اس میں بھی یہ پروویژن ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اتنے آدمیوں کو ٹرین کریں گے۔

جناب والا۔ consumer connections کے متعلق آپ نے فرمایا ہے۔ جو آپ کی ہدایات ہیں اس کے مطابق ہم ایسا کر رہے ہیں کہ جن کی درخواست پہلے آئے اس کو پہلے کنکشن دیا جائے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اتنی درخواستیں پڑی ہیں ان کو بجلی مہیا نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سال میں جو فنڈز ہمیں دیں گے ہم اسی کے مطابق بجلی دیں گے۔ اس سال میں اگر ایک کروڑ درخواست آجائے نہ اس کے لئے ہمارے پاس روپیہ ہے نہ اس کے لئے ہمارے پاس بجلی ہے۔ دوسرے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ فرض کیجئے کہ اس سال کے لئے ہم نے ۱۸ کروڑ روپیہ کا بجٹ دیا ہے لیکن کل ہمیں ۱۰ کروڑ روپیہ ملا۔ ہو سکتا ہے financial stringency کی وجہ سے ۱۰ کروڑ روپیہ بھی پورا release نہ کیا جائے۔

خواجہ محمد صفدر - جناب والا - یہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ قوم ترقی کر رہی ہے اور دوسرے ہمیں financial stringency بتا رہے ہیں یہ کیا بات ہے!

وزیر آبپاشی و برقیات - جناب والا - میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کنکشن ملتے ہیں مگر جو فنڈز ہمیں سالانہ دینے جاتے ہیں ان کے مطابق ہی کام کیا جاتا ہے۔ جہاں تک مکینیکل انجینئرز ایسوسی ایشن کا تعلق ہے اس پوری بحث میں جو document حمزہ صاحب نے پیش کیا ہے وہ مکینیکل انجینئرز ایسوسی ایشن کے اقتباسات پیش کئے ہیں۔ اس کے متعلق میں یہ عرض کروں گا کہ میری اطلاع کے مطابق یہ ایسوسی ایشن ایک غیر مستند قسم کی ایسوسی ایشن ہے۔ یہ recognized ایسوسی ایشن

نہیں ہے۔ ایک دو ایسوسی ایشن ہیں مثلاً پاکستان کانگریس Association
of Electricians جو recognised ہیں۔

مسٹر حمزہ - recognised ایسوسی ایشن وہی ہو سکتی ہے جو
آپ کی ہو۔

وزیر آبپاشی و برقیات - جناب والا - اس کے اندر بہت سے
disgruntled elements ہیں۔ اس میں بہت سے جونئیر قسم کے انجینئرز ہیں۔
میں نہیں سمجھتا کہ واقعی یہ صحیح ایسوسی ایشن ہے۔ اس کا بنیادی
مزاج ہی disgruntled ہے۔ تو محترم حمزہ صاحب سے ان کی ذہنی مماثلت
کیوں ہوتی ہے یا ذہنی ہم آہنگی کیوں ہوتی ہے۔ یہ بات میں نہیں سمجھ سکا۔
(تہقہہ) بہر حال میں عرض کر رہا تھا کہ جب کبھی ایسی ضرورت ہو تو
کم از کم اس کی تصدیق تو کر لیا کریں صرف شوق خطابت ہی نہ ہو
بلکہ یہاں ایسی باتیں فرمائیں جس سے صحیح معنوں میں ہم مستفید ہو سکیں۔

چودھری محمد نواز - جناب والا - جمعہ کا وقت ہو گیا ہے۔
مخدوم صاحب آج موڈ میں ہیں اور یہاں ہکے راگ میں تقریر کر رہے ہیں۔
مسٹر سپیکر - مخدوم صاحب آپ اپنی تقریر ختم کرنے کی کوشش
کیجئے۔ ہونے ایک سے زائد وقت نہیں بڑھایا جائے گا۔

Minister for Irrigation and Power : I think the learned chair will
appreciate my sense of cooperation with the House.

جناب والا - میں یہ چیز پڑھوں گا۔ حمزہ صاحب نے کل میرے خیال
میں اپنی تقریر کے دوران فرمایا تھا جب ان کی یہ رپورٹ پڑھی تو وہ بات
جو انہوں نے فرمائی اس سے کلیتاً ان کی تردید ہوتی ہے۔ ان کا بطلان
ہوتا ہے۔

"The Association in its report on Multan Power Station has itself
admitted that it did not have access to records and had to rely on informa-
tion gathered."

ان کا ذریعہ علم وہ رپورٹ ہے جو انہوں نے پڑھی ہے اور جو انہوں

نے خود لکھی ہے۔ انہوں نے خود یہ کہا ہے یہ second-hand evidence یا third-hand evidence یا خدا جانے imaginary قسم کے ذریعے سے انہوں نے اطلاعات اکٹھی کی ہیں۔ تو ان کی اطلاع کی بنیاد وہی ہے اور جو صحیح معنوں میں ریکارڈ ہے اس تک ان کی رسائی نہیں تھی۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب کسی مسئلے کے متعلق حقائق جاننے کے لیے ان کی رسائی ہی نہ ہو تو پھر وہ کس طرح یہ claim کر سکتے ہیں یا مزید دلائل کے متعلق کیسے فرما سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس ایسوسی ایشن کی رپورٹ کا جو حصہ کل یہاں پر پڑھا تھا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ ۱۹۵۹ء تک دو لاکھ اٹھتر ہزار دو سو ستاون صارفین تھے جبکہ تقریباً آٹھ سال میں یعنی دسمبر ۶۷ء تک ان کی تعداد نو لاکھ چھیالیس ہزار ایک سو ستاون ہو گئی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں کہ ہم نے پرائیویٹ کنکشن میں کس قدر اضافہ کیا ہے۔ یہ تقریباً چار گنا زیادہ ہے۔

Per capita consumption in WAPDA was 14.7 kilo-watt hours ; it is now over 70 kilo-watt hours. No deputation allowance is being given to Irrigation Engineers arriving in WAPDA. Similarly since Electricity Department has been transferred to WAPDA, no allowance being given to Electrical Engineers except some Engineering Officers who were already getting allowance. They are still continuing with the allowance otherwise nobody is getting any allowance on the fact that they have entered into WAPDA.

آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ ہماری کارگزاری کیا ہے۔ میں مختصراً یہ بھی عرض کروں گا کہ

in 1927 we had one College only.

جناب والا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا منافع صرف ایک فیصد ہے اور بالخصوص زرعی صارفین کے لیے تو ہم اپنے شیڈول سے بھی نیچے جا کر ان کو بجلی مہیا کر رہے ہیں اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کچھ اور چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا tariff disturb ہوگا اور اس طرح اس سے صارفین کو بھی نقصان ہوگا۔ اس لئے میں اس قسم کی کسی بات سے اتفاق نہیں کر سکوں گا۔ اس کے علاوہ نواب صاحب نے بلاک سسٹم کو رائج کرنے اور اس سلسلے میں پشاور یونیورسٹی کے متعلق کچھ ارشاد

فرمایا تھا۔ انہوں نے ایوان سے باہر بھی مجھے اس بارے میں کہا تھا اور ان کو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ فرسٹ ڈویژن حاصل کرنے والے امیدواروں کا انٹرویو لینے کا مقصد ان کی تعلیمی قابلیت کو پرکھنے کے علاوہ کچھ اور بھی considerations ہوتی ہیں۔ کیونکہ اگر صرف فرسٹ ڈویژن حاصل کرنے والوں کو ہی لیا جانا مقصود ہو تو آسان طریقہ یہ ہوگا کہ یونیورسٹیوں سے کامیاب طلباء کی فہرست منگوا کر مطلوبہ تعداد کا انتخاب کر لیا جائے اور بس۔ آپ کو علم ہے کہ پنجاب کا intellectual standard بہر حال اونچا رہا ہے اور حقائق بھی اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔ آپ انجینئروں، ڈاکٹروں اور دیگر مقابلے کے امتحانات پر نظر ڈالیں تو بھی آپ کو اس بات کا ثبوت مل سکتا ہے۔ حالانکہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ pure merits پر امیدواروں کا انتخاب کیا جانا چاہئے۔ لیکن minority provinces نے اعتراض کیا تھا کہ صرف قابلیت پر ہی امیدواروں کا چناؤ نہ کیا جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم physically اس قابل نہ تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب انجینئرنگ یونیورسٹی ۱۸۶۷ء میں قائم ہوئی تھی اور ۱۹۲۷ء تک ہمارے پاس صرف ایک انجینئرنگ کالج تھا۔ تو ان کے intellectual standard اور competence کے پیش نظر

It was not possible for the rest of the Provinces to compete with it.

تو اس لحاظ سے minority provinces نے خود ہی کہا تھا کہ وہ صرف merit کے حق میں نہیں ہیں بلکہ یہ کہ وہ بلاک سسٹم کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ شاید واپڈا میں بھی اس قسم کا کوئی اعتراض ہوا ہو کہ چونکہ ہمیں بہتر سہولتیں نہیں ہیں کہ ہم merit پر آسکیں۔ اس لئے پچھلے سال یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگلے سال سے بلاک سسٹم کے ذریعے ہی نئی بھرتی کی جائیگی۔ لیکن اس کے باوجود میں نے فائل منگوائی ہے اور میں یہ دیکھوں گا کہ پوزیشن کیا ہے۔

جناب والا۔ ان معروضات کے ساتھ میں ایک بار پھر تمام معزز اراکین

کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے قیمتی مشوروں کے ذریعے میری راہبری اور ہدایت کا باعث ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں خصوصاً خواجہ محمد صفدر صاحب کی جو opening debate تھی جن میں کہ انہوں نے بہت سی ایسی باتیں فرمائی ہیں جن کے متعلق میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے ان کا پورا پورا احساس ہے اور میں ان باتوں کا خیال رکھوں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ انشاء اللہ اس سلسلے میں میری ادنیٰ کارکردگی سے خوش اور مسرور ہوں گے۔

Mr. Speaker : I will now put the Resolution to the vote of the House.
The question is :

That the Assembly do approve of the West Pakistan Water and Power Development Authority (Amendment) Ordinance, 1967, (West Pakistan Ordinance No. XII of 1967) promulgated by the Governor of West Pakistan on 12th December, 1967.

Those Members who are in favour of the motion, should say 'AYE'
(Voices : 'AYE')

Those who are against it should say 'NO' I think 'AYES' have it.
(Voices : 'NOES have it')

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I demand division.

Mr. Speaker : Alright, those Members who are in favour of the motion should please rise in their places, (*Many Members rose in their places*).

Those who are against it should now rise in their places, (*Some Members rose in their places*).

Mr. Speaker : Majority of the Members is in favour of approval being granted, therefore, the Ordinance stands approved.

Next Resolutions given notice of by Khawaja Muhammad Safdar, Malik Muhammad Akhtar and Mr. Hamza stand rejected.

The House is adjourned to meet again on Monday, the 6th May, 1968, at 8.00 a.m.

The Assembly then adjourned (at 12.46 p.m.) till 8.00 a.m. on Monday, the 6th May, 1968.

APPENDIX I.

(Ref: Starred Question No. 10022).

STATEMENT SHOWING THE AVAILABLE AREA FOR DISPOSAL IN EACH DISTRICT.

Name of the District		Available area for disposal						
		(Acres)						
Peshawar Division								
1. Peshawar	1193	
2. Mardan	188	
3. Kohat	740	
4. Hazara	8549	
Total							..	<u>10670</u>
Dera Ismail Khan Division								
1. D. I. Khan	10022	
2. Bannu	240	
Total							..	<u>10262</u>
Rawalpindi Division								
1. Rawalpindi	—	
2. Campbellpur	8844	
3. Jhelum	777	
4. Gujrat	62	
Total							..	<u>9683</u>
Sargodha Division								
1. Sargodha	8280	
2. Mianwali	29643	
3. Lyallpur	779	
4. Jhang	5791	
Total							..	<u>44493</u>
Labore Division								
1. Lahore	1252	
2. Gujranwala	108	
3. Sheikhupura	—	
4. Sialkot	—	
Total							..	<u>1360</u>
Multan Division								
1. Multan	1162	
2. Sahiwal	206	
3. Muzaffargarh	19865	
4. D. G. Khan	285590	
Total							..	<u>306823</u>

APPENDIX H.

(Ref: Starred Question No. 10475)

LIST OF SCHEMES PENDING IN THE PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT.

on 31-12-1967

Sr. No.	Name of the Scheme	Date of preparation	Date of receipt in the P & D Department	Approximate period by which the scheme is to be approved
1	2	3	4	5
Agriculture Sector				
1.	Installation of an animal Feed Mill at the Agricultural Research Institute, Lyallpur.	October, 1966	11-1-67	Being examined by a Sub-Committee.
2.	Import and sale of lining pipes for achieving the targets of Tube-well installation in the private sector.	5-5-1967	29-5-1967	Approved on 10-1-1968.
3.	Agriculture Development in SCARP-II.	5-9-1967	30-9-1967	-do-
4.	Establishment of Assembly plant or Zadrugar Tractors and Pakins Diesel Engine.	January, 1967	10-6-1967	Dropped on 10-1-1968.
5.	Thal Fruit Product Factory at Kallurkot.	Dec., 1966	2-8-1967	Transferred to Thal Industrial Development Corporation.
6.	Construction of A.D.C. Workshop at Hyderabad.	Jan., 1967	9-9-1967	Revised scheme received on 30-12-1967.
7.	Scheme for the Establishment of Cold Storages in West Pakistan.	July, 1967	9-9-1967	Deferred on 10-1-1968. It was observed that the Governors: Conference had appointed the Committee under the Chairmanship of Central Finance Minister to review the working of A.D.C. and put up a report about the activities to be entrusted to this organization in future. The scheme would be considered after this report.
8.	Scheme regarding construction of Storage Accommodation for Seed and Fertilizer in West Pakistan.	18-9-1967	30-9-1967	Referred to a Sub-Committee for scrutiny on 10-1-1968.
9.	Sericulture Research Institute in West Pakistan.	12-6-67	22-8-1967	Approved on 10-1-1968.

1	2	3	4	5
10.	Development of Sericulture Industries in West Pakistan.	5-6-1967	19-10-1967	-do-
11.	Installation of a Rosin Factory at Sihala.	5-4-1967	9-5-1967	The scheme is being examined.
12.	Additional Storage accommodation 1,80,000 tons in West Pakistan.	19-2-1967	20-2-1967	—Both the schemes were deferred on 10-1-68. They will be considered after the receipt of a feasibility study presently under preparation in the Central Ministry regarding foodgrain storage and handling needs of the port of Karachi and Province of West Pakistan.
13.	Construction of American type grain elevators to provide 1,20,000 tons storage capacity at Khanewal, Sukkur, Lyallpur, Okara, Sargodha and Nawabshah, etc.	10-4-1967	11-4-1967	—
Water and Power Sector				
14.	Tube-wells in Dadu Canal Command.	June, 1967	July, 1967	In the next meeting of the PDWP.
15.	Feasibility of Mirani Dam Project.	Dec., 1966	Jan., 1967	The survey scheme has been cleared by the Irrigation Department's Development Committee. In view of the ultimate heavy financial commitments, the scheme has been submitted by the Development Committee to the PDWP for its vetting. The scheme will be considered in the next meeting of the PDWP.
16.	Construction of Makhi Dhand Drainage Scheme (Revised).	April, 1967	April, 1967	In the next meeting of the PDWP
17.	Remodelling Mona Drainage System.	Dec., 1967	Jan., 1967	-do-
18.	McLeodganj Drainage Scheme (Revised).	Dec., 1967	Dec., 1967	-do-
19.	Construction of Supro Bund in Rice Canal Div.	Jan., 1967	Jan., 1967	-do-
20.	Regrading Channels of Farash Sub-Division NCC and providing APM outlets.	Sep., 1967	Oct., 1967	-do-
Physical Planning and Housing Sector				
21.	Kacha Multan Road	Oct., 1967	19-12-1967	The scheme will be considered in the next meeting of the Provincial Development Working Party.
Transport and Communication Sector				
22.	Lahore-Lyallpur and Lahore-Sargodha-Khushab Highway (Revised PC-I).	5-5-1967	1-8-1967	The scheme has since been returned to Sponsoring Agency for revision.
23.	Halani-Mehrampur (Revised).	9/1966	14-12-1967	The scheme has since been returned to the Sponsoring Department for placing it before the Departmental Sub-Committee.

1	2	3	4	5
Industries Sector				
24.	Service-cum-Production Centre for Textile Industries at Korangi, Karachi.	20-9-1967	24-10-1967	The Working paper was prepared and submitted to Chief, Industries on 24-11-1967 but was not considered as there was no ADP provision in 1967-68 and also is not included in the ADP 1968-69.
25.	Light Engineering Service Centre, Sukkur.	20-9-1967	24-10-1967	-do-
26.	Small Industries Estate Sahiwal.	20-9-1967	24-10-1967	-do-
27.	Small Industries Estate, Hyderabad	6-10-1967	7-11-1967	-do-
28.	Small Industries Estate Sargodha.	6-10-1967	7-11-1967	-do-
29.	Common Facility Centre for Power Loom Industry at Kasur, Lahore.	7-10-1967	8-11-1967	-do-
30.	Woollen Spinnery Mansehra.	23-9-1967	24-10-1967	Scheme was approved on 9-1-68.
31.	Wood Working Centre, Peshawar.	12-10-1967	14-11-1967	Scheme was approved on 9-1-68
32.	Industrial Estate Sheikhpura.	24-9-1967	13-10-1967	The scheme was returned to the concerned Department on 26-2-68 as there were lot of mistakes in the PCI form.
33.	Specific Investigation for and preparation of mineral development schemes for selected Minerals.	5-8-1967	7-9-1967	The scheme was included in the Agenda of PDWP but was not considered as the representatives of Mineral Directorate were not present.
34.	Specific Investigation for Development of Marble Industry.	5-8-1967	7-9-1967	-do-

APPENDIX III

(Ref: Starred Question No. 10476)

LIST OF SCHEMES CLEARED BY THE PROVINCIAL DEVELOPMENT WORKING PARTY DURING THE YEAR 1967

(Rs. in Lakhs)

Sr. No.	Name of Scheme	Total cost	Date of receipt	Date of clearance
1	2	3	4	5
Agriculture Sector				
1.	Expansion of facilities for collection and compilation of Agriculture statistics by objective technique.	18.72	23-12-66	27-3-67
2.	Development of Agriculture College, Peshawar	4.00	11-2-67	6-7-67
3.	Constructing Agriculture Engineering Workshop at Risaliwala Lyallpur.	8.23	16-3-67	16-9-67
4.	Construction of Stores in West Pakistan.	28.38	13-4-67	16-9-67
5.	Scheme for strengthening of Agriculture extension	83.58	2-5-67	-do-
6.	Minor Irrigation Scheme construction of open surfaces wells with Pumping sets in Quetta and Kalat Division.	27.45	3-7-67	-do-
7.	Scheme for residential and Non-residential Buildings for Agriculture Department in G. M. Barrage Area.	20.70	2-8-67	-do-
8.	Planting of 700 miles P.W.D. Roadside land strips in Multan Forest Region.	4.70	31-7-65	6-7/6/67
9.	Demonstration Project for Rehabilitation of Bhurhan tracts Murree Hills.	30.88	13-2-67	4-7-67
10.	Planting of 600 miles P.W.D. Roadside Land strips in Multan Region.	6.56	19-6-67	16-9-67
11.	Range-management operational Project in Thal.	26.35	16-3-67	-do-
12.	Scheme for Broiler production in West Pakistan.	15.00	31-1-67	27-3-67
13.	Establishment of Poultry Husbandry production Research and Trading Project.	36.00	18-8-67	10-11-67
14.	Scheme for Poultry rearing and Demonstration Units at Hyderabad Lahore, Peshawar, Quetta and Multan.	106.39	22-9-67	25-11-67
Water and Power Sector				
15.	Constructing Link Canal from Outfall Regulator to PQ Regulator at Kalari Beghar Canal.	257.00	2-9-66	27-1-67

1	2	3	4	5
16.	Kandar Dam Scheme	17.96	22-11-66	-do-
17.	Durnal Dam Scheme	15.95	17-12-66	-do-
18.	Bot Area Tubewell Project (Opposite R. D. 3-140).	18.85	7-5-66	-do-
19.	Salinity and Grow more-food Project of 9-L Distributary of LBDC.	13.88	7-5-66	-do-
20.	Habilia Riverain Area Tube-well Scheme	12.40	13-4-66	-do-
21.	Tube-well Scheme in Riverain area of Sukkur and Khairpur.	24.03	13-4-66	-do-
22.	Installations of 52 Tube-wells for extending Irrigation facilities for land in Sialkot Tehsil Upstream Marala Handworks.	12.25	21-7-66	Approved
23.	Constructing Subsidiary Regulator and to increase Bye-pass Channel at Naulakhi X-Regulator RD 205 Rohri Main Canal.	12.53	8-9-66	Approved
24.	Constructing Subsidiary Fall at the Mirza Fall R. D. 588	15.31	8-9-66	-do-
25.	Salinity Control and Reclamation Project No. 4 Upper Rachna Doab West Pakistan (Revised).	3109.80	10-4-67	25-5-67
26.	Quetta Thermal (Power) Scheme (Revised).	473.20	2-2-67	Cleared on 4-7-67 (Ex-post Facto Approval)
27.	Gurabh Dam Scheme	13.39	5-5-64	Ex-Post Facto approval on 4-7-67.
28.	Salinity Control and Reclamation Project No. V.	16.64 crores	16-1-67	Cleared on 24-8-67
29.	North Rohri Fresh Ground Water Project.	18 crores	15-7-67	-do-
30.	Gudu Thermal Power Station	Rs. 56 crores	19-6-67	Cleared on 24-8-1967
31.	Systems, Additions, Renewals and Replacement	60.71 crores	28-6-67	-do-
32.	Providing two Additional Gas Turbines at Kotri	2.5 crores	26-4-67	-do-
33.	Northern Transmission Lines Extension	8 crores	26-5-65	-do-
34.	Gudu Ground-water Development Project Phase I.	91.61	3-5-67	-do-
35.	Extension of Bakht Branch, Thal Canal System	64.56	3-5-67	-do-
Physical Planning and Housing Sector				
36.	Expended Consulting Engineering Services under U. S. Aid for 28 W/S and Sewerage for major cities	155.86	10-5-66	9-5-67
37.	Refuse composting plant for the city of Karachi	84.10	11-11-67	22-11-67
38.	Part II, Second Phase of Bulk Water Supply Scheme to augment the city of Karachi supply by 5.	350.00	20-12-66	9-5-67

1	2	3	4	5
39.	Development of Orangi Township Karachi	192.37	18-1-67	9-5-67
40.	Greater Lahore Water Supply, Sewerage and Drainage Project, Phase I.	1253.30	12-11-66	-do-
41.	Construction of Additional block in the Office of the West Pakistan, Public Service Commission.	3.05	5-1-67	-do-
42.	Hyderabad Water Supply Scheme Phase II	40.70	4.1.67	-do-
43.	Providing accommodation residential and non-residential for Circle, Divisional staff at Abbottabad.	6.49	31-12-66	-do-
44.	Aerial Survey and Topographical Maps.	29.14	17-4-67	5-7-67
45.	Pilot Project of outline Development Plan for Okara Town	1.68	17-6-67	-do-
46.	Regional Development Plan for Peshawar Valley.	9.13	19-1-67	-do-
47.	Sheikhupura Water Supply Scheme	34.24	9-1-67	5-7-67
48.	Hyderabad Sewerage and storm drainage Project Phase I and II.	392.00	8-7-65	-do-
49.	Greater Rawalpindi Water Supply Scheme	274.88	8-3-67	-do-
50.	Studies and Engineering for greater Quetta Water Supply and Sewerage Scheme.	37.00	15-7-67	20-11-67
51.	Greater Karachi, Master Plan Project	33.50	7-7-67	20-11-67
52.	Town Expansion Scheme No. I	89.30	31-8-67	20-11-67
53.	Construction of six Secretaries and one Deputy Secretary residences in G.O.R.I. at Lahore.	7.05	5-9-67	20-11-67
54.	Construction of Deputy Commissioner's residence	1.09	30-8-67	20-11-67
55.	Air Conditioning of Judges Chambers in the High Court Building.	1.77	19-8-67	20-11-67
56.	Expansion of High Court Building at Lahore	14.92	11-11-67	20-11-67
Transport and Communications				
57.	Replacement of Superstructure of Old Ravi Bridge near Shahdara.	41.21	23-1-67	27-1-67
58.	Improving and Widening of D. I. Khan Bannu Road.	20.26	21-10-66	27-1-67
59.	Soling, metalling and Surfacing Khaki Oghi Road.	11.08	30-12-66	8-5-67
60.	Construction of Lawrence College Jhika Gali By-Pass Road in Rawalpindi District.	14.66	17-9-65	8-5-67
61.	Reconditioning of Renala Salghara Road in Sahiwal District.	5.96	7-5-66	8-5-67
62.	Improvement to Changa Manga Jhamber Road in Lahore District.	2.82	24-5-65	8-5-67
63.	Construction of Link Road from Mile 154/1 G. T. Road to Village Sangori in Rawalpindi District (Village of Captain Muhammad Sarwar Shaheed Nishan-e-Haider).	1.80	4-11-66	8-5-67

1	2	3	4	5
64.	Metalling of Hingorja Thari Road in Khairpur District.	10.22	29-10-66	8-5-67
65.	Improvement of Tando Allayar Tando Ghulam Ali Road.	25.03	10-11-65	5-7-67
66.	Providing alternative link to G. T. Road from District Court to Mile 9/5 of Lahore By Pass Road.	18.54	6-6-67	5-7-67
67.	Construction of Road from Bubak Railway Station to Bubak Village.	6.70	6-3-67	5-7-67
68.	General Highway Consultants	109.4	10-6-67	5-7-67
69.	Reconditioning Gujrat-Sargodha Road	49.64	5-8-67	22-11-67
70.	Widening and Improving the Mall Lahore from Charing Cross to Zaffar Ali Road.	29.37	2-8-67	22-11-67
71.	Widening Black top portion of Hazara Trunk Road, from Hasan Abadal to Abbotabad.	16.18	12-3-65	22-11-67
72.	Construction of Road from Bakrani Village to Bakrani Railway Station.	3.76	4-1-66	22-11-67
Industries Sector				
73.	Heavy Electrical Complex	1,313.70	20-4-66	27-1-67
74.	A. C. Rohri Plant	300.00	20-11-66	27-1-67
75.	A. C. Wah Plant	270.00	28-11-66	27-1-67
76.	Central Foundry and Forge Project	1,355.36	24-12-66	27-1-67
77.	Mineral Development Laboratories at Peshawar and Quetta.	40.00	13-4-67	24-4-67
78.	Dir Forest Industries Complex	628.00	10-12-66	10-6-67
79.	Re-organization of Industrial Research Laboratory and Workshop attached to it.	24.24	25-8-67	10-6-67
80.	Development and Utilization of Swat China Clay	353.41	2-5-67	10-6-67
81.	Low Temperature Carbonisation, Briquetting and Curring Plant, Quetta.	202.79	4-11-66	10-6-67
82.	Low Temperature Coal Briquetting Plant Makerwal.	24.82	7-3-67	10-6-67
83.	Kalabagh Steel Mill Project	14,991.00	26-11-65	10-11-67
Education Sector				
84.	West Pakistan Education Equipment Technical Assistance Centre. (Revised).	18.00	8-2-67	22-4-67
85.	Construction of hostel in the Government Colleges (24 Inter Colleges).	48.00	13-7-67	15-9-67
86.	Construction of Hostels in 16 Degree Colleges	48.00	13-7-67	15-9-67
87.	Establishment of Cadet College Kohat	70.37	31-7-67	15-9-67

1	2	3	4	5
88.	Industrial Survey—a Project for Manufacturing Statistics.	4.83	30-6-67	3-7-67
Health Sector				
89.	Expansion and Improvement of Nishtar Hospital, Multan.	29.12	10-2-65	24-4-67
90.	Construction of Mental Hospital, Dhudial near Mansehra (cost of land).	26.63	27-8-67	24-4-67
91.	Improvement and Expansion of Sandeman Hospital, Quetta.	14.00	12-10-64	24-4-67
92.	Construction of residential and non-residential accommodation for the staff of Maternity Child Health Centre attached to Public Health School, Quetta.	1.54	3-8-65	24-4-67
93.	Institute of Hygiene and Preventive Medicines, Lahore.	11.00	27-3-61	8-7-67
94.	Construction of 8 Nos. Junior Officers flats and hostel for 40 students in Lady Willington Hospital Lahore.	10.93	15-10-64	8-7-67
95.	Tehsil Headquarter Hospital at Shujaabad and Rajanpur in Multan Division.	15.00	25-5-67	8-7-67
96.	Opening of new Tehsil Headquarter Hospital in Khairpur Division.	30.00	23-6-67	8-7-67
97.	Construction of new Tehsil Headquarter Hospital Hyderabad Division (at Mehar in Dadu District, Shaddadpur in Sanghar District and at two other places.	30.00	26-8-67	15-9-67
98.	Establishment of a Dental Section in Nishtar Medical College, Multan.	2.18	24-4-67	15-9-67
Social Welfare Sector				
99.	Pilot Rural Development Project for the blinds	23.93	22-4-65	8-7-67
100.	Grant-in-Aid to the University of Karachi for the scheme of a social research centre of the Department of Social Work, Karachi University.	6.34	14-3-66	15-9-67
101.	Scheme Grant-in-Aid to Institutes of Hyderabad and Peshawar.	5.00	14-3-66	15-9-67
Man-power Sector				
102.	Technical Training Centre Mughalpura, Second Phase.	8.94	31-12-65	18-4-67
103.	Technical Training Centre, Hyderabad	12.57	8-1-66	18-4-67
104.	Control Mines Rescue and Safety Station, Quetta.	22.00	9-2-65	18-4-67
Frontier Regions				
105.	Opening and construction of two inter-colleges with hostels at Danin Chitral State and Timeragara Dir State and purchase of equipment.	10.20	22-8-66	22-4-67

1	2	3	4	5
106.	Opening and construction of 100 primary schools building in the Tribal areas of Peshawar Division.	15.00	12-4-67	22-4-67
107.	Construction of Single Road from Zargari to Ghilji.	13.28	10-2-67	8-5-67
108.	Improving, Soiling, Metalling Tanai Gulkach Road.	36.00	22-3-65	8-5-67
109.	Construction of Shingle Road Farm Junction of Peshawar, Michnai, Abazai Road Mile 20/3 from Pirkilla to Yousaf Khel Village.	16.86	20-1-61	8-5-67
110.	Improving, Soling, Metalling and Surfacing Miracshah Boya Datta Khel Road.	25.00	22-3-65	8-5-67
111.	Surfacing of Road from Gammon Bridge to Village Giddara (Kurram Agency).	13.16	7-3-67	8-5-67

**STATEMENT SHOWING THE SCHEMES DISAPPROVED BY THE
PROVINCIAL DEVELOPMENT WORKING PARTY DURING THE YEAR 1967**

(Figures in lacs of Rupees)

Sr. No.	Name of the scheme	Total cost	Date of receipt in P&D Deptt.	Date of Dis-approval	Reasons for Disapproval
Physical Planning and Housing Sector					
1.	Establishment of Public Health Engineering and Technical Training Institute, Lahore.	35.00	10-2-67	9-5-67	Sponsors were advised to approach the Education Department for necessary facilities.
2.	Rural Water Supply at Nankana Sahib District Sheikhpura.	6.15	20-1-67	9-5-67	The Sponsors did not furnish the undertaking for bearing the proportionate capital cost and annual operational cost.
3.	Reservation of 10 beds for the patients of West Pakistan Rangers in Government Sanatorium.	1.06	30-6-67	22-11-67	It was decided that the Health Department may be directed to reserve 5 T.B. Beds for West Pakistan Rangers till such time that their own Hospital is completed.
Industries Sector					
4.	Expansion of Bahawalpur Printing Press.	18.00	28-9-66	27-1-67	The scheme was dropped as it is not in 3rd Five-Year Plan.
5.	Kraft Paper Mill Project	680.00	1-8-66	10-6-67	The scheme was dropped and the Sponsors were directed to submit the Supplementary information on the prospects of fertilizer exports by 1970. They were also directed to examine the economics of an integrat pulp paper plant.
Transport and Communication Sector					
6.	Improvement and Providing dual carriage way to the Mail Passing through G.T. Rawalpindi Mile 172-176.	10.96	14-7-67	22-11-67	The scheme was rejected because there was no justification for it in view of the fact that two link roads to Islamabad had already been completed.
Water and Power Sector					
7.	Reconditioning Distributries and Miners in Hala Division.	33.80	16-2-65	4-7-67	Stringent resource position.
8.	Rehabilitating Banks of Canals Ex-Khairpur Feeder West.	12.00	15-2-65	4-7-67	Over-lapping of the activity.

APPENDIX IV

(Ref: Starred Question No. 11339)

STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF RESUMED LAND SOLD
TO VARIOUS PERSONS IN VILLAGE MEGA KADI TAHSIL SHAHPUR,
DISTRICT SARGODHA

Under the Sale/Upgrading Schemes

S. No.	Name of person	Area allotted	Rate
1	2	3	4
		Kanals	
1.	Ahmad s/o Muhammad	.. 44.10	At the fixed rate of Rs. 8/- per produce index unit.
2.	Ahmad s/o Jauria	.. 95.5	-do-
3.	Allah Bakhsh s/o Raja Atta Muhammad	.. 22.00	-do-
4.	Imam s/o Sada	.. 5.5	-do-
5.	Murad s/o Baza	.. 69.5	-do-
6.	Bhai Khan s/o Sultan	.. 82.5	-do-
7.	Bahadur Shah s/o Haider Shah	.. 36.5	-do-
8.	Pathan and Saeed s/o Ziada	.. 41.00	-do-
9.	Taja and Muhammad Bakhsh s/o Ziada	.. 10.10	-do-
10.	Jalla s/o Gaman	.. 88.00	-do-
11.	Jumma s/o Sardara	.. 103.10	-do-
12.	Sultan s/o Abdullah	.. 111.05	-do-
13.	Chan Pir Shah, Hayat s/o Sada	.. 48.00	-do-
14.	Ataya s/o Salehon	.. 121.15	-do-
15.	Hayat s/o Sultan	.. 103.00	-do-
16.	Hayat s/o Taja	.. 133.00	-do-
17.	Hayat and Faiz s/o Khannoo	.. 45.05	-do-
18.	Ali s/o Muzaffar	.. 74.05	-do-
19.	Haider Shah s/o Fatch Shah	.. 19.09	-do-
20.	Khannoo s/o Baza	.. 19.15	-do-
21.	Dossa s/o Malli	.. 166.00	-do-
22.	Ditta s/o Malli	.. 7.00	-do-

1	2	3	4
23.	Rahman s/o Pathan	.. 119.10	At the fixed rate of Rs. 8/- per produce index unit.
24.	Rahman s/o Malli	.. 142.15	-do-
25.	Nazra s/o Karam Ali, Ramzan s/o Ziada	.. 110.15	-do-
26.	Ramzan s/o Shahalm	.. 91.00	-do-
27.	Ramzan s/o Ali	.. 4.00	-do-
28.	Ziada s/o Gallo	.. 26.15	-do-
29.	Sajada s/o Jalal	.. 208.00	-do-
30.	Sardara s/o Muhammad	.. 56.00	-do-
31.	Sardara and Muhammad s/o Mubhara	.. 2.00	-do-
32.	Sultan s/o Mehdi	.. 64.00	-do-
33.	Sultan s/o Dulla, Ghulam Muhammad s/o Salehon	.. 106.10	-do-
34.	Soni s/o Ismail	.. 83.00	-do-
35.	Abdul s/o Barkhurdar	.. 45.15	-do-
36.	Alam s/o Shahalam	.. 73.00	-do-
37.	Utaya, Ramzan and Ali s/o Walli Muhammad	.. 132.00	-do-
38.	Ali s/o Jalal	.. 85.15	-do-
39.	Ata s/o Mutalli	.. 82.00	-do-
40.	Ali s/o Sardara	.. 117.10	-do-
41.	Sardar and Ali s/o Naja	.. 142.10	-do-
42.	Ali and Mali s/o Alam	.. 248.00	-do-
43.	Ghulam Muhammad s/o Lala	.. 25.00	-do-
44.	Ganman s/o Sardara	.. 101.10	-do-
45.	Gulla and Khushi s/o Malli	.. 116.00	-do-
46.	Lala s/o Ziada	.. 39.15	-do-
47.	Lakha s/o Bhawal	.. 95.15	-do-
48.	Muhammad s/o Chanoon	.. 16.00	-do-
49.	Maghari s/o Sultan	.. 68.15	-do-
50.	Muhammad s/o Jawaya	.. 151.00	-do-
51.	Muhammad Nawaz and Mumtaz s/o Ali	.. 130.15	-do-
52.	Mutalli s/o Ali	.. 101.00	-do-
53.	Muhammad Hussain s/o Raja Shah	.. 93.10	-do-
54.	Muhammad Rafiq s/o Ataya	.. 25.10	-do-

1	2	3	4
55.	Muhammad s/o Ziada	.. 135.15	-do-
56.	Muhammad s/o Dayamand Sardar s/o Chiragh, Mirza s/o Haider.	34.10	-do-
57.	Muhammad s/o Kammoon	.. 96.00	-do-
58.	Muhammad Yousaf s/o Umara	.. 60.10	-do-
59.	Walli s/o Malli	.. 110.00	-do-
60.	Walli s/o Sajada	.. 108.05	-do-
61.	Kadar Bakhsh s/o Salrhon	.. 84.10	-do-
62.	Chan Pir Shah s/o Fazal Shah	.. 31.05	-do-
63.	Amin s/o Muhammad	.. 56.00	-do-
64.	Bhai Khan s/o Jalal	.. 50.05	-do-
65.	Gaman etc.	.. 1.10	-do-
66.	Muhammad Hussain	.. 0.10	-do-
67.	Hayat s/o Naja, Sardara s/o Naja	.. 0.15	-do-
		5,116.00	(639 acres 4 kanals)


Through Auction

S.No.	Name of auction-purchaser	Area sold		Reserve price	Highest bid
		K.	M.	Rs.	Rs.
1.	Umar Hayat s/o Mazar Hayat through Chan Pir Shah.	101	00	4,530.25	4,740.00
2.	-do-	51	15	2,343.00	2,580.00
3.	-do-	107	05	825.00	860.00
4.	-do-	99	10	5,328.00	5,440.00
5.	-do-	92	00	5,222.25	5,268.00
6.	-do-	99	00	5,200.50	5,330.00
7.	-do-	92	00	9,409.25	5,580.00
8.	-do-	128	½	2,866.25	2,920.00
9.	-do-	422	½	2,788.50	2,820.00
10.	-do-	307	½	1,996.50	2,050.00
11.	-do-	567	00	5,742.00	5,840.00

APPENDIX

609

1	2	3	4	5
12.	Sarwar Sultana w/o Nazar Hayat	399½	4,173.25	4,240.00
13.	-do-	379½	2,904.00	3,040.00
14.	-do-	411½	2,656.50	2,730.00
15.	-do-	417	2,689.50	2,880.00
16.	-do-	405	5,951.75	6,025.00
17.	-do-	446½	3,242.15	3,525.00
18.	-do-	470½	3,159.50	3,325.00
19.	-do-	407½	5,248.00	5,570.00
20.	Sultan Khatoon d/o Nazar Hayat Khan	237	10,570.50	10,735.00
21.	-do-	395½	8,868.75	9,030.00
22.	-do-	332½	13,134.25	1,330.00
23.	-do-	304	8,423.25	8,530.00
24.	-do-	367½	2,928.75	3,275.00
25.	-do-	446½	2,879.00	3,020.00
26.	-do-	391	9,009.00	10,040.00
27.	-do-	416	11,715.00	12,000.00
28.	-do-	424½	4,801.50	5,040.00
29.	-do-	296½	3,910.50	4,060.00
30.	-do-	341	5,676.00	6,250.00
31.	Fateh Khatoon d/o Malik Khizar Hayat Khan	390½	2,475.00	1,500.00
32.	-do-	402½	2,598.75	1,600.00
33.	-do-	408½	2,631.75	1,600.00



PROVINCIAL ASSEMBLY OF WEST PAKISTAN
SEVENTH SESSION OF THE SECOND PROVINCIAL ASSEMBLY
OF WEST PAKISTAN

Monday, the 6th May, 1968

دو شنبہ ۷ - صفر المظفر ۱۳۸۸ھ

The Assembly met at the Assembly Chamber, Lahore at 8-00 a.m. of the clock. Mr. Speaker, Chaudhri Muhammad Anwar, in the Chair.

Recitation from the Holy Qur'an by Qari Ali Hussain Siddiqi (Qari of the Assembly) and its translation.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُونَكُمْ وَلَا يَضُرُّونَكُمْ فَإِنْ
فَعَلْتُمْ فَاتَّكَبْتُمْ أَفْوَاهًا وَإِنْ تَسْتَعِينُوا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَأَشْكُوا لِلَّهِ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَنْفَعُونَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ بَلْ هُمْ كَافِرُونَ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا تَقُولُونَ إِنَّكُمْ
أَهْتَدْتُمْ فَأَمَّا عِدَّتِي مِنْ أَنْفُسِي فَوَمَنْ لِي فَأَمَّا يَتَّبِعُنَّ عُلَمَاءَهُمْ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِمُخَوِّفٍ
وَأَنْتُمْ مَأْلُومُونَ وَإِنَّمَا يَحْكُمُ اللَّهُ وَأَنَّهُ هُوَ أَعْلَمُ مَا تُكْتُمُونَ

(پ ۱۱ - س ۱۱ - رکوع ۱۶ - آیات ۱۰۶ تا ۱۰۹)

(دوسرے بند) اللہ کو پکار کر ایسی چیز کہ جس سے تم کو نفع ہو تمہارا کچھ بھلا کر سکتا اور نہ کچھ بگاڑ سکتا۔
پس اگر ایسا کرو تو ظاہر میں تو اسے اور اگر تم کو اندر کا کھلیفہ پہنچا دے تو اس کے ہوا میں کا
کوئی دور کرنا تو نہیں اور اگر وہ تم سے بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی نہ کہنے والا نہیں وہ
پانے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے تا وہ پہنچاتا ہے اور غور و فکر کرنا تو اسے بڑا مہربان ہے۔ کہو
کہ لوگو تمہارے پروردگار کے ہاں سے حق آچکا ہے تو جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو آیات سے
پہنچے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے۔ اور جو کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا نقصان کرتا
ہے اور جس تمہارا دلیل تو ہوں نہیں۔

اور ایسے پیغمبر تم کو دکھایا جاتا ہے اسکی پیروی کے جاؤ اور نکالین پھر کرو یہاں تک کہ

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker : Now the Question Hour. **Mr. Zain Noorani.**

CRACKS IN SIND UNIVERSITY BUILDINGS

***10006. Mr. Zain Noorani :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that recently the roof of the auditorium of the Sind University has collapsed :

(b) whether it is also a fact that cracks in walls and roofs of other buildings of the University have also been reported ;

(c) if answer to (a) and (b) above be in the affirmative, (i) when was the said auditorium constructed and when were these other buildings, where cracks have been reported, constructed, and (ii) the steps Government intends to take in the matter ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : (a) No.

(b) Yes.

(c) (i) The period of construction of the buildings in (b) ranges from 1957- 67.

(ii) The University has appointed an Enquiry Committee to investigate and report. Further action will be taken in the light of the report.

Mr. Zain Noorani : Is it a fact that besides the setting up of the Committee of Enquiry by the University the West Pakistan Anti-Corruption Council has also instituted an enquiry into this matter.

Minister of Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : Yes Sir.

Mr. Zain Noorani : Is the Minister aware of a news item appearing in most of the newspapers in Karachi and Sind bearing an APP press line stating categorically that the roof of the auditorium of the Sind University had collapsed ?

Minister of Education : Sir, the auditorium in the Liaquat Medical College had collapsed and not in the Sind University. We contacted the Vice-Chancellor, who informed us that the buildings in the University are intact but certain cracks have appeared here and there

and they have appointed their Committee to look into the matter as to why such a thing has happened when the buildings were recently built. He has alleged that the soil on which this University Campus was constructed did not have enough bearing capacity. Anyway, it is for that expert Committee to go and look into it and when the report is submitted to us, we will inform the Member.

Kazi Muhammad Azam Abbasi : Will the Minister please tell us whether the soil was tested when this construction was started ?

Mr. Speaker : I think the period of construction has been given in the Answer, *i.e.*, from 1957 to.....

Kazi Muhammad Azam Abbasi : About soil Sir.

Minister of Education : Sir, it will come to light whether at the time of construction of buildings, the bearing capacity of the soil in question was tested or not. When we receive the report, if necessary, responsibility will be fixed on the person who did not bother to test the soil.

Mr. Zain Noorani : When was the University and the Campus constructed ?

Minister of Education : It was constructed during 1957-67.

Mr. Zain Noorani : It is about the University and not the Campus; the Campus could not have been constructed in 1957.

Minister of Law : Sir, to my knowledge, the work did start as early as 1957. Maybe, it gathered momentum later on and the buildings came up after that, but the work in fact did start.

NON-PAYMENT OF SALARIES TO TEACHING STAFF OF SIND
MODEL ARTS COLLEGE, TANDO ALLAHYAR

*10014. **Mr. Zain Noorani :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that almost all the teaching staff of the Sind Model Arts College, Tando Allahyar resigned from service in October, 1967, due to non-payment of their salaries for about eight months ;

(b) whether it is a fact that the said Sind Model Arts College was the only College in Tando Allahyar ;

(c) was the said College a recognised College receiving aid from Government ;

(d) was the Government aware of its financial plight prior to the resignation of the teaching staff ; if so, the action taken by Government in the matter ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : (a) Yes, but they have withdrawn the resignations.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) No.

Mr. Zain Noorani : Now that the Government is aware of the financial plight of this College, what action has been taken to ensure that such incidents are not repeated.

Minister of Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : It is the duty of the Managing Committee to ensure that they were not short of funds and that they are able to run their institution.

Mr. Zain Noorani : The fact remains that there is shortage of funds. Does the Government intend to take over the College in the interest of the boys ?

Minister of Education : According to our information, there are now 40 to 50 boys studying in the Arts College, but the teachers have now withdrawn their resignations because they have been paid their salaries. Government has appointed a Committee to go into the affairs of the Private Colleges. Their report was submitted to me and our department had studied it and sent it back to the Committee for further clarification. When the report is sent to us again, we will take any action that is required to be taken.

SCHOOLS AND COLLEGES RUN BY GOVERNMENT

*10045. **Chandhri Muhammad Idrees :** Will the Minister for Education be pleased to state the number of Primary Schools, Middle Schools, High Schools and Colleges being run by Government in each Division of West Pakistan as on 31st October 1955 and 31st October 1967 ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : The requisite information is given in Appendix "A".

APPENDIX "A"

NUMBER OF SCHOOLS RUN BY GOVERNMENT

Division	On 31st October 1955				On 31st October 1967			
	Primary	Middle	High	College	Primary	Middle	High	Colleg
Lahore ...	5	2	35	9	3,541	332	64	17
Multan ...	1	1	24	9	4,749	364	49	11
Bahawalpur ...	36	81	35	4	1,729	172	43	5
Rawalpindi	2	27	5	3,235	424	51	17
Sargodha	5	26	5	4,390	434	49	14
Quetta ...	209	14	11	2	737	52	31	5
Kalat ...	130	15	10	...	467	64	19	2
Hyderabad ...	2,590	2	13	4	4,325	126	30	10
Khairpur ...	2,454	48	20	4	3,947	185	45	9
Peshawar ...	794	188	80	5	2,810	253	116	13
D. I. Khan ...	296	68	16	2	721	88	28	6
Karachi ...	231	17	39	5	487	27	71	8

Begum Ashraf Burney : Will the Minister of Education kindly explain why the number of primary, middle, high schools and colleges is so low in Karachi as compared to other divisions ?

Minister of Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : These schools in the former Punjab and Sind were private schools ; some were run by the District Boards and Town Committees. Later on they were taken over by the Provincial Government and they were provincialized. That is why their number is high.

Begum Ashraf Burney : May I bring to the notice of the Minister that is the position in the case of primary education. Why is the number of colleges, and middle and high schools so low ?

Minister of Education : As far as my information goes, Karachi has got the biggest concentration of schools and other educational institutions. As far as West Pakistan is concerned, it has got the maximum possible facilities there.

Mr. Zain Noorani : Sir, figure 8 is shown as the number of the colleges in existence at Karachi. Does it include the college at Landhi ?

Minister of Education : The Landhi-Korangi college was sanctioned this year.

Mr. Zain Noorani : It was sanctioned last year but it has not started this year.

Minister of Education : It would be started in due course of time.

Begum Ashraf Burney : Sir, the Minister has just said that the number of colleges and educational institutions is very high in Karachi, but that is because they are opened and run by private sector. What part has the Government played in giving us greater number of colleges in Karachi ; I mean, the Government has to play its own part, with regard to my region.

Minister of Education : Sir, we have just given them a college.

— — —
EDWARDS COLLEGE, PESHAWAR

***10060. Chaudhri Muhammad Idrees** : Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the amount of grant given to Edwards College, Peshawar during the years 1965-66 and 1966-67 separately ;

(b) the dates (other than those declared as holidays by the Education Department) on which the said College remained closed during the said two years and reasons therefor ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) :

		1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.
(a) Recurring	...	67,100·05	66,595·25
Non-recurring	20,750·00
Total	...	67,100·05	87,345·25

(b) 1966 : October 26th—31st.

1967 : April 19th—22nd or 23rd.

1967 : October 25th—31st.

Mid break is being observed since 1956.

چودھری محمد نواز - کیا وزیر موصوف یہ ارشاد فرمائیں گے کہ جیسا کہ انہوں نے اپنے جواب میں اعداد و شمار پیش کئے ہیں کہ ایڈورٹز کالج پشاور کو سال کے آخر میں انہوں نے ستاسی ہزار روپیہ گرانٹ دی ہے تو جس وقت حکومت کسی مشنری سکول یا کالج کو کوئی گرانٹ دیتی ہے تو کیا حکومت کا یہ فرض نہیں ہوتا کہ جو مسلمان طلباء ان مشنری اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں - ان کے مذہبی فرائض کی ادائیگی کے متعلق یہ دیکھے کہ ان کو کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا - کیونکہ اس مذکورہ ادارے کے مسلمان طلباء کی طرف سے بار بار یہ شکایات پیش کی گئی ہیں - تو آیا ان کی اس قسم کی شکایات پر کوئی کارروائی کی گئی ہے ؟

وزیر تعلیم (مسٹر محمد علی خان) - جناب والا - جہاں تک ایڈورٹز کالج پشاور میں زیر تعلیم طلباء کا تعلق ہے ، وہاں پر ننانوے فیصد مسلمان طلباء ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اگر وہ اپنے مذہب کے فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں تو ان میں مذکورہ کالج کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جاتی - البتہ ہمیں جس قدر شکایات اس سلسلے میں موصول ہو چکی ہیں ہم نے وہاں کے ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس بارے میں تفتیش کر کے ہمیں اپنی رپورٹ ارسال کریں -

چودھری محمد سرور خان - جناب والا - کیا وزیر موصوف یہ ارشاد فرمائیں گے کہ کیا ان کو اس بات کا علم ہے کہ اس کالج کے متعلق

اس قسم کی یہ شکایات بہت پرانی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے اس ادارے میں تعطیلات کی جو فہرست پیش کی ہے ، اس کے مطالعہ سے کیا یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ اتنی چھٹیاں ہمارے ملکی اور ملی مفادات سے ہم آہنگ نہیں ہیں اور کیا ان کو اس بات کا بھی علم ہے کہ اسی کالج کے متعلق ایک شکایت یہ بھی کی گئی تھی کہ قائد اعظم کے یوم وفات پر بھی یہ کالج بند نہیں کیا گیا تھا ۔ تو کیا اگر ایسا ہو تو آپ اس کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے لئے تیار ہیں ۔

وزیر تعلیم ۔ جناب والا ۔ اس سلسلے میں اسی معزز ایوان میں ایک سوال بھی پوچھا گیا تھا جس کے بعد ہم نے کالج کے پرنسپل سے جواب طلبی بھی کی تھی ، جس کے جواب میں اس نے یہ کہتے ہوئے معافی مانگ لی تھی کہ یہ ان سے سہو نظر کی وجہ سے غلطی ہو گئی تھی اور کالج کھولا گیا تھا ۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس قسم کی چھٹیاں اسی طرح دیں گے جس طرح کہ دیگر تعلیمی ادارے دیتے رہتے ہیں ۔ اس کے علاوہ اس کالج کی جو مخصوص چھٹیاں ہیں اور جن کا ذکر جواب میں کیا گیا ہے وہ از قسم Mid-term, Easter اور Christmas ہیں ۔ لیکن اب ہم نے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن اور ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ اگر ہو سکے تو تمام صوبے میں uniform تعطیلات ہی منائی جائیں ۔ تو جب ان ہدایات پر عملدرآمد ہوگا تو اس کے بعد تمام مغربی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ایک طرح کی ہی تعطیلات منائی جائیں گی ۔

چودھری محمد نواز ۔ کیا وزیر موصوف یہ ارشاد فرمائیں گے کہ کیا اس کالج کے جو پرنسپل ہیں وہ پہلے مرینگر میں ایک کالج کے پرنسپل تھے اور ان کو وہاں سے بھارتی حکومت نے جاسوسی کے الزام میں نکالا

تھا اور کیا وزیر صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ آج کل یہاں پر بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں۔

وزیر تعلیم - جناب والا - جہاں تک اس پرنسپل کی ذات کا تعلق ہے - مجھے اس سے قبل علم نہیں تھا - البتہ جب ایک فاضل رکن نے اس معزز ایوان میں ان پر الزام لگایا تھا تو نہ صرف یہ کہ مجھے ہی اس بارے میں علم ہوا بلکہ سارے معزز ایوان کو بھی اس کا علم ہو گیا - لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی ایجنسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اس الزام کو پایہ ثبوت تک پہنچایا جا سکے کہ چونکہ وہ سرینگر میں جاسوسی کرتے تھے لہذا بھارتی حکومت نے انہیں وہاں سے نکال دیا تھا - جہاں تک ان کے ہشاور میں آ جانے کے بعد کے عرصہ کا تعلق ہے، حکومت کو اس قسم کی کوئی بھی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے -

چودھری محمد ادریس - جناب والا - میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس تعلیمی ادارے کو کسی قسم کی گرانٹ دیتے ہیں تو وہ لازماً بعض قواعد و ضوابط کے تحت ہی دی جاتی ہوگی - اور جو ادارے ان قواعد و ضوابط کو ملحوظ نہیں رکھتے، کیا آپ ان کی affiliation اور recognition منسوخ کر دیتے ہیں -

وزیر تعلیم - جناب والا - یہ درست ہے کہ ہم تعلیمی اداروں کو جو گرانٹ دیتے ہیں - وہ قواعد و ضوابط کے تحت ہی دیتے ہیں - اور جہاں تک اس تعلیمی ادارے کا تعلق ہے، یہ سابق سرحد کے دو پرانے کالجوں میں سے ایک ہے اور اب تک چل رہا ہے اور یہ کہ مسلمان طلباء کی بہت بڑی تعداد اس ادارے سے مستفید ہو رہی ہے اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر سو فیصد نہیں تو کم از کم ساٹھ فیصد تعلیم یافتہ لوگ یقیناً اسی کالج سے پڑھے ہوئے ہیں -

چودھری محمد سرور خان - کیا وزیر موصوف مجھے بتائیں گے کہ ابھی ابھی انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن اس کالج کے متعلق پریس نے اور لڑکوں نے علیحدہ علیحدہ بھی شکایت کی تھی کہ کالج مذہبی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے اور انہوں نے روزے رکھنے کے متعلق شکایت کی تھی کہ انہیں روزے رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی -

وزیر تعلیم - جناب والا - میں نے تو عرض کیا تھا - کہ مجھے شکایت موصول ہوئی ہے مگر روزے نہ رکھنے کے بارے میں شکایات ابھی بھی موصول ہوئی ہیں - جس سے معلوم ہوا ہے کہ کالج کی انتظامیہ نے بچوں کو روزے رکھنے سے منع کیا ہے - اس بارے میں ہم نے ڈائریکٹر ایجوکیشن کو کہہ دیا ہے کہ وہ تفتیش کریں اور اس کے متعلق رپورٹ ہمارے سامنے پیش کریں -

چودھری محمد نواز - کیا وزیر موصوف یہ فرمائیں گے کہ اس پرنسپل کے ایک سٹریس سے تعلقات ہیں اور اس کے ذریعے یہ جاسوسی کا کام کر رہا ہے تو کیا میں آپ سے یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ آیا آپ اس معاملہ میں پوری چھان بین کریں گے کہ یہ شخص جس طرح ہماری قوم اور ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے - کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی ؟

وزیر تعلیم - مجھے اس کے ناجائز تعلقات کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے -

چودھری محمد نواز - - - - جناب والا - میں نے جاسوسی کے بارے میں کہا ہے - جاسوس کے ذریعے آپ کو یہ انفارمیشن - - - - وزیر تعلیم - جناب والا - مجھے اس کے بارے کوئی علم نہیں ہے -

شاید ہوم ڈیپارٹمنٹ کو اس کا کچھ عام ہو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

چودھری محمد ادریس - جناب والا - ابھی ابھی پوچھا گیا ہے -
 غالباً چودھری سرور صاحب نے وزیر تعلیم سے پوچھا تھا - کہ وہ پرنسپل
 لڑکوں کو روزے رکھنے کی اجازت نہیں دیتا - یہ بات بالکل درست ہے - کہ
 وہ پرنسپل نہ صرف یہ کوشش کرتا ہے کہ لڑکے روزے نہ رکھے بلکہ اس
 مقدس مہینہ کی بے حرمتی بھی کرتا ہے - ایک مقتدر ممبر نے پچھلے
 سیشن میں بھی یہ سوال پیش کیا تھا اور یہ اس خاص طور پر آپ کے
 نوٹس میں لایا گیا تھا کہ جب کھانے کے لئے Mess میں جاتے ہیں - تو
 طلباء سے خاص قسم کی دعا پڑھوائی جاتی ہے - اور جس وقت یہ چاہتے
 ہیں کالچ کو بند کر دیتے ہیں اور جس وقت چاہیں کھول لیتے ہیں -
 اس قسم کی چھٹیاں کرنا اصول کے خلاف ہے - کیا آپ نے اس کالچ کو
 گرانٹ دینا بند کر دیا ہے ؟

Mr. Speaker : A supplementary question should not be a speech.

وزیر تعلیم - میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مجھے کوئی شکایت
 موصول نہیں ہوئی - ہم نے ڈائریکٹر ایجوکیشن کو اس کی تفتیش کرنے
 کے لئے کہا ہے - جب صحیح معنوں میں کارروائی مکمل ہو جائے گی -
 تو ہم انشا اللہ ایسا کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے -

OPENING OF COMPREHENSIVE SCHOOLS

*10103. **Mr. Hamza :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Comprehensive Schools are being opened in the Province on a pattern other than the existing Secondary Schools ;

(b) whether it is a fact that the Principals/Headmasters recruited for the said schools are Class I Officers ;

(c) whether it is a fact that in the case of promotions to Class I posts in the Education Department, 20 per cent of the said posts are filled through direct recruitment and the remaining 80 per cent through departmental promotions ;

(d) whether it is a fact that in the case of recruitment of Principals/Headmasters for the Comprehensive Schools the principle of direct recruitment is not followed ;

(e) if answer to (a) and (d) above be in the affirmative, reasons therefor ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) In the case of promotion to Class I posts in the general cadre in the Administration Branch—Men/Women Sections of the Education Department, 25 per cent of the posts are filled by direct recruitment and the remaining 75 per cent by promotion.

(d) No. In the case of Principals of the Comprehensive Schools which are *ex-cadre* posts, the appointment is to be made by direct recruitment through the West Pakistan Public Service Commission on cent per cent basis.

(e) The question does not arise.

مسٹر حمزہ - کیا جناب وزیر تعلیم مجھے یہ بتائیں گے - جیسا کہ آپ نے جواب میں فرمایا ہے - کہ آپ تمام سکولوں، کالجوں میں پبلک سروس کمشن کے ذریعہ سے تعیناتی کرتے ہیں - کیا اس طرح آپ محکمہ کے ان افراد، ان افسران یا تعلیم کے محکمہ کے ملازمین کی جنہیں اس سے پہلے تربیت - اہلیت اور تجربہ یہی حاصل ہے - آپ نے ان کی حق تلفی نہیں کی - کیا آپ نے اس طرح محکمہ تعلیم کے عملے کے ساتھ زیادتی نہیں کی ؟

وزیر تعلیم (مسٹر محمد علی خان) - جناب والا - اس محکمہ میں کسی کی حق تلفی نہیں ہوئی بلکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جملہ سکولوں اور کالجوں میں لائق ترین پرنسپل اور استاد جو کہ بہت پڑھے لکھے

ہوں - ان کی پبلک سروس کمشن کے ذریعہ تعیناتی کی جاتی ہے اور ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ملازمین کو بھی یہ حق حاصل ہے - کہ وہ پبلک سروس کمشن کے مقابلہ کے امتحان میں شرکت کر سکتے ہیں - وہ بھی پبلک سروس کمشن کے سامنے جا کر درخواست دے سکتے ہیں -

مسٹر حمزہ - کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پبلک سروس کمشن نے جن امیدواروں کو چنا ہے ان کے مقابلہ میں زیادہ تجربہ کار اہلیت کے مالک اور تربیت یافتہ امیدواروں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے ؟

وزیر تعلیم - جناب والا - جہاں تک پبلک سروس کمشن کے طریق کار کا تعلق ہے - اس کے بارے میں میں تو صرف یہ عرض کر سکتا ہوں - وہ اہلیت کے ذریعہ سلیکشن کرتے ہیں -

حاجی سردار عطا محمد - میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں - آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہے کہ آپ تجربہ کاروں کو ہی پبلک سروس کمشن میں جانے کا موقع دیتے ہیں - آپ کے پاس کوئی ایسے نام ہیں ؟

وزیر تعلیم - جی ہاں -

حاجی سردار عطا محمد - میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کون سے نام ہیں -

وزیر تعلیم - یہ بعد میں بتا سکتا ہوں -

مسٹر حمزہ - کیا وزیر تعلیم مجھے بتائیں گے - کہ آپ کے محکمہ کے جو ملازمین تربیت یافتہ بھی ہیں - ان میں اہلیت اور تجربہ دکھتے ہیں اور ان میں سے بہت کم کو ان عہدوں کے لیے موزوں تصور

کیا گیا۔ کیا آپ ان میں سے بیشتر ملازمین جو کہ نا اہل ہیں کو علیحدہ کرنے کے بارے میں کچھ فیصلہ کریں گے؟

وزیر تعلیم - سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ جناب والا - اس حقیقت سے انکار نہیں۔ کہ اگر ایک آدمی ایک کام کے لئے موزوں نہ ہو تو وہ دوسرے کام کے لئے موزوں ہو سکتا ہے۔

مسٹر حمزہ - آپ کے محکمہ تعلیم کے جو افراد اہلیت رکھتے ہیں تربیت یافتہ ہیں اور تجربہ رکھتے ہیں۔ کیا ان تینوں خوبیوں کے باوجود وہ لائق نہیں اور آپ انہیں اپنے محکمہ میں لے آئے ہیں۔

وزیر تعلیم - جناب عالی - عرض یہ ہے کہ وہ دوسرے سکولوں کے لئے اچھے استاد ہیں لیکن جامع سکولوں کے لئے اچھے تصور نہیں کئے جاتے۔

— — —

PAY OF GRADUATES FROM GOVERNMENT TECHNICAL TEACHERS
TRAINING COLLEGE, LYALLPUR

*10104. Mr. Hamza : Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that graduates with diplomas in Technical Education from the Government Technical Teachers Training College, Lyallpur and employed in the various Government Schools are allowed to draw fixed pay ; if so, reasons therefor ;

(b) whether it is a fact that according to the Finance Department Notification No. FD-PC (I)-115/63-1718/64, dated 5th January 1965, the said Government servants are entitled to be fixed in the grade of Rs. 220—15—310/15—400 ; if so, why have they been deprived of this scale so far ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : (a) Yes. The reasons are in (b) below.

(b) The pay scale of the posts of Senior English Teacher (Technical) was sanctioned as Rs. 220-115-310/15-400. No post of Senior English Teacher (Technical) existed prior to the issue of F. D's Notification No. FD-PC(I)-115/63-1718/64, dated 5th January, 1965. The existing posts of Workshop Instructors, etc., are being converted into Senior English Teacher (Technical). Thereafter the said Government servants will avail of the running scale of Rs. 220-15-310/5-400.

مسٹر حمزہ - کیا وزیر تعلیم یہ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ مسئلہ کتنی دیر سے محکمہ کے زیر غور ہے ؟ ۱۹۶۴ء میں نوٹیفیکیشن ہوا تھا اور فنانس ڈیپارٹمنٹ نے اس کا فیصلہ کر دیا تھا لیکن آپ کا محکمہ اس پر عمل درآمد نہیں کر سکا - اس کی کیا وجوہات ہیں ؟

وزیر تعلیم (مسٹر محمد علی خان) - محکمہ نے Workshop Instructors کو وہی pay scale دینے کے لئے وزیر خزانہ سے رجوع کیا ہے جب کوئی فیصلہ ہو جائے گا تو These posts would be converted and they would be entitled to these pay scales.

مسٹر حمزہ - دراصل وزیر متعلقہ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کیونکہ ان کو یہ احساس ہے کہ محکمہ اس ضمن میں جلد فیصلہ نہیں کر سکا - کیا آپ یقین دلائیں گے کہ اساتذہ کو اس سے استفادہ کرنے کا جلد از جلد موقع دیں گے -

وزیر تعلیم - ہم نے فیصلہ کر دیا ہے - اب فنانس ڈیپارٹمنٹ کو لکھا ہے کہ اگر وہ فیصلہ کر دیں گے تو ہم کوئی کارروائی کر سکیں گے - جیسا کہ میں نے کہا ہے

They are being approached.

DISPARITY IN THE PAY OF B. T. AND ORIENTAL TEACHERS

*10105. Mr. Hamza : Will the Minister for Education be pleased to state :-

(a) whether it is a fact that before Independence difference between

the initial pay of a B. T. teacher and that of an Oriental teacher was Rs. 20 per mensem;

(b) whether it is a fact that the said difference has now been raised to Rs. 105 per mensem ;

(c) whether it is a fact that this difference was due to the fact that the Oriental teachers lacked knowledge of English ;

(d) whether it is a fact that Fazil in Oriental Languages is now considered as equivalent to an Honours Degree ;

(e) if answer to (a) to (e) above be in the affirmative, reasons for the difference in the pay of the B. T. and Oriental teachers ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : (a) No.

(b) Yes.

(c) No.

(d) No.

(e) A graduate trained teacher has qualifications higher than those of Oriental teachers. A person with a B.A. or B.Sc. degree spends a number of years in colleges and studies a number of subjects. He is qualified to teach any subject in a school and his specialization is not as narrow as that of an Oriental teacher. Thus the utility of a graduate trained teacher is much greater and his education and training is more comprehensive.

مسٹر حمزہ - آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تقسیم سے پہلے تربیت یافتہ انگلش ٹیچر اور اورینٹل ٹیچر کی تنخواہوں میں زیادہ فرق نہیں تھا لیکن اب زیادہ ہے - اس کی کیا وجوہات ہیں ؟

وزیر مال (مسٹر محمد علی خان) - پہلے بھی بڑا فرق تھا - اور

اب بھی بڑا فرق ہے مثلاً

B.A. B.T. کا یہ scale ہے -

Rs. 230-10-270/10-300 as against

Rs. 140-10-220 of Oriental teachers.

دوسرے کا تھا

Rs. 150-10-190-10-220 as against Rs. 105-7-140. The third was Rs. 70-5-90-5-100-5-150 with a start of Rs. 70 for J.Vs. and Rs. 94 for B.A., B.T. for women and Rs. 90-5-115, with a start of Rs. 100 for men.

So Sir, there is a marked difference between these and the Oriental Teachers.

اس کے against یہ Oriental teacher کا scale ہے ۔

Rs. 50-3-80-4-100.

پھر یہ ہے

Rs. 60-3-120

تو اس وقت بھی یہ فرق تھا اور اب بھی ہے ۔

And the existing pay of B.A. B.Ed. is Rs. 220-15-310/15-400 as against the Oriental teachers pay of Rs. 115-5-180-7-250.

مسٹر حمزہ - جناب وزیر تعلیم نے جو جواب دیا ہے کیا وہ اس کو ملاحظہ فرمائیں گے اور دیکھیں گے - کہ تربیت یافتہ انگلش ٹیچر اور اورینٹل ٹیچر کی تنخواہ میں - ۱۰۵ روپیہ سے زیادہ کا فرق ہے - تقسیم سے پہلے ایسا نہیں تھا - (بی) کا جواب آپ نے "ہاں" میں دیا ہے -

خواجہ محمد صفدر - فرق بہت زیادہ ہے - اورینٹل ٹیچر کی تنخواہ -/۱۰۵ روپیہ سے اور انگلش ٹیچر کی تنخواہ -/۲۲۰ روپیہ سے شروع ہوتی ہے -

وزیر تعلیم - پہلے بھی زیادہ فرق تھا -

خواجہ محمد صفدر - اس کی تنخواہ دوگنی ہے یعنی ۱۰۰ فیصد کا فرق ہے - کیا آپ اورینٹل ٹیچر کی تنخواہ پر نظر ثانی کریں گے - فرق بہت زیادہ ہے - اتنا نہیں ہونا چاہیے - اس میں تو انصاف فرمائیں -

پارلیمنٹری سیکرٹری - آپ ملاحظہ فرمائیں - حصہ (اے) کا

جواب "No" میں دیا ہے ۔

جوں جوں گریڈ میں اضافہ ہوتا گیا اسی تناسب سے فرق میں بھی اضافہ ہوتا گیا یہ تو لازماً بڑھنا تھا لیکن تفاوت زیادہ نہیں۔ یہ فرق اسی تناسب سے ہے۔

خواجہ محمد صفدر - میں نے یہ گزارش کی تھی کہ پہلے تناسب سے اضافہ نہیں ہوا۔ پہلے ۷۰ اور ۹۰ روپیہ کے حساب سے فرق صرف ۲۰ روپیہ تھا اب ۱۰۵ اور ۲۲۰ روپیہ کے حساب سے تقریباً ۱۰۰ فیصد کا فرق ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا ۲۰ فیصد اور ۱۰۰ فیصد میں کوئی فرق نہیں۔ میں جناب وزیر تعلیم کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ غریب اورینٹل ٹیچرز کی تنخواہوں کے متعلق ضرور کچھ سوچ بچار کریں تاکہ یہ فرق کم ہو جائے اور ان کے درمیان جو جہن پائی جاتی ہے وہ نہ رہے۔

وزیر تعلیم - فی الحال کوئی ایسی سکیم زیر غور نہیں۔

مسٹر حمزہ - کیا یہ صحیح ہے کہ آپ مشرقی زبانیں جو اردو - فارسی اور عربی ہیں ان کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو انگریزی کو دیتے ہیں۔

وزیر تعلیم - یہ غلط ہے۔ اورینٹل ٹیچرز صرف ایک مضمون پڑھاتا ہے جب کہ بی اے/بی ایس سی ٹیچرز کافی مضامین پڑھاتے ہیں۔ ان میں فکری وسعت زیادہ ہوتی ہے۔ اورینٹل ٹیچرز میں نہیں ہوتی۔

GRANT OF SELECTION GRADE TO UNDER-GRADUATE AND T.D.
PASS TEACHERS

*10108. Mr. Hamza : Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that orders were issued by the Education Department,--vide No. S (4) 1-240-A-11/63, dated 24th July 1963 for the

preparation of lists for the grant of selection grade to the Under-graduates and T.D. passed teachers ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, whether a list has been prepared by the Director of Education, Hyderabad Region ; if so, the number of such teachers who have been granted selection grade under the above-mentioned order ;

(c) in case the said order have not so far been executed, reasons thereof ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : (a) Yes.

(b) The Seniority List of the teachers originally in Government service has been prepared and eight teachers have been granted Selection Grade.

(c) Question does not arise.

مسٹر حمزہ - محکمہ تعلیم نے ۱۹۶۳ء میں یہ احکامات جاری کیے تھے کہ seniority list تیار کی جائے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس تاریخ کو تیار کی گئی تھی ؟

Parliamentary Secretary : It will not be possible to give exact date ; fresh notice should be given.

مسٹر حمزہ - ابھی آپ نے بتایا ہے کہ seniority list تیار ہو چکی ہے۔ آپ کو اس کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے تھی۔ شاید آپ کے احکامات پر عمل نہیں ہونا۔ اس کے اظہار سے میں آپ کی اہمیت بڑھانا چاہتا ہوں۔

Parliamentary Secretary : Sir, as far as the question of preparation of the seniority list is concerned, it is replied that it is ready now and as far as the particular date and time of the preparation is concerned, we did not know that Mr. Hamza would be so pertinent about it.

مسٹر سپیکر - seniority list کی تیاری کی تاریخ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جب نوٹس کا نمبر سال اور تاریخ دے دی گئی ہے تو یہ

anticipate کیا جاتا ہے کہ آپ کو تاریخ معلوم ہونا چاہیے۔ کہ کب وہ آرڈرز implement کیے گئے۔ اب آپ حمزہ صاحب کو تاریخ مہیا کر دیں۔

Minister for Education : Sir, we will give that date.

حاجی سردار عطا محمد - seniority لسٹ میں کتنے استاد شامل کیے گئے ہیں کیا آپ کے پاس وہ ہے ؟
وزیر تعلیم - جناب وہ آٹھ استاد ہیں۔

— — —

DEGREE AND POST-GRADUATE COLLEGES FOR WOMEN IN
THE PROVINCE

*10234. **Begum Ashraf Burney :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the number of Degree and Post-Graduate Colleges for Women in the Province, separately ;

(b) the names of Colleges, out of those mentioned in (a) above, which have been provided with hostels alongwith the number of rooms in each hostel ;

(c) the number of the hostels for girl students in Karachi ;

(d) whether seats are reserved for girl students in General Hostel in Karachi ; if so, the number of seats so reserved ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : (a) As in Appendix 'A'.

(b) As in Appendix 'B'.

(c) (1).

(d) Does not arise.

APPENDIX 'A'

NUMBER OF DEGREE COLLEGES FOR WOMEN

Name of the Region	Number of Post-Graduate Colleges for Women	
	Government	Non-Government
(1) Hyderabad ...	2	5
(2) Quetta ...	1	...
(3) Lahore ...	8	3
(4) Karachi ...	1	7
(5) Peshawar ...	4	...
(6) Rawalpindi ...	4	3

APPENDIX 'B'

Name of the College	Number of rooms of Hostels
1. Government College for Women, Hyderabad	40
2. Government College for Women, Quetta ...	13
3. Government College for Women, Karachi ...	8
4. Queen Mary College, Lahore ...	3
5. Government College for Women, Sialkot ...	34
6. Government College for Women, Multan ...	22
7. Government College for Women, Sahiwal ...	60
8. Government College for Women, Bahawalpur ...	45
9. Kinnaird College for Women, Lahore ...	98
10. Islamia College for Women, Lahore ...	100

11. APWA College for Women, Lahore	...	12
12. Lahore College for Women, Lahore	...	115
13. Lady MacLagan College, Lahore	...	44
14. College of Home Economics, Lahore	...	42
15. Government Frontier College for Women, Peshawar	...	91
16. Government College for Women, Abbottabad	...	19
17. Government College for Women, Rawalpindi	...	20
18. Government College for Women, Lyallpur	...	7
19. Government College for Women, Gujrat	...	29
20. Viqar-un-Nisa College for Women, Rawalpindi	...	10
21. Islamia College for Women, Lyallpur	...	11

بیگم اشرف برنی - میں جناب وزیر تعلیم کے نوٹس میں یہ چیز لانا چاہتی ہوں کہ کراچی کے ساتھ انہوں نے نا انصافی کی ہے کہ کراچی ڈویژن میں کالجز اور پوسٹ گریجویٹ کالجوں کی تعداد بہت کم ہے -

وزیر تعلیم (مسٹر محمد علی خان) - جناب آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ آبادی پر منحصر ہے - ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ایک لاکھ طلباء پر ہر جگہ سہولتیں مہیا کریں جو ہم نے حیدر آباد لاہور اور پشاور میں دی ہیں لیکن اس ضمن میں یہ عرض ہے کہ ہم نے کراچی کو highest سہولتیں مہیا کی ہیں جو سارے مغربی پاکستان میں نہیں مہیا کی گئی ہیں -

بیگم اشرف برنی - جناب والا - وزیر تعلیم نے پھر وہی فرمایا ہے کہ highest سہولتیں مہیا کی ہیں میں عرض کروں گی کہ آپ کی مہیا کی ہوئی سہولتیں نہیں ہیں جو جو پرائیویٹ کالج ہیں ان میں ہم نے خود سہولتیں مہیا کی ہیں - گورنمنٹ کی طرف سے تو صرف ایک کالج ہے اور

پوسٹ گریجویٹ کالج تو کوئی بھی نہیں ہے - میں حکومت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ آخر یہ نا انصافی کیوں ہے ؟

Minister for Education : On the floor of the House I am prepared to make a statement again and again that educational institutions in Karachi are more than anywhere else.

Begum Ashraf Burney : He is not answering me direct. I am asking him about the Government sector. I am not asking him regarding the private sector at all.

وزیر تعلیم - گورنمنٹ کی طرف سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے ان کو ایک کالج دیا ہے -

Begum Ashraf Burney : Sir, this is most unsatisfactory.

چودھری محمد سرور خان - کیا منسٹر صاحب نے جو اپنے جواب میں ابھی کہا ہے کہ انہوں نے کراچی کی طالبات کے لئے کوئی ہوسٹل مہیا نہیں کیا ہے تو کیا یہ بھی کوئی سہولت ہے ؟

وزیر تعلیم - جناب ہم نے عرض کیا ہے کہ ہم نے ایک ہوسٹل مہیا کیا ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں اور کوئی دور دراز سے نہیں آتا ہے وہاں ٹرانسپورٹ کی سہولتیں بہترین ہیں - ہوسٹل مہیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت ہوتی تو ہم زیادہ مہیا کرتے - میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ہوسٹلوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سارے اسی شہر کے رہنے والے ہیں -

چودھری محمد ادريس - جناب والا - بیگم صاحبہ کو یہ شکایت تھی کہ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ

Mr. Speaker : Is the Member putting a supplementary on behalf of Begum Sahiba ?

چودھری محمد ادريس - No Sir میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ

بیگم صاحبہ کو یہ شکایت ہے کہ محکمہ تعلیم نے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے کیا آپ یقین دلائیں گے کہ آپ کراچی والوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔

وزیر تعلیم - جناب جہاں تک ناانصافی کا تعلق ہے ہم نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں برتی بلکہ کراچی میں جتنے پرائیویٹ ادارے ہیں ان سب کو گرانٹ ملتی ہے۔

ملک محمد اختر - ہوائنٹ آف آرڈر - فرنٹیر ریجن کے ساتھ آپ نے ناانصافی برتہ ہے وہاں سکول کم ہیں۔

Mr. Speaker : This is no point of order.

بیگم اشرف برنی - جناب والا - ابھی وزیر تعلیم نے فرمایا ہے کہ کراچی میں باہر کے لوگ بہت کم تعلیم پاتے ہیں۔ کیا میں ان کو بتاؤں کہ کراچی میں فرنٹیئر کے لوگوں کی تعداد اس وقت ۴ لاکھ سے زیادہ ہے بلکہ پنجاب اور دوسرے علاقہ کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تعلیم پا رہی ہے۔

وزیر تعلیم - جناب والا - میں یہ مانتا ہوں کہ سرحد کے لوگ سارے کراچی میں ۴ لاکھ کے لگ بھگ ہیں۔

چودھری محمد نواز - کیا وزیر موصوف فرمائیں گے کہ اس لسٹ میں Kinnaird کالج کے ہوسٹل میں ۹۸ کمرے ہیں کیا ان سب میں باہر ہی کی طالبات رہتی ہیں یا یہاں کی بھی کچھ رہتی ہیں؟

Mr. Speaker : The Member may please give fresh notice for that.

میجر محمد اسلم جان - جناب وزیر موصوف نے ابھی فرمایا ہے کہ انہوں نے کسی ریجن کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے۔ تو کیا یہ درست

ہے کہ ویسٹ پاکستان کی کسی ریجن میں کینٹ میں کوئی گورنمنٹ سکول نہیں ہے ؟

Mr. Speaker : This supplementary has got nothing to do with this question. The Member should give a fresh notice.

بیگم اشرف برنی - جناب کیا میں وزیر تعلیم سے گزارش کر سکتی ہوں کہ بہر حال میں ان کے جوابات سے مطمئن نہیں ہوں کیا آپ ہمیں کراچی میں پوسٹ گریجویٹ کالج دیں گے ؟

وزیر تعلیم - اگر چوتھے پلان میں ضرورت پڑی تو یقیناً اس پر غور کیا جائے گا۔

PRIVATELY OWNED SCHOOLS IN KARACHI AIDED BY GOVERNMENT

***10245. Begum Ashraf Burney :** Will the Minister for Education be pleased to state : -

(a) the total number and names of privately owned schools in Karachi which are aided by the Government ;

(b) the amount of grant-in-aid given to each school mentioned in (a) above during the years 1964-65, 1965-66 and 1966-67, separately ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : (a) and (b) 303 privately owned Schools in Karachi are aided by Government. The names of the schools and the amount of grant-in-aid given to each school during the year 1964-65, 1965-66 and 1966-67 is at Annexure 'A'.

بیگم اشرف برنی - کیا میں وزیر موصوف سے یہ معلوم کر سکتی ہوں کہ ایڈ دینے کے سلسلے میں وہ کونسا فارمولا apply کرتے ہیں ؟

وزیر تعلیم (مسٹر محمد علی خان) جب کوئی انسٹی ٹیوشن بتاتا ہے اور گرانٹ ملنے کے لیے درخواست دیتا ہے تو انسپکٹر جا کر اس کا

معائدہ کرتے ہیں کہ فزیکل سہولتیں یعنی کلاس روم ، لائبریریز لیبارٹریز وغیرہ سب ٹھیک ہیں تب اسکو گرانٹ دیجاتی ہے ۔

All these facilities when they are available and they are upto the mark and they abide by the rules and regulations then they are considered for grants.

بیگم اشرف برنی - کیا وزیر موصوف کے علم میں یہ نہیں ہے کہ اس سلسلے میں mal-practices ہوتی ہیں اور اس طرح بہت سے اداروں کو گرانٹ مل جاتی ہے جو صحیح معنی میں نہ ملنی چاہیے اور جو گرانٹ کے جائز حقدار ہیں ان کو نہیں ملتی ۔

وزیر تعلیم - یہ اطلاعات ہمیں کراچی سے موصول ہوئی ہیں کہ جتنے پرائیویٹ کالج وہاں ہیں ان میں کچھ گڑ بڑ تھی اس کے لیے گورنر نے ایک کمیٹی بنائی تھی جو اپنی رپورٹ ابھی دے گی ۔ ہماری خواہش ہے کہ اسکا implementation ہو جائے تو ایک ایسی ہی کمیٹی تمام پرائیویٹ سکولوں کے لیے بھی بنا دیجائے جو ان کے لیے اپنی رپورٹ مرتب کرے ۔

بیگم اشرف برنی - کیا اس کمیٹی میں کوئی پرائیویٹ نمائندہ بھی شامل ہوگا جو یہ رپورٹ کرنے کہ فلاں ادارہ صحیح طریقہ پر چلایا جا رہا ہے اور جو گرانٹ دی جا رہی ہے اس کا وہ صحیح مصرف کر رہا ہے؟

وزیر تعلیم - اس میں ڈائریکٹر ایجوکیشن ہو گا اور سکولوں کے ہیڈ ماسٹر صاحبان کو بھی co-opt کر لیا جائے گا جن کو تعلیم کے متعلق معلومات ہیں اگر ہم پبلک سے کوئی نمائندہ لے لیں گے تو وہ انتظامی امور کے لیے تو اچھا ہو گا لیکن تعلیم سے متعلق اسکی رائے ٹھیک نہیں ہو گی ۔

بیگم اشرف برنی - پبلک نمائندوں میں سب ان پڑھ نہیں ہوتے ہیں -

وزیر تعلیم - میں نے یہ نہیں کہا ہے - میں نے یہ کہا ہے کہ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے پبلک کے نمائندے کو وہ معلومات نہیں ہوں گی -

میجر محمد اسلم جان - جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو گرانٹ ۶۵-۱۹۶۴ء میں جس حساب سے دی گئی تھی اسکے اعتبار سے عام طور پر ہر سکول کی گرانٹ ۶۷-۱۹۶۶ء میں کم کر دی گئی لیکن ایک سکول جو ۱۷- نمبر پر ہے اور اسکا نام مدرسہ جمہوریہ ہے اسکو ۶۵-۱۹۶۴ء میں ۵۷ ہزار روپے بطور گرانٹ ملے تھے لیکن ۶۷-۱۹۶۶ء میں اس کو ۳۷۴۸ روپے بطور گرانٹ دے گئے تو یہ گرانٹ کم دی گئی ہے میری اس سے غرض یہ ہے کہ کیا کوئی خاص وجہ تھی کہ اس مدرسہ کو اتنی کم گرانٹ دی گئی ہے ؟

وزیر تعلیم - اتھارٹیز نے یہ سوچا ہو گا کہ یہ جو سکول یا ادارہ ہے کہ اسکو اس سے زیادہ گرانٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اسکو پہلے زیادہ دے دی گئی ہو گی - اب انہوں نے اسکی بساط کے مطابق گرانٹ دی -

مسٹر حمزہ - وزیر تعلیم نے فرمایا ہے کہ پبلک کے نمائندوں کو پرائیوٹ سکولوں کے معاملات میں بطور نمائندہ رکھا جائے تو یہ انتظامی لحاظ سے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں لیکن تعلیم کے لحاظ سے بہتر نہیں ثابت ہو سکتے پبلک کے معاملات کی نگہداشت کے لئے وزرا جو مقرر کیے جاتے ہیں کیا ان کے خلاف یہ استدلال نہیں جاتا ہے ؟

Mr. Speaker : It is not a supplementary arising out of this question.

ملک محمد اسلم خان - سوال کا جواب بہت جنرل قسم کا دیا گیا ہے یعنی یہ ہوا ہو گا وہ ہوا ہو گا اور یہ نہیں ہوا ہو گا - میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا اس کیس میں جو نمبر ۱ پر ہے اسکی گرانٹ اتنی کیوں کم ہو گئی ؟

مسٹر سپیکر - ملک صاحب بہتر ہو گا اگر آپ اس کے لیے علیحدہ سوال دے دیں -

چودھری محمد ادریس - جناب والا - ایسے سکول بھی ہیں مثلاً جنکے نام کے ساتھ صفیہ آتا ہے مثلاً صفیہ پرائمری سکول ، صفیہ ہوائز سیکنڈری سکول کراچی - صفیہ گرلز سیکنڈری سکول وغیرہ جو ایک ہی نام سے گرانٹ لے رہے ہیں کیا یہ فراڈ تو نہیں کر رہے کہ ایک ہی نام سے زیادہ گرانٹ لے رہے ہوں -

وزیر تعلیم - جناب والا - کراچی ایجوکیشن کوڈ کے تحت گرانٹ دی جاتی ہے - ایسا نہیں کہ ایک ہی ادارہ تین چار نام رکھ لے - محکمہ تعلیم والے اندھے تو نہیں ہیں کہ ایسی باتوں کی پڑتال یا جانچ نہ کر سکیں -

MOSQUES TAKEN OVER IN KARACHI BY THE AUQAF DEPARTMENT

*10279. Begum Ashraf Burney: Will the Minister for Auqaf be pleased to state :—

(a) the total number of mosques in Karachi which are under the administrative control of the Auqaf Department ;

(b) the number of mosques, out of those mentioned in (a) above, where primary education have already been started ;

(c) whether there is any scheme under the consideration of the Auqaf Department to introduce primary education in the rest of the mosques in Karachi also ; if so, by what date it would be done ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : (a) 7

(b) 3

(c) Yes, as soon as necessary arrangements are made.

چودھری محمد سرور خان - ہمارے پاس (سی) کا جواب
”نہیں“ ہے -

Parliamentary Secretary (Education) : This is the latest amended form.

تین مساجد ہم نے دوسرے phase میں رکھی ہوئی ہیں -

بیگم اشرف برنی - کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیا وجہ ہے
کہ صرف ۷ مساجد کراچی کے محکمہ اوقاف نے اپنی حدود کے اندر لے
رکھی ہیں اور صرف تین سکول کھولے گئے ہیں -

وزیر اوقاف (مسٹر محمد علی خان) - جناب والا - جہاں تک
مساجد کا تعلق ہے تو صرف ۷ وہ مساجد ہیں جو پہلے کراچی کے لیے
وقف تھیں اور جب آرڈیننس پاس ہوا تو اوقاف ڈیپارٹمنٹ نے ان کو اپنی
تحويل میں لے لیا اور پھر ان سات میں ۳ پرائمری سکولوں کا انتظام کیا
گیا اور ہماری خواہش ہے کہ باقی میں بھی پرائمری ایجوکیشن کا انتظام
کیا جائے - جب وہ انتظام مکمل ہو جائے گا تو انشا اللہ وہاں بھی یہ
سکول کھول دیں گے -

بیگم اشرف برنی - کیا یہ ہماری حکومت کا فیصلہ نہیں کہ
جہاں تک جلد ہو سکے ان مساجد میں پرائمری سکول کھولنے کا انتظام
کیا جائے ؟

وزیر اوقاف - ہم نے کب کہا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر
رہے ہیں -

بیگم اشرف برنی - میں جناب وزیر تعلیم کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے حلقے کی مسجد بھی اوقاف کے انڈر ہے میں چاہتی ہوں کہ وہاں بھی پرائمری ایجوکیشن کی سہولت بہم پہنچائی جائے۔ وہاں کے موذن اور امام کو اوقاف کی طرف سے تنخواہیں مل رہی ہیں۔ مگر جب میں نے پرائمری تعلیم شروع کرانا چاہی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ حالانکہ میں نے ان کو ہر طرح کی مدد پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اوقاف کے ڈیپارٹمنٹ کو فون کر کے پوچھا۔ انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا آخر اس کی کیا وجہ ہے وہ کیوں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔

وزیر اوقاف - جناب والا - (سی) کا جواب صاف ہے جو کہ "ہاں" میں ہے۔ Yes, as soon as necessary arrangements are made. تو اس کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ مزید ضمنی سوال کی ضرورت نہیں رہتی۔

مسٹر سپیکر - خان صاحب ان کو ایک خاص اپنے ایک علاقے کی مسجد میں سکول کھولنے پر اعتراض ہے کیا آپ اسکی طرف توجہ دینگے؟ Will you please look into it?

وزیر اوقاف - یقیناً جناب والا -

REHABILITATION OF HANDICAPPED PERSONS

*10282. Begum Ashraf Burney: Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any scheme for the rehabilitation of handicapped persons who have attained quite high academic qualifications despite their being handicapped, if so, details thereof?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan: At) present there is no such scheme so far as Education Department is concerned. However, there is a sheltered workshop with the Government Institute for the Blind, Lahore, for the rehabilitation of the sight-

less after successful completion of courses from such institutions in West Pakistan. Plans are also afoot for adding such a workshop to the Government Institute for the Blind, Peshawar, during 1968-69 and for this funds to the tune of Rs. 18,000 have been earmarked.

HIGH SCHOOLS FOR GIRLS IN HYDERABAD REGION

***10283. Rais Haji Darya Khan Jalbani :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the exact location of Government and private high schools for girls in Hyderabad Region ;

(b) the present number of students on roll in each of the said schools ;

(c) the number of students who passed their matriculation examination from each of the said schools during 1962, 1963, 1964, 1965 and 1966 separately ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : (a) to (c) the requisite information is given in the attached Annexure "A"*

حاجی سردار عطا محمد - جناب والا - میں پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ امر واقعہ ہے کہ طالبات کے سکولوں ، کالجوں کی تعداد بہت کم ہے اگر کم ہے تو کیا ان کے بنانے کے لئے کوئی سکیم آپ کے زیر غور ہے ؟

مسٹر سپیکر - حاجی صاحب یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ حیدرآباد ریجن میں طالبات کے لئے جو سکول ہیں ان کی تعداد طلبا کے سکولوں کی نسبت بہت کم ہے تو آپ تعداد کی نسبت کیا سوچ و بچار کر رہے ہیں -

وزیر تعلیم - جناب والا - ہماری خواہش ہے کہ طالبات کے سکول کالج بھی زیادہ ہو جائیں اور جوں جوں ہمیں فنڈز ملتے رہیں گے یا ملتے جائیں گے ہم یہ کمی پوری کریں گے -

COLLEGES FOR GIRLS IN HYDERABAD, SUKKUR AND LARKANA

***10284. Rais Haji Darya Khan Jalbani:** Will the Minister for Education be pleased to state the years in which colleges for girls were established in Hyderabad, Sukkur and Larkana ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan):

<i>Name of the College</i>	<i>Year of establishment</i>
1. Government Girls College, Hyderabad	... 1953
2. Government Girls College, Sukkur	... 1958
3. Government Girls College, Larkana	... 1963

PROCEDURE FOR ADMISSION OF STUDENTS IN GOVERNMENT COLLEGES

***10286. Rais Atta Muhammad Khan Marri Baloch:** Will the Minister for Education be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that the procedure for the admission of students in Government Colleges through out the Province is not uniform ;

(b) whether it is a fact that it has been demanded by the people through the renowned national dailies that a uniform procedure should be prescribed and strictly adopted by all the Government Colleges in the Province ;

(c) if answer to (a) and (b) above be in the affirmative, whether Government intend to consider the advisability of prescribing a uniform procedure ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan): (a) The procedure is uniform except in case of Government College, Lahore.

(b) No.

(c) Does not arise.

CONSTRUCTION OF NEW BUILDING OF PRIMARY SCHOOL, SEHWAN,
DISTRICT DADU

***10288. Rais Atta Muhammad Khan Marri Baloch:** Will the Minister for Education be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that due to recent heavy rains the building of primary school, Sehwan in Dadu District has become dilapidated and the students are exposed to danger while sitting there ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, whether Government intend to construct a new building for the said school and till then to make some temporary arrangements ; if so, details thereof ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : (a) Yes. But the building is not entirely unusable. It requires repairs.

(b) Arrangements are being made to carry out the repairs as early as possible. However, as an immediate relief, three rooms of the old building of Government High School, Sehwan have been given to the Primary School till the present building is repaired.

— — —
JAMIA MOSQUE, ROHRI

***10289 Rais Atta Muhammad Khan Marri Baloch :** Will the Minister for Auqaf be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Jamia Mosque, Rohri, which is an old historical mosque is in a dilapidated condition ;

(b) whether it is a fact that an amount of Rs. 50,000 had been allocated for repairing the said mosque ; if so, (i) the year in which the sanction was accorded (ii) the date on which the repairing work was undertaken and (iii) the amount spent and the progress so far made ;

(c) in case no repair work has been started so far, (i) the reasons therefor and (ii) the steps Government intend to take in this respect ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : (a) Yes.

(b) Yes : (i) 1967 ; (ii) The repair work has not yet been taken in hand ; (iii) Does not arise.

(c) (i) The work was to be carried out under the supervision of the Buildings and Roads Branch of the P.W.D. This Branch was split up in-

to two wings and as under the new arrangement the work was to be supervised by the Executive Engineer, Provincial Buildings Division, Sukkur, the Treasury Officer refused to take payment on the basis of the old authority issued by the Comptroller, Southern Area, Karachi in favour of the Executive Engineer, Provincial Division, Sukkur.

(ii) The Comptroller has since issued the revised payment authority in favour of the Executive Engineer, Provincial Buildings Division, Sukkur. It was felt that the Buildings Department would take up the repairs in hand and the work would be completed shortly; but the Executive Engineer has reported that the building of the mosque is beyond repairs and it would have to be re-built. The Executive Engineer has also sought the advice of the Director, Buildings, Research Station, West Pakistan, Lahore, in this behalf. Final action is expected to be taken after the advice of the Buildings Research Station has been received.

حاجی سردار عطا محمد - جناب یہ کس تاریخ سے کام شروع کیا جائے گا۔ ”عنقریب“ تو دس سال بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کوئی تاریخ مقرر کی ہے؟

وزیر اوقاف (مسٹر محمد علی خان) - اب یہ امر زیر غور ہے کہ آیا اسے از سر نو تعمیر کیا جائے یا اسی کی مرمت کی جا سکتی ہے۔ اس رپورٹ کا ہمیں انتظار ہے۔ اگر یہ رپورٹ آئی کہ یہ بالکل مرمت کے قابل نہیں ہے اور اسکی از سر نو تعمیر ہونی چاہیے تو اس کے لئے دوبارہ تخمینہ بنے گا۔ اگر انہوں نے کہا مرمت ہو سکتی ہے تو کام شروع کر دیں گے۔ جلد از جلد انشاء اللہ۔

TAKING OVER HIGH AND MIDDLE SCHOOLS OF TOWN COMMITTEES
AND DISTRICT COUNCILS BY GOVERNMENT

*10328. **Haji Sardar Atta Muhammad** : Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the number of High and Middle Schools being run by the Town Committees and District Councils in each District of the Province ;

(b) whether there is any scheme under the consideration of the Government to take over High Schools which are at present under the management of District Councils and Town Committees ; if so, the contents of that scheme ;

(c) the time by which the High Schools run by District Councils of Khairpur and Tharparkar Districts will be taken over by Government ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : (a) No Middle School is being maintained by the District Councils/Town Committees in the Province. All middle schools maintained by them were provincialized under the West Pakistan Primary Education Ordinance, 1962. The number of high schools under their jurisdiction is given in the attached statement.*

(b) Yes. The present decision of the Government is to take over these schools in three phases, the first of which will commence after the local bodies have given their written consent to transfer all school assets and liabilities (movable and immovable property) to the Government free of cost.

(c) The District Council, Khairpur is not maintaining any high school. The schools of Tharparkar district will be taken over in accordance with a phased programme which can be fixed only when the first phase is implemented.

حاجی سردار عطا محمد - کیا انہوں نے اس قسم کی ضمانت
دے دی ہے ؟

وزیر تعلیم (مسٹر محمد علی خان) - حاجی صاحب کس چیز کی
ضمانت -

حاجی سردار عطا محمد - انہوں نے جواب کے حصہ (ب) میں
کہا ہے کہ لوکل باڈیز نے انہیں ضمانت دی ہے کہ وہ اپنے سکول
گورنمنٹ کو دیں گے -

مسٹر سپیکر - تو حاجی صاحب یہ فرمائیے کہ کیا ڈسٹرکٹ کونسل

*Please see Appendix III at the end.

ٹے گورنمنٹ کو لکھ کے دے دیا ہے کہ وہ اپنی جائیداد اور سکول گورنمنٹ کو دینے کے لئے تیار ہیں ؟

وزیر تعلیم - اب تک ہمارے پاس کوئی اطلاع اس امر کے بارے میں نہیں آئی -

حاجی سردار عطا محمد - آپ صرف امید رکھتے ہیں -

وزیر تعلیم - جناب عالی - ان کو مراحل میں لیا جائے گا - ان کی باری دوسرے مرحلے میں آئے گی -

Mr. Speaker : It is not a very old decision of the Government and has not been implemented so far ?

Minister for Education : We require a lot of money for it Sir.

ملک محمد اسلام خان - جناب والا - انہوں نے فرمایا ہے کہ ڈسٹرکٹ کونسلوں کے سکول گورنمنٹ لے لے گی - تو ان کے جو استاد صاحبان ہیں ان کو کون سا گریڈ دیا جائے گا ؟ کیا ان کو گورنمنٹ کا گریڈ دیا جائے گا اور کیا ان کی سینیارٹی وہی رکھی جائیگی ؟

Mr. Speaker : The Member should give a fresh notice for that.

COLLEGES IN THARPARKAR DISTRICT

***10336. Haji Sardar Atta Muhammad :** Will the Minister for Education be pleased to state the number of Government as well as private Colleges functioning at present in the backward area of Tharparkar District and if there is none whether there is any scheme to open any College in the said area in the near future ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : There are four colleges in the District but in the backward area of the District there is no college; nor at the moment, is there a scheme to open one.

حاجی سردار عطا محمد - جناب وہاں اور کالج نہ کھولنے کی

وجہ کیا ہے - جب کہ تھرپارکر پسماندہ علاقہ ہے -

وزیر تعلیم (مسٹر محمد علی خان) - جناب عالی - وہاں کالج نہ کھولنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں - سڑکوں کی کمی ، پانی نہ ہونا ، آبادی منتشر ہونا ، وہاں ایسی بہت سی مشکلات ہیں جب تک آبادی ایک جگہ اکٹھی نہ ہو کالج کا بنانا مفید نہیں ہو سکتا -

حاجی سردار عطا محمد - جناب سڑکوں کا نہ بنانا کیا وہ ان لوگوں کا قصور ہے یا گورنمنٹ کا قصور ہے ؟

وزیر تعلیم - میں نے عرض کیا ہے کہ وہاں آبادی بہت کم ہے ایک جگہ اکٹھی نہیں ہے ، پانی کا انتظام نہیں ہے ، سڑکیں نہیں ہیں - اس لئے جب تک سڑکوں کا انتظام نہ ہو جائے اور آبادی اتنی نہ ہو جو کالج کے مطالبہ کا جواز ہو سکے وہاں کالج نہیں کھولا جا سکتا -

SUPERSESSION OF LADY TEACHERS OF LAHORE REGION

*10341. **Malik Muhammad Akhtar** : Will the Minister for Education be pleased to state : -

(a) whether it is a fact that the Education Department has maintained region-wise lists of lady teachers showing their *inter se* seniority and that such a list exists for Lahore Region also ;

(b) whether it is a fact that transfer of a lady teacher from one Region to another is permissible only if the transferee surrenders her original seniority in the parent Region and she ranks junior most in the seniority list of the Region to which she is transferred ;

(c) if answer to (a) and (b) above be in the affirmative, whether it is a fact that two lady teachers namely, Mrs. R. Ziaullah and Miss Iftikhar-un-Nisa Zareen (Mrs. Amanullah) from Rawalpindi Region have recently been transferred to Lahore Region, given undue seniority in Lahore Region and promoted as Headmistresses in supersession of the lady teachers of Lahore Region on the top of the seniority list ;

(d) whether it is a fact that several representations have been made against the said action ; if so, reasons for giving the transferees

undue seniority and promotion in Lahore Region and whether Government intend to take suitable steps to ensure that rights of the lady teachers of Lahore Region are not denied to them ?

Parliamentary Secretary (Sardar Muhammad Ashraf Khan) : (a) Yes.

(b) Yes, but if the transfer of any lady teacher from one Region to another is in the exigencies of service, she will remain on deputation to the Region to which she has been transferred and her lien will be retained in her parent Region which will neither affect her seniority nor the seniority of others in the Region to which she has been transferred.

(c) No.

(d) Does not arise.

Malik Muhammad Akhtar : Will the Minister kindly let us know whether it is a fact that two lady teachers mentioned in part (c) of the question, who have been transferred to Lahore Region, were junior to those lady teachers who were entitled to be appointed as Headmistresses and that those lady teachers, mentioned latter, have been superseded.

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : The question of supersession does not arise as is given in the answer. Two lady teachers were transferred from Rawalpindi to Lahore and they were Headmistresses there. So, they came here as Headmistresses. They did not supersede any one and they did not affect the seniority. They just came here in the exigencies of service and on compassionate grounds because their husbands were in Lahore and when they go back these posts will fall vacant and the lady teachers who feel that they have been superseded, although they have not been superseded, they would be given these posts.

Malik Muhammad Akhtar : May I know whether it is a fact that had these teachers not been transferred to Lahore Region, the teachers belonging to the Lahore Region, to whom I have referred, would have been promoted as Headmistresses ?

Minister for Education : Not promoted but posted.

Malik Muhammad Akhtar : Then you admit that they would have been posted in case of non-existence of this transfer.

Minister for Education : As stated by the Member, it is a question affecting the seniority and we have told him that the seniority of these lady teachers has not been affected.

چودھری محمد سرور خان - کیا معزز وزیر یہ فرمائیں گے -
میں ان کے جواب کو بالکل نہیں سمجھ سکا - انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی
کی سینیارٹی پر اثر نہیں پڑا - اگر وہ راولپنڈی ریجن کی تمام ہیڈ مسٹریس
لاہور ریجن میں لگا دیں گے تو یہاں کی ٹیچرز تو کبھی ہیڈ مسٹریس
نہیں بن سکیں گی - اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تبادلہ ان کی سینیارٹی پر
اثر انداز نہیں ہوا ؟

وزیر تعلیم - راولپنڈی ریجن کی ساری ہیڈ مسٹریس لاہور ریجن میں
لے آئیں یہ کیسے ہو سکتا ہے -

چودھری محمد سرور خان - جیسے یہ دو آگئی ہیں -

وزیر تعلیم - ان دو کو تو ترحم کی بنا پر یہاں لایا گیا ہے
کیونکہ ان کے خاوند یہاں پر ہیں -

Malik Muhammad Akhtar : Was it not advisable to post these lady teachers at Lahore as Second Headmistresses instead of superseding the existing staff of this region ?

Minister for Education : They were already serving as Headmistresses in Rawalpindi and it would have been very harsh upon them to bring them in Lahore in a lower grade.

Mr. Speaker : The Question Hour is over.

Parliamentary Secretary, (Education) : I beg to lay on the Table the answers to questions which have not been answered.

حاجی سردار عطا محمد - جناب والا - نشان زدہ سوال نمبر
۱۰۳۶۶ کے جواب کے ساتھ جو فہرست مہیا کی گئی ہے وہ انگریزی میں

ہے۔ اس کے متعلق میری یہ گزارش ہے کہ وہ اگر انگریزی کی بجائے اردو میں ہوتی تو میں اس کو سمجھ سکتا ؟

مسٹر سپیکر - حاجی صاحب کیا آپ کو اسکا اردو میں جواب نہیں ملا -
 حاجی سردار عطا محمد - جناب والا - جواب انگریزی میں دیا ہے -

وزیر تعلیم - جناب والا - جواب اردو میں ہے -

مسٹر سپیکر - کیا سوال نمبر ۱۰۳۶۶ کے متعلق پوچھ رہے ہیں -

Parliamentary Secretary: The answer has been printed in the book; Haji Sahib can get urdu copy of that.

مسٹر سپیکر - حاجی صاحب اس سوال کا جواب اردو میں لکھا ہوا ہے لیکن غالباً آپ کا اعتراض یہ ہے کہ اس کے جو 'A' Appendix منسلک ہے اس کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا گیا - حاجی صاحب اس میں چٹھیوں کے نمبر اور تاریخیں ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے -

میاں محمد شفیع - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب والا - میرے سوال نمبر ۱۱۵۲۸ کے جواب کے ساتھ گوشوارہ شامل ہے وہ فہرست میں نے نہیں مانگی تھی اور یہ متعلقہ بھی نہیں ہے -

مسٹر سپیکر - یہ تفصیل ایسی ہے جو آپ نے نہیں مانگی کوئی ایسی چیز بتائیں جو آپ نے مانگی ہو اور وہ موجود نہ ہو -

میاں محمد شفیع - جناب والا - یہ اس سے متعلقہ نہیں ہے -

مسٹر سپیکر - آپ تو آخر پڑھیں گے -

ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE

TEXT BOOK SELLERS IN HYDERABAD AND KHAIRPUR DIVISIONS

***10352. Haji Sardar Atta Muhammad :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the designation of the Officer authorised to select and appoint Text Book sellers ;

(b) the names and addresses of Text Book sellers in each District of Hyderabad and Khairpur Divisions ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Book sellers for the sale of text books which are published by the Government Printing Press on behalf of the West Pakistan Text Book Board are appointed by the Controller, Printing and Stationery, West Pakistan, Lahore.

(b) Names and addresses of Text Book sellers in the various districts of Hyderabad and Khairpur divisions are given in the statement at annexure.*

PAYING ATTENTION TO VARIOUS GAMES INCLUDING P. T. DEBATES AND COMPETITIVE ESSAY WRITING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

***10366. Haja Sardar Atta Muhammad :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the number and dates of the circulars and letters which were issued by the Government to the educational institutions to pay particular attention to various games including P. T. debates and Competitive essay writing ;

(b) whether a copy each of the said circulars and letters were also issued to the various district councils who run a number of Secondary Schools, if so, the dates on which they were issued to each of the District Councils of Khairpur, Sanghar, Thatta, Hyderabad and Tharparkar and if no such circular were issued to the said District Councils, the reasons thereof ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) A list is added at Appendix 'A'.

(b) No. Such circulars and directions are normally issued to all schools including Non-Government Schools. These are not issued to the

**Please see Appendix IV at the end.*

District Councils who are only concerned with the management and not with the academic supervision of Schools run by them.

APPENDIX 'A'

1. No. PESC/RPTS/30/1336-41, dated 20th April, 1967 from the Director, Physical Education and Sports Centre, West Pakistan.

2. No. SO(Coll)7/20-63, dated 7th June, 1967, from Education Department, West Pakistan.

3. No. WPSCB-2-MTG/4488-4534, dated 2nd November, 1967, from Director, Physical Education and Sports, West Pakistan.

4. No. SO(Coll)-7/20-63, dated 22nd August, 1963, from Education Department, West Pakistan.

5. No. SO(LM)-VII/326-64, dated 30th March, 1965, from Education Department, West Pakistan.

6. No. Bureau/C.D./Edu/13-80/66, dated 25th February, 1967, from Bureau of Education, West Pakistan.

7. Memo. No. 2575/C, dated 23rd January, 1967, from Director of Education, Lahore Region.

8. Memo. No. 8/2/67-6027/C-3, dated 11th February, 1967 from the Director of Education, Lahore Region.

9. No. So(IC-II)-1-9-67, dated 1st December, 1967, from Education Department, West Pakistan.

10. No. PESC-2200/05, dated 6th June, 1966, from Director, Physical Education and Sports Centre, West Pakistan, Lahore.

11. No. SO(LM)-1/14-66, dated 12th October, 1966, from Education Department, West Pakistan.

12. No. SO(LM)-VII/390-64, dated 24th December, 1964, from Education Department, West Pakistan.

13. No. PESC/8171-76, dated 1st October, 1963, from the Director, Physical Education and Sports Centre, West Pakistan.

14. Bureau. C. D./Edu/13-80/66; dated 12th September 1967, from Education Department, West Pakistan.

COMPULSORY EDUCATION IN VARIOUS DISTRICTS OF THE PROVINCE

***10377. Haji Sardar Atta Muhammad :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the names of Talukas as well as Districts of Hyderabad and Khairpur Divisions where the system of compulsory education is existing alongwith the date on which the said system was introduced ;

(b) whether it is a fact that in certain Districts of the said Divisions, Head Munshis of Talukas or Third Class Magistrates deal with the cases of violation of Compulsory Education Rules and in certain Districts these cases are dealt with by District Inspector of Schools ; if so, reasons for this discrimination ;

(c) whether it is a fact that most of the Head Munshis who are also Third Class Magistrates do not conduct the proceedings of the said cases as a result of which the number of students in the schools has considerably decreased ;

(d) the number of cases of violation of the Compulsory Education Rules detected during 1963 to 1967 as well as the number of those in which actual proceedings were started in each Districts of the said Divisions ;

(e) whether it is a fact that not a single case has been registered in Nagarparkar of District Tharparkar as a result of which the strength of students in the schools in Nagarparkar of District Tharparkar has decreased ;

(f) whether Government intend to authorise the District Inspector of Schools, Tharparkar to conduct said cases to improve the said position?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Information is given in the attached statement 'A'.*

(b) Yes. The reason for the discrimination where it exists is that the District Magistrates of the said districts have not delegated powers to the District Inspectors of Schools.

(c) Yes.

(d) Information is given in the attached statement 'B'.*

(e) Yes.

(f) Yes. Necessary steps are being taken in this regard.

PRIMARY MIDDLE AND HIGH SCHOOLS IN TRIBAL AREA OF
DERA GHAZI KHAN DISTRICT

*10388. **Sardar Manzur Ahmad Khan Qaisrani** : Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the present number of Primary, Middle and High Schools in the tribal areas of Dera Ghazi Khan District ;

(b) the number of Middle Schools likely to be upgraded as High Schools during 1968-69 in the Province ;

(c) whether there is any scheme to upgrade the Middle School Behroot Mandiwali, District D. G. Khan as a High School ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) :

	<i>Boys</i>	<i>Girls</i>
(a) Primary Schools	... 101	22
Middle Schools	... 5	...
High Schools	... 2	...

(b) The number of Middle Schools likely to be upgraded to High Schools during 1968-69 depends on the availability of funds.

(c) No.

CHRISTIAN MISSIONARY SCHOOLS IN THE PROVINCE

*10389. **Sardar Manzur Ahmed Khan Qaisrani** : Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the present number of Christian Missionary Schools in the Province alongwith the number of Muslim students studying in the said schools ;

(b) the number of said schools functioning during the year 1958 alongwith the number of Muslim students who were studying in the said schools during the said year ;

(c) the total Grant-in-aid given by the Government to the said schools during the years from 1948 to 1967 ;

(d) whether arrangements exist to teach Islamiat in the said schools ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) The present number of Christian Missionary Schools in the Province is 246. The number of Muslim students studying in the said schools is 61,873.

(b) The number of said schools functioning in 1948 was 127 with an enrolment of 15,251 Muslim students.

(c) Rs. 99,70,126.

(d) Yes, except in five schools.

UPGRADING OF GOVERNMENT SCHOOL, KOT QAISRANI

***10395. Sardar Manzur Ahmad Khan Qaisrani :** Will the Minister for Education be pleased to refer to answer to my Starred Question No. 2856, laid on the Table of the House, on 9th June 1966 and state whether the Government Middle School, Kot Qaisrani has been upgraded as a High School ; if not, the time by which it will be upgraded ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : The upgradation of this School was considered alongwith other schools during the years 1966-67 and 1967-68 but it has not been found possible to upgrade it yet. The time by which it will be upgraded cannot be anticipated.

TREATMENT OF PRIVATE MENTAL CASES IN PSYCHOLOGY DEPARTMENT OF GOVERNMENT COLLEGE, LAHORE

***10403. Chaudhri Muhammad Nawaz :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that some mental cases are treated or used to be treated by Professors privately without any charges in the Psychology Department of Government College, Lahore;

(b) whether it is a fact that the said College has recently moved the Education Department to provide funds for regular treatment of mental

cases in the said Department ; if so, whether the funds have been provided ; if not, reasons therefor ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Yes but only mild cases of neurosis such as Hysteria, Obsessional Neurosis, stammering etc. which are referred by the Psychiatric Unit at the Mayo Hospital or by the Mental Hospital, Lahore, are treated free of charge by the members of staff of the Psychology Department of the Government College Lahore. Research and Therapy however, continues to be the aim of the Psychology Department.

(b) No. The College never moved the Education Department for a separate grant for regular treatment of mental patients, nor it is the regular function of the college and Department to do so.

FOREIGN LANGUAGES TAUGHT IN UNIVERSITIES OF WEST PAKISTAN

***10404. Chaudhri Muhammad Nawaz :** Will the Minister for Education be pleased to state whether foreign languages are being taught in the different Universities of West Pakistan; if so, details thereof and if not, reasons therefor?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : Yes. Besides English, Arabic and Persian the following foreign languages are being taught :—

<i>University of the Panjab, Lahore</i>	French, German, Italian, Russian, Spanish and Turkish.
<i>University of Peshawar, Peshawar</i>	French, German, Turkish and Chinese.
<i>University of Sind, Hyderabad</i>	German and French.
<i>University of Karachi, Karachi</i>	French, German, Spanish, Italian and Turkish.
<i>Agricultural University, Lyallpur</i>	French and German.

COMPULSORY MILITARY TRAINING IN HIGH SCHOOLS AND COLLEGES

***10482. Mr. Gul Hameed Khan :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any scheme for introducing compulsory

military training in all High Schools and Colleges in the Province; if so, the likely date by which it would be implemented ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : No. The introduction of this scheme falls within the purview of the Central Government which is of the view that it is not feasible at present.

CONSTRUCTION OF A BUILDING FOR SCIENCE COLLEGE IN MULTAN

***10498. Chaudhri Idd Muhammad :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Government has allocated about one crore rupees for the construction of a building for a Science College in Multan;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, (i) the acreage of land acquired for the purpose (ii) when the construction work on the said land will be started (iii) the classes for which the students would be enrolled and (iv) when the admission to the said College will be started ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) No—only Rs. 20 lacs.

(b) (i) About 20 Acres.

(ii) During the current financial year.

(iii) Two years B. Sc. Pass and three Year B. Sc. (Hons.).

(iv) During the next Academic Session.

ENHANCING AMOUNT GIVEN TO STUDENTS OF GOVERNMENT COLLEGES
IN LAHORE REGION WHO PROCEED TO OTHER CITIES TO PLAY GAMES

***10523. Chaudhri Idd Muhammad :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Rs. 3.50 per day is given to each student of Government Colleges in Lahore Region who proceeds to other cities in the Province to play games ;

(b) whether it is a fact that the students cannot meet the expenses of their breakfast, lunch, tea and dinner from out of the amount mentioned in (a) above ;

(c) if answer to (a) and (b) above be in the affirmative, whether there is any proposal under the consideration of Government to enhance the said amount ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) The D.A. in respect of Inter and Degree students is Rs. 3.00 and for M.A. Classes is Rs. 4.00 for all colleges of West Pakistan.

(b) No. The rates are quite adequate.

(c) No.

GOONDAISM AND LAWLESSNESS

***10525. Chaudhri Idd Muhammad :** Will the Minister for Education be pleased to state the number of cases of goondaism and lawlessness occurred during 1965 and 1966 in the Lahore Centres of Examinations held by the Board of Intermediate and Secondary Education, alongwith the names of such centres and the action taken in the matter ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : No cases of goondaism and lawlessness in the Lahore Centres of Examinations were reported to the Office of the Board of Intermediate and Secondary Education, Lahore during the years 1965 and 1966.

BOOKSELLERS COMPELLING STUDENTS TO BUY 'KALEEDY' BOOKS

***10526. Chaudhri Idd Muhammad :** Will the Minister for Education be pleased to state whether Government is aware of the fact that the book-sellers compel the students to buy the 'kaleedy' books alongwith the text books of Science and Mathematics ; if so, the action Government intend to take in the matter ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : Government has been receiving complaints about the compulsory sale of Kaleedy books alongwith the books of Science and Mathematics. Suitable measures have been taken to check this malpractice. The Boards of Intermediate and Secondary Education will keep 1000 copies of each book for sale to the college and *bona fide* students on demand. This arrangement is expected to check this practice.

INTRODUCING FARM GUIDE MOVEMENT IN INTERMEDIATE COLLEGES

***10534. Chaudhri Idd Muhammad :** Will the Minister for Education be pleased to state : —

(a) whether it is a fact that Government have already issued instructions to all the Intermediate Colleges in the Province to make arrangements for introducing farm guide movement in their institutions ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, the names of Colleges where this movement has been introduced and would be introduced during 1968 alongwith the amount allocated for this purpose ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) No.

(b) Does not arise.

PENSION RIGHTS TO TEACHERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS FORMERLY RUN BY THE LOCAL BODIES

***10645. Rai Mansab Ali Khan Kharal :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the teachers of such educational institutions as were formerly run by the Local Bodies and have now been taken over by the Government, have been deprived of pensionary benefits ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, reasons therefor and whether Government intend to consider the advisability of giving pensionary benefits to the above said teachers ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) No.

(b) Question does not arise.

TRANSFERRING MISS HAMID ALI, INSPECTRESS OF SCHOOLS, QUETTA

***10764. Mian Saifullah Khan :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is the policy of the Government to transfer an Officer of the Education Department who has remained posted at one station for more than four years ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, whether it is a fact that Miss Hamid Ali has been serving as Inspectress of Schools, Quetta for the last seven years ;

(c) if answer to (b) above be in the affirmative, whether Government intend to transfer her from Quetta ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) No. According to the Government policy, the administrative Officers have ordinarily to be transferred on completion of their tenure of three years.

(b) Yes.

(c) Miss Hamid Ali working as Inspectress of Girls Schools on temporary basis against Senior Class I post to be filled by direct recruitment through the West Pakistan Public Service Commission. As soon as the selectee of the Commission becomes available she will be replaced and transferred to a Class II post in Quetta Region to which cadre she originally belongs.

PAY SCALES OF ARABIC TEACHERS OF GOVERNMENT MIDDLE AND
HIGH SCHOOLS OF HYDERABAD REGION

***10788. Mr. Mazhar Hussain Ghaloo :** Will the Minister for Education be pleased to state whether it is a fact that the Arabic teachers of Government Middle and High Schools of Hyderabad Region have not yet been allowed consolidated scales of pay ; if so, reasons therefor ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : No. The Arabic teachers of Government Middle Schools and High Schools of Hyderabad Region have been allowed the consolidated scales of pay.

SEPARATE BOARDS OF SECONDARY EDUCATION FOR MULTAN AND
SARGODHA DIVISIONS

***10800. Pir Ali Gohar Chishti :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that two separate Boards of Secondary Education have been set up for Multan and Sargodha Divisions but the said Boards are at present functioning at Lahore ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative; whether Government

intend to shift the offices of both the said Boards from Lahore to Sargodha and Multan Divisions, ; if so, when ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) No.

(b) Question does not arise.

S.V. TEACHERS IN LAHORE REGION

***10801. Pir Ali Gohar Chishti :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the present number of vacant posts of S.V. teachers in Lahore Region ;

(b) the seniority-wise list of S. V. candidates maintained in the Lahore Region during 1965 to 1967 ;

(c) whether appointment of S. V. teachers during 1965-66 has been made according to the seniority lists mentioned in (b) above ; if not, reasons therefor ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Nil.

(b) The seniority-wise list of S. V. candidates maintained in the Lahore Region during 1965 to 1967 is attached.*

(c) Yes.

INCOME FROM PROPERTY ATTACHED TO SHRINE OF CHACHIRAN
SHARIF, DISTRICT RAHIMYAR KHAN

***10811. Khawaja Jamal Muhammad Koraija :** Will the Minister for Auqaf be pleased to state :—

(a) the year-wise amount accrued as income from the property attached to the shrine of Chachran Sharif, District Rahimyar Khan from 1961 to 1967 ;

(b) the amount of expenditure incurred on the maintenance of the said shrine during the said year ;

(c) whether it is a fact that Auqaf Department has given the land attached to the said shrine on lease for 3 years by auction ?

Minister for Auqaf (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) and (b) The year-wise income and expenditure were as follows :—

		<i>Income</i>	<i>Expenditure</i>
		Rs.	Rs.
1960-61	...	2,43,364·47	6,804·47
1961-62	...	2,20,758·50	60,819·79
1962-63	...	1,97,831·00	21,786·00
1963-64	...	3,44,438·71	20,370·37
1964-65	...	2,64,623·28	58,640·69
1965-66	...	2,08,736·94	33,247·13
1966-67	...	2,94,127·15	45,118·43
Till 31st December 1967	...	40,203·38	17,817·83

(c) Yes.

OPENING SCIENCE COLLEGE AT SHORKOT

***10826. Makhdum Akhtar Ali Shah Qureshi :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that there is a scheme to open a College with the subjects of Science at each Tehsil Headquarter of the Province; if so, when the said College will be opened in Shorkot, District Jhang ;

(b) whether it is a fact that there is a High School housed in a huge building at Shorkot ;

(c) whether it is a fact that the said school building is so commodious that intermediate and degree classes can easily be started there ;

(d) if answer to (b) and (c) above be in affirmative, whether Government intend to start intermediate and degree classes ; there if so, when ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

PRIVATE SCHOOLS AND COLLEGES

***10847. Khan Gul Hameed Khan :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the total number of private schools and colleges in the Province and out of them the number of recognised ones ;

(b) the number of private schools and colleges in the Province as are given grant-in-aid by the Government ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a)

(i) Total number of private schools and colleges : 2596

(ii) Total number recognised : 1872

(b) 1558.

IMPARTING TECHNICAL EDUCATION IN INDUSTRIAL INSTITUTIONS

***10945. Mr. Muhammad Umar Qureshi :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Government has been considering a scheme for imparting Technical Education in Industrial Institutions in the Province;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, whether a decision has been taken in the matter ; if so, details of the said scheme alongwith the time by which it will be implemented ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Yes.

(b) Yes. A scheme for the Reorganization of the existing Government Industrial Schools for boys into Vocational Institutes by providing new equipment and buildings for purpose of introducing more trades and to raise standard of existing courses of Technical Education at vocational level has been approved and will be implemented by 1970.

SCHOOL BUILDINGS AFFECTED BY RAINS IN KARACHI

***10965. Mr. Zain Noorani :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the buildings housing the Jacob Line Boys' Secondary School, Jacob Lines Girls Primary School, the Intelligence Quarters Girls' Primary School and the Jehangir Road Boys Secondary Schools No. 1 and 2 have been badly affected by the rains in Karachi ;

(b) the number of students on the rolls of each of the said schools ;

(c) whether it is a fact that the buildings of some other schools in Karachi, besides those mentioned in (a) above, have also been badly damaged due to the rains ; if so, the names of the said schools alongwith the number of students in each of them ;

(d) whether it is a fact that as a result of the said school buildings being affected by the rains, about 3000 boys and girls have to virtually sit among the rains of the school buildings or in verandhas or under the trees and get an open air education ;

(e) what are the details and the nature of damage done to the school buildings mentioned in (a) and (c) above giving details separately in each case ;

(f) the steps taken by Government or intended to be taken by the Government in this behalf ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Yes.

(b) 1. Boys Secondary School, Jacob Lines No. 1	823
2. Boys Secondary School, Jacob Lines No. 2	565
3. Girls Primary School, Jacob Line No. 1	463
4. Girls Primary School, Jacob Lines No. 2	399
5. Girls Primary School, Intelligence Quarters	205
6. Boys Secondary School, Jehangir Road No. 1	935
7. Boys Secondary School, Jehangir Road No. 2	847

Total	4,237
-------	-------

(c) Yes. A list indicating the names of the schools, and the number of students in each of them is attached at Appendix 'A'.

(d) No. Proper alternate arrangements have been made to accommodate the students.

(e) The details and nature of damage caused are also mentioned in Appendix 'A'.

(f) Government is taking all necessary steps in this regard and Public Works Department authorities have been requested to take up the work of repairs.

APPENDIX 'A'

LIST INDICATING THE NAMES OF THE SCHOOLS, THE NUMBER OF STUDENTS IN EACH OF THEM AND THE NATURE OF DAMAGE DONE TO EACH.

Serial No.	Name of the institution	Enrolment	Nature of damage
1	Government Boys Secondary School, Jacob Lines No. 1.	823	Roofs of 16 rooms damaged
2	Government Boys Secondary School, Jacob Lines No. 2.	565	Ditto
3	Government Girls Primary School, Jacob Lines No. 1.	463	Roofs of 15 rooms damaged
4	Government Girls Primary School, Jacob Lines No. 2.	399	Ditto
5	Government Girls Primary School, Intelligence Quarters.	205	Roofs of 3 rooms damaged
6	Government Boys Secondary School, Jehangir Road No. 1.	935	Roofs of first floor damaged
7	Government Boys Secondary School, Jehangir Road No. 2.	847	Ditto
8	Government Boys Secondary School, Nanakwara.	640	Roofs of upper storey damaged

9	Government Boys Secondary School, P. & T. Colony.	225	Roofs of 5 rooms damaged
10	Government Girls Secondary School, Mission Road.	722	Repairs are being carried out of Evacuee Trust Committee.
11	Government Girls Secondary School, Jacob Lines No. 1.	842	Roofs of Block No. 2, damaged.
12	Government Girls Secondary School, Jacob Lines No. 2.	812	Ditto
13	Government Urdu Boys Primary School, Gizri.	137	Roofs damaged.
14	Government Urdu Boys Primary School, P. & T. Colony.	580	Roofs damaged.
15	Government Urdu Boys Primary School, Saddar.	115	Roofs and staircase damaged.
16	Government Urdu Boys Primary School, Cantt. No. 1.	356	Roofs and wooden ground floor damaged.
17	Government Urdu Boys Primary School, Artillery Mardan.	742	Roofs damaged.
18	Government Urdu Boys Primary School, Aram Bagh.	506	Roofs and Balcony damaged.
19	Government Urdu Boys Primary School, Jacob Lines.	802	Roofs of 8 rooms damaged.
20	Government Urdu Boys Primary School, Jut Land Lines.	371	Roofs damaged.
21	Government Urdu Boys Primary School, Bazerta Lines.	496	Ditto
22	Government Urdu Boys Primary School, Abbyssinia Lines.	561	Ditto

23	Government Urdu Boys Primary School, Valji Bhai Allah Rakha.	375	Roofs and Wall Plaster damaged.
24	Government Urdu Boys Primary School K. B. Mama.	407	Roofs and stairs damaged.
25	Government Urdu Boys Primary School, Manghopir.	100	Roofs of rooms damaged.
26	Government Boys Primary School, Khardar.	451	Declared damaged by K.M.C.
27	Government Urdu Boys Primary School, Rexer Lines.	225	Roof of 3 rooms damaged.
28	Government Urdu Boys Primary School, Dharamise-wara.	278	Declared damaged by K.M.C.
29	Government Urdu Boys Primary School, Bhimpura.	276 425	Ditto Ditto
30	Government Urdu Girls Primary School, Bhimpura.	565	Staircase and some parts of the first floor damaged.
31	Government Urdu Girls Primary School, Kagzi Bazar.	587	Declared damaged by K.M.C.

SEATS FOR STUDENTS IN N.E.D. COLLEGE, KARACHI

***10966. Mr. Zain Noorani :** Will the Minister for Education be pleased to state : —

(a) the total number of seats for students in the N. E. D. College at Karachi ;

(b) out of those, how many are taken on merit and how many are nominated ;

(c) the details of seats reserved for nomination alongwith the break up of the same ;

(d) the details of the percentage of marks secured by the students admitted to the N, E, D, College last year against the said reserved seats ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) (a): 251 numbers.

(b) 187 on merit and 54 seats are reserved by nominations upto 1967 and the year 1968. 210 seats by merit and 41 seats by nomination.

	1967	1968
(c) 1. Quetta and Kalat Division . .	8	8
2. Special Areas of Peshawar . .	2	. .
3. Special Areas of Dera Ismail Khan . .	1	. .
4. Jammu and Kashmir State . .	8	. .
5. Junagadh State . .	1	1
6. Mangrol . .	1	1
7. Manavadar . .	1	1
8. Bantva Bara Majmu . .	1	1
9. Bantva Chhota Manjumu Sultanabad and Sardargarh.	1	1
10. Foreign countries (nominees of Minis- try of Education, Government of Pakistan).	10	10
11. Civilian Scholars (nominated by G.H.Q. Rawalpindi).	10	10
12. Donors : Family of Nadirshaw Edulji Dinshaw.	8	8
13. Donors : Divisional Evacuee Trust Committee, Karachi.	2	. .
Total . .	54	4

Quetta and Kalat Divisions (8 seats)

(d) Serial No.	Name	Percentage
1.	Shah Muhammad Kanshi	. . 56.9 I.Sc.
2.	Ghazi Khan	. . 56.3 I.Sc.

3. Jalal Khan	. . 51.2	I.Sc.
4. Muhammad Rahim	. . 48.4	I.Sc.
5. Muhammad Anwar	. . 46.8	I.Sc.
6. Kaleemullah Khan	. . 46.7	I.Sc.
7. Abdul Hameed	. . 44.5	I.Sc.
8. Khalil Ahmad	. . 36.9	I.Sc.

Special Areas of Peshawar (2 seats)

Gul Muhammad	. . 57.8	I.Sc.
--------------	----------	-------

Jammu and Kashmir State (8 seats)

1. Juma Khan	. . 53.8	I.Sc.
2. Muhammad Qadir	. . 47.5	I.Sc.
3. Muhammad Nazir Khan	. . 47.8	I.Sc.
4. Muhammad Sharif	. . 51.1	I.Sc.
5. Muhammad Bashir	. . 61.6	I.Sc.
6. Muhammad Abdul Hakim	. . 44.2	I.Sc.
7. Farooq Iftikhar	. . 49.1	I.Sc.
8. Muhammad Sharif	. . 58.4	I.Sc.

Special Area of D. I. Khan (1 seat)

<i>Serial No.</i>	<i>Name</i>	<i>Percentage</i>
	Noshke Alam Khan	. . 39.9 I.Sc.

Junagadh State (1 seat)

Sayyed Altaf Hussain Tirmizi	. . 51.7	I.Sc.
------------------------------	----------	-------

Mangrol (1 seat)

Rashid Ahmad Qureshi	. . 50.6	I.Sc.
----------------------	----------	-------

Manavadar (1 seat)

Abdul Sattar	. . 50.6	I.Sc.
--------------	----------	-------

Bantava Bara Majumu (1 seat)

Muhammad Bashir Parakh	. . 48.9	I.Sc.
------------------------	----------	-------

Bantaya Chhetta Majmu, Sultanabad and Sardargarh (1 seat)

Foreign Countries (10 seats) (Nominees of Ministry of Education, Government of Pakistan),

1. Muhammad Thib Mohmud Awad

2. Fatima Ibrahim Mustafa

3. Abdul Fattah Muhammad Al Assi

4. Hasan Yousuf Mohammad Al Saidi.

5. Osman Abdul Hafiz Muhammad

6. Muhammad

7. Azmi

8. Khusro Kazam Zadeh

9. Nadir Yousaf Omera

The performance of Foreign students in the classes/ Examination is mostly very poor.

Civilian Scholars : (10 seats) Nominated by G.H.Q. Rawalpindi)

1. S. Noorul Amin, . . . 51.4 I.Sc.

2. Muhammad Aslam . . . 53.2 „

3. Akhtar Najmi . . . 51.3 „

4. Akhtar Ali . . . 48.2 „

5. Syed Jamil Mukhtar Shah . . . 53.0 „

6. Syed Ghayyurul Hasnain . . . 48.0 „

7. Tahir Ahmad Khan . . . 58.3 „

8. Syed Shahid Mukhtar Shah . . . 65.3 „

9. Khalil Ghafoor . . . 61.4 „

10. Muhammad Afzal Khan . . . 51.3 „

Donors - Family of Nadir Shaw Edulji Dinshaw (8 seats)

1. Nagi D. Mulla . . . 47.6 I.Sc.

2. S. Amar Ali . . . 56.8 „

3. Cyrus S. Mavelevla	. . 46.3	„
4. Jehan Bux Canteenwala	. . 47.7	„
5. Mirza Asadullah Baig	. . 52.4	„
6. S. Muzaffar Ali	. . 49.7	„
7. Salman Rehman	. . 48.2	„
8. Ivan Franic	. . 55.3	„

Donors—Divisional Evacuee Trust Committee, Karachi (2 seats)

1. Shokat Ali Khan	. . 48.7	I.Sc.
2. Syed Haider Mehdi Jamal	. . 52.4	„

TEACHERS IN N.E.D. COLLEGE, KARACHI

***10967. Mr. Zain Noorani :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Government has laid down that one teacher should be provided for eighteen students in all Colleges in West Pakistan ;

(b) what is the total number of students in the N.E.D. College in Karachi and the total number of teachers sanctioned for the same ;

(c) what is the total number of teachers that have been actually working in the N.E.D. College, Karachi during the last academic year ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Yes.

(b) 1030 seats sanctioned teaching posts 50.

(c) 25 teachers excluding part-time teachers.

HOSTEL FOR GOVERNMENT INTERMEDIATE COLLEGE, LORALAI

***10983. Babu Muhammad Rafiq :** Will the Minister for Education please refer to answer to my starred question No. 4604, given on the floor of the House on 25th May, 1967 and state what steps have been taken so far to provide hostel for Government Intermediate College, Loralai ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan): Funds have been released for the construction of the hostel.

— — —

INTERMEDIATE SCIENCE COLLEGE, SIBI

***10984. Babu Muhammad Rafiq :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Intermediate Science College has started functioning at Sibi ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, the date by which the Arts classes will be started in the said College ; and in case said classes are not to be started, reasons therefor ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) It has been sanctioned, but not started as yet.

(b) Does not arise.

— — —

UPGRADING OF PRIMARY AND MIDDLE SCHOOLS

***10985. Babu Muhammad Rafiq :** Will the Minister for Education be pleased to state : —

(a) the total number of Primary schools proposed to be upgraded to Middle standard during Third Five Year Plan Period in each Region of the Province ;

(b) the number of Middle schools proposed to be upgraded to High School standard during the Third Five Year Plan Period in each Region of West Pakistan ;

(c) the total number of Primary and Middle Schools so far upgraded to Middle and High standards, respectively, in each Region during the said period ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) :

Region	(a)	(b)	(c)	
			Primary	Middle
Lahore	809	23	93	9
Rawalpindi	170	10	42	5

Peshawar	...	170	20	24	9
Hyderabad	...	320	32	38	12
Quetta	...	56	8	7	3
Karachi	...	75	7	11	3
<hr/>					
Total	...	1600	100	215	41
<hr/>					

These are tentative figures subject to availability of funds.

INDUSTRIAL SCHOOL AT LORALAI

***10986. Babu Muhammad Rafiq :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that an Industrial School is functioning at Loralai ;

(b) whether Automobile Diesel Engine Trade is one of the subjects being taught in the said school ; if not, reasons therefor and whether Government intend to introduce the same?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Yes.

(b) No. However Government intends to introduce the same after the institution is re-organised into Vocational Institute.

SCHOLARSHIPS FOR INSTRUCTORS WORKING IN POLYTECHNIC INSTITUTES

***10987. Babu Muhammad Rafiq :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the number of scholarships granted to the Instructors working in Polytechnic Institutes in the Province for studies abroad during the 1964-65, 1965-66 and 1967-68 alongwith the amount of each scholarship ;

(b) the names and home addresses of Instructors as were granted the said scholarships ;

(c) criteria adopted for the grant of the said scholarships ;

(d) in case no scholarship has been granted to the Instructors belonging to Quetta-Kalat Region, reasons therefor ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan): (a) 14 scholarships.

(i) Yearwise break up is as under :—

1964-65 — 8	1965-66 — 4	1967-68 — 2
-------------------	-------------------	-------------------

(ii) The amount of each scholarship is given as under :—

1964-65

One scholarship	. . . at Rs. 4,325 per annum.
One scholarship	. . . at Rs. 4,600 per annum.
One scholarship	. . . at Rs. 1,680 per annum.
Four scholarships	. . . at Rs. 5,000 per annum.
One scholarship	. . . at Rs. 20,000 per annum.

1965-66

One scholarship	. . . at Rs. 3535.45 per annum.
-----------------	---------------------------------

Three scholarships provided under the Commonwealth Bursaris Programme for 1965-66, the amount is not known.

1967-68

One scholarship	. . . at Rs. 1107 per annum.
-----------------	------------------------------

One scholarship under Colombo Plan—the amount is not known.

(b) *Name*

Home Address

1. Mr. Muhammad Zulfiqar, Instructor.	Government Polytechnic Institute, Lahore.
2. Mr. Aleem Haider Zaidi, Instructor.	Government Polytechnic Institute, Lahore.
3. Mr. Sabir Hussain Rizvi, Instructor.	Mohallah Mistrian, Jhelum.
4. Mr. Muhammad Naseem, Instructor.	8-B Palm Street, Old Anar- kali, Lahore.

- | | |
|--|---|
| 5. Mr. Waheed-ud-Din Saleem,
Instructor. | Government Polytechnic
Institute, Multan. |
| 6. Mr. S. R. Shabbar Rizvi,
Instructor. | Polytechnic Staff Quarters,
Karachi. |
| 7. Mr. Farman Ali Awan,
Chief Instructor. | Tehsil Bhalwal, District
Sargodha. |
| 8. Islamul Haq,
Instructor (Physics). | Qtr. No. 52/F, Jahangir
Road, Karachi. |
| 9. Mr. S. Abdul Moqset,
Instructor (Power). | 15/1 Azimpoor Road, Police
Station Lalbagh, Dacca. |
| 10. Mr. Saeed Ahmad Hashmi,
Sr. Instructor. | Saeed Manzil Blot Gans,
Sahiwal. |
| 11. Mr. Shakoor Javid,
Instructor (Auto). | Karachi Polytechnic Staff
Qtr. Karachi. |
| 12. Mr. S. M. A. Naqvi,
Instructor (Mech.). | Former Province of Sind
Hyderabad and Khairpur
Divisions. |
| 13. Mr. S. Fateh Ali Zaidi,
Head Shop Instructor. | Mohallah Ramswami,
Karachi. |
| 14. Mr. Faizullah Shah,
Head of Department
(Mech.) | 416 Amin Kot, Bahawalpur
Nagar. |

(c) Seniority academic qualifications and age limit according to the requirements of the scholarships.

(d) There were no suitably qualified candidates belonging to Quetta-Kalat Region for the award of scholarships for instructors working in Polytechnic Institute, Quetta. The Government Polytechnic Institute started functioning in the session 1965-66.

**DEPOSITS OF THE AGRICULTURAL UNIVERSITY IN
VARIOUS BANKS**

***10994. Malik Muhammad Akhtar :** Will the Minister for Education be pleased to refer to the statement made by the Parliamentary Secretary Education on the floor of the House on 9th October 1967

while opposing the West Pakistan Autonomous Bodies (Regulation of Investment of Surplus Funds) Bill, 1967 and state : —

(a) whether it is a fact that the Agricultural University has been maintaining the current account as well as keeping the fixed deposits of the said University in various banks in contravention of the instructions contained in the Central Government Circular No. F. 6 (1) IF. IV/65, dated 16th February 1965 even after the issuance of the said circular ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, reasons therefor and the amount in current and fixed deposit accounts standing to the credit of the said University in each of the said banks as on 31st December 1967 ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) No.

(b) Question does not arise.

DEPOSITS OF THE BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION
IN VARIOUS BANKS

*10995. **Malik Muhammad Akhtar :** Will the Minister for Education please refer to the statement made by the Parliamentary Secretary Education on the floor of the House on 9th October 1967 while opposing the West Pakistan Autonomous Bodies Regulation of Investment of Surplus Funds Bill 1967 and state :—

(a) whether it is a fact that the Board of Intermediate and Secondary Education, Lahore has been maintaining its current account as well as keeping its fixed deposits in various bank in contravention of the instructions contained in the Central Government Circular ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, reasons therefor and the amount in current account and fixed deposit standing to the credit of the said Board in each of the said banks as on 31st December 1967 ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) No.

(b) Question does not arise.

DEPOSITS OF THE PUNJAB UNIVERSITY IN VARIOUS BANKS

***10996. Malik Muhammad Akhtar :** Will the Minister for Education be pleased to refer to the statement made by the Parliamentary Secretaries, Education, Auqaf, Industries, Commerce and Mineral Resources, Planning and Development and Railways on the floor of the House on 9th October 1967 while opposing the West Pakistan Autonomous Bodies (Regulation of Investment of Surplus Funds) Bill, 1967 and state :—

(a) whether it is a fact that the Punjab University has been maintaining its current account as well as keeping the fixed deposits in various banks in contravention of the instructions contained in the Central Government circular No. F. 6 (1) IF. IV/65, dated 16th February 1965 even after the issuance of the said circular ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, reasons therefor and the amount in current account and fixed deposit standing to the credit of the said University in each of the said banks as on 31st December 1967 ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) No.

(b) Question does not arise.

DEPOSITS OF THE ENGINEERING UNIVERSITY IN VARIOUS BANKS

***10997. Malik Muhammad Akhtar :** Will the Minister for Education be pleased to refer to the statement made by the Parliamentary Secretaries, Education, Auqaf, Industries, Commerce and Mineral Resources, Planning and Development and Railways on the floor of the House on 9th October 1967 while opposing the West Pakistan Autonomous Bodies (Regulation of Investment of Surplus Funds) Bill, 1967 and state :—

(a) whether it is a fact that the Engineering University has been maintaining its current account as well as keeping the fixed deposits in various banks in contravention of the instructions contained in the Central Government circular No. F. 6 (1) IV/65, dated 16th February 1965 even after the issuance of the said circular ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, reasons therefor and the amount in current account and fixed deposit standing to the credit of the said University in each of the said banks as on 31st December 1967 ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Yes. The instructions contained in the Central Government Circular were withdrawn by the Ministry of Finance vide their letter No. 6 (9) IF. IV/66, dated the 18th January, 1967. In short no decision has been taken by the Ministry of Finance so far.

(b) Submission of reasons in the light of above not required. Detailed position as on 31-12-1967 is as under :—

Name of Bank	Current Account/ Special Notice Account.	Fixed Deposits.
DEVELOPMENT		
M/s Habib Bank Ltd., Engg. University Branch, G. T. Road, Lahore.	1,27,329.22	35,00,000
	<u>1,27,329.22</u>	<u>35,00,000</u>
NON-DEVELOPMENT		
(i) Habib Bank Ltd., Engg. University Branch, G.T. Road, Lahore.	11,02,421.56	...
(ii) M/s. United Bank Ltd., G.T. Road, Lahore.	5,00,000.00	...
(iii) M/s. Standard Bank Ltd., Bank Square, The Mall, Lahore.	...	10,00,000
Grand Total	<u>16,02,421.56</u>	<u>10,00,000</u>

EDWARDS COLLEGE, PESHAWAR

***11076. Chaudhri Muhammad Idrees :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the grant-in-aid given to Edwards College, Peshawar by Government during the years 1965-66 and 1966-67 alongwith the criterion adopted for determining the amounts of the said grants ;

(b) the number of Muslim students and Christian students as were on roll in each class of the above said Colliege as on 30th June, 1966 and 30th June 1967 ;

(c) the yearwise income accrued to the above said College during the years 1965-66 and 1966-67 on account of (i) fees and (ii) other items and the annual expenditure of the said College during each of the said years ;

(d) the monthly rate of fees prescribed for each class in the said college during each of the said years ;

(e) the number of Muslim students and Christian students separately as were given concession of full fee and half fee as on 31st December 1965 and 31st December 1966 in the said College ?

Minister for Education, (Mr. Muhammad Ali Khan) :

(a)	1965-66	1966-67
	Rs. 67,100.05	Rs. 87,345.25

Entitlement under the Rules.

(b) As in Appendix 'A'.

(c) As in Appendix 'B'.

(d) As in Appendix 'C'.

(e) As in Appendix 'D'.

APPENDIX 'A'

The No. of Students	1966-67		1966-67	
	Muslim	Christian	Muslim	Christian
Ist Year	230	9	250	8
IInd Year	250	4	221	11
IIIrd Year	75	3	81	2
IVth Year	52	2	63	4
Total :	607	18	615	25

APPENDIX 'B'

Income from

(i) Fee	1,76,791.46	2,57,416.39
(ii) Other Items	84,004.04	1,10,318.52
Expenditure :	3,79,004.07	4,10,676.02

APPENDIX 'C'

Monthly rate of fee : (Tuition Fee).

1st Year Arts	23.00	23.00
Non-Medical	27.00	27.00
Medical	31.00	31.00
2nd Year Arts	23.00	23.00
Non-Medical	27.00	27.00
Medical	31.00	31.00
3rd Year Arts	27.00	27.00
Science	33.00	33.00
4th Year Art	27.00	27.00
Science	33.00	33.00

APPENDIX 'D'

Concessions :	Full Fee	Half Fee	Full Fee	Half Fee
Muslim Students	50	4	56	1
Christian Students	16	1	15	1

COMPLAINT AGAINST PRINCIPAL OF EDWARDS COLLEGE PESHAWAR

*11077. **Chaudhri Muhammad Idrees** : Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the students of Edwards College, Peshawar submitted an application to the Governor against the anti-Islamic and anti-Pakistan behaviour of the present Principal and

the malpractices committed by the administration of the said College and the copies of the said application have been sent to the Provincial Minister for Education and the Provincial Secretary Education ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, the dates on which the said applications were received by the said Minister and the said Secretary alongwith the action taken thereon and whether Government would lay the copies thereof on the Table of the House?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Yes.

(b) On 14-11-67, 20-11-68, 22-3-68 and 23-3-1968. The matter has been referred to the Director of Education, Peshawar. Copies enclosed.*

—————

**TEACHERS AND CLERKS OF PRIMARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN
DISTRICT THARPARKAR**

***11091. Rana Chander Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the number of vacancies of Teachers and Clerks that occurred in 1966 in the administration of Primary Educational Institutions in District Tharparkar ;

(b) the names of applicants who applied for the said posts alongwith their qualifications and experience ;

(c) the names of candidates, out of those mentioned in (b) above, who were called for interview ;

(d) the names of candidates, out of those mentioned in (c) above, who were selected alongwith the names of places of their posting?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) :

(a)	<i>Teachers</i>	<i>Clerks</i>
	47	Nil.

(b) The list attached (Appendix A) -All the candidates were matriculates and raw-hands.

(c) All the candidates mentioned in the list at (b) above were called for interview at the concerned Taluka Headquarters.

**Please see Appendix VII at the end.*

(d) The list attached (Appendix B).*

APPOINTMENT OF LECTURERS IN THE INTERMEDIATE COLLEGE
FOR WOMEN, ISLAMABAD.

***11094. Major Muhammad Aslam Jan :** Will the Minister for Education be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that it is the policy of the Government to post married women at places where their husbands are working ;

(b) the names and qualifications of Professors and Lecturers of Government College for Women, Gujrat and Government College for Women, Rawalpindi with subjects each one of them teaches and dates of posting of each of them in the said Colleges ;

(c) names of Lecturers of the said Colleges who have applied for transfer since January, 1966 on compassionate grounds with dates of their applications and results thereof ;

(d) whether it is a fact that in the year 1967 certain Lecturers of the said Colleges applied to the Director of Education, Rawalpindi Region, through Principals of their Colleges for appointment as Lecturers in the Intermediate College for Women, Islamabad which has recently been opened there ;

(e) if answer to (d) above be in the affirmative (i) names (ii) dates on which their applications were received in the office of the Director of Education of Rawalpindi Region (iii) action taken by the said Director on the said applications, and (iv) names of the applicants whose applications were forwarded for said appointment alongwith the names of Lecturers who were appointed in the Intermediate College for Women at Islamabad ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Yes, Normally an effort is made to post both husband and wife at one station when they are Government servants ;

(b) The requisite information is given in the enclosed statements.*

* Please see Appendix VIII at the end.

* Please see Appendix IX at the end.

(c) The information is as under :—

Name and Designation	Date of appointment	Result
Mrs. S. K. Malik, or Miss Sidiqa Khanum, Lecturer in Arabic, Govt. College for Women, Gujrat.	27-4-1966	Request could not be ac- ceded to for want of a vacancy at Rawalpindi. Her request for transfer to Govt. Inter. College for Girls Islamabad, was not considered as the said Col- lege was not in existence at that time.
Miss Khalida Khatoon, Lecturer in Zoology, Govt. College for Women, Gujrat.	12-7-1966	Transferred to Rawalpindi in October, 1967.
Mrs. S. Saeed Qureshi Lecturer in English, Govt. College for Women, Gujrat.	22-6-1966	She was posted to Campbell- pur on her selection by the West Pakistan Public Ser- vice Commission.
Mrs. Riaz Akram, Lecturer in Geography, Govt. College for Women, Gujrat.	24-8-1966	Transferred to Jhang.
Miss Tanvir Rasul, Lecturer in English, Govt. College for Women, Gujrat.	8-2-1967	Transferred to Rawalpindi in November 1967.

No such request from any Lecturer from Govt. College for Women, Rawalpindi was received during this period.

(d) Yes. It is a fact that some Lecturers applied for appointment to the posts of lecturers in Inter. College, Islamabad in the year, 1967, consequent upon the advertisement of such posts by the Central Public Service Commission,

(e) Name of applicant.	Date of receipt	Action taken
Mrs. Azra Riaz, Govt. College for Women, Rawalpindi.	21-9-1967	Application forwarded to the Central Public Service Commission.
Miss Bifquis Hyder, Govt. College for Women, Gujrat.	19-9-1967	-do-
Mrs. Siddiq Anwar, Govt. College for Women, Rawalpindi.	15-11-1967	-do-
Miss Khalida Khatoon, College for Women, Gujrat now at Rawalpindi.	26-9-1967	-do-
Miss Farzana Ismail, Govt. College for Women, Gujrat,	26-9-1967	-do-
Miss Farzana Munawar Abbas, Govt. College for Women, Gujrat.	26-9-1967	-do-
Miss Nasim Shams, Govt. College for Women, Gujrat.	26-9-1967	-do-

No intimation has been received in this Office regarding the names of Lecturers who were appointed in the Inter. College Islamabad by the Central Government.

AMOUNT SANCTIONED FOR "LANGAR" AT SHRINE LANWARI SHARIF

***11178. Haji Mir Khuda Bux Talpur :** Will the Minister for Auqaf be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that an amount of twenty-five thousand rupees was sanctioned by Government in 1963 for "Langar" at the Shrine of Lanwari Sharif, Taluka Badin, District Hyderabad but this amount was reduced in 1967 ; if so, reasons thereof ;

(b) the names of persons to whom the agricultural land attached with the said Shrine has been given on lease alongwith (i) the amount of lease money recovered so far, and (ii) the amount outstanding against each of the said lease holders and the reasons for not recovering the said amount from them ?

Minister for Anqaf (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Yes. This was done due to paucity of funds.

(b) The names of the lessees of agricultural land attached to the shrine, the amounts recovered from them and the amounts outstanding against them are given below :

Serial No.	Name of lessee		Amount recovered so far	Amount to be recovered
			Rs.	Rs.
1.	Fazal Muhammad Kapri	...	1,825·69	20,082·59
2.	Muhammad Amin & Co.	...	3,252·75	36,802·60
3.	Ismail Khan	...	5,600·69	11,206·39
4.	Rahmatullah	...	559·35	5,506·65
5.	Bahadar Dodo & Co.	...	17,805·38	11,414·07
6.	Sujawal	...	7,329·00	8,658·00
7.	Mir Shah Muhammad	...	23,229·65	14,246·53
8.	Mir Yar Muhammad	...	4,600·15	1,536·05
9.	Gull Hussain	...	1,104·22	552·11
10.	Mir Haji Ali Bux	...	11,313·94	5,656·91
11.	Dhairan	...	4,213·13	12,149·43
12.	Lal Bux and others	...	26,162·20	52,325·00
13.	Naraindas	...	6,754·56	26,329·89
Total			1,13,750·61	2,06,466·22

The arrears are to be recovered through the revenue authorities. They are being reminded from time to time.

IMPROVEMENT OF EDUCATION FACILITIES FOR DISTRICT KOHAT

*11263. **Khanzada Taj Muhammad Khan Bangash** : Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that District Kohat has only one Girls High School at Kohat City and no Girls College in the whole District ;

(b) whether it is a fact that the Defence Services have recently opened an Intermediate College at Kohat at their own expense ;

(c) if answer to (a) and (b) above be in the affirmative, whether Government have any plans to help this institution in the matter of construction of laboratories, hostels, etc. ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) During the ensuing years, yes.

DISTRIBUTION OF PAMPHLET "AHKAM-I-ZABEH" AMONG KHATIBS AND IMAMS OF AUQAF MOSQUES

*11269. **Chaudhri Muhammad Nawaz** : Will the Minister for Auqaf be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the pamphlet "Ahkam-i-Zabeh" written by Dr. Fazal-ur-Rehman was recently distributed among the Khatibs and Imams of the Mosques under the administrative control of the Auqaf Department ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, whether Government is prepared to lay a copy of this pamphlet on the Table of the House ?

Minister for Auqaf (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Yes. The name of the pamphlet was "Zabeh-kay-Ahkam".

(b) A copy of the pamphlet "Zabeh-kay-Ahkam" is placed on the Table of the House.*

*Pamphlet not placed on the table of the Assembly.

REPORT OF THE COMMITTEE ON EDUCATIONAL INSTITUTIONS RUN BY
PRIVATE BODIES OR INDIVIDUALS

***11271 Chaudhri Muhammad Nawaz :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the date on which the report of the Committee set up to report on the affairs of the Educational Institutions run by private bodies or persons was received by the Government and the action taken by the Government on this report ;

(b) whether the Government is prepared to lay a copy of this report or its extract on the Table of the House ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) One copy of the report on the Administration of Privately Managed Colleges was received in the Education Department in the middle of January, 1968.

The Department has examined its various aspects namely, educational, administrative, financial, etc.

(b) The report is at present under the active consideration. The question of placing a copy of the report on the table of the House will be considered after its finalisation.

COLLECTION OF RENT OF PROPERTY ATTACHED TO MOSQUES BY
IMAMS AND KHATEEBES

***11296. Chaudhri Muhammad Nawaz :** Will the Minister for Auqaf be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Auqaf Department has issued orders empowering the Imams and Khateebes to collect rent from tenants occupying the waqf property attached to the mosques under their charge ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, under whose instructions such orders were passed ;

(c) whether it is a fact that the Department has allowed 2 per cent commission to Imams and Khateebes for the collection of rent ?

Minister for Auqaf (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Yes. The policy statement issued by the Department is placed on the table.*

(b) This policy was settled in a Conference with the Administrators of the Department.

*Please see Appendix X at the end.

(c) No formal orders were yet issued because the policy settled was yet to be tried in a small area for which some properties of Lahore were selected on experimental basis.

HIGH AND MIDDLE SCHOOLS IN ILLAQA BATGRAM OF HAZARA
DISTRICT

*11325. Khan Malang Khan : Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the present number and location of High and Middle Schools in illaqa Batgram annexed to Hazara District and whether these Schools have got their own buildings ; if so, the years in which the said buildings were constructed ;

(b) whether it is a fact that there is no Government building for High School and Middle School at Shangli Pain situated in the area mentioned in (a) above ;

(c) if answer to (b) above be in the affirmative, whether Government intend to construct its own building for any of the said two Schools ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) The information is given in the Appendix 'A'.

(b) & (c) No Government High/Middle School exists at Shangli Pain and therefore the question of construction of Government buildings does not arise.

APPENDIX 'A'

Name of School	Whether it has its own building	Year of construction
1. Government High School, Kuza Banda	No. Sanction has been accorded for the construction of a building and work will be undertaken in due course.	
2. Government High School, Batgram	Yes.	1963-64

3. Government Middle School, Tikri	Yes.	1965
4. Government Middle School, Baland Kote	Yes.	1965
5. Government Middle School, Paimal Sharif	Yes.	1965
6. Government Middle School, Batamoti	Partly Government building and partly rented.	1965

DISBURSEMENT OF PAY TO TEACHERS SERVING IN GIRLS
SCHOOLS OF D. G. KHAN DISTRICT

***11334. Sardar Manzoor Ahmed Khan Qaisrani :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that teachers serving in Girls Schools of D. G. Khan District have to go to their respective centres fixed at Middle Schools to receive their monthly salary ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, (i) the names of the Middle Schools in the District where such centres have been fixed alongwith the names of the Schools with their locale which are served by each of the said centres (ii) distance which each teacher has to cover to receive her pay alongwith means of conveyance available in the area, and (iii) whether there is any procedure under Government consideration which may be more convenient than the present one ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Yes, but not in all cases.

(b) (i) List attached.*

(ii) -do-

(iii) Yes, there is a proposal under consideration at the Directorate level to disburse the salaries through money-orders.

**Please see Appendix XI at the end.*

SENIORITY OF LECTURERS IN WPES

***11338. Chaudhri Muhammad Idrees :** Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) the number of lecturers in WPES whose seniority has not been approved by the West Pakistan Public Service Commission so far ;

(b) the year in which the selection of the said lecturers was made ;

(c) the steps so far taken by the Government to get the seniority of the said lecturers approved by the West Pakistan Public Service Commission ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : Seniority is not approved by the West Pakistan Public Service Commission. However, if it is meant determined then the position is as below :—

(a) The number of lecturers in W.P.E.S. whose seniority has not been determined by the West Pakistan Public Service Commission so far is 921 ;

(b) The years in which the selection of the said lecturers was made, mainly vary from 1962 to 1968 and in a few cases prior to that period ;

(c) The West Pakistan Public Service Commission have already been moved for determining the seniority of the lecturers concerned and have been requested to expedite the same.

 OPENING OF SCHOOLS IN MOSQUES

***11397. Sardar Manzoor Ahmed Khan Qaisrani :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government for the opening of schools in Mosques ;

(b) the district-wise number of such schools, if any, functioning at present ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Yes.

(b) 1. Peshawar	80
2. Hazara	45
3. Rawalpi ndi	75

4. Gujrat	48
5. Lyallpur	80
6. Lahore	34
7. Sheikhpura	69
8. Multan	155
9. Jacobabad	120
10. Thatta	94

Total	800

SETTING UP INTERMEDIATE COLLEGE AT SHUJABAD

*11419. **Diwan Syed Ghulam Abbas Bokhari** : Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Shujabad is an important town in District Multan and is also a Tehsil Headquarter ;

(b) whether it is a fact that no College exists in the whole of Shujabad Tehsil, whereas High Schools are functioning at Shujabad, Sikandarabad, Matotli, Jaggowala and Jalalpur Pirwala and the Matriculate students of these Schools have to get admission in the Colleges at Multan ;

(c) whether it is a fact that the non-existence of a College at Shujabad is a great impediment in the way of poor but capable students for pursuing further studies ;

(d) whether it is a fact that there was till recently a scheme under the consideration of Government to open an Intermediate College at each Tehsil Headquarter ;

(e) whether it is a fact that the residents of Shujabad have often made vociferous demands for the opening of an Intermediate College there, but with no results ;

(f) if answer to (a) to (e) above be in the affirmative, whether there is any scheme with the Government for setting up an Intermediate College at Shujabad ; if so, the details thereof ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Yes,

(b) Yes.

(c) No. Capable students are given merit scholarships.

(d) No.

(e) Yes.

(f) Will be considered subject to the availability of funds.

GOVERNMENT GIRLS HIGH SCHOOL, SHUJABAD

***11420. Diwan Syed Ghulam Abbas Bokhari :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Government Girls High School, Shujabad, District Multan is housed in a building situated in an unpleasant environment in a dark and dingy street inside Railway Gate in the said town ;

(b) whether it is also a fact that no play-ground is attached to the said School building ;

(c) if answer to (a) and (b) above be in the affirmative, whether Government intend to make arrangements for a suitable building in the open city space for the said School ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) There is no Government Girls High School at Shujabad.

(b) & (c) Does not arise.

OPENING INTERMEDIATE COLLEGE AT DUNYAPUR

***11426. Diwan Syed Ghulam Abbas Bokhari :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Dunyapur is a well known town and a Railway Station in Tehsil Lodhran, District Multan ;

(b) whether it is a fact that there is only one High School in the said town and this area is backward from the educational point of view ;

(c) whether it is a fact that there is no College in Tehsil Lodhran with the result that the poor students have to go to Multan to continue

their studies and their parents cannot afford to bear their expenses due to poverty ;

(d) whether it is a fact that the residents of the said town have been demanding since long for the establishment of an Intermediate College at Dunyapur ;

(e) whether it is also a fact that during the last year the District Council, Multan and the Divisional Council, Multan recommended to the Government through the Divisional Commissioner, Multan for the establishment of a College at the said town ;

(f) if answer to (a) to (e) above be in the affirmative, whether there is any scheme to open an Intermediate College at Dunyapur ; if so, the details thereof ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) It is a quite well-known town.

(b) The area is not backward from the education point of view.

(c) Yes.

(d) Yes.

(e) Yes.

(f) No, but the demands from all localities and Regions receive due consideration.

PAYMENT OF DUES TO MUNSHI SAEED IQBAL, *ex*-DRAWING TEACHER,
HIGH SCHOOL, JAGOOWALA, DISTRICT MULTAN

***11432. Diwan Syed Ghulam Abbas Bokhari :** Will the Minister for Education please refer to the answer to my Starred Question No. 9422 given on 16th October 1967 and state whether it is a fact that Munshi Saeed Iqbal *ex*-Drawing Teacher, High School, Jagoowala, District Multan, has not been paid his dues so far ; if so, the time by which the payment of the same will be made to him ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : The amount of arrears for the period from 1-7-1965 to 30-9-1966 has since been paid to Munshi Saeed Iqbal, *ex*-Drawing Master, High School Jagoowala, District Multan. The claim for the period prior to 1-7-1965 is to be paid out of the frozen District Primary Education Committee Fund and the matter is under consideration of Government.

**INCREASE IN SALARY OF KHALIFA HASAN BUKHSH, CARE-TAKER
OF SHRINE OF HAZRAT SULTAN AHMED QATTAL**

***11437. Diwan Syed Ghulam Abbas Bokhari :** Will the Minister for Auqaf be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Shrine of Hazrat Sultan Ahmed Qattal is under the administration of Auqaf Department ;

(b) whether it is a fact that one Khalifa Hasan Bukhsh, has been appointed as a Care-taker in the said Shrine by the Auqaf Department and entrusted with the duties of entertaining the pilgrims, looking after the Shrine and maintaining cleanliness in the building and premises of the said Darbar ;

(c) whether it is a fact that the said person is paid only fifteen rupees a month in lieu of all these services whereas his predecessor was paid ten rupees per mensem for sweeping the Darbar and thirty rupees as monthly salary ;

(d) if answer to (a) to (c) above be in affirmative, whether Government intend to increase the salary of the person mentioned in (a) above according to the nature of his work ?

Minister for Auqaf (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Yes.

(b) It is correct that Khalifa Hasan Bakhsh has been appointed as a Care-taker but it is not correct that he was entrusted with the duty of entertaining the pilgrims, looking after the shrine and maintenance of cleanliness in the building and premises of the darbar.

(c) It is correct that he is paid Rs. 15/- only, as provided in the Budget of the current financial year. It is correct that his predecessor was paid Rs. 130 per mensem as salary but a separate part time sweeper had been appointed at Rs.10/- p.m. upto 30.6.1967.

(d) There is no such proposal at the present.

— — —

EXPANSION PROGRAMME OF NEW UNIVERSITY CAMPUS, LAHORE

***11528. Mian Muhammad Shafi :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that expansion programme of New University Campus, Lahore is under the consideration of Government ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, the expenditure proposed to be incurred on the said construction alongwith the number of years within which the said construction will be completed ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Yes. The expansion programme is already under implementation.

(b) During the Third Five Year Plan, the University of the Punjab was allocated a sum of Rs. 300.00 lacs for its development programme. In addition, this University will get a share out of an allocation of Rs. 150.00 lacs meant for Ph. D. level work in specified science subjects for each University.

For the formulation of the Third Five Year Plan, needs of different Universities were assessed on a common yardstick and allocations were made accordingly. Grants are released to this University as well as to other Universities according to available resources. The Punjab University was allocated a developmental grant of Rs. 35.00 lacs and Rs. 30.00 lacs during the years 1965-66 and 1966-67 respectively. In the annual development programme for the year 1967-68, there is a provision of Rs. 30.00 lacs for this University. The release of remaining allocation of the Third Five Year Plan is proposed to be made to the University in accordance with the resources available from year to year. Efforts are being made to complete the expansion programme by the year 1970. But there is likelihood that the programme may extend beyond 1970.

SCHOOL BUILDING CONSTRUCTED BY EDUCATION DEPARTMENT IN
DISTRICT LASBELA

*11533. **Mr. Muhammad Hashim Lassi :** Will the Minister for Education be pleased to state the total number of buildings of the Schools constructed by the Education Department during the years 1964-65 and 1966-67 in District Lasbela, and the locations thereof ; and if no such building has been constructed reasons therefor ?

(Answer not laid on the Table)

**GRANT OF SCHOLARSHIPS TO STUDENTS BELONGING TO DISTRICT
LASBELA**

***11535. Mr. Muhammad Hashim Lassi :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the total amount allocated for the grant of scholarships to students belonging to District Lasbela in the year 1966-67 ;

(b) the names of students who actually received the said scholarships ;

(c) whether any part of the amount mentioned in (a) above remained unspent ; if so, reasons therefor ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) the total grant for District Lasbela for the year 1966-67 is Rs. 51,270 as given under :—

	...	Rs.
(i) Middle & High	...	36,240
(ii) Post Matric	...	<u>15,030</u>
Total		51,270

(b) The names of the students are being collected.

(c) There was a saving of Rs. 562 (Middle & High) due to the reasons that the names of the three students were struck off the roll, hence a saving. Under the Post Matric Scholarship grant there was a saving of Rs. 3,233 for the reasons that the allocation is made on the basis of full year (12 months) while the award of scholarships is effected from the date a student joins an institution, hence this saving.

CONVENT SCHOOLS IN WEST PAKISTAN

***11611. Rana Phool Muhammad Khan :** Will the Minister for Education be pleased to state : —

(a) the total number of Convent Schools in West Pakistan alongwith locale thereof ;

(b) whether it is a fact that the Syllabi in the Convent Schools is such that it does not develop Islamic and National consciousness amongst

the students ;

(c) if answer to (b) above be in the affirmative, the steps being taken or proposed to be taken by the Government in this behalf ;

(d) if answer to (b) above be in the negative, names of the text books being taught in the said Convent Schools whereby Islamic and National consciousness is inculcated amongst the students ?

(Answer not laid on the Table)

PAY SCALE OF EIGHT TRAINED UNDER-GRADUATE TEACHERS OF
HYDERABAD REGION

***11625. Mr. Mazhar Hussain Ghaloo :** Will the Minister for Education be pleased to state whether it is a fact that eight trained under-graduate teachers of Hyderabad Region have been given selection grade, —vide Directorate of Education Hyderabad order No. S-3/12354-89-A-11-67-68, dated 1st April 1968 with effect from 1st July 1961, but the arrears of pay from 1st July 1961 to 31st December 1967, have not been paid to them ; if so, reasons therefor ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : Yes. The eight under-graduate teachers of Hyderabad Region have been allowed Selection Grade but no arrears of pay have been granted in view of the fact that they do not possess the requisite qualifications for the post of Junior English teacher. They have been allowed the Scale only as a concession to save them from any discrimination vis-a-vis C.T. teachers in promotion or elevation to Selection Grade.

PUNJABI ADABI ACADEMY

***11628. Mian Saifullah Khan :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Government has been giving grant-in-aid to Punjabi Adabi Academy ; if so, the year-wise grant-in-aid given to the said Academy from 1960 upto 31st March, 1968 ;

(b) whether the Punjabi Adabi Academy is a registered body with proper Memorandum and Articles of Association ;

(c) the total number of members of the said Academy ;

(d) whether Government is satisfied with the work being carried out by the Academy for the promotion of Punjabi language ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) (i) Yes.

	Rs.
(ii) 1960-61	25,000
1961-62	25,000
1962-63	25,000
1963-64	50,000
1964-65	50,000
1965-66	47,500
1966-67	12,500
1967-68	No grant has yet been released.

(b) Yes.

(c) There are no general members. The only members are those of the Executive Committee which are thirteen in number.

(d) The work of the Punjabi Adabi Academy in connection with the promotion of Punjabi Language had been satisfactory till recently.

NUMBER OF GIRLS PRIMARY, MIDDLE AND HIGH SCHOOLS IN
GUJRANWALA TOWN AND IN SATELLITE TOWN, GUJRANWALA

*11643. **Malik Muhammad Aslam Khan :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the number of Girls Primary, Middle and High Schools run by Government as well as by private bodies in Gujranwala Town and in Satellite Town, Gujranwala, separately ;

(b) the number of students and teachers in Government Girls High Schools, Gujranwala Town and in Satellite Town, Gujranwala, separately;

(c) whether it is a fact that a Government Girls High School has been started in the Satellite Town, Gujranwala in a rented building

and a building for this School is being constructed at a distance of about 100 yards from the existing Modern Education Girls High School, Satellite Town, Gujranwala, contrary to the policy of the Education Department ;

(d) whether it is a fact that the need for a Girls High School for Gujranwala Town, is keenly felt ;

(e) if answer to (c) and (d) above be in the affirmative, whether Government intend to consider the desirability of starting the proposed Government Girls High School in Gujranwala proper instead of in Satellite Town, Gujranwala ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) ;

(a) Gujranwala Town				Satellite Town, Gujranwala		
	Primary	Middle	High	Primary	Middle	High
Government	—	—	1	—	—	1
Local Bodies	20	2	—	1	—	—
Private aided	—	2	5	1	1	2
(b) Students	2530			150		
Teachers	49			14		

(c) Yes. It is not contrary to the policy of the Education Department.

(d) The need for more schools is felt in almost every town and this applies equally to Gujranwala Town.

(e) No.

DINYAT TEACHERS EMPLOYED IN TRIBAL AREAS AND MERGED AREAS
OF MARDAN AND HAZARA DISTRICTS

***11644. Khan Ajoon Khan Jadoon :** Will the Minister of Education be pleased to state :—

(a) the number of Dinyat teachers employed in tribal areas and merged areas of Mardan and Hazara Districts showing their pay scales

and terms and conditions of service ;

(b) whether it is a fact that Diniyat teachers have not been provided in most of the said Schools ; if so, reasons therefor ?

Minister of Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a)

(i) No. of Diniyat Teachers in Tribal Areas	...	442
(ii) No. of Diniyat Teachers in merged area of District Mardan.	...	1
(iii) No. of Diniyat Teachers in merged area of District Hazara.	...	5
(b) Pay Scale.	Rs. 100-4-140/5-175	

(a) Terms and conditions :—

Diniyat Teachers in whole of the Peshawar Region including Tribel Areas have been allowed the said pay scale with effect from 1-12-1962 on the score of the ceriffiates possessed by them from the Religious Madressas recognised by the Directorate of Education, Peshawar Region, Peshawar, in relaxation of the qualifications laid down by the Government. Untrained teachers get Rs. 90/-p.m fixed.

(b) No.

— —

COMPREHENSIVE SCHOOLS IN THE PROVINCE

***11697. Rais Haji Darya Khan Jalbani :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the number of Comprehensive Schools so far opened in the province alongwith their locale ;

(b) the number of such Schools which were to be opened during the current financial year alongwith the amount earmarked for this purpose ;

(c) the region-wise number of the Schools, out of those mentioned in (b) above, which have been opened so far along with the amount spent on the same ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan): (a) 16 Comprehensive High Schools have so far been opened in the Province at the following places :—

FOR BOYS

Mardan, Kohat, D.I. Khan, Jhang, Gujrat, Multan, Sahiwal, Mirpur Khas, Khanpur, Karachi and Quetta.

FOR GIRLS

Peshawar, Rawalpindi, Sargodha, Lahore and Hyderabad.

(b) No new Comprehensive High School is to be opened during the current financial year.

(c) In view of the (b) above, the question does not arise.

CONSTRUCTION OF HOSTELS GOVERNMENT FOR HIGH SCHOOLS

***11698. Rais Haji Darya Khan Jalbani :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the amount out of that allocated in the 1967-68 Budget for the construction of hostels for Government High Schools in the Province, spent so far ;

(b) the number of hostels which were to be constructed alongwith the region-wise number of hostels so far constructed ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) A sum of Rs. 15.40 lacs was provided for the construction of hostels in Government High Schools in the Province during the current financial year. This amount is likely to be spent in full.

(b) Funds were provided for the construction of 10 hostels. The region-wise break-up is as follows :

Lahore Region	4
Rawalpindi Region	3
Peshawar Region	1
Hyderabad Region	1
Quetta Region	1

REPORT ON STUDENTS' PROBLEMS AND THEIR WELFARE

***11703. Rana Phool Muhammad Khan:** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the date on which the report of the last Commission on students' problems and their welfare was received by the Provincial Government ;

(b) the time by which Government intend to implement the recommendations embodied in the said report ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan): (a) Since the Commission was appointed by the Central Government its report was submitted to that Government.

(b) Its recommendations as accepted by the Central Government will be implemented according to the schedule that may be provided by the Central Government.

ADMISSION IN ARTS AND SCIENCE (MEDICAL AND NON-MEDICAL) COLLEGES

***11719. Rana Phool Muhammad Khan:** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the number of candidates declared successful in Matriculation Examination held by the Boards of Secondary Education, Lahore, Karachi, Hyderabad and Peshawar, separately, during 1966-67 alongwith the total number of seats in Arts and Science (Medical and Non-Medical) Colleges throughout the Province available for their admission ;

(b) whether it is a fact that the present number of Colleges is very small and the candidates, especially those hailing from rural areas, have to face innumerable difficulties in securing admission ; if so, the action Government intend to take to solve the problem ?

(Answer not laid on the Table)

PAY SCALES OF IMAMS AND KHATIBS OR MOSQUES UNDER AUQAF DEPARTMENT

***11720. Rana Phool Muhammad Khan:** Will the Minister for Auqaf be pleased to state the pay scales of Imams and Khatibs of the mosques under the control of Auqaf Department alongwith the total expenditure incurred on the payment of salaries to them during 1966-67 ?

Minister for Auqaf (Mr. Muhammad Ali Khan): Generally the Khatibs/Imams of the Auqaf mosques are getting what they used to get before the mosques were taken over.

Those Khatibs, however, who got training at the Auqaf Department Academy of Islamic Studies, Quetta, in the first two courses, were given the scale of Rs. 250-15-400. Those who got training at Quetta in the third course, were given one of the following scales, depending on merit :—

1. Rs. 250-15-400 first division.
2. Rs. 150-10-250 second division.
3. Rs. 100- 5-150 third division.

The Khatibs who get training in the two years Dawat-o- Irshad Course at the Jamia Islamia, Bahawalpur, are allowed the scale of Rs. 250-15-400.

Those of the Auqaf Imams who successfully complete the Muallim Imam Course from the above Institute. but do not run Maktabs, are given an increase of 25%. Those who run Maktabs are given an additional pay of Rs. 30-40 depending upon the quality of their work in the Maktabs, for which they are trained.

The total expenditure incurred on the payment of their salaries during 1966-67 was Rs. 5,32,302.66.

REPORT ON THE WORKING OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

***11721. Rana Phool Muhammad Khan :** Will the Minister for Education be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that some time ago the West Pakistan Governor had ordered the preparation of a report on the working of private educational institutions in the Province ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, whether the said report has since been prepared ; if so, a copy thereof be placed on the Table of the House ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan): (a) Yes. A committee was set up by the Governor.

(b) No. The report has not been finalised as yet.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

PROVIDING INTERMEDIATE COLLEGE IN VARIOUS COLONIES IN KARACHI

388. Mian Saifullah Khan : Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that there is no Intermediate College in the area comprising the following Colonies of Karachi :—

Gabapat, Mauripur, Baldia Colony, Pathan Colony, Shershah Colony, Mewa Shah, Miran Anaka, Bihar Colony, Agra Taj Colony, a Kiri, Shah Beg Lane, Singhoolance, Chakiwara and SITE ;

(b) whether it is a fact that the population of this area is about four lac;]

(c) whether Government intend to provide an Intermediate College in the said area during the financial year 1968-69 ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes in due course subject to availability of funds.

PROVIDING MORE PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS IN KARACHI

389. Mian Saifullah Khan : Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the number of primary and secondary schools with their locale functioning in each of the following areas of Karachi City :—

Gabapat, Mauripur, Baldia Colony, Pathan Colony, Shershah Colony, Mewa Shah, Miran Anaka, Bihar Colony, Agra Taj Colony, Kalri, Shah Beg Lane, Singhoo Lane, Chakiwara, and SITE ;

(b) the steps Government intend to take for providing more primary and secondary schools in each of the areas mentioned in (a) above?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : (a) The requisite information is contained in Appendix 'A'.*

(c) One Boys Secondary School at Sher Shah Colony and one Girls Lower Secondary School at Mauripur are proposed to be opened during 1968-69.

*Please see Appendix XII at the end.

PRIMARY SCHOOLS

424. Khawaja Muhammad Safdar : Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the number of Primary Schools in the Province in the years 1965-66, 1966-67 and 1967-68 ;

(b) the number of students on rolls in the Primary Schools in the Province in the years, 1965-66, 1966-67 and 1967-68 ;

(c) the number of students on roll in each of the Primary classes in the said School in the years 1965-66, 1966-67 and 1967-68 ;

(d) the number of teachers in the Primary Schools in the Province in the years 1965-66, 1966-67 and 1967-68 ;

(e) the number of Middle Schools in the Province in the years 1965-66, 1966-67 and 1967-68 ;

(f) the number of students on roll in the Middle Schools of the Province in the years 1965-66, 1966-67 and 1967-68 ;

(g) the number of teachers in the Middle Schools in the Province in the years 1965-66, 1966-67 and 1967-68 ;

(h) the number of High Schools in the Province in the years 1955-56, 1956-57, 1965-66, 1966-67 and 1967-68 ;

(i) the number of students on roll in the High Schools in the Province in the years 1955-56, 1956-57, 1965-66, 1966-67 and 1967-68 ;

(j) the number of teachers employed in the High Schools of the Province in the years 1955-56, 1956-57, 1965-66, 1966-67 and 1967-68 ?

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) :

(a)	1965-66	32,930
	1966-67	33,710
	1967-68	34,957

(b)	1965-66		26,36,724
	1966-67		27,38,068
	1967-68		28,73,025
(c)	1965-66	I	8,84,129
		II	5,97,209
		III	4,76,426
		IV	3,93,550
		V	2,85,410
	1966-67	I	8,83,348
		II	6,12,879
		III	5,02,545
		IV	4,23,264
		V	3,16,032
	1967-68	I	9,73,328
		II	6,38,717
		III	5,20,257
		IV	4,11,115
		V	3,29,608
(d)	1965-66		74,920
	1966-67		74,515

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

707

	1967-68	76,871
(e)	1965-66	2,785
	1966-67	2,834
	1967-68	2,710
(f)	1965-66	6,28,830
	1966-67	6,47,521
	1967-68	7,66,048
(g)	1965-66	23,438
	1966-67	26,685
	1967-68	33,524
(h)	1955-56	832
	1956-57	888
	1965-66	1,658
	1966-67	1,673
	1967-68	1,773
(i)	1955-56	4,32,778
	1956-57	4,58,727
	1965-66	8,20,587
	1966-67	7,70,154
	1967-68	8,11,690

(j)	1955-56	15,137
	1956-57	16,494
	1965-66	29,590
	1966-67	24,742
	1967-68	25,765

QUESTIONS OF PRIVILEGE

RE: INCORRECT STATEMENT MADE BY THE MINISTER FOR IRRIGATION AND POWER ABOUT MR. GHULAM KIBRIA, PRESIDENT ELECTRICAL ENGINEERS' ASSOCIATION

Mr. Speaker : We will now take up a Privilege Motion by Malik Muhammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I beg leave of the House to raise a question of privilege of the Assembly on the ground that a breach of the privilege of the Assembly has occurred due to incorrect statement made by Makhdum Hamid-ud-Din, Minister for Irrigation and Power as reported in the Daily "Dawn" of 3rd May, 1968. According to the press report, the Minister stated that the President of the Electrical Engineers Association who made a press statement, criticising the working of Water and Power Development Authority, was a disgruntled officer of the Authority who wanted his services to be extended but was retired. Mr. Ghulam Kibria, President of Electrical Engineers Association has contradicted in a press statement published in the "Pakistan Times" dated 5th May, 1968, that he had never been employed by WAPDA or by another Government or Semi-Government organisation nor had he attained the age of superannuation and there was no question of his retirement. The Chairman, Water and Power Development Authority has deliberately given wrong facts to the Minister concerned, whereby the House has been mis-informed. The incorrect information supplied to the House has caused a breach of the privilege of the Members of the House.

Sir, I could only get one copy of the 'Dawn', and that too, from the Library which is enclosed with the motion.

Sir, Khawaja Muhammad Safdar stated that the main reason of WAPDA's failure, was the employment of unqualified Engineers on their projects. Khawaja Muhammad Safdar quoted a press statement of the President of the Electrical Engineers Association that one-hour electricity break-down caused a loss of rupees one crore to the economy. Khawaja Sahib also quoted the same person as saying that 16,500 power break-downs occurred last year. The Minister informed the House that the President of the Association was a disgruntled officer of WAPDA who wanted his services to be extended but was retired.

Sir, the President of the Association has made a press statement which appeared in Daily 'Nawai Waqat' as well as in 'Pakistan Times'.

Sir, the copy of Daily 'Nawai Waqt' is with me which reads.

۳ مئی ۱۹۶۸ء کے نوائے وقت میں خبر ہے کہ :

”میں واہڈا سے کبھی منسلک نہیں ہوا“

صدر الیکٹریکل انجینئرز ایسوسی ایشن کا اعلان۔ وزیر
آپاشی کے الزامات کی تردید ۔

”پاکستان الیکٹریکل انجینئرز ایسوسی ایشن کے صدر
مسٹر غلام کبریٰ نے صوبائی وزیر آپاشی و برقیات کے
ان الزامات کی تردید کی ہے کہ وہ واہڈا میں اپنی
ملازمت میں توسیع کے خواہاں تھے ۔ لیکن انہیں
ریٹائر کر دیا گیا اور اس بنا پر وہ اتھارٹی کو بدنام
کر رہے ہیں ۔ آپ نے اپنے ایک اخباری بیان میں کہا
ہے کہ وہ کبھی واہڈا یا کسی سرکاری یا غیر سرکاری
ادارے سے منسلک نہیں رہے آپ نے کہا کہ میں
ابھی ریٹائرمنٹ کی عمر کو نہیں پہنچا اس لئے ریٹائرمنٹ
کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ آپ نے کہا کہ
الیکٹریکل انجینئرز ایسوسی ایشن کی رکنیت صرف واہڈا
تک ہی محدود نہیں بلکہ ملک بھر کے الیکٹریکل
انجینئرز اور دوسرے اسی قسم کے افراد کی یہ نمائندہ
جماعت ہے،، ۔

Sir, I would have never brought this privilege motion and would not have raised the motion against him on account of the esteem which I have got in my heart for the Minister. But Sir, there is a question of privilege which is involved here.

Firstly, Sir, the Minister has been mis-informed by a disgruntled officer, I mean to say, the Chairman of Water and Power Development Authority.

مسٹر حمزہ - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب والا - ملک اختر صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کے دل میں جناب وزیر برقیات کی سٹیم یا بہا پ ہے کہیں وہ حیدر آباد کے بائزر کی طرح پھٹ نہ جائے۔

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I was submitting that the information given to my worthy colleague and Minister has been given to him by a disgruntled officer, i.e. the Chairman of WAPDA who must have been perturbed by the criticism of the Association.

Mr. Speaker : The Member should not make personal remarks and should confine his arguments to the breach of the privilege which has occurred.

Malik Muhammad Akhtar : I stand corrected Sir. Sir, the Minister has been made to make a statement in the House which is not correct. Sir, I searched all the records and proceedings ; I also approached the Assembly Secretariat on Saturday but unfortunately the records of the statements of the Minister and Khawaja Sahib was not available and I had to rely on the press reports.

Minister for Irrigation & Power : (Makhduin-Hamid-ud-Din) : Sir, as I have received this motion right at about 8.30 a.m., I submit that this may be deferred for tomorrow or day-after.

Mr. Speaker : We will take up this motion tomorrow.

ADJOURNMENT MOTIONS

GAG ORDER AGAINST DR. NAZIR AHMAD KHAN, PRESIDENT,
P. D. M., D. G. KHAN DISTT. BRANCH

Mr. Speaker : We will now take up adjournment motions ; first motion is No. 10.

Khawaja Muhammad Safdar : I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely the wholly unwarranted and malicious gag order issued against Dr. Nazir Ahmad Khan, President of Pakistan Democratic Movement, D. G. Khan District Branch on the 22nd March, 1968 for a period of three months when he was to address on the same day a public meeting celebrating Pakistan Day.

Minister for Home (Kazi Fazlullah Ubedullah) : Sir, I oppose the motion. My submission in this matter is that Dr. Nazir Ahmed has been making very objectionable speeches and he was actually prosecuted for a speech which he delivered sometime ago and was convicted by the S. D. M., D. G. Khan and he was sentenced to imprisonment for a couple of years. His appeal against his conviction is still pending and he has been bailed out by the High Court. After his release on bail he again delivered a very objectionable speech somewhere on the 12th of January at D. G. Khan and S. D. M., D. G. Khan recommended to the District Magistrate that action should be taken against him with regard to that speech. The District Magistrate of D. G. Khan issued an order prohibiting him from delivering any objectionable speeches of that type in the District of D. G. Khan and that order was issued on the 25th of January.

Actually, Sir, what I have been able to gather from the District Magistrate is that this order was served on Dr. Nazir Ahmed on the 6th of February and a copy of that order was sent to the Home Department. The Home Department in consultation with the Law Department thought that that order had not complied with the requisite formalities and the District Magistrate was directed accordingly and he substituted that order and that was served again on Dr. Nazir Ahmed on the 21st March and not the 22nd of March as my friend has suggested. His contention is that this Dr. Nazir Ahmed was actually proceeding to attend a meeting and address it on the Independence Day which happened to fall on the 23rd and there could not be a meeting on the 22nd. Our submission is that it was not even on the 22nd. It was actually served on him on the 21st of March, long before the meeting in connection with the Independence Day was scheduled to be held.

Mr. Speaker, Sir, this order has been in operation since the 25th of January and actually it has been inoperative on the 24th of April. My friend knows that no fresh orders have been passed on him. This matter is not recent. It is not sufficiently urgent. I wish my friend had suggested to this gentleman not to make speeches of this type and bring trouble to himself. His appeal of conviction is still pending. I submit that the facts do not warrant adjournment of the business of the House in that behalf.

Mr. Speaker : Does the Minister mean to say that this order is no longer in force ?

Minister for Home : It is no longer in force since the 24th of April.

Mr. Speaker : Under what law was the order issued ?

Minister for Home : Under the Maintenance of Public Order Ordinance on the 25th of January and the order had ceased to be operative on the 24th of April.

Mr. Speaker : But the orders were passed under the Maintenance of Public Order Ordinance.

خواجہ محمد صفدر - تو کیا اب یہ حکم اس کے خلاف باقی نہیں ہے ۔

Mr. Speaker : Yes, that is the statement of the Minister.

خواجہ محمد صفدر - جناب والا - مجھے اس بات کا تو علم نہیں ہے کہ یہ حکم جنوری میں جاری ہوا تھا یا کب ہوا تھا لیکن جیسا کہ وزیر موصوف نے ارشاد فرمایا ہے شاید اس کی تعمیل بائیس مارچ کو نہیں بلکہ اکیس مارچ کو کرائی گئی تھی ۔ لیکن اب جیسا کہ جناب وزیر صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ حکم اب اس شخص کے خلاف نافذ نہیں ہے اور اس کو ختم کر دیا گیا ہے تو میں ان کے اس بیان کے پیش نظر اپنی تحریک التوا کو press نہیں کرتا ۔

Mr. Speaker : The motion is not pressed.

FAILURE OF POLICE TO TRACE THE WHEREABOUTS OF
DR. MUHAMMAD IQBAL QURESHI OF SARGODHA

Mr. Speaker : Next No : 11. Khawaja Muhammad Safdar.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and of urgent public importance, namely, the failure of the Sargodha Police in tracing the whereabouts of Dr. Muhammad Iqbal Qureshi of Sargodha who was last seen in the company of two cyclists near Haripur on the 24th February, 1968 has perturbed the minds of the public of the Province.

ABDUCTION OF A MEDICAL PRACTITIONER FROM SARGODHA

Mr. Speaker : There is another motion on the same subject (No : 38) by Malik Muhammad Akhtar. Yes, Malik Sahib.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly for the purpose of discussing a definite matter of recent and urgent public importance, namely, a Medical Practitioner has been abducted from Sargodha in broad day light and the Police has failed to detect the culprits so far. The negligence of the Police has perturbed the minds of the public.

Minister for Home (Kazi Fazlullah Ubedullah) : I oppose the Motions, Sir.

The unfortunate position is that this Dr. Iqbal Qureshi has been kidnapped. This is true. The factual position is that he was taken by a couple of cyclists on the pretext that he has to visit a patient and he went with them and he was seen going with two cyclists. On an enquiry by a friend this Dr. Iqbal informed him that he was actually going with these people to visit a patient. Since then he is not traceable.

My friend's suggestion that the Police has not been able to do anything in that respect is true to this extent that so far we have not been able to trace him and we are not aware whether the man is living or killed. That is true. But the Police has done its very best. Actually the Deputy Superintendent of Police with full staff has been deputed to trace this man. An investigation has been done and enquiries have been made throughout the District and even in the neighbouring districts. The brother of the kidnaped actually sought an interview with the Governor and I contacted the S. P. immediately and I found him very sympathetic. I contacted him again today. The unfortunate position is that the man has not been traced. But it is a blind case and the first report does not mention any names. No enmity has been suggested with anybody. In spite of the best efforts we have not been able to trace him.

Therefore, I think, since we are making our best efforts and we will continue to do so, whether we succeed or not, I think this adjournment motion should not be admitted because it is no fault of the Government or the Police Department.

Mr. Speaker : (Addressing Khawaja Muhammad Safdar) : Only about the negligence of the Police. How is the Police negligent in this matter? Have they failed to register the case or make investigations or do whatever they could.

خواجہ محمد صفدر - جناب والا - پولیس نے مقدمہ درج کرنے میں بھی پہلے تین چار روز تاخیر سے کام لیا ہے ۔

Minister for Home : This is not a fact. It has been registered on the 25th. He was missing on the 24th. He actually was said to have been taken by two people on the 24th and on the 25th it was found that that fellow had not returned and all hope of his coming back was lost. The first report has been registered on the following day.

خواجہ محمد صفدر - جناب والا - اس کے بعد بجائے اس کے کہ ان سے ہمدردی کی جائے پولیس کی تمام تر کوشش یہ رہی ہے کہ اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بلا کر دھمکایا جائے اور مارا پیٹا جائے اور ان ہی سے ڈاکٹر کے متعلق پوچھا جائے - حقیقت یہ ہے کہ پچھلے ماہ جب میں سرگودھا گیا تھا تو وہاں بہت سے شہری مجھ سے ملے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اب پولیس ان کے رشتہ داروں کو محض تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ڈاکٹر موصوف کو تلاش کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی کوشش نہیں کی جا رہی ہے - یہ درست ہے کہ یہ وزیر موصوف کا فرض ہے کہ جو بات میں یہاں بیان کروں وہ اسے غلط بتائیں لیکن یہ میرے بھی فرائض میں شامل ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اطلاع آپ کو دی گئی ہے وہ درست نہیں ہے - اس میں قطعاً کوئی کلام نہیں ہے کہ اس ڈاکٹر کو کسی سازش کے تحت ہی لے جایا گیا ہے کیونکہ اس ڈاکٹر کے گم ہو جانے کے اگلے ہی روز مقامی بینک میں کہ جہاں پر اس کا حساب کھلا ہوا تھا - ایک آدمی گیا اور اس نے بینک والوں سے ایک spare cheque مانگا - انہوں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے دستخط شدہ درخواست لے آئے اس کے بعد اس کو مطلوبہ چیک دے دیا جائے گا - وہ آدمی گیا اور ڈاکٹر صاحب کی دستخط شدہ درخواست لے کر آیا لیکن بینک والوں کو کچھ شبہ ہوا

اور انہوں نے ان کے گھر سے دریافت کروایا کہ جب ڈاکٹر صاحب کے پاس اپنی چیک بک موجود ہے تو وہ کیوں فالٹو چیک مانگ رہے ہیں۔ تو اس طرح وہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب گھر میں موجود ہی نہیں ہیں اور ایک دن سے لاپتہ ہیں۔ دراصل وہ لوگ ڈاکٹر صاحب سے روپیہ اینٹھنا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں سخت خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بھائی گورنر صاحب سے ملے اور پھر اس کے بعد جناب وزیر صاحب سے بھی ملے تھے۔ اس پر ان کو پولیس نے ڈرایا دھمکایا کہ وہ پولیس کو بدنام کر رہے ہیں اور یہ کہ وہ اس سلسلے میں اخباروں میں خبریں چھپواتے ہیں۔ اس طرح پولیس کی بدنامی ہوئی ہے۔ غرضیکہ پولیس کا سارا زور ڈاکٹر صاحب کی تلاش پر صرف نہیں ہو رہا۔ بلکہ ان کی تفتیش اور تلاش کا سارا زور وہ ان کے رشتہ داروں پر صرف کر رہے ہیں۔ اس لیے میری رائے میں پولیس نے اس معاملے میں انتہائی کوتاہی کی ہے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تحریک التوا پر اس ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے۔

Minister of Home : It is absolutely incorrect. The brother has met me, and he met me long after the incident on the directive of the Governor, and he never complained of any maltreatment at the hands of the Police. There was no complaint in this behalf. All that he wanted was that we should try to mobilise more police force and he suggested to. . .

Khawaja Muhammad Safdar : He was not satisfied with your investigation.

Minister of Home : That is true ; of course, he suggested that the Crimes Branch should do it. I consulted the S.P. and he had no objection. I had asked on his application that the Crimes Branch should extend their helping hand. But my friend here has made an allegation that the attention of the police has been directed at the brothers and the relatives of the kidnaped. This is not correct, and no complaint was made by these people in this behalf. On the contrary, the S. P. is doing his best. He has contacted all the Chairmen of the Union Councils, all the prominent B. Ds., and he has been meeting all the prominent people

to give him some clue about that man. Therefore, I am satisfied that the S. P. is doing his best and if we are not able to trace him, that is unfortunate.

Khawaja Muhammad Safdar : That shows your inefficiency.

Minister of Home : God help you.

Malik Muhammad Akhtar : Sir I will not take much time as much has already been said in this august House, but you have been kind enough to put a question whether there has been any negligence on the part of the police. Sir, it is utterly the negligence on the part of the police that a doctor— We used to hear that they kidnap some boys and such sort of persons, but a doctor—has been kidnapped. No suspects have so far been rounded up by the police and no clue of the poor doctor has been so far found by the police. So I beg to submit, Sir, that this is negligence, and utter negligence, on the part of the police. Mere statement of the S. P. concerned that he may be helped by the citizens of the town or any person who knows anything about this abduction does not suffice to show that he is performing his duties diligently.

So I submit, Sir, that this matter be allowed to be discussed in this House so that we may reach a conclusion that the Police was negligent or not.

Mr. Speaker : As has been stated by the Home Minister, the case was registered by the Police, investigations have taken place and further, the investigation is going to be handed over to the Special Branch, and the Government I think has done whatever it could in this matter. No negligence of the Police has been made out. The motion is, therefore, ruled out of order.

ABUSE OF POWERS UNDER THE D. P. R. IN ORDERING FORFEITURE OF
CHATAN PRINTING PRESS.

Mr. Speaker : Next motion No. 17.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely, the flagrant

abuse of power vested in the Provincial Government under D. P. R. as demonstrated by the order of the forfeiture of the Chatan Printing Press as notified on the 25th April, 1968, by the Provincial Government. This order of the forfeiture of the Chatan Printing Press has sent a wave of resentment among the public of the province.

Minister of Home : I oppose this motion Sir.

مسٹر سپیکر - میرا خیال ہے کہ اس کے متعلق دو تین تحریکات التوا
ہیں - ایک چٹان پرنٹنگ پریس کی ضبطی اور دوسرا -
cancellation of declaration of weekly Chatan
ration of weekly Chatan کے متعلق ہے -

Khawaja Muhammad Safdar : They are all separate orders by three notifications. Three orders were issued by the Provincial Government ; one, forfeiture of Chatan Printing Press, two, cancellation of the Chatan Declaration, and, and three, the forfeiture of the copies in which objectionable material was written.

Minister of Home : They are all allied matters.

FORFEITURE OF THE CHATAN PRINTING PRESS UNDER THE DEFENCE OF
PAKISTAN RULES.

Mr. Speaker : Adj. Motion No. 27 is also on the same subject. We will take up adjournment motions No. 17 and 27 together. Yes Malik Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Sir I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely, the West Pakistan Government on 25th April 1968 ordered the forfeiture of the Chatan Printing Press under the Defence of Pakistan Rules. The news has perturbed the mind of the public of West Pakistan.

Minister of Home : My respectful submission is that all the adjournment motions in this behalf are allied matters ; the forfeiture of the press; the forfeiture of the issue and the forfeiture of the Declaration ; they might be discussed together.

Malik Muhammad Akhtar They cannot be taken together.

Mr. Speaker : We will take 17 and 27 together.

Minister of Home : (Kazi Fazlullah Ubaidullah) : I am opposing it Sir. My respectful submission in this behalf is that Mr. Shorish Kashmiri has unfortunately invited this trouble on his head. He has been indulging in sectarian activities since the last five years. Actually he came . . .

Mr. Speaker : Is the Minister giving the facts of this case ? I think while discussing the admissibility of the adjournment motion, the facts should be given only when they are denied. Otherwise, so far as giving facts of adjournment motion simply to justify the action of the Government are concerned, the proper time for this is when the motion is admitted on the floor of the House.

Khawaja Muhammad Safdar : He can state any legal objection at this stage.

Minister of Home : I don't deny that the order has been issued by the Government on 25th of April forfeiting the Chatan Press. There is no denying about that, but then I am stating the background to show that Mr. Shorish Kashmiri invited this trouble on his head, and the Government was compelled to take action in that respect. Sir, I think I would be allowed to state that.

Mr. Speaker : If the Minister so likes.

Minister of Home : I am submitting, Sir, that actually Mr. Shorish Kashmiri came to notice in 1963 when he started sectarian trouble so far as "Devbandis" and "Brelavis" were concerned, and he was prohibited from doing that, for a certain period. After the expiry of that period, he started indulging again in such activities, and directed his activity mostly against 'Mirzais' particularly. Sir, the Government of West Pakistan, and every Government, which is devoted to the maintenance of law and order, and also devoted to the maintenance of communal and sectarian harmony, should take stern action against those who indulged in activities of this type. Therefore, in 1967, orders were passed prohibiting Mr. Shorish Kashmiri from writing anything in his paper against the 'Mirzais'. This was the cause. He went to Chiniot and delivered a most violent speech against the views of Mirzai Sect and that naturally created reaction. 'Alfazal' and another paper 'The Lahore' which is issued from Lahore, these papers belong to Mirzais, retaliated and a controversy started. Therefore, Government had to intervene and had to pass an order prohibiting him from writing anything against the beliefs, prophecies

and origin of any sect. This order was issued in September and after a couple of months on the expiry of that order, Mr. Shorish Kashmiri again started indulging in the same activities and many other paper also took cue. Then, on 30th of March, 1968, government passed an order saying that no sectarian writings should be allowed and this notice was served on all the papers, periodicals and monthlies including the "Chattan". This notice was served on Mr. Shorish Kashmiri that no writing of this type should be printed and published unless it was subjected to pre-censorship by the Government in the Press Cell. This notice was served on him on the 1st of April and inspite of that Mr. Shorish Kashmiri in his 'Chattan', dated the 22nd of April, published an article of a provocative type against the Ahmedis which occasioned this order because this article was absolutely in defiance and in contravention of the order of the Government, which was served on him on the 1st of April. Therefore, Government had no option but to take this action. It is unfortunate that this action had to be taken but, as I have submitted, Mr. Shorish Kashmiri persisted in such writings. I do not know why he did it. He has been doing it for the last five years some time against the Devbandis, some time against the Brelavis, some time against the Ahmedis and some time against some other sect. That is why the Government has been forced to take this action.

Mr. Speaker : Has this action been taken under the Press & Publications Ordinance or under some other law ?

Minister for Home : Under the Defence of Pakistan Rules. With your permission, Sir, I will read out the order that was initially served on him. This was served on the 1st of April.

"The Governor of West Pakistan is pleased to prohibit you, the——Editor, Printer, Publisher of the daily/periodical"

I mean to say that this order is meant for all.

" from publishing any matter casting reflection on the origin, prophecies, revelation or beliefs of any sect of Islam or which may create or excite feelings, enmity ill-will and hatred between the different sects of Islam and to direct the said Editor to submit to the Director, Press Cell, Government of West Pakistan, Lahore, and the Director Information of your region for his scrutiny any

matter intended to be published in the said daily touching on the origin, prophecies, revelations or beliefs of any sect of Islam by way of views, comments or in any other form whatsoever before the said matter is published in the said daily."

As you will observe, this is a very comprehensive order and in defiance of that Mr. Shorish Kashmiri in his paper entitled "Chattan", dated the 22nd April wrote an article with the caption "Alhamdulillah" and in that article he attacked the origin, the prophecies, the revelations and the views of the Mirzai sect and it was on that account that this order had to be passed and it was passed on the 25th April. As I have submitted, Sir, this has been done in due course of law and since this fellow has invited the trouble on his head he is to be blamed for it and the Government had no option but to pass the order.

خواجہ محمد صفدر (سیالکوٹ-۱) - جناب سپیکر - میرے محترم دوست وزیر داخلہ نے میری تحریک التوا کے سلسلہ میں ایک اعتراض اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عام قانون کے تحت احکام جاری کئے گئے ہیں۔ اس لئے اسے زیر بحث نہیں آنا چاہئے۔ وہ میرے بزرگ ہیں نہایت ہی قابل وکیل ہیں اور پرانے پارلیمنٹریں ہیں۔ لیکن انہیں غالباً معلوم نہیں کہ in due course of Law کا کیا مطلب ہے۔ دراصل تقریر کے جوش میں وہ فرما گئے ہیں یا اس تحریک کے خلاف انہیں کوئی اور اعتراض مہیا نہیں ہو سکا۔ انہوں نے یہی اعتراض پیش کر دیا ہے۔ حالانکہ in due course of Law کے اعتراض کو Maintenance of Public Order Ordinance یا ڈی پی آر یا کسی دوسرے preventive قانون کے حکومت کے اقدامات پر وارد نہیں ہوتا اور اس سے Cr. P.C. یا P.P.C. کے تحت حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات مراد ہیں۔ یہاں تک ان کی لمبی رام کہانی کا تعلق ہے جس کا ذکر انہوں نے یہاں کیا ہے کہ سال ۱۹۶۳ء سے آغا شورش کشمیری مختلف فرقوں میں منافرت پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ کبھی وہ بریلوی، دیوبندی کا قصہ چھیڑ دیتے ہیں کبھی مرزائیت کا۔ میں پوچھتا ہوں کہ

۱۹۶۳ء میں ان کے خلاف یہ اقدامات کیوں نہیں کئے گئے - ۱۹۶۴ء میں یہ اقدامات کیوں نہیں کئے گئے - ۱۹۶۵ء میں کیوں نہ کئے - ۱۹۶۶ء اور ۱۹۶۷ء میں یہ اقدامات کیوں نہ کئے گئے اور اب ۱۹۶۸ء میں کونسے ایسے حالات تھے جن کے تحت یہ اقدامات کرنا پڑے - ۵ سال تو کچھ نہ کیا اور آج ۱۹۶۸ء میں اپریل کی ۲۵ تاریخ کو آپ مجبور ہو گئے - آخر وہ کونسے حالات تھے جن کی وجہ سے یہ اقدامات کئے گئے -

رانا پھول محمد خان - برائی کو روکنے کے لئے اقدامات کرنے ہی پڑتے ہیں -

خواجہ محمد صفدر - دراصل میں نے اس مضمون کو نہیں پڑھا - اس لئے کوئی رائے نہیں دے سکتا - اگر وہ پڑھ کر سنا دیں تو پھر ہم کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں - اس وقت میں لاعلم ہوں کچھ نہیں کہہ سکتا - دراصل کسی نہ کسی بہانے سے حکومت قومی پریس کے اس حصہ کو جو حکومت کی ہاں میں ہاں ملانے کو تیار نہیں مختلف طریقوں سے دبانا چاہتی ہے - کبھی پریس ٹرسٹ کے ذریعہ سے کبھی پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس کے ذریعہ سے کبھی ڈی پی آر کے تحت کبھی ترغیب و تحریم کے ذریعہ کبھی دھونس اور کبھی دھاندلی سے دبائے کی کوشش کی گئی - یا اپنے ساتھ ملا لیا گیا - ایک آدھ اخبار آزاد تھا اور حکومت اس کے پیچھے بڑی رہی - اس لئے میں قطعاً مانتے کو تیار نہیں ہوں کہ آغا شورش کشمیری نے کوئی ایسا مضمون لکھا ہو جو دو فرقوں کی دل آزاری کا باعث بنا ہو - یہ محض بہانہ ہے اور ڈی پی آر کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے - میں نہیں سمجھتا کہ ڈی پی آر کی اب کیا ضرورت ہے - جب کہ کئی سال گزر گئے ہیں

ہمارا ہندوستان سے بھائی چارہ ہو چکا ہے ۔ اس قسم کے مسز اندرا گاندھی اور ہمارے سفیر مقیم دہلی نے کئی بیانات بھی دیئے ہیں ۔ میں حیران ہوں کہ پھر بھی ڈی بی آر کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے ۔

Minister of Home : Sir, this is irrelevant.

Khawaja Muhammad Safdar : This is most relevant, Sir,

تین سال سے ہمارے بھارت کے ساتھ دوستانہ مراسم ہیں ۔ ہم ایک معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہمارے جتنے مسائل ماہہ النزاع ہوں ہم ان کو صالح صفائی اور بات چیت سے طے کر لیں گے ۔ آپ بتائیں کہ پھر اس ڈی بی آر کے قائم رہنے کی کیا justification ہے ۔ اس کے بعد ڈی بی آر کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کیا flagrant abuse نہیں محترم وزیر صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات irrelevant ہے ۔ جب کہ ڈی بی آر کو عوام پر مسلط کر کے ان کے جائز حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے ۔

Minister for Labour (Malik Allah Yar Khan): Point of order. Sir, may I know whether D. P. R. is the subject matter of the adjournment motion ?

Khawaja Muhammad Safdar : Yes, it is.

Minister for Labour : Sir, I humbly submit that the subject matter of the adjournment motion is the forfeiture of the Paper 'Chatan' under the D. P. R.

Mr. Speaker : Yes, it is under the D. P. R.

Minister for Labour : Sir, only the action taken by the Government could be discussed and not the law under which this action has been taken.

Khawaja Muhammad Safdar : Ruling has already been given,

جناب والا آپ نے بڑی اچھی بات کہی لیکن محترم وزیر داخلہ سمجھے نہیں -

Minister for Finance : Will you please allow Mr. Speaker to say something ; he was going to say something when you interrupted him.

Khawaja Muhammad Safdar : Mr. Speaker has already given his ruling.

Minister for Finance : You did not let him say.

Khawaja Muhammad Safdar : I heard him saying that.

Mr. Speaker : The position is that Kazi Fazlullah Ubedullah the Home Minister, was to oppose this motion and I had made it clear that the facts of the particular adjournment motion can only be brought in when these facts are to be denied. If the Government wants to deny these facts and say that particular adjournment motion is not based on facts, then on that ground, the objection can be taken and the facts can be given. But after that the Home Minister liked to give facts and I allowed him as he desired. Now Khawaja Muhammad Safdar is answering to the objections raised by the Minister for Home and I think he can refer to the D. P. R. because the action has been taken under the D.P.R. and I had particularly enquired from the Minister about that and he informed me that the action was taken under the D. P. R. Therefore, Khawaja Muhammad Safdar can refer to D. P. R.

Khawaja Muhammad Safdar : Thank you very much Sir.

میں نے جناب اس میں لکھا ہی یہی ہے -

“flagrant abuse of power vested in Provincial Government under D. P. R.”

جناب والا - میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ محض بہانہ ہے جو کچھ ہمیں پڑھ کر سنایا گیا ہے ”یہ اس سلسلے میں تھا اور اس سلسلہ میں تھا اور انہوں نے یہ لکھا تھا اور یہ نہیں لکھا تھا۔“ میں یہ عرض کروں گا کہ جو قانونی قدم اٹھایا گیا ہے وہ درست نہیں تھا بلکہ حد درجہ مضحکہ خیز ہے غلط ہے اور بے بنیاد ہے اس لیے ہمیں اجازت دی جائے

کہ ہم ایوان سے اجازت لے کر اس پر بحث کریں -

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I would like to answer to the phrase 'ordinary administration of law' as used by the Minister. Sir, an order has been passed under their No. 3144/Spe./3rd/67/4 dated 25-4-68 by the Provincial Government under D. P. R. In the said order, the section quoted is 52(2) of D. P. R. which reads :

"52(2) If any person contravenes any order made under sub-rule (1) then, without prejudice to any other proceedings which may be taken against such persons, the Central Government may declare to be forfeited to it every copy of any document published or made in contravention of such order and any press, as defined in the Press and Publications Ordinance, 1960, used in the making of such document."

Sir, 52(1) reads :

"52(1) The Central Government may, for the purpose of ensuring the security, the public safety or the defence of Pakistan, or for securing the maintenance of public order or the efficient prosecution of war, by order addressed to printer, publisher or editor, or to printers, publishers and editors generally.—"

Sir, it is clear, as far as this order and the relevant provisions of Rule 52(2) of D. P. R. are concerned that the order has been taken under a preventive law and not under 'ordinary administration of law'.

Sir, the Central Government had never such intention to take such crastic measures on flimsy grounds as have been taken in the case of this Press. It only provides for the forfeiture of publication and declaration and also of press only if the matter goes to the extreme. Now Sir, since, unfortunately, I do not have the exact wording of what has been published, I will just refer to it...

Mr. Speaker : The Member need not refer to it.

Malik Muhammad Akhtar : Alright Sir.

Mr. Speaker : The Member has already replied to the objections raised that the action has not been taken under the ordinary administration of law. Now he need not read anything else.

Malik Muhammad Akhtar : I do not read that. What I mean to say is that the Government has been pleased to make such drastic action of forfeiture of Press and I consider, after having seen 110 years of Press after 1857, that only 4 or 5 examples are there. Of course, we find one example of Mohammad Baqir who was shot dead in 1857. After that, as I submitted, there have been only 4 or 5 instances of forfeiture. Of these, 2 privilege motions are given to the Government regarding forfeiting Chattan and Ittefaq Printing Press of Dacca. Sir, I am sure, they have exercised such powers which the Central Government would never have. Sir, this is the extreme, and I beg to be excused if I say that this is a political action, an action to gag and frighten and finish the liberty of the Press.

Mr. Speaker : I reserve my ruling.

ABUSE OF POWERS UNDER THE D.P.R. IN CANCELLING THE DECLARATION
OF THE WEEKLY 'CHATAN' LAHORE.

Mr. Speaker : Next motion No. 18.

Mr. Hanza : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and of urgent public importance, namely, the flagrant abuse of power by the West Pakistan Government in cancelling the declaration of the Weekly 'Chatan' Lahore, under D. P. R. on 25th April, 1968, which has shocked the general public all over the Province.

ORDER OF THE PROV. GOVT. CANCELLING THE DECLARATION OF THE
WEEKLY 'CHATAN' LAHORE.

Mr. Speaker : Motion No. 22 is also on the same subject. Yes Khawaja Sahib.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely, the wholly uncalled for and malicious order of the Provincial Government cancelling the declaration of the Chatan, Weekly, Lahore, issued on the 25th April, 1968, under the D. P. R. This order of the Provincial Government has caused grave resentment in the minds of the public of the Province.

CANCELLATION OF THE DECLARATION OF THE WEEKLY 'CHATAN' UNDER THE DEFENCE OF PAKISTAN RULES.

Mr. Speaker : No. 25 by Malik Muhammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely, the West Pakistan Government has cancelled the declaration of the Weekly Chattan under Defence of Pakistan Rules. The news has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Minister of Home (Kazi Fazlullah Obaidullah) : Sir, I oppose these motions.

CANCELLATION OF THE DECLARATION OF 'CHATAN' AND FORFEITURE OF CHATAN PRESS.

منسٹر سپیکر - حاجی صاحب آپ کی تحریک التوا نمبر ۱۱۸ ہے۔
آپ نمبر ۱۱۸ کی تحریک کیجئے۔

حاجی سردار عطا محمد - میں تحریک التوا پیش کرتا ہوں کہ ایک اہم اور فوری غور طلب مسئلہ زیر بحث لانے کے لئے اسمبلی کی کارروائی ملتوی کی جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہفتہ وار 'ورچٹان' کا ڈیکاریشن منسوخ اور ان کا پریس ضبط کر کے حکومت مغربی پاکستان نے

آغا شورش کشمیری کو کمزور کرنے کا غلط ہتھیار استعمال کیا ہے۔ یہ ایک یکطرفہ کارروائی ہے اور مغربی پاکستان کے تمام پریس صحافیوں کو پریشان کرنے کے سوا کچھ نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ بہر حال پورے صوبہ میں ایسی کارروائی سے ہیجان پایا جاتا ہے۔

Minister for Home : I oppose the adjournment motions as I have submitted earlier.

حاجی سردار عطا محمد - پوئنٹ آف آرڈر - جناب سپیکر - مجھے تو انگریزی سمجھ نہیں آتی قاضی صاحب اگر دوسری دفعہ تکلیف کریں تو بہتر ہو گا۔ میں مشکور ہوں گا اگر وہ اردو میں تقریر کریں۔

وزیر داخلہ (قاضی فضل اللہ عبید اللہ) - مسٹر سپیکر - میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چٹان پریس کے forfeiture کے متعلق جو تعاریف التوا تھیں ان پر بحث کرتے ہوئے میں نے گزارش کی تھی کہ یہ کارروائی جو کی گئی ہے وہ ضروری سمجھی گئی کیونکہ شورش کشمیری صاحب نے اپنے پریس میں فرقہ وارانہ معاملات کے متعلق لکھا جو گورنمنٹ کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ گورنمنٹ کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ ملک میں فرقہ وارانہ معاملات میں کشیدگی نہیں ہونی چاہیے اور کہ پریس یا اس قسم کے اخبارات چاہے وہ monthly, weekly ہوں اس قسم کی چیزیں نہ لکھیں جن سے منافرت پیدا ہو اور مختلف فرقوں میں کشیدگی بڑھے۔ اب جہاں تک ڈی پی آر کا تعلق ہے میں عرض کروں گا اور ادب سے عرض کروں گا کہ وہ ہیں۔ انہیں ہونا چاہئے یا نہیں ہونا چاہئے وہ سٹیچوٹ پر ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہٹا لئے جائیں کیونکہ یہ سنٹرل لا ہے۔ وہاں یہ معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے مگر یہاں یہ چیز زیر بحث نہیں لائی جا سکتی۔ ہمیں سنٹرل گورنمنٹ سے powers اسی ڈی پی آر کے

متعلق تفویض کی گئی ہیں اور ہم قدم اٹھا سکتے ہیں اگر ہم ضروری محسوس کریں ویسے میرے دل میں اپنے بھائیوں کے لئے بہت عزت ہے وہ فرماتے ہیں کہ flimsy pretext پر یہ کارروائی کی گئی ہے یعنی بہانے کے طور پر - بہانہ بنایا گیا لیکن ہمیں بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں - حکومت اس معاملے میں بڑا serious view لیتی ہے اگر فرقہ وارانہ منافرت پیدا ہو جائے - وہ چاہتی ہے کہ فرقہ وارانہ منافرت پیدا نہ ہو۔ اس لئے ہم نے بارہا کوشش کی اور شورش کشمیری کو سمجھانے کی کوشش کی - ۱۹۶۳ء، ۱۹۶۷ء اور ۱۹۶۸ء میں بھی کوشش کی - اب ان پر ایک نوٹس serve کیا ہے اور یہ بہانے کا سوال نہیں ہے - مجھے تعجب ہے کہ میرے بھائیوں نے وہ آرٹیکل پڑھا بھی نہیں -

مسٹر حمزہ - آپ پڑھ کر سنا دیں -

Minister for Home: I am not going to repeat what we consider objectionable on the floor of this House.

میں ادب سے عرض کرتا ہوں کہ کئی دوستوں نے جنہوں نے تحاریک التوا پیش کی ہیں ابھی تک انہوں نے آرٹیکل نہیں پڑھے لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ہم ان کو غلط اور قابل اعتراض سمجھتے ہیں۔ اور گورنمنٹ نے جو قدم اٹھایا ہے اسی خیال سے اٹھایا ہے اب میرے بھائی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ آپوزیشن کا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں۔ اس لئے اور اس وجہ سے پریس کو ضبط کیا گیا ہے۔ اور ڈیکلریشن بھی منسوخ کی گئی ہے۔ میں ادب سے عرض کرتا ہوں کہ یہ خیال غلط ہے۔ اگر گورنمنٹ کو آپوزیشن کے کسی پرچے کو اس خیال سے بند کرنے کا خیال تھا تو جیسا کہ آپ فرماتے ہیں اور جیسا کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں سن ۱۹۶۳ سے پہلے کیوں نہ کیا۔ پہلے ہم نے سن ۱۹۶۳ میں قدم اٹھایا - اگر یہ خیال تھا کہ مختلف پرچے بند کر لے ہیں تو سن ۱۹۶۳-۱۹۶۴-۱۹۶۵ میں کر سکتے تھے۔

ہم نے ایک پیپر کے پرنٹر پبلشر پر نوٹس serve کر دیا ہے کہ شورش کشمیری گورنمنٹ کو defy کرنا چاہتے ہیں اور قابل اعتراض آرٹیکل چھاپتے ہیں تو اس لئے ہم حق بجانب تھے کہ ان کا ڈیکاریشن منسوخ کر دیں -

Mr. Speaker : I think the main objection is the same as in the previous motions.

مسٹر حمزہ - میں ان کے جواب میں اپنے معروضات پیش کروں گا -

Minister for Home : Yes.

مسٹر حمزہ - کیا وہ ختم کر چکے ہیں ؟

مسٹر سپیکر - جی ہاں -

مسٹر حمزہ (لاہور-۶) - جناب وزیر داخلہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب شورش کشمیری ایڈیٹر "چٹان" کافی عرصہ سے مختلف فرقوں میں مسافرت پھیلانے کا جرم کرتے رہے ہیں - جناب وزیر داخلہ کو علم ہے کہ حکومت کے پاس پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کے تحت اس قسم کی کارروائیوں کو روکنے کے لئے بہت وسیع اختیارات ہیں - ڈی پی آر کے تحت ہمارے نقطہ نظر کے مطابق حکومت نے حزب اختلاف کے ایک سرکردہ لیڈر کو جنکو پبلک میں انتہائی عقیدت اور محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان کے پریس کو ضبط کرنے یا اس کے ڈیکاریشن کو منسوخ کرنے کی جو جسارت کی ہے یہ ایک گھٹیا حربہ ہے جو حکومت نے استعمال کیا ہے - آج سے چند دن پہلے گورنر مغربی پاکستان نے فرمایا تھا کہ ڈی پی آر کو ملک کی سالمیت کی حفاظت کے لئے استعمال کریں گے جیسا کہ جب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ ہوئی اس وقت ان کو استعمال کیا جانا رہا لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ حکومت پریس کی آزادی کو اور حزب اختلاف کو ختم کرنے کے لئے انہیں استعمال کیا ہے اور کر رہی ہے آپ کو یہ

علم ہوگا کہ ۲۱ اپریل کو یونیورسٹی ہال میں یوم اقبال کا جلسہ ہوا تھا۔ جلسہ میں گورنمنٹ کی طرف سے گزٹ کا انتظام کیا گیا۔ بہت ناخوشگوار باتیں سنیں۔ ایک جانب حکومت کہتی ہے کہ وہ غنڈہ گردی کو ختم کرنا چاہتی ہے..... (قطع کلامی)

Mr. Speaker : The Member is not relevant there.

مسٹر حمزہ - جناب سپیکر - عرض یہ ہے آپ بھی تسلیم کریں گے کہ جناب وزیر داخلہ صاحب نے اس ابوان کو اعتماد میں لینے کی جسارت نہیں کی۔ اگر انہیں اس عبارت پر اعتراض تھا کہ اس سے فرقہ وارانہ منافرت پھیلتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جرم ۱۹۶۳ء سے سر زد ہوتا رہا ہے۔ آخر کار ۱۹۶۸ء میں اس قسم کے غیر دانشمندانہ ڈکٹیٹرانڈ اور گھٹیا ترین اقدامات کیوں کئے گئے۔ انہیں چاہیے کہ قابل اعتراض حصہ کو پڑھ کر سنائیں تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ آیا وہ اس اقدام میں حق بجانب تھے یا نہیں۔

Mr. Speaker : I reserve my ruling.

مسٹر حمزہ - ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے ڈیفنس آف پاکستان روز کے پردے میں شکار کیا ہے۔ اور سابقہ ڈکٹیٹروں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے انہوں نے عبرت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔

Mr. Speaker : Next motion please Mr. Hamza.

Minister of Information (Syed Ahmed Saeed Kirmani) : Sir, if you allow me a few minutes because he said certain things.

Khawaja Muhammad Safdar : How is the Finance Minister relevant Sir ?

Mr. Speaker : Being the Minister for Information.

Khawaja Muhammad Saffdar : It is not a general discussion.

Mr. Speaker : This is not a general discussion but I allow him.

وزیر اطلاعات (مسٹر احمد سعید کرمانی) - حضور والا - میرا ارادہ اس بحث میں حصہ لینے کا قطعاً نہ تھا - لیکن میرے ایک فاضل دوست نے نہ معلوم کن وجوہات کی بنا پر کچھ ایسی باتیں کہہ دی ہیں جن کا اس معزز ایوان میں جواب دینا اشد ضروری ہے تاکہ ریکارڈ صحیح ہو جائے - یہ ایک سفید جھوٹ ہے - اور اس سے بڑا جھوٹ کم از کم میری زندگی میں نہیں بولا گیا کہ یوم اقبال کے موقع پر حکومت کی جانب سے گڑ بڑ کرائی گئی - اس سے بڑا جھوٹ میں نے آج تک نہیں سنا - حضور والا - اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف ریکارڈ درست کرنے کی خاطر تاکہ عوام میں ایک شلٹ ناثر نہ رہے - (قطع کلامی)

Minister of Information : X X X X X X X*

مسٹر حمزہ - مجھے اس کی پروا نہیں - میں اس قسم کی دھمکیاں برداشت نہیں کروں گا - (شور)

Mr. Speaker : Mr. Hamza, no cross-talk.

خواجہ محمد صفدر - انہوں نے دھمکی دی ہے انہیں کہا جائے کہ وہ اپنے الفاظ واپس لیں - (شور)

Mr. Speaker : Order, order. There should be no cross-talk.

Khawaja Muhammad Saffdar : I must insist Sir he should withdraw it.

Mr. Speaker : No cross-talk please. (interruptions)

These words are expunged from the proceedings of the Assembly.

Khawaja Muhammad Saffdar : He must withdraw Sir.

*Expunged as ordered by the Speaker.

وزیر اطلاعات - جناب والا - میں نہایت ادب کے ساتھ اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اور اس غرض سے کہ اسمبلی کا...

Khawaja Muhammad Safdar : By issuing threats.

Minister of Information : Mr. Safdar, you are not a boy ; you have great Parliamentary experience.

Mr. Speaker : It is again a cross-talk. No cross-talk please.

Minister of Information . Sir, he is interrupting.

Mr. Speaker : There should be no interruption please.

Minister of Information : We show him greatest respect and regard. We listen to all that he says. But we listen with patience. I think he is quite old and quite experienced in the parliamentary affairs and he should atleast observe restraint and should not injure the dignity of the House.

حضور والا - میں عرض کر رہا تھا کہ میرے عزیز بھائی نے جوش خطابت میں کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں یوم اقبال کے موقع پر غنڈہ گردی کن لوگوں نے کی - یہ پولیس کا کام ہے کہ اس کی تفتیش کرے - لیکن واقعات میرے ذاتی علم میں ہیں ان کی بنا پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کچھ لوگ اس بات کے خلاف تھے کہ یوم اقبال کی مقدس تقریب پر ایک ایسا شخص سٹیج میکروٹری کے فرائض سرانجام دے جس نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی - جس نے قائد اعظم علیہ الرحمہ کو گندی گالی دی تھی جس نے بیگم لیاقت علی خان کی کھلے بندوں تذلیل و تضحیک کی تھی - جن نے صوبہ پنجاب کے ایک زمانہ کے نامور وزیر اعظم سر سکندر حیات کے خاندان کے افراد پر گندی گالیوں کی بوچھاڑ کی تھی - ایسا شخص جس نے پنجاب کے چیف منسٹر میاں ممتاز محمد خان دولتانہ کے ذاتی معاملات کے بارہ میں اخبارات میں گند اچھالا تھا - میاں ممتاز دولتانہ ایسا شخص جس نے متحدہ پنجاب

بلکہ متحدہ ہندوستان کے ایک نامور صحافی اور نامور سپوت مرحوم مولانا ظفر علی خان کے خلاف نازیبا کلمات تحریر کئے۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنے weekly میں مولانا محمد علی جوہر، جو مسلمانوں کے عظیم قائد اور مسلمانوں کا عظیم محسن تھا کی ذات کے متعلق ناسناب کلمات تحریر کئے تھے۔ ایک ایسا شخص جس نے مولانا غلام غوث ہزاروی جیسے نیک دل اور شریف طبع انسان کے متعلق غلیظ باتیں کہی تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ایسے شخص کو جو کسی لحاظ سے بھی جرنلسٹ نہیں ہے ایسا شخص جو کسی لحاظ سے بھی پاکستان کا بھی خواہ اور خیرخواہ نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک ایسا شخص جس نے تمام عمر اقبال کے فکری تضحیک کی اور اس کی تذلیل کی اور اس کا مذاق اڑایا۔ ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں پراسن طور پر درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو سٹیج سیکرٹری کے فرائض سے علیحدہ کر دیا جائے ایک۔۔۔۔

مسٹر حمزہ - وہ آپ سے مشورہ کر کے گئے تھے۔

Minister of Information : I have sympathy for you and pray for you; that is all. (*interruptions*)

Mr. Speaker : Order please. No interruptions.

وزیر اطلاعات - تو حضور والا - وہ ایک شریفانہ اور خاموش اور ایک مودبانہ احتجاج کرنا چاہتے تھے لیکن ہوا کیا - وہاں انہی بزرگ نے جس کا ابھی تذکرہ ہو رہا تھا - میری مراد شورش کشمیری سے ہے اور اس کے حواریوں نے بے گناہ اور معصوم سامعین پر کرسیاں برسائیں جس سے بہت سے لوگ مجروح ہوئے - حضور والا - میں یہ عرض کئے دیتا ہوں کہ اگر حکومت نے یہ کام کرنا ہوتا تو حکومت کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ جلسہ کو سرے سے منعقد ہی نہ ہونے دیتی - لیکن

حکومت تو شہری آزادی کی خواہاں ہے۔ حکومت تو آزادی خیال کی حمایت کرتی ہے۔ وہ لوگ جو آج کہتے ہیں کہ چٹان ایک اخبار تھا یا ایک رسالہ تھا وہ جرنلزم کی تحریف سے ناواقف ہیں۔ شورش کشمیری اور سب کچھ ہوگا مگر نہ وہ اخبار نویس ہے اور نہ وہ سیاسی کارکن۔ دشنام طرازی۔ گالی گلوچ۔ بد اخلاقی کا بہترین مظاہرہ کرنا اس کے خون میں رسا بچا ہوا ہے۔

خواجہ محمد صفدر۔ جناب سپیکر۔ یہ اس شخص پر الزامات لگا رہے ہیں جو اس ایوان میں موجود نہیں ہے۔ شاید یہ ان ہی کو زیب دیتا ہو۔ وزیر اطلاعات۔ آپ جو ہیں۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ جناب والا۔ مسلمانوں کا کسی ایک محسن، ایک مدبر، ایک بھبی خواہ، ایک خیر خواہ کا نام لیں جو اس کی غلیظ گالیوں کی زد میں نہ آیا ہو۔ جناب والا۔ میں آپ کے وسیلہ سے ان دوستوں سے نہایت ادب کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شورش کشمیری واقعی ایک اخبار نویس ہے کہ آپ پچھلے ایک سو سال کی تاریخ کا جائزہ لیں اور آپ ایک اخبار کا نام نہیں لے سکیں گے جس نے بیس سال متواتر اپنے اخبار کے صفحات میں سوائے گالی چھاپنے کے اور کچھ نہ لکھا ہو۔

(interruption by Mr. Hamza)

Minister of Information : Mr. Hamza I can take up cudgles with you separately. I am strong enough. Please don't interrupt. I beg of you in the name of.....

(interruption from Mr. Hamza)

Mr. Speaker : No interruption. Mr. Hamza may please take his seat.

(interruptions)

Minister of Information : I beg of you in the name of decency ; I beg of you in the name of the Rules of Procedure ; I beg of you in the name of humanity ; I beg of you

Mr. Hamza : In the name of D. P. R. (*laughter*)

Minister of Information : I beg of you in the name of dignity of the House not to interrupt as I am to make a very important statement.

جناب والا - میں نہایت ادب کے ساتھ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے سو سال سے آپ متحدہ ہندوستان یا بھارت اور پاکستان کے ممالک میں سے ایک مثال بھی کسی ایسے اخبار کی پوش نہیں کر سکتے جس نے ۲۰ سال متواتر سوائے گند کے - گالی گلوچ کے - بدتمیزی کے اور بداخلاقی کے ، اگر آپ اجازت دیں تو ، تحریری غنڈہ گردی کے اور کوئی کام کیا ہو - لیکن یہ واحد اخبار ہے یا رسالہ یا ہفتہ وار ہے جس کو اس ملک میں تحریری غنڈہ گردی کا بانی قرار دیا جا سکتا ہے - آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی زبان کتنی غلیظ اور گندی ہے - یہی وجہ تھی کہ ۱۹۵۲ء میں جب ہمارے لیڈر آف دی آپوزیشن میاں ممتاز محمد خان دولتانہ کے دست راست تھے - جب میاں ممتاز محمد خان دولتانہ صوبہ کے وزیر اعلیٰ تھے اس وقت اس ہفتہ وار رسالہ کے خلاف کارروائی کی گئی اور وہ کارروائی میاں ممتاز محمد خان دولتانہ نے کی اور یہ ہفتہ وار ایک سال کے لئے بند کر دیا گیا - جمہوریت کے علمبرداروں نے بھی ۱۹۵۲ء میں یہ محسوس کیا کہ یہ اخبار ملک کی سالمیت اور سوسائٹی کو نقصان پہنچانے والا اخبار ہے - (قطع کلامیاں)

Mr. Speaker : Order, order.

وزیر اطلاعات - میاں ممتاز محمد خان دولتانہ صوبہ کے وزیر اعلیٰ تھے جس کی تائید میں میرے صد واجب الاحترام دوست خواجہ محمد صفدر صاحب ان کی قیادت پر فخر محسوس کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں -

مجھے یہ شکوہ اور گلہ نہیں ہے لیکن میان ممتاز محمد خان دولتانہ نے ۱۹۵۲ء میں جون کے مہینے میں اس رسالہ یا ہفتہ وار کو ایک سال کے لئے بند کر دیا۔ ان کے دلائل کیا تھے۔

That its contents were detrimental to public morals, decency and order.

یسی وجوہات میان ممتاز محمد خان دولتانہ نے بحیثیت وزیر اعلیٰ اس وقت فرمائیں کہ اس کا وجود عوام کے اخلاق کے - شرافت کے اور نظم کے منافی ہے۔ اس اخبار کے لئے آج پھر حکومت مجبور ہوئی ہے اور کوئی حکومت جو حکومت کہلانے کی اہل ہو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک شہری دوسرے شہری کا گلا کاٹنا شروع کر دے۔ حکومت کو چاہئے کہ ایسے عناصر کو سختی سے کچل دے جو عناصر ملک میں افراتفری کا باعث ہوں یا باہر کے ممالک جن سے پاکستان کے گہرے اور برادرانہ تعلقات ہن میری مراد چند عرب ممالک سے ہے ان میں رکاوٹ کا باعث ہوں۔ اگر کوئی اخبار نویس نام نہاد اخبار نویس ایک ایسی تحریر لکھے جس سے نہ صرف ملک کے اندرونی حالات ہی خراب ہو جائیں۔ نہ صرف ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے نہ صرف یہ بلکہ ان برادرانہ ممالک سے ہمارے تعلقات بگڑ جائیں جن ممالک نے پچھلی جنگ میں پاکستان کی غیر معمولی امداد کی تھی۔ تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی یہ قدم جو حکومت نے اٹھایا ہے سوچ سمجھ کر اٹھایا ہے۔ اس سے ہمارا مقصد کسی کے خلاف ذاتی رنجش کو درمیان میں لا کر کارروائی کرنا نہیں ہے۔ وہ میرے خلاف باتیں کرتا ہے۔ میں اس تمام Campaign of vilification کو نظر انداز کر دیتا ہوں کیونکہ میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میری زبان سے ایک شریف انسان کی حیثیت سے ہر شخص کی ماں -

بہن اور بیٹی محفوظ ہونی چاہئے۔ اگر کسی شخص کی زبان سے محفوظ نہیں ہے اور اگر اس شخص کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس کو خواجہ محمد صفدر صاحب جیسے منجھے ہوئے شریف الطبع انسان کی تائید حاصل ہے اور وہ کھلے انداز میں تعریف کرنا چاہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہے شرافت نہیں ہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہے اخلاق نہیں ہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہے انسانیت نہیں ہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وطن اور ملک کی محبت نہیں ہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ ملک اور قوم کے مفاد کو ہمیشہ نظر انداز کرتا ہے۔ اس کی تائید کرنا خواجہ صفدر صاحب کو مبارک ہو۔ میں ان کو اور کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ایک بات کہہ کر اپنی تقریر ختم کرنی چاہتا ہوں کہ حکومت کے اس فیصلہ میں کسی فرد کی ذاتی رنجش کا ہاتھ نہیں ہے۔

مسٹر حمزہ - آپ نے بیان دے کر غلطی کی ہے۔

Minister for Information : You know me. Will you be able to speak in this House ?

Mr. Hamza : Yes.

Mr. Speaker : Mr. Hamza, no interruptions and no cross-talk please.

وزیر اطلاعات - جناب والا - میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ سوسائٹی کی طرف سے کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم سوسائٹی کو عمدہ - اعلیٰ اور اونچے اخلاقی قدروں پر استوار کریں - ہمارا بھی بحیثیت مسلمان فرض ہے کہ ہم ان قوتوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں جو نام تو لیتے ہیں اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن ان کا کردار ان کی زندگی قرآن حکیم کے نہ مٹنے والے اصولوں کے منافی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ قرآن حکیم میں بار بار تلقین کی گئی ہے کہ برے الفاظ مت استعمال کرو۔ بری باتیں مت کہو۔ گندی باتیں نہ

سے مت نکالو۔ گندے اقاب ہم لوگوں کو مت دو۔ یہ باتیں قرآن حکیم کی باتیں ہیں۔ یہ سچائی کی باتیں ہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں لیکن اس کا تمام کردار۔ تمام اس کی کہانی اور اس کی تمام کارروائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے کوسوں دور ہے۔ میں یہ پھر ادب سے عرض کروں گا کہ ایسے شخص کو سیاسی کارکن کہنا دراصل لفظ اخبار نویس اور لفظ سیاسی کارکن کی توہین ہے۔ وہ واحد شخص ہے جس نے ملک میں تحریری غنڈہ گردی کا آغاز کیا۔ وہ تحریری غنڈہ گردی کا موجد ہے۔ ایسے شخص سے ہمدردی کرنا سوشلسٹی کی کوئی خدمت نہیں ہے۔

(اس مرحلہ پر خواجہ محمد صفدر بولنے کے لئے کھڑے ہوئے)

مسٹر حمزہ۔ جناب والا۔ میری تھوڑی سی عرض سننے کے بعد خواجہ صاحب کی بات سن لیں۔

خواجہ محمد صفدر (سیالکوٹ۔ ۱)۔ جناب والا۔ ہم نہایت اطمینان سے وزیر اطلاعات کی ہون گھنٹہ کی تقریر سنتے رہے ہیں۔ لیکن یہاں میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایسی بہت سی باتیں کہی ہیں جو زیر بحث مسئلہ سے متعلق نہیں تھیں۔ اب مجھے ان کا جواب دینے کی اجازت دیں۔

مسٹر سپیکر۔ خواجہ صاحب آپ کو بولنے کی اجازت اس لئے دی ہے کہ آپ کی موشن تھی اور آپ کو پہلے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا۔

خواجہ محمد صفدر۔ جناب والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک رکن کی حیثیت سے حق ہے کہ اس ایوان کے کسی جانب سے ایسی

باتیں جو بلا موقع یا بے موقع کی گئی ہوں ان کا جواب دوں۔ جواب دینا ویسے بھی ہر ممبر کا حق ہے۔ جناب والا۔ میری حیرت اور حیرانگی کی کوئی حد نہیں رہی۔ جب محترم وزیر خزانہ صاحب نے موضوع زیر بحث پر لب کشائی کرنا گوارا فرمانا ضروری سمجھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل مناسب ہوتا کہ وہ آج تقریر ارشاد نہ فرماتے۔ کیونکہ ان کی تقریر میں ماسوائے ذاتی رنجش، ذاتی بغض، ذاتی عناد اور ذاتی کینہ کے اور کچھ نہیں۔ ان کے ایک ایک لفظ سے۔ ان کے ایک ایک فقرہ سے ذاتی کینہ کی بو آتی ہے، گہن آتی ہے۔ انہوں نے ایک ایسے شخص کے متعلق جو یہاں جواب دینے کے لئے موجود نہیں اول سے آخر تک ہون گھنٹہ آہ و زاری کی ہے۔ جناب والا۔ مجھے افسوس ہے کیونکہ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ محترم وزیر خزانہ اس قسم کی تقریر کریں گے۔ کیونکہ جس شخص کی ذات پر انہوں نے ہر قسم کا حملہ کیا ہے اگر وہ یہاں پر موجود ہوتے اور وہ وزیر صاحب کی بات کا جواب دے سکتے تو کچھ اور بات تھی مجھے قطعاً یہ توقع نہیں تھی کہ محترم وزیر صاحب اس قسم کی تقریر کریں گے۔ میں ان کی تقریر سن کر بیحد پریشان ہوا ہوں کیونکہ تقریر کے دوران ابتدا سے انتہا تک جناب وزیر خزانہ کے منہ سے سوائے گالی کے اور کوئی بات ہی نہیں نکلی۔ اور کہا یہ گیا ہے کہ جس شخص کے متعلق وہ یہ سب کچھ فرما رہے ہیں، وہ گندہ دہن ہے۔ جناب والا۔ کہیں یہ الفاظ خود ان پر ہی تو صادق نہیں آتے۔ ایوان نے جو الفاظ اور القاب شورش کشمیری کے متعلق استعمال کئے ہیں۔ کہیں محترم وزیر صاحب پر تو صادق نہیں آتے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں کچھ اس قسم کے الفاظ اپنے محترم دوست کے متعلق کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ حالانکہ میرے دل میں ان کی بڑی عزت اور قدر و منزلت ہے۔ لیکن لوگ جو بات عام طور پر بازار میں کہتے تھے کہ شورش کشمیری کے

خلاف جو کچھ کیا گیا ہے وہ محض ان کی ذات گرامی کی ذاتی رنجش کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ وہی بات آج انہوں نے یہاں پر کہہ کر اس بات کا کھلا ثبوت مہیا کیا ہے۔

Minister for Law (Mr. Allah Bachayo Ghulam Ali Akhund) : Point of order, Sir. I do not think the conduct of the Finance Minister or the Information Minister is the subject matter of this adjournment motion. Besides, these remarks are unparliamentary as there was no attack on the person of Khawaja Sahib. I think the chair will kindly give a directive that this kind of attack may not be made.

Mr. Speaker : No personal attacks should be made.

Khawaja Muhammad Safdar : Nothing of the sort Sir ; I will be the last person to do that.

Minister for Law : There has been no such remark from the Finance Minister.

خواجہ محمد صفدر - جناب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب وزیر خزانہ نے ڈی - بی - آر کے استعمال کرنے کے متعلق جو وجوہات ارشاد فرمائی تھیں وہ کچھ اس قسم کی تھیں کہ شورش کشمیری نے قیام پاکستان کی مخالفت کی ہے تو میں نہایت ادب کے ساتھ جناب وزیر خزانہ سے (مجھے خوشی ہے کہ وہ مغربی پاکستان مسلم لیگ (کنوینشن کے صدر بھی ہیں) یہ عرض کیوں گا کہ وہ ذرا اپنی صفوں میں بھی نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کون کونسے لوگ تھے جو تحریک پاکستان میں شامل تھے اور کون کونسے ایسے لوگ تھے جو تحریک پاکستان کے مخالف تھے اور انہوں نے انہیں کن کن نوازشات سے نہیں نوازا۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ شورش کشمیری نے ممتاز دولتانہ اور لیاقت علی مرحوم اور فلاں فلاں کو گالیاں دی تھیں۔ تو دی ہوئی۔۔۔۔

وزیر خزانہ - دی ہونگی ؟

خواجہ محمد صفدر - میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کوئی غلط کام کیا ہو گا اور انہوں نے ایک آزاد اخبار نویس کی حیثیت سے ان پر سخت الفاظ میں نکتہ چینی کی ہو گی -

وزیر خزانہ - اس نے لوگوں کو ماں بہنوں کی گالیاں دی ہیں -

Khawaja Sahib, I pity you. You know what he has said about Mian Mumtaz Daultana and Liaquat Ali Khan, and about the grand daughter of Maulana Zafar Ali Khan ? This is all most disgraceful.

خواجہ محمد صفدر - میں ماں بہنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں - میں نکتہ چینی کے متعلق بات کر رہا ہوں - جناب والا - وزیر خزانہ اس ضمن میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہیں - میں نے یہ عرض کیا ہے کہ شورش کشمیری نے ایسی باتیں کہی ہونگی - لیکن کیا انہوں نے آج سے دس یا بیس سال پہلے جو کوئی فعل کیا تھا اسی کے معاوضہ یا سزا کے طور پر آج ڈی - ڈی - آر کے تحت اس کا پریس ضبط کیا گیا ہے - اس بات کو تو وہ مانتے ہی نہیں - جناب وزیر داخلہ نے کچھ اور بات ارشاد فرمائی تھی اور جناب وزیر خزانہ کچھ اور بات فرما رہے ہیں -

من چہ می سرایم و طنبورہ من چہ می سراید

مسٹر حمزہ - یہاں پر ایک وزیر کچھ کہتا ہے اور دوسرا وزیر کچھ کہتا ہے -

Minister for Finance : You have not heard me. I have supported Qazi Sahib and I have told the background of that man.

Khawaja Muhammad Safdar : His background is not the subject-matter.

Minister for Finance: I am only trying to tell you that it is very unfair on your part to support such a dirty man.

خواجہ محمد صفدر - جناب والا - ہم یہاں پر اپنے فرائض ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں اور اپنے اعمال اور فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں عوام کے سامنے جوابدہ ہیں۔ لیکن جناب وزیر خزانہ صاحب صرف گورنر صاحب کے سامنے جوابدہ ہیں۔ وہ عوام کے سامنے جوابدہ نہیں ہیں۔

He is responsible to the Governor only.

اس لئے ہم اپنے جن خیالات کا اظہار کریں گے۔ ان کے لئے اور اپنے کردار اور اعمال کے لئے عوام کے سامنے جوابدہ ہیں اور ہم عوام کو ضرور جواب دیں گے۔ اس لئے ان کی بڑی نوازش ہے کہ وہ مجھ پر رحم فرما رہے ہیں۔ وہ مجھ پر رحم نہ فرمائیں۔

وزیر خزانہ - میں تو یہ افسوس کر رہا ہوں کہ جناب خواجہ صاحب ہمیشہ اور تمام عمر ہی شرافت کا دامن تھامے رہے ہیں۔ لیکن نجانے آج انہیں کیا ہو گیا ہے۔

خواجہ محمد صفدر - میں آج بھی شرافت کا دامن تھامے ہوئے ہوں اور میں جناب وزیر خزانہ سے درخواست کروں گا کہ وہ ذاتی مسائل کو سیاست میں داخل نہ کریں۔ انہوں نے ابھی ابھی پون گھنٹہ تقریر کرتے ہوئے بار بار اس بات کا اعادہ کیا ہے اور اس طرح جو کچھ ان کے دل میں تھا وہ ان کی زبان پر آ گیا ہے۔ یہ نہ ان کے لئے نہ مفید ہے اور نہ ملک کے لئے مفید ہے۔

Minister for Finance: What you are saying is all wrong. I challenge it.

خواجہ محمد صفدر - تو بہتر ہے کہ وہ اپنے اس وطیرے کو

ترک کر دیں اور ذرا فراخدلی سے کام لیں۔ وہ اپنا یہ چینج بھول جائیں ان کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اگر وہ اس بارے میں ذرا فراخدلی سے کام لیتے تو شائد ان کے مخالفوں کو اس قسم کی باتیں کہنے کی جسارت ہی نہ ہوتی۔ انہوں نے ایک ایسی چھوٹی سی بات کو جس سے انہیں چہن محسوس ہوئی تھی۔ کچھ اس طرح جواب دیا ہے کہ اس بیچارے کی روزی اس کے منہ سے چہن لی ہے۔ اس کے بال بچوں کی روٹی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ ظلم ہے اور میں ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا رہوں گا۔ جناب وزیر خزانہ مجھ پر رحم کھا رہے ہیں مجھے ان کے رحم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھ پر رحم نہ کھائیں۔

Mr. Speaker : I reserve my ruling.

CONFISCATION OF THE COPIES OF THE WEEKLY 'CHATAN'
DATED 22ND APRIL, 1968.

Mr. Speaker : Malik Muhammad Akhtar to move adjournment motion No. 26.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and of urgent public importance, namely, the West Pakistan Government has ordered the confiscation of the copies of Weekly 'Chattan', dated April 22, 1968, under Defence of Pakistan Rules. The news has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Mr. Speaker : I also reserve my ruling in respect of this motion. The rest of the motions will be taken up tomorrow.

حاجی سردار عطا محمد - جناب سپیکر - میری تحریک التوا پر
کیا فیصلہ ہوا ہے -

وزیر خزانہ - آپ غیر ضروری ہیں -

مسٹر سپیکر - حاجی صاحب - آپ کی تحریک التوا کا فیصلہ بھی
دوسری تحاریک التوا کے ساتھ ہی کیا جائیگا -

We will now take up Orders of the Day.

حاجی سردار عطا محمد - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب سپیکر - میں
آپ کی رولنگ کو مانوں یا کرمانی صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ میں
غیر ضروری ہوں - اس کو مانوں -

مسٹر سپیکر - حاجی صاحب - جو کچھ میں نے عرض کیا ہے آپ
اسے قبول کریں - آپ بالکل غیر ضروری نہیں ہیں -

وزیر خزانہ - مولانا - آپ غیر بھی ہیں اور ضروری بھی -

مسٹر سپیکر - حاجی صاحب - آپ غیر نہیں ہیں بلکہ ضروری
ہیں -

حاجی سردار عطا محمد - جناب سپیکر - کرمانی صاحب نے یہ
جو الفاظ میرے متعلق استعمال کئے ہیں ، وہ انہیں واپس لینے چاہئیں -
کیونکہ وہ خود بھی غیر ضروری ہیں - کیونکہ نہ تو ان کو عوام نے
چنا ہے - اور نہ ہی وہ اس ایوان کے لائق ہیں -

مسٹر سپیکر - حاجی صاحب - آپ تشریف رکھیں -

ORDINANCES

THE WEST PAKISTAN INDUSTRIAL AND COMMERCIAL
EMPLOYMENT (STANDING ORDERS) ORDINANCE, 1968.

Mr. Speaker : We will now take up the Orders of the Day, *i.e.*, the Ordinances. Yes, the Minister for Labour.

Minister for Labour (Malik Allah Yar Khan) : Sir, I beg to move :

That the Assembly do approve of the West Pakistan Industrial and Commercial Employment (Standing Orders) Ordinance, 1968 (W. P. Ordinance No. VI of 1968), promulgated by the Governor of West Pakistan on 8th March, 1968.

Mr. Speaker : The motion moved is :

That the Assembly do approve of the West Pakistan Industrial and Commercial Employment (Standing Orders) Ordinance, 1968 (W. P. Ordinance No. VI of 1968), promulgated by the Governor of West Pakistan on 8th March, 1968.

Malik Muhammad Akhtar : Opposed.

وزیر محنت (ملک اللہ یار خان) جناب سپیکر - جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ قیام پاکستان کے وقت بعض دیگر قوانین کے ساتھ ایک قانون محنت بھی تھا - جو ہمیں میراث میں ملا جس کے تحت ان صنعتی اور تجارتی اداروں کے ملازمین کے بارے میں چند ایک مراعات اور حقوق کا تعین کیا گیا تھا - جن اداروں کے ملازمین کی تعداد سو یا اس سے زیادہ تھی - اس قانون کے تحت ان اداروں کے مالکان نے اپنے ملازمین کی شرائط ملازمت کے بارے میں اس قسم کے حقوق کو شامل کرنا تھا جو ان کو ان نئے احکام جاریہ کے تحت دیئے گئے تھے - جو اس وقت اس صوبہ میں نافذ کئے گئے تھے - جناب والا - احکام جاریہ کا یہ قانون ۱۹۴۶ء میں نافذ ہوا تھا - اور اس کے بعد ۱۹۵۸ء تک یہ قانون نافذ العمل رہا - لیکن اس عرصہ میں صنعتی اور اقتصادی اعتبار سے ملک میں کافی تبدیلی رونما ہوئی -

صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ صنعتی مزدوروں میں اضافہ ہوتا گیا اور یہ محسوس کیا گیا۔ کہ اس قانون اور چند ایک دیگر قوانین جو کہ وقت اور حالات کے پیش نظر فرسودہ ہو چکے تھے۔ ان میں ترامیم کی جائیں یا ان کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ ۱۹۵۹ء میں حکومت پاکستان کی طرف سے ایک نئی مزدور پالیسی کا اعلان کیا گیا۔ اس نئی پالیسی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا کہ چند ایک دیگر مزدوروں کے قوانین کے ساتھ صنعتی اور تجارتی ملازمین کے احکام جاریہ کے قانون میں بھی مناسب ترامیم کی جائیں۔ چنانچہ ۱۹۶۰ء میں ۱۹۴۶ء کا احکام جاریہ کا قانون ختم کر دیا گیا۔ اور ایک نیا قانون نافذ کیا گیا۔ ۱۹۶۰ء میں احکام جاریہ کے قانون کا اطلاق ان صنعتی اور تجارتی اداروں پر ہوا۔ جن اداروں کے ملازمین کی تعداد ۵۰ یا اس سے زیادہ تھی۔ اس قانون کے تحت ان صنعتی اور تجارتی اداروں کے ملازموں کی شرائط ملازمت ان کے اوقات کار ان کے یوم تنخواہ یا ان مزدوروں کو ملازمت سے برخاست کرنے کے طریق کار کے بارے میں تعین کیا گیا تھا۔ لیکن جناب والا گذشتہ ۸ سال کے تجربہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس قانون میں بنیادی طور پر بعض خامیاں تھیں اور صنعتی اور تجارتی اداروں کے مالکان نے ”اپنی مرضی کے مطابق ملازمت کے حقوق اعلیٰ“ کو اپنے ملازموں کے حقوق کے تحفظ کے لئے استعمال نہیں کیا۔ چنانچہ یہ فیصلہ حکومت مغربی پاکستان کی طرف سے کیا گیا کہ ۱۹۶۰ء کے احکام جاریہ کے قانون میں بھی اہم اور بنیادی ترامیم کی ضرورت ہے۔ چنانچہ مارچ ۱۹۶۸ء میں صنعتی اور تجارتی ملازموں کے احکام جاریہ کا یہ نیا قانون نافذ کیا گیا۔ جناب والا۔ اس قانون کا اطلاق ان تجارتی اداروں پر ہونے کی تجویز کی گئی ہے۔ جہاں ملازموں کی تعداد ۲۰ یا اس سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان مزدوروں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو جائیگا۔ جو کہ اس سے قبل اس احکام جاریہ

کے قانون کے تحت مراعات اور فوائد سے محروم تھے۔ اس کے علاوہ جناب والا چند ایک اور ترمیمیں اس قانون میں کی گئیں۔ جس کے تحت بہت مفید مراعات مزدوروں کیلئے تجویز کی گئیں۔ جن کا میں یہاں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے اہم تبدیلی اور ترمیم جو اس قانون میں کی گئی۔ وہ ایک عارضی مزدور کی تعریف کا ابہام دور کرنے کے بارے میں ہیں۔ اس سے قبل صنعتی اور تجارتی اداروں کے بے شمار اور لا تعداد ایسے مزدور تھے۔ جو سالہا سال سے ان اداروں کے ساتھ منسلک رہے تھے۔ اور ان اداروں میں کام کرتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کو مستقل تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ ان کی سالہا سال کی خدمت اور کام کے باوجود ان کو عارضی سمجھا جاتا تھا۔ اور اس طرح وہ ان حقوق اور مراعات سے محروم رہ جاتے تھے۔ جو مراعات مستقل مزدوروں کو حاصل تھیں۔ چنانچہ اس قانون کے ذریعہ ان عارضی مزدوروں کا تحفظ اس طرح کیا گیا ہے کہ آئندہ تمام وہ مزدور جو کسی ایسے کام میں لگے ہوئے ہوں۔ جس کام کی تکمیل کیلئے ۹ ماہ یا اس سے زیادہ کا عرصہ درکار ہو۔ ان تمام مزدوروں کو مستقل تصور کیا گیا ہے۔ جناب والا آپ اتفاق کریں گے کہ اس طرح ہزارہا ایسے مزدوروں کی تعداد بڑھ جائے گی جو کہ آج سے قبل عارضی تصور کئے جاتے تھے لیکن آئندہ کے لئے مستقل تصور کئے جائیں گے۔ جناب والا۔ اس کے علاوہ ایک اور مفید ترمیم جو اس قانون کے ذریعہ کی گئی ہے وہ ان مزدوروں کے بارے میں ہے جن کو صنعتی اور تجارتی اداروں کے مالکان اپنے کارخانوں میں مشینری کی خرابی کی وجہ سے یا بعض ناگزیر حالات کی بنا پر مختصر عرصہ کیلئے اپنے کام سے علیحدہ کر دیتے تھے اس امر کو lay off کیا جاتا ہے۔ کہ جب مختصر عرصہ کے لئے ان مزدوروں کو علیحدہ کر دیا جائے۔ جناب والا اس سے قبل جب بھی اس قسم کی صورت پیدا ہوتی تھی۔ تو

مزدوروں کو اس مختصر عرصہ کے لئے ان اداروں سے علیحدہ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس بات کی ضمانت نہیں دی جاتی تھی۔ کہ ان کو ان کی تنخواہ کا کچھ حصہ دیا جایا کرے گا یا نہیں۔ اس بات کا انحصار ان مالکان کی مرضی پر تھا۔ کہ وہ اس مختصر عرصہ کے لئے اپنے مزدوروں کو تنخواہ کا کچھ حصہ دیں یا نہ دیں لیکن جناب والا اس قانون میں جو تجویز کی گئی ہے اس کے تحت ان تمام صنعتی اور تجارتی اداروں کے مالکان پر یہ شرط عائد کر دی گئی ہے کہ lay off کی صورت میں اس مختصر عرصہ میں پہلے ہفتہ کے لئے اپنے مزدوروں کو ان کی تنخواہ کا نصف حصہ دیا جایا کرے گا اور اگلے ہفتہ کے لئے ان کی تنخواہ کا $\frac{1}{3}$ حصہ دیا جایا کرے۔ تاکہ اس مختصر عرصہ میں بے کاری کی صورت میں اپنے نان و نفقہ کا بندوبست کر سکیں۔ جناب والا ایک اور اہم ترمیم جو اس قانون میں کی گئی ہے وہ گریجویٹی کے بارے میں ہے۔ اس سے قبل کسی بھی محنت کے قانون میں اس قسم کی دفعہ موجود نہیں تھی۔ کہ کسی مستقل یا عارضی مزدور کو اس کی ریٹائرمنٹ کے وقت یا اس کو ملازمت سے علیحدگی کی صورت میں گریجویٹی دی جائے۔ گو بعض ایسے مالکان تھے جنہوں نے اپنے اداروں میں ملازمین کو کئی سہولتیں دی ہوئی تھیں۔ مثلاً براویڈنٹ فنڈ وغیرہ کی۔ لیکن ایسے ادارے محدودے چند تھے۔ چنانچہ اس ضرورت کو محسوس کیا گیا ہے کہ صنعتی اور تجارتی اداروں کے ملازمین کا جہاں تک تعلق ہے جب ان کو علیحدہ کیا جائے تو انہیں ایک ایسی مناسب رقم دی جائے جو آئندہ زندگی میں اپنے مصرف میں لا سکیں۔ چنانچہ اس قانون کو لازم قرار دیا گیا کہ جب بھی کوئی مزدور علیحدہ ہوگا تو اس کی تنخواہ اور بیعاد ملازمت کی تناسب سے نصف تنخواہ یعنی ۱۵ دن کی تنخواہ فی سال کے حساب بطور گریجویٹی دی جائے۔ retrenchment کے بارے میں بھی نہایت ہی مفید

تجویز کی گئی ہے۔ اس سے قبل جب مزدوروں کی چھانٹی ہوتی تھی یا کسی مل یا کارخانہ کا کام کے بند ہو جانے کی وجہ سے مجبوری لا حق ہوتی تھی کہ مزدوروں کو علیحدہ کیا جائے تو اس امر کے پیش نظر نہیں رکھا جاتا تھا کہ کونسے مزدوروں کو علیحدہ کیا جائے یعنی پہلے کونسے مزدوروں کو علیحدہ کیا جائے جن کی کم میعاد ملازمت ہو یا زیادہ۔ اس طریق کو بہتر بنانے کے لئے یہ تجویز کیا گیا ہے کہ صنعتی اور تجارتی ادارے یا مالکان کو جب ایسی مجبوری لا حق ہو اور چند مزدوروں کو علیحدہ کرنا مقصود ہو۔۔۔

ملک محمد اختر - پوائنٹ آف آرڈر - جناب والا - ہاؤس میں
کورم نہیں -

Malik Muhammad Akhtar : On a point of order, Sir. I regret to point out that the House is not in quorum.

Mr. Speaker : Let there be a count. (*count was taken*). The House is not in quorum, let the bells be rung. (*bells were rung*). Five minutes are over. Let the names of the Members, who are present in the House, be recorded. (*Names of the Members present recorded.*) The House is now in quorum. Yes please.

وزیر محنت - جناب والا - میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صنعتی اور تجارتی اداروں میں چھانٹی کی پالیسی کے بارے میں قانون کے ذریعہ مالکان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ چھانٹی کرتے وقت اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ان ملازمین کو ملازمت سے علیحدہ کیا جائے جن کی میعاد ملازمت دیگر ملازمین سے کم ہو۔ اس طرح جب ان ملازمین کو کام پر واپس لانا مقصود ہو تو اس وقت اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ ان ملازمین کو سب سے پہلے کام پر لایا جائے جن کی میعاد ملازمت دیگر ملازمین/مزدوروں سے زیادہ ہو۔ اس طرح جناب والا

ایک اور اہم ترمیم جو اس قانون کے ذریعہ تجویز کی گئی ہے وہ مزدوروں کے مکالوں سے بے دخلی کے بارے میں ہے۔ آپ جانتے ہیں اور اس ایوان کے ارکان اس بات سے اچھی طرح آشنا ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے حکومت کی طرف سے تمام صنعتی اور تجارتی اداروں کے مالکان سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ اپنے مزدوروں کی رہائش کے لیے کم سے کم ۲۵ فیصد رہائش کا بندوبست کریں تو اس ضمن میں ہمیں مالکوں کی طرف سے بہت سی تجاوزات موصول ہوئی^۲ رہیں جن میں انہوں نے اپنی مشکلات اور کچھ مسائل کا ذکر کیا تھا۔ ان مشکلات میں ایک مشکل یہ تھی جس کا انہوں نے اظہار کیا کہ وہ مزدور جن کو^۱ وہ ملازمت سے علیحدہ کر دیتے ہیں تو ملازمت سے علیحدگی کے وقت مالکان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان سے اس مکان کو بھی حاصل کر لیں جس میں وہ رہتے^۳ ہیں۔ اس کے لیے مالکان کو دیوانی عدالت میں جانا پڑتا تھا اور مقدمات میں کافی تاخیر ہو جائے کے باعث مزدوروں کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا چنانچہ اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ جو ملازم کسی ادارہ سے علیحدہ کیا جائے گا تو مالکان کو یہ حق بھی پہنچنا ہے کہ اس مزدور کو رہائشی مکان سے بے دخل کرا^۲ سکے۔ اس امر کے لیے ایک طریقہ کار تجویز کیا گیا ہے جس کے تحت ملازمت سے علیحدگی کی صورت میں مالکان اپنے مزدوروں کو مکانات سے بے دخل کرا سکیں گے اور^۳ بیدخل کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ تجویز ہم نے اس قانون میں مزدوروں کے فائدہ کے پیش نظر کی ہے اور دیگر تجاوزات جن کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ ان کی غرض^۴ و غایت صرف یہ تھی کہ مزدوروں کو زیادہ سے زیادہ اور بہتر مراعات دی جائیں مگر اس کے باوجود قائد حزب اختلاف کے دیگر ارکان نے یہ ضروری سمجھا کہ اس قانون^۱ کی مخالفت میں بھی ایک تحریک نامنظوری دی جائے۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ قائد حزب اختلاف نے جو

①

②

③

یہ تحریک نامنظوری پیش کی ہے۔ اس سے مزدوروں کی حمایت مقصود ہے ²یا وہ مزدوروں کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں اگر مزدوروں کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ تحریک نامنظوری درست اور واجب تھی اور وہ اگر مزدوروں کی ³حمایت کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامنظوری کی تحریک دینا مناسب نہیں تھی۔ کیونکہ

(4) اس قانون کے ذریعہ ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ مزدوروں کو زیادہ مراعات اور فائدے بہم پہنچائیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے اس وقت اس قانون کو صحیح طریقہ سے یا غور سے نہیں پڑھا ہوگا اور محض نالہ حزب اختلاف کے فرائض کی انجام دہی میں انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ تحریک نامنظوری کا نوٹس دے دیا جائے۔ بہر حال مجھے یہ خوشی ہے کہ جب آج میں نے یہ تحریک پیش کی تو انہوں نے اور ان کے تمام رفقاء کار جناب حمزہ صاحب اور دوسرے اصحاب نے جنہوں نے تحریک نامنظوری پیش کی ہے اس کی مخالفت نہیں کی۔

(5) بہر حال مجھے امید ہے کہ ³اس قانون کی حمایت کریں گے اور اپنی تحریک کو واپس لے لیں گے۔

Mr. Speaker : We will now take up the amendments. The first one is by Malik Muhammad Akhtar in Section 2.

Malik Muhammad Akhtar : I am not moving it.

Mr. Speaker : The amendment is not moved. Next amendment.

Malik Muhammad Akhtar : I beg to move —

That after para (a) of section 2 of the Ordinance, the following new para be added and the subsequent paras re-numbered accordingly, namely :—

“(b) ‘casual worker’ means a worker whose employment is of a casual nature;”.

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That after para (a) of section 2 of the Ordinance, the following new para be added and the subsequent paras re-numbered accordingly, namely :—

“(b) ‘casual worker’ means a worker whose employment is of a casual nature;”.

Minister for Labour : I oppose this amendment.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲) - جناب سپیکر - چونکہ کافی ترامیم ہیں اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ بولنے کا موقع میسر آئیگا اس لئے میں اس ترمیم پر زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا - میں پہلی ترمیم کی کچھ تشریح کرنے پر ہی اکتفا کروں گا تاکہ ہمارے ٹائم ٹیبل کے مطابق ہی یہ قانون پاس ہو جائے - مجھے صرف دو جملہ جناب وزیر محنت کے ارشاد گرامی کے جواب میں عرض کرنا ہیں - انہوں نے جو فرمایا ہے کہ ہر ایک نے اس قانون کی مخالفت کی - اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید لا علمی کے باعث ہم لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے تو میں یہ عرض کروں گا

وزیر محنت - جناب والا - میں نے ملک اختر صاحب کے لئے نہیں کہا ہے کہ انہوں نے اس تحریک کی مخالفت کی ہے -

ملک محمد اختر - بہر حال جناب سپیکر مجھے یہ گزارش کرنا ہے کہ یہ جو قوانین ہیں اگر جناب وزیر متعلقہ ان کا بغور مطالعہ کرتے یا کم سے کم اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو جو ہم نے ان قوانین پر ترامیم کی ضرورت میں پیش کی ہے ان سے go through ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ مزدور اپنے ان فوائد سے جو ان کو ۱۹۲۶ء میں حاصل تھے ان سے محروم نہ ہوتے - اس سلسلے میں میں صرف دو جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر میں ان لیبر قوانین کے متعلق یہ کہوں کہ ”نیا جال لائے پرانے شکاری“ تو بیجا نہ ہو گا اور اگر میں یہ کہوں تب بھی بیجا نہ ہو گا

کہ حکومت جہاں feudal lords کو تحفظ دیتی تھی وہاں اب وہ industrialist lords کو بھی تحفظ دینے لگی ہے اور اس کے لئے یہ قوانین بنائے گئے ہیں کہ ۱۰ - لاکھ - - - -

Mr. Speaker : What about casual workers ?

ملک محمد اختر - جناب مجھے یہ کہنا ہے کہ جیسا کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اس قانون میں بہت رعایتیں دی گئی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ casual ورکرز کو بھی وہی رعایتیں اس قانون میں ہونا چاہئیں جو دوسرے ورکرز کو ہوتی ہیں مثلاً retrenchment, dismissal, provident fund کے تحت جو سہولتیں اور رعایتیں دی گئی ہیں اس ضمن میں casual ورکرز کو بھی شامل کر لیا جائے - اس امینڈمنٹ پر میں اس سے زیادہ نہیں بوانا چاہتا -

وزیر محنت (ملک اللہ یار خان) - میرا خیال تھا کہ ملک محمد اختر صاحب نے ترمیم دیتے وقت اس کا غور سے مطالعہ کیا ہو گا اور اسی لئے انہوں نے بہت سی ترامیم اس میں پیش کی ہیں مگر مجھے اب اپنے خیال کو تبدیل کرنا پڑا کیونکہ انہوں نے شاید اس کو سمجھا نہیں یا سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ casual ورکر کا لفظ اس قانون سے حذف کر دیا گیا ہے اور وہ اس قانون میں موجود نہیں ہے - ہم نے اس کو غیر ضروری سمجھا اور temporary ورکر کی تعریف کو اس قانون میں رکھنا کافی سمجھا ہے -

Mr. Speaker : I will put the amendment to the vote of the House.
The question is —

That after para (a) of section 2 of the Ordinance, the following new para be added and the subsequent paras re-numbered accordingly, namely:—

“(b) ‘casual worker’ means a worker whose employment is of a casual nature ;”.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Next amendment.

Khawaja Muhammad Safdar: I beg to move—

That in para (b) of section 2 of the Ordinance the comma appearing after the word “theatre”, occurring in line 14, be replaced by a semi-colon and rest of the para be deleted.

Mr. Speaker: Amendment moved is :

That in para (b) of section 2 of the Ordinance the comma appearing after the word “theatre”, occurring in line 14, be replaced by a semi-colon and rest of the para be deleted.

Minister for Labour: I oppose it.

حواجہ محمد صفدر (سہالکوٹ - ۱) - جناب والا - میں نے ان الفاظ کو حذف کرنے کے لئے ترمیم پیش کی ہے جو میں پڑھے دیتا ہوں -

“...and such other establishment or class thereof as Government may by notification in the official gazette, declare to be a commercial establishment for the purposes of this Ordinance.”

جناب والا - صوبائی حکومت نے یہ اختیار حاصل کیا ہے کہ وہ جب بھی کسی ادارے کے متعلق یہ اعلان کر دے کہ یہ کموشل یا انڈسٹریل ادارہ ہے تو وہ اس تعریف میں آ جائیگا - حقیقت یہ ہے - جناب والا - کہ میرے اس ترمیم پیش کرنے کی غرض و غایت یہ ہے کہ میں اس موجودہ حکومت کو جو کہ میرے نقطہ نظر سے اپنے فرائض منصبی بھی ادا کرنے کے اہل نہیں رہی ایسے مزید اختیارات نہیں دینا چاہتا جو کہ حقیقت میں اس کے دائرہ اختیار میں ویسے ہی نہیں ہیں - محض قانون کے

ذریعے ہی اس کو یہ اختیارات دئے جا سکتے ہیں تو میں ہر اس قانون کی مخالفت کرنی چاہتا ہوں جس کے ذریعے اس موجودہ نااہل حکومت کو مزید اختیارات دئے جائیں۔ جناب والا۔ یہ ایک پرانا اور مسلمہ تنازعہ چلا آ رہا ہے انتظامیہ اور مقننہ کے درمیان اور اس کی ایک بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے کہ انتظامیہ ہمیشہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتی ہے کہ وہ مقننہ کے اختیارات خود سنبھال لے اور اگر اس کو ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو اصل میں اس کی بنیاد یہ ہے کہ جس زمانے میں بادشاہت ہوا کرتی تھی اور آج جن ممالک میں ہماری طرح ڈکٹیٹر شپ ہے..... (قطع کلامیاں)

تو وہاں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ حکومت کے تمام تر اختیارات ایک فرد واحد یا ایک ادارے کو منتقل کر دئے جائیں۔ مقننہ نے طویل جد و جہد کے بعد سینکڑوں سالوں کی متواتر کوشش کے بعد بادشاہوں اور ڈکٹیٹروں کو اُس بات پر مجبور کیا کہ وہ عوام کے حقوق ان کو لوٹا دیں تاکہ وہ حقوق جو عوام کو حاصل ہیں وہ اپنے منتخب شدہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کر سکیں۔ اس بناء پر پولیٹیکل سائنس میں مختلف ادوار میں مختلف تھیوریاں پیش ہوتی رہیں لیکن نتیجہ یا ما حاصل صرف ایک ہے کہ مقننہ ایک علیحدہ جماعت ہے جو عوام کی نمائندگی کرتی ہے اگرچہ اچھے بھلے جمہوری ممالک میں انتظامیہ بھی عوام کی نمائندگی کرتی ہے تو ان دونوں کے اختیارات کو اور ان دونوں کے احاطہ اقتدار کو علیحدہ علیحدہ رکھا جائے۔ تو مقننہ اور انتظامیہ کے تنازعہ کا یہ پس منظر سامنے رکھیں کہ یہ اختیارات آسروں اور بادشاہوں نے مجبور ہو کر عوام کو لوٹائے تھے اور ہر جگہ ہر انتظامیہ جو کہ ایک قسم کی بادشاہت کی طرح ہوتی ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مقننہ نے

اختیارات کو کم سے کم کیا جائے اور اپنے پاس زیادہ سے زیادہ اختیارات رکھے جائیں۔ اس کشمکش کی ایک کڑی یہ ہے کہ اس ہنگامی قانون میں تین چار سطریں اس غرض سے شامل کر دی گئیں کہ یہ تعریف کی جائے کہ صنعتی اور تجارتی ادارہ کی تعریف حکومت کے اختیار میں دے دی جاوے ان اختیارات کو ہماری انتظامیہ حاصل کرنا چاہتی ہے بجائے اس کے یہ معزز ایوان ان اختیارات کو استعمال کرے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت خود اپنی صوابدید سے ان اختیارات کو استعمال کرے اور جس طرح چاہیں استعمال کرے میں اصولی طور پر جناب والا۔ اس بات کے خلاف ہوں کہ اس انتظامیہ کو اس ایوان کے اختیارات کا کوئی حصہ بھی سپرد کیا جائے کیونکہ انتظامیہ خواہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو اس کی فکر محدود ہو گی اور اس میں غلطی کا احتمال زیادہ ہو گا۔ لیکن اتنے بڑے ایوان میں غلطی کا احتمال کم ہو گا۔ اس لئے میں درخواست کروں گا اپنے محترم وزیر محنت کی خدمت میں کہ وہ میری اس ترمیم کو قبول فرمائیں اور اس ایوان کے اختیارات پر غاصبانہ قبضہ کرنے کی زحمت گوارا نہ فرمائیں۔

وزیر محنت (ملک اللہ یار خان)۔ جناب سپیکر۔ میں جناب خواجہ صفدر صاحب کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا ہوں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کی اس کلاز کی اس دفعہ میں جو ترمیم ہے اور جس کو انہوں نے پیش کرنا ضروری سمجھا ہے اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ اس ملک میں چونکہ ڈکٹیٹر شپ ہے اس لئے حکومت ہر کام ڈکٹیٹرانہ طریق کار سے چلانا چاہتی ہے۔ اس لئے وہ تمام حقوق جو مقننہ کو تفویض کئے گئے ہیں ان کو انتظامیہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے۔ حالانکہ اس ترمیمی قانون کو اس ایوان میں پیش کرنے کا مقصد صرف یہ

ہے کہ ہم جمہوری طریق سے جو ترمیم اس ایوان میں یا اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اس ایوان کی مرضی سے اس کی رائے سے پاس کرانے کے بعد اس صوبے میں نافذ کرنے کا انتظام کریں۔ تو جہاں تک ان کے اعتراض کا تعلق ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہم کسی قسم کی ترمیم ڈکٹیٹرانہ طور پر نافذ نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس کا بین ثبوت اس بات سے ہے کہ یہ امر ایوان کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور جس کو پاس کرنے کے لئے اس ایوان کی اکثریت کی ضرورت ہو گی۔ جناب والا۔ دوسرا اعتراض انہوں نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اختیار صرف مقننہ کو ہے کہ وہ تجارتی یا کسی صنعتی ادارے کی تعمیر کرے۔ جناب والا۔ ہم نے اس قانون میں تجارتی اور صنعتی ادارے کی تعریف کر دی ہے۔ ہم اس دفعہ کے تحت یہ اختیارات اس مقننہ سے واپس نہیں لیے رہے۔ شائد انہوں نے اس کا اچھی طرح مطالعہ کرنے کی زحمت گوارا نہیں فرمائی کہ ان الفاظ سے ہمارا مقصود صرف یہ ہے کہ اگر کسی وقت بعض وہ صنعتی اور تجارتی ادارے جو اس تعریف میں نہ آتے ہوں۔ جو تعریف ہمیں اس قانون کے ذریعہ مطلوب ہے اور جس کی تعریف کر دی گئی ہے اور اس قانون کو یہ ایوان پاس کرے گا۔ اگر کچھ وقت کے بعد وہ صنعتی اور تجارتی ادارے اس تعریف میں آ جائیں تو پھر انتظامیہ کو یہ اختیار ہو گا کہ وہ ان تجارتی اور صنعتی اداروں کو بھی اس قانون کی زد میں لے آئیں۔ جیسا کہ جناب والا میں نے اپنی تعارفی تقریر میں گزارش کی تھی اس قانون کا اطلاق ان صنعتی اداروں پر ہو گا جن میں ملازمین کی تعداد پچاس یا اس سے زائد ہو گی۔ اور ان تجارتی اداروں پر ہو گا جہاں ملازمین بیس یا اس سے زائد ہیں۔ تو جناب والا۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد ان اداروں کے ملازموں کی تعداد جو اس وقت اس تعریف کی زد میں آتے ہیں بڑھ جائے۔ اس صورت میں جناب والا۔ میں

ضروری سمجھتا ہوں کہ کم از کم یہ اختیار انتظامیہ کو ہونا چاہئے کہ وہ انہیں اس تعریف کی زد میں لے آئے۔ جو یہ ایوان پاس کرے گا یا جس کی تصدیق یہ ایوان کرے گا۔ جو صنعتی اور تجارتی ادارے اب اس قانون کی زد میں نہیں آتے اس وقت انتظامیہ کو یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ ایسے صنعتی اور تجارتی اداروں پر اس قانون کا اطلاق کر سکے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ایسے ناگزیر حالات درپیش آ جاتے ہیں کہ ہمیں اس وقت مجبوراً نوٹیفیکیشن کے ذریعہ ہی اقدام کرنا پڑتا ہے۔ اس سے انتظامیہ کا مقصد اس ایوان کے اختیارات حاصل کرنا یا ایوان کی طرف سے دئے گئے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان اختیارات کو جو کہ اس ایوان کی طرف سے انتظامیہ کو دئے گئے ہیں۔ ایمانداری سے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یہ اختیارات انتظامیہ کو اس لئے دئے جا رہے ہیں کہ ناگزیر حالات میں جب ایسا اقدام کرنا ضروری اور مناسب ہو اس کے پاس ایسے اختیارات موجود ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اس ترمیم کی مخالفت کرتا ہوں۔

Mr. Speaker : The question is :

That in para (b) of section 2 of the Ordinance the comma appearing after the word 'theatre' occurring in line 14 be replaced by a semi-colon and rest of the para be deleted.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next amendment.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I beg to move:

That in para (b) of section 2 of the Ordinance, for the words and commas "such other establishment or class thereof as Government may by notification in the official Gazette, declare to be a commercial establishment for the purposes of this

Ordinance" occurring in lines 14-18 the words "all other such establishments in which five or more persons are employed", be substituted.

Mr. Speaker: Amendment moved is :

That in para (b) of section 2 of the Ordinance, for the words and commas "such other establishment or class thereof as Government may by notification in the official Gazette, declare to be a commercial establishment for the purposes of this Ordinance" occurring in lines 14-18 the words "all other such establishments in which five or more persons are employed", be substituted.

Minister of Labour: Opposed.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲)۔ جناب سپیکر۔ میری ترمیم از خود عیاں ہے۔ اور اتنی جامع ہے کہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ میری ترمیم سے خواجہ صاحب اور وزیر صاحب دونوں کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک حد مقرر کر دیں کہ تجارتی ادارے کیا ہوں گے۔ یہ جو انہوں نے سیکشن ۲ (بی) میں کمرشل اداروں کی لمبی چوڑی تعریف دیتے ہوئے آخر میں لکھا ہے۔ "یا ایسے ادارے جنہیں گورنمنٹ کمرشل ادارے قرار دے" میں نے اس کی بجائے یہاں ایک حد مقرر کر دی ہے۔ کہ جہاں پانچ یا اس سے زائد اشخاص کام کرتے ہوں ایسے کمرشل ادارہ قرار دیا جائے۔

Mr. Speaker: The Member has given notice of an amendment in section 1 sub-section (4) wherein he wants to bring down the number from twenty to five, I think.

Malik Muhammad Akhtar: There I will not move it.

Mr. Speaker: That is perhaps the proper place for this amendment.

Malik Muhammad Akhtar: Alright Sir.

Mr. Speaker: Then the Member does not press it at this stage?

Malik Muhammad Akhtar : Alright, Sir, I don't press.

Mr. Speaker : Please ask for leave to withdraw the amendment.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I ask for leave of the House to withdraw my amendment.

Mr. Speaker : Has the Member leave of the House to withdraw his amendment.

The amendment was, by leave, withdrawn.

Mr Speaker : Next. Malik Muhammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I beg to move :

That after clause (iii) of para (c) of section 2 of the Ordinance, the following be added, namely:—

“(iv) in case of sale of the industrial concern the person who becomes an employer as transferee of the concern ;

(v) a benami owner of the concern :”.

Mr. Speaker : Does the Member press this amendment ?

Malik Muhammad Akhtar : Yes Sir.

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That after clause (iii) of para (c) of section 2 of the Ordinance, the following be added namely:—

“(iv) in case of sale of the industrial concern the person who becomes an employer as transferee of the concern ;

(v) a benami owner of the concern :”.

Minister of Labour : Opposed.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲) - جناب سپیکر - اس پر
 decided cases ہیں۔ جب کورٹ میں cases کئے۔ تو وہ جو نئے purchaser تھے
 وہ liable نہ قرار دے سکے۔۔۔ جتنی بھی میری ترامیم ہیں وہ تمام کی تمام

فیصلہ شدہ مقدمات پر مبنی ہیں۔ مثلاً ایک کس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ایک آدمی کوئی جائیداد خرید لیتا ہے یا کوئی شخص اپنی فیکٹری کو فروخت کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں منتقل نہیں ہوتیں۔

مسٹر سپیکر - کیا یہ انڈسٹریل کورٹ کی رولنگ ہے ؟

ملک محمد اختر - ایسے کئی فیصلہ شدہ مقدمات ہیں جن میں وہ رولنگ موجود ہے اگر وہ ان تمام کا بغور مطالعہ کر لیتے تو میری دونوں باتوں کو مان لیتے۔

Mr. Speaker : How would we be able to know whether a particular owner is benami or not.

Ma'ik Muhammad Akhtar : Suppose it is adjudicated in a Court of Law that the owner, the person otherwise owning it is not the real owner and the benami owner is the real owner then in that case where will the liability be fixed ? I want to cover that aspect. There are decided cases to that effect. It is upto them to accept or reject it.

وزیر مہجنت (ملک اللہ یار خان) - جناب والا - میں سمجھتا ہوں کہ ملک اختر صاحب کی یہ ترمیم قطعی طور پر غیر ضروری ہے کیونکہ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ جب کوئی شخص اپنی جائیداد یا کوئی چیز کسی دوسرے شخص کو منتقل کرتا ہے تو مزید خریدنے کے ساتھ اس کی ملکیت کے حقوق بھی خریدار کو چلے جاتے ہیں۔ اس صورت میں وہ تمام ذمہ داریاں جو مالک کی حیثیت سے اس پر عائد ہوتی تھیں اس جائیداد کی منتقلی کے ساتھ خریدار کو منتقل ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک اختر صاحب نے جو بعض کیسز کا حوالہ دیا ہے انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرے نوٹس میں کوئی ایسا کیس نہیں۔ نہ ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قانون کے تحت کوئی ایسا ابہام پیدا نہیں ہو سکتا۔

جب کسی کی ملکیت یا جائیداد کسی اور کو منتقل ہوتی ہے تو ساتھ ہی اسے وہ تمام ذمہ داریاں اور فرائض بھی منتقل ہو جاتے ہیں جو اس جائیداد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ جہاں تک ذمہ داریوں کا سوال ہے وہ ان شرائط میں دی جاتی ہیں جو اس ملکیت یا جائیداد کی منتقلی کی دستاویز میں لکھی جاتی ہیں۔ عام طور پر ایسی ذمہ داریاں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ترمیم غیر ضروری ہے۔ جہاں تک بے نامی فروخت کا سوال ہے۔ شاید انہیں پرانے ریونیو ایکٹ کی کوئی دفعہ یاد آگئی ہے۔

ملک محمد اختر - Point of order - تو پھر قوانین quote کرنے دیجئے۔

وزیر محنت - تو جناب والا میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی نظر میں ایسی فروخت کوئی وقعت نہیں رکھتی جو کسی اور کی وساطت سے حاصل کی گئی ہو۔ قانون کی نظر میں وہی شخص ذمہ دار ہے جس کے نام وہ جائیداد منتقل ہو۔ اسی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

Mr. Speaker: The question is—

That after clause (iii) of para (c) of section 2 of the Ordinance, the following be added namely:—

(iv) in case of sale of the industrial concern the person who becomes an employer as transferee of the concern ;

(v) a benami owner of the concern.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next amendment, Khawaja Muhammad Safdar.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir I beg to move—

That para (d) of Section 2 of the Ordinance be deleted,

Mr. Speaker : Amendment moved is—

That para (d) of Section 2 of the Ordinance be deleted.

Minister of Labour : I oppose it Sir.

خواجہ محمد صفدر (سیالکوٹ - ۱)۔ جناب والا سیکشن ۲ (ڈی) میں آہستہ روی کی تعریف کی گئی ہے۔ میں نے یہ ترمیم اس تعریف کو حذف کرنے کے لیے پیش کی ہے۔ دراصل ان کو یہ تعریف اس لیے کرنی پڑی کہ اس ہنگامی قانون کے متن میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ آہستہ روی کو misconduct کی تعریف میں شامل کیا گیا ہے اور اس کو غیر معقول حرکت سمجھا گیا ہے۔ اس غیر معقول حرکت کی بنا پر کسی مزدور کو کارخانہ سے یا اپنے کاروبار سے برخاست کیا جا سکتا ہے۔ میں جناب وزیر محنت کی توجہ اس امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی ابھی انہوں نے اس ہنگامی قانون کو اس ایوان میں پیش کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ مزدوروں کی فلاح و بہبود کی خاطر ان کی بہتری کی خاطر۔ ان کی خوش حالی کی خاطر سابقہ قوانین کو منسوخ کر کے نئے قوانین اس صوبہ میں رائج کر رہے ہیں جن میں سے ایک قانون یہ ہے۔ کیا میں ان سے نہایت ہی ادب سے استفسار کر سکتا ہوں کہ کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے۔ آہستہ روی کو مزدور کے لیے ایک جرم قرار دے کر اس کو برخاست کیا جا سکتا ہے۔ اس کی روٹی اس کے منہ سے چھینی جا سکتی ہے۔ یہ قانون وزیر صاحب کے دعویٰ کے مطابق ان کی بہتری کے لیے ہے نہ کہ اس پر پابندی یا حدود و قیود عاید کرنے کی غرض سے ہے اگر یہ شق اس کے فائدے کے لیے ہوتی تو میں یقیناً اس کو قبول کر لیتا۔ جیسے عام طور پر اس ایوان میں اس حکومت کی جانب سے دعویٰ کئے جاتے ہیں کہ ہم مزدور کی خوش حالی فارغ البالی اور اس کی ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں یہ بھی اسی قسم

کا ایک کھوکھلا دعویٰ ہے کہ یہ قانون بھی مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے ثبوت میں میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں آہستہ روی کی تعریف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جیسے ۱۹۵۹ء کے ہنگامی قانون کے ذریعہ جسے اس ہنگامی قانون کے ذریعہ منسوخ کیا گیا ہے جو اس قانون سے پہلے رائج تھا۔ اس میں آہستہ روی کی قطعاً کوئی تعریف نہیں کی گئی تھی اس وقت اس لیے اس کی تعریف نہیں کی گئی سابقہ قانون کے تحت آہستہ روی کو قابل مواخذہ تصور نہیں کیا گیا تھا۔ اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ محترم وزیر محنت صاحب نے سابقہ قانون کو بہتر صورت میں پیش کیا ہے تو کم از کم اتنی بات ہی سمجھ لیں کہ اس ترمیم میں بہتری کون سی ہے۔ میں ان سے درخواست کروں گا۔ (اور میں ان سے سابقہ قانون کی بہتری کی توقع نہیں رکھتا اور نہ ہی ان سے یہ توقع ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس حکومت سے کسی بہتری کی توقع ہو سکتی ہے)۔ جو قانون پہلے ہے وہی رہنے دیں۔ اس کو ابتر نہ بنائیں۔ اس قانون نے سابقہ قانون کو بھی ابتر کر دیا ہے اس لیے دوبارہ درخواست ہے کہ اس کو بہتر بنانے کی بجائے ابتر نہ بنائیں اور میری اس ترمیم کو منظور فرمائیے۔

وزیر محنت (ملک اللہ یار خان)۔ جناب والا۔ جناب خواجہ محمد

صدر صاحب کا اعتراض go slow کے بارے میں اس وقت آنا چاہئے جہاں اس کو misconduct کی تعریف میں لایا گیا ہے۔ وہ اس دفعہ پر اعتراض کر سکتے تھے۔ جہاں تک go slow کی تعریف کا تعلق ہے اس کو اس لیے ضروری خیال کیا گیا ہے کہ بہت سے ایسے مزدور ہیں جو کام پر جانا یا کام کرنا پسند نہیں کرتے لیکن وہ ہڑتال پر بھی جانا نہیں چاہتے تو وہ آہستہ روی کا حربہ استعمال کرتے ہیں۔ خواجہ صدر صاحب

کو اس بارے میں اتفاق ہے کہ آہستہ روی کا حربہ آج ہی نہیں بلکہ بہت دیر پہلے ان صنعتی اداروں میں استعمال ہوا ہے۔ وہ کم از کم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ کہ یہ ایسا حربہ ہے بلکہ اس کو ہڑتال کے مترادف کہا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی تنخواہ بھی لے رہے ہیں اور اپنے کارخانے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ کم ایسا کر رہے ہیں جو نہ کرنے کے برابر ہے۔ کیا جناب والا اس صورت میں اس قسم کے اس کی تعریف کرنا ضروری نہیں ہے؟ بہر حال misconduct کے متعلق جب دفعہ آئے گی اس وقت اس پر ضرور روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اس تعریف کی اس لیے ضرورت محسوس کی گئی ہے اس سے قبل یہ لفظ موجود ہے اور اس کی آڑ لے کر شریک عناصر کام کرنا نہیں چاہتے۔ وہ قانونی طریقہ کو اپنانے کی بجائے ایسے حربے استعمال کرتے ہیں کہ وہ قانون کی زد سے بچ جائیں۔ جناب خود اتفاق فرمائیں گے کہ اس حربہ سے اس ادارے کی پروڈکشن کو کس قدر نقصان پہنچتا ہے اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں مزدوروں کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے وہاں حکومت ان صنعتکاروں اور مالکان کے حقوق کا تحفظ بھی ضروری سمجھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مالکان بھی اس ملک کے اسی طرح شہری ہیں اور وہ بھی اتنا ہی حق رکھتے ہیں جتنا کہ اس ملک کے مزدور حق رکھتے ہیں۔

Mr. Speaker : The question is—

That para (d) of section 2 of the Ordinance be deleted.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next amendment by Malik Muhammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Sir I beg to move—

That for para. (d) of section 2 of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

(d) "go-slow" means an organised, deliberate and purposeful slowing down of normal output or work by a body of workers in a concerted manner as a result of a decision taken by the Trade Union and which is not due to any mechanical defect, breakdown of machinery, failure or defect in power supply of normal materials and are parts of machinery.

(At this stage Mr. Deputy Speaker, Mr. Ahmedmien Soomro took the Chair)

Mr. Deputy Speaker : Amendment moved is—

That for para. (d) of section 2 of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

(d) "go-slow" means an organised, deliberate and purposeful slowing down of normal output or work by a body of workers in a concerted manner as a result of a decision taken by the Trade Union and which is not due to any mechanical defect, breakdown of machinery, failure or, defect in power supply of normal materials and are parts of machinery.

Minister of Labour : Opposed Sir.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲)۔ جناب سپیکر - یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جس کے تحت جرم ثابت کرنے کی ضرورت نہیں اور کسی بھی مزدور کو سزا دی جا سکتی ہے کہ وہ go slow کا باعث ہوا ہے۔ میرے پاس وقت تھوڑا ہے اور یوں بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ دیگر قوانین بھی یہاں پیش ہوں تاکہ Labour Laws کے سارے ہی یہاں پر discuss ہو جائیں۔

جناب والا - آپ دیکھیں کہ جس وقت بھی کام میں کمی واقع ہو

یا out put میں کمی آ جائے تو مزدوروں کو misconduct کا ملزم قرار دیا جا سکے گا اور وہ اس کے لئے ذمہ دار ہوں گے اور ان کی تنخواہیں کاٹ دی جائیں گی۔ go slow کی جو اصل تعریف ہے میں نے اس میں چار الفاظ لگا دیئے ہیں۔ "As a result of a decision taken by the Trade Union". یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو deliberate and purposeful slowing down of out put or work... تو ان کو go slow کا مرتکب گردانا جائے گا۔ اس سلسلے میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ go slow کا مرتکب اس کو گردانا جائے کہ جب یہ ثابت ہو کہ وہ کسی ایسوسی ایشن کی ایماں پر ایسا کر رہے ہیں اور normal output میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ لیکن اگر فیصلہ کسی ٹریڈ یونین کا نہ ہو اور کل پیداوار میں کوئی معتدبہ کمی بھی واقع نہ ہوئی ہو، تو تمام کے تمام مزدوروں کو اس کے لئے ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ کیونکہ پیداوار میں کمی صرف go slow کی وجہ سے واقع نہیں ہوئی ہے اور اس کی وجہ مشینری کی فرسودگی یا بجلی کا فیل ہونا یا اسی قسم کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے یا اس کمی کا باعث ان مزدوروں کا کوئی ایک خاص طبقہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کا قانون تو تمام مزدوروں کو بھی go slow کا ملزم قرار دیتا ہے۔

Mr. Deputy Speaker : The question is—

That for para. (d) of section 2 of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

“(d) “go-slow” means an organised, deliberate and purposeful slowing down of normal output or work by a body of workers in a concerted manner as a result of a decision taken by the Trade Union and which is not due to any mechanical defect, breakdown of machinery, failure or defect in power supply or in the supply of normal

materials and spare parts of machinery;”.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Next amendment.

Malik Muhammad Akhtar : I beg to move—

That after sub-para. (iv) of para. (f) of section 2 of the Ordinance, the following be added, namely :—

“(v) the establishment which employs five or more persons.”

Mr. Deputy Speaker : Amendment moved is —

That after sub-para. (iv) of para. (f) of section 2 of the Ordinance, the following be added, namely :—

“(v) the establishment which employs five or more persons.”

Parliamentary Secretary (Labour) (Mian Miraj-ud-Din) : Opposed.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲) - جناب سپیکر - صنعتی اداروں کے ضمن میں حکومت یہ اختیار اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی ہے کہ اس میں کون کونسی چیزیں شامل ہوں - مثلاً انہوں نے فیکٹری ایکٹ کے تحت فیکٹریوں کو اس میں شامل کر رکھا ہے اور اسی طرح ریلوے کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے - اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ صنعتی اداروں میں ایسے ادارے بھی شامل ہیں کہ جن میں contracts ہوں - میں صنعتی اداروں کی تعریف میں ایسے اداروں کو شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جن میں پانچ یا اس سے زیادہ مزدور کام کرتے ہوں - دراصل تو یہ اس قانون کے ذریعے ہمیں کچھ دینے کے بجائے ہم سے سب کچھ چھین کر لے جانا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ حکومت بلا واسطہ انتخابات کی طرف لوٹ جانا چاہتی ہے -

Mr. Deputy Speaker : Malik Sahib is not relevant.

ملک محمد اختر - جناب سپیکر - میں ان کے اختیارات کو codify کرنا چاہتا ہوں - میں ایک ایسے قانون کو جو کہ ضبط تحریر میں نہیں ہے ، اسے تحریری قانون میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں - میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے اختیارات اس اسمبلی کے تحت کر دیئے جائیں -

Mr. Deputy Speaker : The question is—

That after sub-para. (iv) of para. (f) of section 2 of the Ordinance, the following be added, namely :—

“(v) the establishment which employs five or more persons.”

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Next amendment.

Malik Muhammad Akhtar : I beg to move—

That for para. (i) of section 2 of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

“(i) “workman” means any person, including an apprentice, employed in any establishment of industry or commerce to do any skilled, unskilled, manual, technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied, and includes any such person who has been dismissed, discharged or retrenched from such establishment, and such dismissal, discharge or retrenchments is the subject matter of a dispute under the West Pakistan Industrial Disputes Ordinance, 1968 and includes person or persons employed as—

- (i) domestic servants ;
- (ii) sweepers ;
- (iii) salesman ;
- (iv) an Officer trainee ;
- (v) sales representative (Travelling) ;
- (vi) sub-agent of bank ;
- (vii) Touring representative of film distribution company ;
- (viii) Watch and Ward Jamadar ;
- (ix) Watch and Ward Inspector ;
- (x) Bidi Workers ;
- (xi) Weavers ;
- (xii) Contractor treasurers and ministerial staff employed by them ;
- (xiii) Contractor agent and coolies employed by him, treated employees of the company ;
- (xiv) Fire brigade Superintendent ;
- (xv) Depot keeper and Store-keeper ;
- (xvi) Touring auditor ;
- (xvii) Commission agents ;
- (xviii) Pilots and Chief Pilots ;
- (xix) Contractor's men ;
- (xx) Foreman and divisional heads ;
- (xxi) Goldsmiths ;
- (xxii) Match makers ;
- (xxiii) Persons given work in Umbrella assembling business on piece rate basis ;
- (xxiv) Persons engaged by utensil manufacturers ;
- (xxv) Intermediary ;

- (xxvi) Bidi paper makers ;
- (xxvii) Independent contractor ;
- (xxviii) Persons employed by manufacturing jewellers ;
- (xxix) Incharge of a department ;
- (xxx) Air-craft maintenance ;
- (xxxi) Assistant Engineer working as shift engineer;
- (xxxii) Checking Inspector employed by a Bus Compaay ;
- (xxxiii) Assistant Artist ;
- (xxxiv) District Main Engineer ;
- (xxxv) Aircraft maintenance engineers, traffic officers and station incharge ;
- (xxxvi) Distributors and salesmen ;
- (xxxvii) Depot Superintendents and Assistant Depot Suprerintendents ;
- (xxxviii) Labour Officer in jute mill ;
- (xxxix) Mine worker ;
- (xl) Musicians ;
- (xli) Chemists and Assistant Chemists ;
- (xlii) Overseers and Sub-Overseers ;
- (xliii) Cinema operator and electric instructor ;
- (xliv) Gate Sargeant ;
- (xlv) Incharge of watch and ward staff ;
- (xlvi) Outsiders rendering service as chowkidars at the residence of the Government Director."

Mr. Deputy Speaker : Amendment moved is :

That for para. (i) of section 2 of the Ordinance, the following the substituted, namely :—

"(i) "workman" means any person, including

an apprentice, employed in any establishment of industry or commerce to do any skilled, unskilled, manual, technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied, and includes any such person who has been dismissed, discharge or retrenched from such establishment, and such dismissal, discharge or retrenchment is the subject matter of a dispute under the West Pakistan Industrial Disputes Ordinance, 1968 and includes person or persons employed as —

- (i) domestic servants ;
- (ii) sweepers ;
- (iii) salesman ;
- (iv) an Officer trainee ;
- (v) sales representative (Travelling) ;
- (vi) sub-agent of bank ;
- (vii) Touring representative of film distribution company ;
- (viii) Watch and Ward Jamadar ;
- (ix) Watch and Ward Inspector ;
- (x) Bidi Workers ;
- (xi) Weavers ;
- (xii) contractor treasurers and ministerial staff employed by them ;
- (xiii) Contractor agent and coolies employed by him, treated employees of the company ;
- (xiv) Fire brigade Superintendent ;
- (xv) Depot keeper and Store-keeper ;
- (xvi) Touring auditor ;
- (xvii) Commission agents ;
- (xviii) Pilots and Chief Pilots ;

- (xix) Contractor's men ;
- (xx) Foreman and divisional heads ;
- (xxi) Goldsmiths ;
- (xxii) Match makers ;
- (xxiii) Persons given work in Umbrella assembling business on piece rate basis ;
- (xxiv) Persons engaged by utensil manufacturers ;
- (xxv) Intermediary ;
- (xxvi) Bidi paper makers ;
- (xxvii) Independent contractor ;
- (xxviii) Persons employed by manufacturing jewellers ;
- (xxix) Incharge of a department ;
- (xxx) Air-craft maintenance ;
- (xxxi) Assistant Engineer working as shift engineer;
- (xxxii) Checking Inspector employed by a Bus Company ;
- (xxxiii) Assistant Artist ;
- (xxxiv) District Main Engineer ;
- (xxxv) Aircraft maintenance engineers, traffic officers and station incharge ;
- (xxxvi) Distributors and salesmen ;
- (xxxvii) Depot Superintendents and Assistant Depot Superintendents ;
- (xxxviii) Labour Officer in jute mill ;
- (xxxix) Mine worker ;
- (xl) Musicians ;
- (xli) Chemists and Assistant Chemists ;
- (xlii) Overseers and Sub-Overseers ;
- (xliii) Cinema operator and electric instructor ;

(xliv) Gate Sargeant ;

(xlv) Incharge of watch and ward staff ;

(xlvi) Outsiders rendering service as chowkidars at the residence of the Government Director."

Parliamentary Secretary (Labour): Opposed.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲) - جناب والا - میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا - اس ترمیم کو پیش کرنے کا دراصل یہی ایک طریقہ سمجھا گیا تھا کہ جو بات کہنی ہو amendment کی شکل میں اس ہاؤس میں دے دی جائے -

Mr. Deputy Speaker : Has the Member anything further to say ?

ملک محمد اختر - جناب والا - میں صرف دو چار باتیں عرض کروں گا - - -

Minister for Food : The Member was saying that he would not make a long speech . . .

Malik Muhammad Akhtar : Yes Sir, I will not make a long speech . .

جناب سپیکر - وزیر صاحب میرے لیے نہایت واجب الاحترام ہیں - میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو اس ترمیم میں workman کی definition دی ہے اور اس کے بعد جو میں نے 'and include' نکھا ہے - جناب والا میں نے نہایت محنت اور کوشش سے تمام decided cases کو لینے کے بعد - - - اگر آپ چاہیں تو میں ان کو پڑھنے کو بھی تیار ہوں - ان کے years 'references اور نمبر وغیرہ دینے کو تیار ہوں - - - وہ لوگ جو اس benefit سے - - - دیکھیے جناب والا - ہم نے اس قانون میں benefit دینا ہے - provident fund اور hours of work کا اور اس کے بعد termination of services or retrenchment پر جو

privileges ہم نے دینی ہیں۔ ان میں سے ہم اگر classes of work ۴۵ کو exclude کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی میرے دوست کا یہ کہنا ہے کہ ہم benefit of public کے لیے یہ قوانین لائے ہیں۔ جناب والا۔ بہت سے ایسے cases ہیں۔ ان cases کو میں کیا repeat کروں۔۔۔۔۔ ۴۵ کلاسز کو جو include کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے کم از کم بارہ cases میرے آگے پڑے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ تو جناب والا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کے scope کو بڑھائیں اور میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ کہ آپ نے اس امینڈمنٹ کو اتنی زحمت سے پڑھا ہے۔ میں اس پر کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف scope کو بڑھانا چاہتا ہوں اور یہ پینتالیس classes of workmen جو ہیں۔ میں صرف ان کو اس میں include کرنا چاہتا ہوں۔

وزیر محنت۔ جناب والا۔ میں اس سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ بادی النظر میں جو کچھ انہوں نے یہ ترمیم پیش کی ہے وہ غیر ضروری اور نامناسب ہے۔ میں نے اس بارے میں جو کچھ کہنا اس لیے ضروری سمجھا کہ آئینہ کے لیے وہ جو ترمیم پیش کریں شاید دوبارہ غور و غوض کرنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ وہ move ہی نہ کریں۔ جہاں تک ان کا workman کی تعریف میں یہ الفاظ تحریر کرنے کا سوال ہے 'including apprentice' جناب والا انہوں نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ یہ الفاظ بھی دیے جائیں۔ appren- workman means any person including apprentice تو جناب والا workman کی تعریف میں لایا گیا ہے۔ اگر جناب والا آپ صفحہ پانچ پر دیکھیں تو شیڈول کے آرڈر I کی subclause (5) item (5) میں apprentice جو ہے workman کی تعریف میں

پہلے ہی آچکا ہے۔ اس لیے یہ غیر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے items انہوں نے workman کی تعریف میں لانے کے لیے دیے ہیں۔ ان میں workman کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ وہ تمام صنعتی اور تجارتی اداروں کے ملازمین ہوں۔ اگر ان صنعتی اور تجارتی اداروں کے ملازمین کی حیثیت سے جو workman کی تعریف ہم نے اس قانون میں پیش کی ہے۔ وہ بیشتر اشخاص جو کہ انہوں نے اس ترمیم کے ذریعہ تجویز فرمائے ہیں۔ اگر وہ صنعتی اور تجارتی اداروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو یقیناً workman کی تعریف میں آتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کی یہ ترمیم غیر ضروری ہے۔

Mr. Deputy Speaker : I will now put the amendment to the vote of the House. The question is :

That for para. (i) of section 2 of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

“(i) “workman” means any person, including an apprentice, employed in any establishment of industry or commerce to do any skilled, unskilled manual, technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied, and includes any such person who has been dismissed, discharged or retrenched from such establishment, and such dismissal, discharge or retrenchment is the subject matter of a dispute under the West Pakistan Industrial Disputes Ordinance, 1968 and includes person or persons employed as—

- (i) domestic servants ;
- (ii) sweeper ;
- (iii) salesman ;
- (iv) an Officer trainee ;

- (v) sales representative (Travelling) ;
- (vi) sub-agent of bank ;
- (vii) Touring representative of film distribution company ;
- (viii) Watch and Ward Jamadar ;
- (ix) Watch and Ward Inspector ;
- (x) Bidi Worker ;
- (xi) Weavers ;
- (xii) Contractor treasurers and ministerial staff employed by them ;
- (xiii) Contractor agent and coolies employed by him, treated employees of the company ;
- (xiv) Fire brigade Superintendent ;
- (xv) Depot keeper and store-keeper ;
- (xvi) Touring auditor ;
- (xvii) Commission agents ;
- (xviii) Pilots and Chief pilots ;
- (xix) Contractor's men ;
- (xx) Foreman and divisional heads ;
- (xxi) Goldsmiths ;
- (xxii) Match makers ;
- (xxiii) Persons given work in Umbrella assembling business on piece rate basis ;
- (xxiv) Persons engaged by utensil manufacturers ;
- (xxv) Intermediary ;
- (xxvi) Bidi paper makers ;
- (xxvii) Independent contractor ;
- (xxviii) Persons employed by manufacturing jewellers ;
- (xxix) Incharge of a department ;

- (xxx) Air-craft maintenance ;
- (xxxI) Assistant Engineer working as shift engineer ;
- (xxxii) Checking Inspector employed by a Bus Company ;
- (xxxiii) Assistant Artist ;
- (xxxiv) District Main Engineer ;
- (xxxv) Aircraft maintenance engineers, traffic officers and station incharge ;
- (xxxvi) Distributors and salesmen .
- (xxxvii) Depot Superintendents and Assistant Depot Superintendents ;
- (xxxviii) Labour Officer in jute mill ;
- (xxxix) Mine worker ;
- (xl) Musicians ;
- (xli) Chemists and Assistant Chemists ;
- (xlii) Overseers and Sub-Overseers ;
- (xliii) Cinema operator and electric instructor ;
- (xliv) Gate Sargeant ;
- (xlv) Incharge of watch and ward staff ;
- (xli) Outsiders rendering service as chowkidars at the residence of the Government Director."

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Next amendment, Malik Muhammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I beg to move :

That after para. (i) of section 2 of the Ordinance, the following be added, namely :—

“(j) “lay-off means the failure, refusal or inability of an employer on account of shortage of coal, power or raw material or the accumulation of stock or the break-down of machinery or for any other

reason, to give employment to a worker whose name is borne on the muster-rolls of his shop, commercial establishment or industrial establishment ;”

- (k) “permanent worker” means a worker who has been engaged on a permanent basis or who has satisfactorily completed the period of his probation in the shop or the commercial or industrial establishment ;
- (l) “plantation” means any estate which is maintained for the purpose of growing cinchona, rubber, coffee or tea and includes agricultural farms under a sugar mill for growing sugar cane, employing twentyfive or more persons for that purpose ;
- (m) “public servant” shall have the same meaning as in section 21 of the Pakistan Penal Code, 1860 ;
- (n) “probationer” means a worker who is provisionally employed to fill a permanent vacancy in a post and has not completed the period of his probation ;
- (o) “retrenchment” means the termination by the employer of services of worker, not as a measure of punishment inflicted by way of disciplinary action, but on the ground of redundancy”.

Mr. Deputy Speaker : Malik Sahib, do you think, that the numbering of this amendment is alphabetically correct ?

Malik Muhammad Akhtar : Even if it is accepted the Drafting Committee can amend it. It is not harmful and does not bring in anything ungrammatical or objectionable. It is in order.

Mr. Deputy Speaker : Amendment moved is :

That after para. (i) of section 2 of the Ordinance, the following be added, namely :—

- “(j) ‘lay-off’ means the failure, refusal or inability of an employer on account of shortage of coal, power or raw material or the accumulation of stock or the breakdown of machinery or for any other reason, to give employment to a worker whose name is borne on the muster-rolls of his shop, commercial establishment or industrial establishment ;
- (k) ‘permanent worker’ means a worker who has been engaged on a permanent basis or who has satisfactorily completed the period of his probation in the shop or the commercial or industrial establishment ;
- (l) “plantation” means any estate which is maintained for the purpose of growing cinchona, rubber, coffee or tea and includes agricultural farms under a sugar mill for growing sugar-cane, employing twenty-five or more persons for that purpose ;
- (m) “public servant” shall have the same meaning as in section 21 of the Pakistan Penal Code, 1860.
- (n) “probationer” means a worker who is provisionally employed to fill a permanent vacancy in a post and has not completed the period of his probation ;
- (o) “retrenchment” means the termination by the employer of services of worker, not as a measure of punishment inflicted by way of disciplinary action, but on the ground of redundancy.”

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲) - وزیر متعلقہ فرما رہے ہیں کہ
lay of کی صورت میں پہلے ہی protection دے دی ہے لیکن lay of کی

کوئی definition نہیں کی گئی -

وزیر محنت - اسے پڑھیے - اس میں موجود ہے -

ملک محمد اختر - اگر ہو بھی تو میں اس سے مختلف definition دینا چاہتا ہوں - lay of definition میں یہ آنا چاہیے کہ lay of genuine قسم کی ہو - مثلاً بجلی کا failure یا مشینری کا failure یا ایسے reasons ہوں جو beyond the power ہوں اور وہ employees کے حق میں ہوں - لیکن آپ تو وہ provisions لائیں گے جو employer کے حق میں ہوں -

اس کے بعد میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ مشرقی پاکستان میں جو قوانین نافذ ہیں وہ مغربی پاکستان میں کیوں جائز نہیں اگر حکومت مشرقی پاکستان اور حکومت مغربی پاکستان کے سلسلہ میں آپ parity رکھنا چاہتے ہیں تو جرگہ اور ایسے دوسرے قوانین کے لیے parity رکھنے سے کیوں گھبراتے ہیں - یہاں مغربی پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح deal کیا جاتا ہے اور من مانی کارروائی کی جاتی ہے - آئین میں اگر یکسانیت چاہتے ہیں تو Labour Laws میں بھی کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں تو بڑا فرق ہے -

ع - چہ نسبت خاک را بہ عالم پاک

کیا آپ نے کبھی اس چیز کا مطالعہ کیا ہے کہ ان کو کیا سہولتیں اور مراعات حاصل ہیں - ان کو جو سہولتیں میسر ہیں - آپ وہ سہولتیں یہاں نہیں پائیں گے - جناب سپیکر - میں نے permanent workers کی مختلف definitions کرنے کی کوشش کی ہے - میرے نزدیک وہ بھی permanent worker ہے جس نے تسلی بخش کام کیا ہے - اس کے علاوہ

۶ ماہ یا ایک سال کا probation period ختم ہونے کے بعد کوئی ملازم permanent تصور ہوگا۔ جس طرح تمام سرکاری دفاتر۔ لوکل سیلف گورنمنٹ کے ادارے۔ autonomous اور semi-autonomous اداروں میں probation period گزارنے کے بعد ملازم کو permanent قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں اس چیز کا فقدان ہے۔ ہر public servant کو کچھ privileges ہوتی ہیں پھر اس کی کچھ liabilities بھی ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہاں قانون میں نقص رکھ دیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پبلک سرونٹ کو پریولیجز ہونی چاہئیں۔ وہاں ان لوگوں کو جنہوں نے انسپکٹر کے طور پر کام کرنا ہے یا دیگر افسران کو وہاں ایسی liabilities بھی ہونی چاہئیں کہ وہ قانون کے تحت liable ہوں کہ وہ خاص حالات میں کسی جرم کا ارتکاب کریں تو ان پر بھی وہی قوانین لاکو ہوں جو دوسرے لوگوں پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں نے probation کو define کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی permanent vacancy کے against کام کرنے والے کے لیے کچھ عرصہ مقرر کیا جائے اور وہ عرصہ گزرنے کے بعد اس کو permanent کر دیا جائے۔

retrenchment کے متعلق بڑے دعوے کئے گئے ہیں۔ لیکن اس کی definition out of place ہے۔ اس کو اس طرح define کرنا چاہئے جس طرح میں نے کیا ہے۔

Mr. Deputy Speaker : The question is :

That after para. (i) of section 2 of the Ordinance, the following be added, namely :—

“(j) “lay-off” means the failure, refusal or inability of an employer on account of shortage of coal, power or raw material or the accumulation of stock or the break-down of machinery or for any other reason, to give

- employment to a worker whose name is borne on the muster-rolls of his shop, commercial establishment or industrial establishment ;”
- (k) “permanent worker” means a worker who has been engaged on a permanent basis or who has satisfactorily completed the period of his probation in the shop or the commercial or industrial establishment ;
- (l) “plantation” means any estate which is maintained for the purpose of growing cinchona, rubber, coffee or tea and includes agricultural farms under a sugar mill for growing sugar cane, employing twenty-five or more persons for that purpose ;
- (m) “public servant” shall have the same meaning as in section 21 of the Pakistan Penal Code, 1860 ;
- (n) “probationer” means a worker who is provisionally employed to fill a permanent vacancy in a post and has not completed the period of his probation ;
- (o) “retrenchment” means the termination by the employer of services of worker, not as a measure of punishment inflicted by way of disciplinary action, but on the ground of redundancy.”

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : No amendment to clauses 3 and 4. Clause 5, Malik Muhammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I beg to move :

That in section 5 of the Ordinance, between the words “English” and “and” occurring in line 3, the words and comma, “and Urdu,” be substituted.

Mr. Deputy Speaker : Amendment moved is :

That in section 5 of the Ordinance, between the words “English” and “and” occurring in line 3, the words and comma, “and Urdu,” be substituted.

Minister of Labour : I accept it.

Mr. Deputy Speaker : As there is no opposition to the amendment, it, therefore, stands carried.

Next. Khawaja Muhammad Safdar. Is Khawaja Sahib moving his amendment ?

خواجہ محمد صفدر - وزیر صاحب نے کچھ غلطی کی ہے - اس میں انہوں نے تین زبانوں کے متعلق کہا ہے - یعنی اردو ، انگریزی اور تیسری کوئی لوکل زبان - لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ انگریزی کو بالکل اڑا دیا جائے اور صرف دو زبانیں کر لیں - اگر آپ میری بات مان لیتے ہیں تو پھر یہ صورت ہوتی ہے -

Mr. Deputy Speaker : After they have accepted the amendment of Malik Akhtar.....

خواجہ محمد صفدر - آپ میری ترمیم مان لیں تو زیادہ صحیح ہے -

Mr. Deputy Speaker : After having accepted the amendment of Malik Muhammad Akhtar the Member's amendment becomes out of order.

خواجہ محمد صفدر - اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے - کیونکہ میں تو انگلش کو حذف کرانا چاہتا ہوں -

Mr. Deputy Speaker : The amendment is ruled out of order.

مسٹر حمزہ - کیا وزیر موصوف بتائیں گے کہ مغربی پاکستان میں جب خصوصی طور پر دفتری زبان اردو ہو گئی ہے تو پھر مزدوروں کے لئے انگریزی کیوں رکھنا چاہتے ہیں -

Mr. Deputy Speaker : That is not before the House Mr. Hamza. The matter is finished.

مسٹر حمزہ - جناب ہم مستقبل کے لئے قوانین بنا رہے ہیں - ہمیں آگاہ کر دیا جائے -

Mr. Deputy Speaker : There is no amendment to section 6. There is an amendment by Malik Akhtar to section 7.

Malik Muhammad Akhtar : Sir I beg to move—

That in sub-section (1) of section 7 of the Ordinance, for the word "five" occurring in line 4, the word "ten" be substituted.

Mr. Deputy Speaker : Amendment moved is—

That in sub-section (1) of section 7 of the Ordinance, for the word "five" occurring in line 4, the word "ten" be substituted.

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed Sir.

ملک محمد اختر - جناب سپیکر - میری ترمیم سے یہ قرار دیا جائے گا کہ

"An employer who modifies the Standing Orders as applicable to his industrial or commercial establishment, otherwise than in accordance with section 4, shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees, and in the case of a continuing offence with a further fine which may extend to two hundred rupees for everyday after the first during which the offence continues."

جناب والا - میں نے ۵ ہزار کی بجائے ۱۰ ہزار کا جرمانہ تجویز کیا ہے۔ اگر کوئی مالک ان سٹینڈنگ آرڈرز کی خلاف ورزی کرے تو اس کے لئے میرے پاس اسباب ہیں اسباب یہ ہیں کہ اب دن بہ دن روپے کی وقعت گرتی جا رہی ہے تو کسی بھی بڑے انڈسٹریلسٹ کے لئے ۵ ہزار روپے جرمانہ ادا کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ ابھی کل ہی جناب والا - آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ ایک نہایت ہی مستند اور گورنمنٹ کے اقتصادیات کے ماہر نے کہا ہے کہ یہاں دولت صرف ۲ خاندانوں میں چلی گئی ہے تو جناب والا - وہ ۲ خاندانوں میں سے کوئی انڈسٹریلسٹ اگر ان سٹینڈنگ آرڈرز کی خلاف ورزی کرے گا تو اس

کو پانچ ہزار روپے جرمانہ دے دینا کچھ نہیں معلوم ہو گا۔ ہمیں ان کو موقع نہ دینا چاہیے اور اس قانون کو سخت کر کے ۵ ہزار کی بجائے ۱۰ ہزار جرمانہ رکھنا چاہئے۔ اگر وہ کسی صورت سے ڈیوٹی کے اوقات یا provident فنڈ، چھٹیوں، نوکری کے خاتمہ اور retrenchment کے قواعد کا breach کرتا ہے تو اس کے لئے پانچ ہزار روپیہ جرمانہ کم ہے اس کو ۱۰ ہزار روپے جرمانہ ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔

Mr. Deputy Speaker : The question is —

That in sub-section (1) of section 7 of the Ordinance, for the word "five" occurring in line 4, the word "ten" be substituted.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Next amendment by Khawaja Muhammad Safdar.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir I beg to move—

That in sub-section (1) of section 7 of the Ordinance, between the words "first" and "during" occurring in line 7, the word "day" be inserted.

Mr. Deputy Speaker : Amendment moved is—

That in sub-section (1) of section 7 of the Ordinance, between the words "first" and "during" occurring in line 7, the word "day" be inserted.

Parliamentary Secretary (Labour) : Accepted Sir.

Mr. Deputy Speaker : As there is no opposition to the amendment, it, therefore stands accepted.

Next amendment by Malik Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Sir I beg to move—

That in sub-section (2) of section 7 of the Ordinance, for the word "one" occurring in line 4, the

word "five" be substituted.

Mr. Deputy Speaker : Amendment moved is—

That in sub-section (2) of section 7 of the Ordinance, for the word "one" occurring in line 4, the word "five" be substituted.

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed Sir.

ملک محمد اختر - جناب سپیکر - میری گزارش یہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو اس طرح سے ترمیم کر لیا جائے۔

Any employer who does any act...

Mr. Deputy Speaker : That is clear from the Member's amendment; no need to read it; he wants Rs. 500 to be there.

ملک محمد اختر - جناب والا - یہ سٹیڈنگ آرڈرز جو ایسے کارخانوں یا کمرشل اداروں سے متعلق ہوں جن کے مالکان ان کی خلاف ورزی کریں تو ان پر ۱۰۰ روپے کی بجائے ۵۰۰ روپے جرمانہ کیا جائے۔

Mr. Deputy Speaker : The question is—

That in sub-section (2) of section 7 of the Ordinance, for the word "one" occurring in line 4, the word "five" be substituted.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Next amendment by Malik Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Sir I beg to move—

That in sub-section (2) of section 7 of the Ordinance, for the words "twenty-five rupees" occurring in line 6, the words "one hundred rupees" be substituted.

Mr. Deputy Speaker : Amendment moved is—

That in sub-section (2) of section 7 of the Ordinance, for the words "twenty-five rupees" occurring in line 6, the words "one hundred rupees" be substituted.

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed Sir.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲) - جناب سپیکر۔ میرا argument صرف اس قدر ہے کہ industrialist کے لئے ۲۵ روپے جرمانہ بہت کم ہے آج کل تو ٹریفک کے چالان میں ۱۵ روپے جرمانہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے انڈسٹریلسٹ پر جس کے کئی ٹیکسٹائل مل ہوں جس کے کئی جوٹ مل ہوں اونٹ کے منہ کو زیرہ کے طور پر ۲۵ روپے روزانہ کی آپ سزا دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ جناب وزیر متعلقہ ایک ترمیم کے ذریعہ ۲۵ روپے کو حذف کر دیں یعنی ان کے حال پر مزدوروں کو چھوڑ دیں اور وہ جس قدر چاہیں مزدور طبقہ پر ظلم کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ مزدوروں کو انڈسٹریلسٹ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہیں اور پھر ۱۰ لاکھ مزدور مجبور ہو کر جن کو آپ نے ۲۰ خاندانوں کا غلام بنا دیا ہے ایک دن انقلاب پیدا کر دیں اور اس انقلاب کی وجہ سے حکومت تمام صنعتوں کو قومیا نے پر مجبور ہو جائے اور حکومت میں ایسے نمائندے آجائیں جو مزدوروں کے نمائندے ہوں۔

Mr. Deputy Speaker : The question is—

That in sub-section (2) of section 7 of the Ordinance, for the words "twenty-five rupees" occurring in line 6, the words "one hundred rupees" be substituted.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Next amendment by Mian Miraj Din.

Parliamentary Secretary (Labour) (Mian Miraj Din) : Sir I beg to move—

That in sub-section (2) of section 7 of the Ordinance, between the words 'first' and 'during' occurring in lines 6 and 7, the word "day" be inserted.

Mr. Deputy Speaker : Amendment moved, the question is :

That in sub-section (2) of section 7 of the Ordinance, between the words 'first' and 'during' occurring in lines 6 and 7, the word 'day' be inserted.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Next motion by Malik Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Sir I beg to move—

That in sub-section (3) of section 7 of the Ordinance, for the word "one" occurring in line 4, the word "five" be substituted.

Mr. Deputy Speaker : It is ruled out of order because a similar amendment has already been accepted.

Mr. Deputy Speaker : Next amendment by Malik Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Sir I beg to move —

That in sub-section (5) of section 7 of the Ordinance, between the word "Inspector" and full-stop appearing at the end, the words "and on the application of the aggrieved party" be inserted.

Mr. Deputy Speaker : How does it make sense ?

Malik Muhammad Akhtar : I think I may be allowed to withdraw it; there is a mistake in it.

Mr. Deputy Speaker : The amendment is ruled out of order. Next amendment.

Malik Muhammad Akhtar . I beg to move—

That section 8 of the Ordinance be deleted and subsequent sections re numbered accordingly.

Mr. Deputy Speaker : Amendment moved is :

That section 8 of the Ordinance be deleted and subsequent sections re-numbered accordingly.

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲) - جناب سپیکر۔ یہ نہایت ہی اہم

دفعہ ہے۔ اس قانون کو جس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ حکومت جن شرائط پر چاہے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے کسی بھی صنعتی یا تجارتی ادارے کو جو کہ ہم اس آرڈیننس کے ذریعے سے نافذ کر رہے ہیں اس کو exempt کر دے۔ جناب والا۔ دراصل یہ مسئلہ نہایت ہی نازک ہے۔ delegated legislation یا کسی قانون سے کسی شخص کو مستثنیٰ قرار دینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ justice good conscience اور equity کے خلاف ہے۔ جناب والا۔ اب ایک وقت آ رہا ہے کہ اس معزز ایوان اور ایوان بالا میں اور آئندہ انتخابات میں صنعت کاروں کا اس حکومت میں بہت بڑا حصہ ہوگا۔

It is a misery that I am not being attended to neither by any of the Ministers nor by the Leader of the House.

Mr. Deputy Speaker : Go ahead Malik Sahib.

ملک محمد اختر۔ جناب سپیکر۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی چابکدستی دیکھیں۔ یہ لاہور والوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ یہ مزدوروں کا مسئلہ ہے۔ جناب والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل تو میرے ساتھ ہوں گے جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو ایسے اختیارات دے دینا کہ اگر کل کو جناب پارلیمنٹری سیکرٹری کوئی فیکٹری لگانا چاہیں یا کوئی اور دوست جو با اثر ہو تو اس پر یہ سٹینڈنگ آرڈرز لاگو نہیں ہوں گے تو اس طرح میں سمجھتا ہوں تمام قانون کو negative کرنا ہے اور آپ کا جو آرڈیننس ہے وہ مشروط اور discretionary proviso بن کہ رہ جاتا ہے۔ آپ ان پر proviso لگاتے ہیں۔ میاں معراج الدین مجھ سے اتفاق فرمائیں گے کہ جو کچھ میں عرض کرتا ہوں وہ درست ہے۔ کبھی تو وہ حد مقرر کرنے کی شرط لگاتے ہیں کہ حکومت کسی ادارے کو

exempt کرتے وقت یہ فیکٹرز ملحوظ خاطر رکھے گی اور شرط یہ لگے کہ حکومت جس صنعتی یا تجارتی ادارے کو چاہے سٹینڈنگ آرڈر سے مستثنیٰ قرار دیدے۔ جناب والا۔ یہ کیا قانون سازی ہے۔ یہ تو قانون سازی سے مذاق ہے۔ جناب والا۔ حکومت کو اختیارات دینا جب کہ اس پر زیادہ تر صنعت کار قابض ہیں میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے۔ میں جناب وزیر محنت کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ پہلے مزدوروں کو یقین دہانی کرائیں کہ ان کے مفادات کا پورا پورا تحفظ کیا جائیگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی پاکٹ یونین میں یہ جرأت نہیں کہ وہ برملا یہ کہیں کہ یہ قوانین اچھے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ برے قوانین ہیں بلکہ یہ سیاہ قوانین ہیں۔ یہ مزدوروں کا گلا گھونٹنے والے قوانین ہیں۔ یہ صنعت کاروں کا بیمہ کرنے والے قوانین ہیں۔ جناب والا۔ جناب والا۔ وزیر لیبر ان کے حق میں کسی طبقہ کی طرف سے ماسوائے ان چند بیانات کے جو کہ انہوں نے خود دیئے ہیں ایک بیان بھی اگر پیش کر دیں تو میں ان سے اتفاق کر لوں گا۔ آج مغربی پاکستان میں ہیجان برپا ہے۔ خواجہ صاحب اتفاق کریں گے کہ آج سرمایہ دارانہ غریب پریشان حال مزدوروں پر جو کہ بے زبان ہیں ظلم کر رہے ہیں۔ ان پر ظلم کیا جاتا ہے اور وہ بیچارے اپنی تکلیف کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس وقت صوبے میں لیبر قوانین سخت قسم کے ہیں جنہوں نے مزدور طبقہ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ۱۹۷۰ء میں انتخابات آ رہے ہیں اور ۱۹۶۸ء میں ایسی ترمیم لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مزدوروں پر موناہلی حاصل کر لیں اور جس طرح چاہیں ان کو چلا لیا جائے۔ جناب والا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں تمام کے تمام مزدور اور خاص کر اس صوبے میں اعداد و شمار

کے مطابق ۱۰ لاکھ مزدور ہیں اور میں سمجھتا ہوں ان ۱۰ لاکھ مزدوروں پر انتہائی ظلم کئے گئے ہیں اور میرے نقطہ نگاہ سے اس کی وجہ یہ سیاہ قوانین ہیں۔ میں ملک کا خیر خواہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان زندہ رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں وہی ہوگا جو ہر صنعتی انقلاب کے بعد ہر ملک میں ہوا اور جناب والا تشدد کے ذریعے سے دبانے والے آج کان کھول کر سن لیں کہ وہ آج محب وطن قوم کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اس کلاس سے کھیل رہے ہیں جن کی آئندہ ۲۰ سالوں میں تعداد تین کروڑ ہوگی۔ اور جناب سپیکر مثل کلاس طبقہ تو ختم ہو چکا ہے۔ آج کسی لینڈ لارڈ کا کوئی ایسا بچہ نہ ہوگا جس کو کپڑا پہننے کے لئے میسر نہ ہو۔ یہ سیاہ قوانین حکومت اس ملک میں لا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک میں ایک خونین انقلاب لائیں گے۔ اس آرڈیننس کے ذریعے حکومت نے خونین انقلاب کو لٹاکرا ہے۔ مزدوروں کو مراعات جو گذشتہ ۳ سال سے حاصل تھیں ان کو بیک جنبش قلم ختم کر کے رکھ دیا ہے۔

Mr. Deputy Speaker : Yes, Khawaja Sahib.

Khawaja Muhammad Safdar : My friend will be speaking.

Mr. Deputy Speaker : Alright. Yes, Mr. Hamza.

مسٹر حمزہ (لاہور۔ ب)۔ جناب سپیکر۔ میں صبح سے جب سے یہ ہنگامی قانون زیر بحث ہے دیدہ و دانستہ خاموش رہا ہوں۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ابھی میرے خیال میں وہ صبح اس ملک میں طلوع نہیں ہوئی جب حکومت مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کیا کرے گی۔ جناب وزیر، محنت نے اپنے ارشادات میں فرمایا ہے کہ اس قانون کے ذریعے یا

ہنگامی قانون کے ذریعے یہ حکومت اب صنعتی اور تجارتی ملازمین کے حقوق کی حفاظت کرنا چاہتی ہے اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قانون ۱۹۶۰ء کے ہنگامی قانون کے مقابلہ میں کئی لحاظ سے بہتر ہے۔ دو مساوی فریقین میں باقاعدہ سودا بازی ہو سکتی ہے لیکن جہاں ایک فریق بالکل کمزور ہو وہ سودا بازی نہیں کر سکتا اگر کوئی سودا بھی کرے گا وہ ہمیشہ کھائے کا ہوگا۔ ہماری طرف سے یہ ترمیم پیش کی گئی ہے کہ اگر ایسے صنعتی یا تجارتی اداروں کے ملازمین ہڑتال پر جانے ہیں یا سست روی اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ اسے نا معقول حرکت قرار نہ دیں۔ "misconduct" کی تعریف میں اسے شامل نہ کریں۔ لیکن جناب وزیر محنت نے اسے پسند نہیں کیا۔ آپ کو عام ہوگا کہ اس ملک میں مزدور انجمنوں اور صنعتی تنازعات کے آرڈیننس موجود ہیں ان کے تحت مزدوروں کا ہڑتال پر جانا یا سست روی اختیار کرنا قطعاً ناممکن ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی گنجائش رکھی گئی ہے تو محض دکھلاوے کے لئے ہے۔ بلکہ مزدوروں کے ہڑتال پر جانے سے پہلے ان پر ایسی پابندی عائد کی گئی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر مزدور جب کبھی ہڑتال پر جائے گا تو خلاف قانون ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اس ملک میں مزدور تحریک تقریباً ختم اور حکومت اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اس طرح ہماری حکومت نے مزدوروں کے ساتھ کوئی انصاف نہیں بلکہ صنعت کاروں اور تجارتی اداروں کے بڑے بڑے مالکان سے مل کر مزدوروں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ جناب سپیکر۔ اگر مزدوروں کے مسائل حل کرنے کی محکمہ محنت نے کوئی کوشش کی ہے تو یہ ہے کہ اس نے ایک بڑا کامیاب نسخہ تجویز کیا ہے

کہ مزدوروں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے کہ وہ ختم ہو جائیں یعنی ان کی زندگی ختم ہو جائے۔ میرے نزدیک حکومت کی یہ پالیسی اس حد تک خطرناک اور بنیادی طور پر نقصان دہ ہے کہ اس قسم کے چھوٹے موٹے قانون لا کر اور ایسے تعینات مہیا کر کے حکومت مزدوروں کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ جناب سپیکر۔ اس ملک میں بہت بڑی تعداد غریب لوگوں اور مزدوروں کی ہے۔ جیسا کہ جناب ملک اختر صاحب نے فرمایا ہے کہ دولت تو دن بدن چند لوگوں اور افراد کے ہاتھوں میں سمٹ رہی ہے۔ اگر یہ نمائندہ حکومت ہوتی تو لازمی طور پر اس ملک کی آبادی کا جو بڑا حصہ ہے اس کے مفادات کی حفاظت کرتی۔ لیکن آپ نے پچھلے کئی ایک سالوں میں دیکھ لیا ہے کہ ہمارے حکمران بچائے اس کے کہ وہ مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کرتے وہ خود صنعتکار بننے کے جنون میں مبتلا ہیں۔ شاید انہوں نے صنعت کاروں کو عیش و عشرت کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب اس قسم کی حکومت برسر اقتدار آجائے جو سرمایہ اور دولت کو جزو ایمان بنا لے تو وہ کس طرح صنعت کاروں پر کنٹرول یا محنت کشوں کے حقوق کی حفاظت کر سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معمولی سے قانون میں جسے میں محض کاغذ کا ایک پرزہ سمجھتا ہوں جس پر چند حروف لکھے گئے ہیں۔ اس میں بھی اس دفعہ کو شامل کر کے حکومت نے عملی طور پر اس کی افادیت کو ختم کر دیا ہے۔ اور اپنی نیک نیتی یا بد نیتی کا عملی ثبوت مہیا کیا ہے۔ حکومت عالیہ کے پاس اب یہ اختیار ہے کہ وہ کسی صنعتی یا تجارتی ادارے کو اس قانون کی کسی ایک دفعہ یا تمام کی تمام دفعات سے مستثنیٰ قرار دے دے۔ یہ انتہائی وسیع اختیار ہے۔ یہ ایسا

اختیار ہے جو اس تمام قانون کو بے معنی بنا کے رکھ دیتا ہے۔ آخر حکومت کو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔

جناب سپیکر۔ آپ کو بھی اس کا علم ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان نیشنل بینک کے /ملازموں نے اپنے مطالبات منوانے کے لئے جدوجہد کی تھی۔ ہماری حکومت نے جب کبھی یہ دیکھا کہ کہیں مزدور طاقت پکڑتا ہے یا اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو اس نے فوراً اس صنعتی یا تجارتی ادارے یا بینک کو لازمی سروس قرار دے دیا۔ اس صورت میں تمام کے تمام کاغذی حقوق جو مزدوروں کو دیئے گئے ہیں معطل اور بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اگر حکومت نے مزدوروں کو معمولی نوعیت کے بعض حقوق دیئے ہیں۔ ایک ہاتھ سے دیتی ہے اور دوسرے سے واپس لے لیتی ہے۔ غالباً یہ کار خیر آپ کی قسمت میں نہیں لکھا گیا ہے۔ جناب سپیکر۔ آج سے دو تین روز پہلے اس ایوان کے ایک معزز رکن نے یہاں انتظامیہ اور مقننہ کے رشتے کی مثال دی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ مقننہ کا درجہ شوہر کا ہے اور انتظامیہ اس کی بیوی ہوتی ہے۔

ملک محمد اختر۔ ہوائنٹ آف آرڈر۔ جناب والا۔ بیوی بھی گھر میں حاکم ہوتی ہے۔

مسٹر ڈپٹی سپیکر۔ یہ کوئی ہوائنٹ آف آرڈر نہیں۔

مسٹر حمزہ۔ جناب سپیکر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں عورت کا مقام بہت بلند ہے۔ ہم عورتوں میں سے ہیں اور عورتیں ہم میں سے۔ لیکن انور عزیز صاحب نے جو مثال دی تھی اس میں ایک بنیادی/غلطی تھی۔ میں اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ

فرمایا تھا کہ مقننہ کی مثال اس ملک/میں شوہر کی ہے اور انتظامیہ کی حیثیت اس کی ایک تابعدار بیوی کی ہے۔ انتظامیہ کا یہ فرض ہے/کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اس کے احکام کی بجا آوری میں نہایت مستعدی اور محنت اور یکجہتی/کا ثبوت دے۔ لیکن مجھے اس پر اعتراض ہے۔ یہ دفعہ اس امر کا بین ثبوت ہے کہ ایسا نہیں/ہے۔ جب سے اس ملک میں انقلاب برپا ہوا ہے۔ اور خصوصی طور پر اس وقت سے جب سے ایوان/میں جناب گیلانی صاحب کے ساتھ واقعہ رونما ہوا ہے۔ خصوصی طور پر پچھلے دس سال سے یہاں انتظامیہ کی/حیثیت شوہر کی سی ہے اور مقننہ اس کی بیوی کی حیثیت سے یہاں موجود ہے۔ میں پہلے بھی عرض/کر چکا ہوں کہ مقننہ قوانین بناتی ہے۔ آپ اگر اس ادارے کو مقننہ کہنا پسند کریں تو یہ بات/آپ پر چھوڑنا ہوں۔ مقننہ قوانین بناتی ہے جب گورنر صاحب ایک ہنگامی قانون جاری کرتے ہیں اس کی توثیق/کرنے پر ہم مجبور ہیں۔ توثیق کرنے کے بعد انتظامیہ کو اختیارات ہیں کہ وہ اس قانون کو جزواً یا/مکمل طور پر استعمال کرے۔ ہم نے یہ اختیارات انتظامیہ کو دے دیئے ہیں یہ مقننہ کے اختیارات کی نفی ہے۔ آپ کو عملاً ثابت کرنا چاہیے کہ مقننہ کو ایسے اختیارات حاصل ہیں وہ اختیارات جو کسی آزاد ملک کی مقننہ کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ دفعہ جس شکل میں قانون کے جسم میں موجود ہے یہ ایک کلنک کا ٹیکہ ہے ان افراد کے لئے اس قوم کے لئے جو حکومتی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا جو اس حکومت سے تعلق رکھتے ہیں جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے مقننہ کو وہ اختیارات دیئے ہیں جو کہ ان کا پیدائشی حق ہے۔

جناب سپیکر - میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مقننہ کے اختیارات آپ نے چھین لئے ہیں - پہلے بھی ان کے پاس لمبے چوڑے اختیارات نہیں ہیں - اگر ہیں تو وہ زبانی ہیں عملاً نہیں - اگر زبانی یا تحریری تھوڑے بہت اختیارات مقننہ کے پاس موجود ہیں آپ وہ بھی انتظامیہ کے سپرد کر رہے ہیں - اگر جناب وزیر محنت یہ ارشاد فرمانا پسند کریں کہ یہ حکومت جب سے برسر اقتدار آئی ہے اس نے کبھی محنت کشوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے ؟ انہوں نے آج صبح اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ اس سے پہلے جو صنعتی اور تجارتی ملازمین کے احکامات جاریہ کے قوانین تھے صنعت کاروں اور تجارتی اداروں کے مالکان نے ان پر پورے طور پر عمل نہیں کیا - ان میں بعض نقائص ہیں وہ نقائص ہم نے رفع کرنے کی کوشش کی ہے - جناب وزیر محنت ہمیں کوئی مثال دیں کہ انہوں نے کسی بڑے صنعت کار یا تجارتی ادارے کے مابک کو آج تک سزا دی ہے - آپ نے دیکھنا ہے کہ محنت کشوں کے ساتھ حکومت نے کیا سلوک کیا ہے - ان میں آج بیسیوں لوگ جیلوں میں ہیں - جو اپنے حقوق کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ضلع بدر کر دیے جاتے ہیں یا جیل یاٹرا کے لیے بھیجے جاتے ہیں جو زیادہ ڈھیٹھ قسم کے دکرائی دیتے ہیں - ان کو لاہور کے قلعہ کی تاریک کوٹھری میں بند کر دیا جاتا ہے - جناب وزیر محنت صاحب نے اپنی تقریر دلپذیر میں جو خوش آئند توقعات کا اظہار کیا تھا وہ دفعہ ۸ کے الفاظ کی رو سے قطعاً غلط تھیں - اگر وزیر محنت محنت کشوں کے حقوق کی حفاظت کرنا پسند کریں - آج صبح انہوں نے جو ارشادات فرمائے تھے ان کی بھی کچھ لاج رکھیں تو ہماری اس تجویز کی ان کو حمایت کرنی چاہیے -

وزیر محنت (ملک اللہ یار خان)۔ جناب والا۔ اس دفعہ کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی ہے کہ بعض اوقات ایسے ناگزیر حالات سے ہمیں دو چار ہونا پڑتا ہے کہ ان قوانین کا اطلاق ہمارے لیے نہ صرف مشکل ہو جاتا ہے بلکہ ناممکن بھی ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوست حمزہ صاحب کو یاد ہوگا کہ ۱۹۶۵ء کی جنگ کے دوران بارڈرز ایریا کے ساتھ یا لاهور کے نزدیک بعض ایسے ادارے تھے جو اس جنگ کے دوران توپوں کی گونہ باری کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس قسم کے حالات کے پیش نظر اگر ان قوانین کا یا ان احکام کا اطلاق ان اداروں پر بھی قائم رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کے مالکان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہوگی جن کو حکام نے مجبوری کے تحت ان حقوق کے تحفظ کے لیے پابند کیا گیا ہے اس لیے میں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کلاز رکھی جائے بلکہ محض اس لیے رکھی جائے کہ بعض انتہائی ناگزیر حالات کے پیش نظر اقدامات کئے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ صاحب ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکیں گے جہاں ہم نے جب بھی کوئی ایسی کلاز قانون میں رکھی ہے تو اس کلاز پر تیزی سے عمل درآمد کریں گے لیکن بعض ناگزیر حالات کے پیش نظر ضروری ہو جاتا ہے کہ اس قسم کی کلاز اپنے قانون میں رکھیں۔

Mr. Deputy Speaker : The question is :

That section 8 of the Ordinance be Deleted and subsequent sections renumbered accordingly.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Schedule. Para 1. Malik Muhammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : I beg to move :

That is sub-para (4) of para 1 of the Schedule of the Ordinance, after the word and comma "temporary", the word "and" be added.

Mr. Deputy Speaker : Amendment moved is :

That is sub-para (4) of para 1 of the Schedule of the Ordinance, after the word and comma "temporary" the word "and" be added.

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed.

ملک محمد اختر - جناب والا - یہ ترمیم دراصل املا کی درستی ہے۔ اگر صفحہ ۵ کو آپ ملاحظہ فرمائیں تو وہاں پر classification of workmen کی definition دی ہوئی ہے۔

Workmen shall be classified as—

- (1) Permanent,
- (2) Probationers,
- (3) badlis,
- (4) temporary,
- (5) apprentices

یہاں پر and کا لفظ ہونا چاہیے۔ اگر آپ مشرقی پاکستان کے قانون کو دیکھیں تو اس میں ۱-۲-۳-۴ اور ۵ بجائے اے-بی-سی-ڈی ہوتا ہے۔ یہاں املا کی غلطی ہے یہ ان کی مرضی ہے کہ یہ اس کو درست کر لیں۔ اگر یہ اپنی لیاقت کی عکاسی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ان کی مرضی ہے۔

Mr. Deputy Speaker : The question is :

That is sub-para (4) of para 1 of the Schedule of the Ordinance, after the word and comma "tem-

porary", the word "and" be added.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Next. Khawaja Muhammad Safdar.

خواجہ محمد صفدر - جناب والا - میں اس کو move نہیں کرنا چاہتا - کل اس کے متعلق ایوان میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ casual کے لفظ کی ضرورت نہیں ہے -

Mr. Deputy Speaker : Amendment not moved.

Mr. Hamza. (Not present). Next Malik Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I beg to move :

That in sub-para (b) of para 1 of the Schedule of the Ordinance, the words and brackets "(not being an illegal lock-out or strike) or involuntary closure of the establishment" occurring in lines 7-8 be deleted.

Mr. Deputy Speaker : Amendment moved is :

That in sub-para (b) of para 1 of the Schedule of the Ordinance, the words and brackets "not being an illegal lock-out or strike) or involuntary closure of the establishment" occurring in lines 7-8 be deleted.

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲) - جناب سپیکر - permanent work- men کی definition یہ ہے کہ مستقل کام کرتا ہو اور اس کا کام تسلی بخش بھی ہو اور کسی صنعتی یا تجارتی ادارے میں اس دوران میں کسی بیماری، حادثہ یا کسی lock-out اور سٹرائک کی وجہ سے break نہ آئی ہو یا involuntary closure کی وجہ سے break نہ آئی ہو - جناب والا - جب مزدور ہڑتال کرتے ہیں تو وہ good-faith میں کرتے

ہیں۔ جس وقت lock-out کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات وہ good-faith میں کیا جاتا ہے۔ ایک مزدور جب مستقل ہو اور وہ سٹرائک کرے اس کے بعد سٹرائک کو irregular قرار دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقل ملازمین کی ملازمت میں break آ جاتا ہے۔ یہ فی اور قانونی باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اگرچہ میرے پاس وقت کی قلت ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس تھوڑے سے وقت میں ان قوانین کی تشریح کروں۔

Mr. Deputy Speaker : The question is —

That in para (b) of para 1 of the Schedule of the Ordinance, the words and brackets "(not being an illegal lock-out of strike) or involuntary closure of the establishment" occurring in lines 7-8 be deleted.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Next amendment please.

Malik Muhammad Akhtar : Sir I beg to move—

That in sub-para (e) of para 1 of the Schedule of the Ordinance, for the word "nine" occurring in line 4, the word "six" be substituted.

Mr. Deputy Speaker : Amendment moved is—

That in sub-para (e) of para 1 of the Schedule of the Ordinance, for the word "nine" occurring in line 4, the word "six" be substituted.

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed Sir.

Mr. Deputy Speaker : There is no need to make a speech ; it is very clear.

Malik Muhammad Akhtar : Just two words, Sir, so that they know what it is about.

Mr. Deputy Speaker : Alright.

ملک، محمد اختر (لاہور - ۲) - میں صرف مختصر الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس معزز ایوان کو یہ علم تو ہو جائے کہ آخر یہ کیا ہے -

جناب سپیکر - میں صرف یہ چاہتا تھا کہ حکومت نے انتہائی نوازش کرتے ہوئے مستقل مزدوروں کی جو یہ تعریف کی ہے کہ اگر نو ماہ تک ان کا کام تسلی بخش ہو تو ان کو مستقل تصور کیا جائے گا - میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اکثر و بیشتر اداروں میں اور نیم خود مختار اداروں میں بھی بالعموم یہ مدت ایک سال ہوا کرتی ہے لیکن بسا اوقات یہ مدت چھ ماہ بھی ہوا کرتی ہے - اس لیے میں نے مزدوروں کو سہولت دینے کے لیے اور ان کو مانکان کی دہمت برد سے نجات دلانے کیلئے چھ ماہ کا عرصہ تجویز کیا ہے جسے اس آرڈیننس کے نفاذ کے بعد سے لاگو سمجھنا چاہیے -

خواجہ محمد صفدر - جناب والا - میں جناب محترم ملک اختر صاحب کی تائید کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ نو ماہ کی مدت بڑی لمبی مدت ہے اور اگر آپ اس ہنگامی قانون کے متن کو آگے چل کر ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مستقل اور عارضی ملازمین کو تو کچھ مراعات حاصل ہیں -

Mr. Deputy Speaker : In (b) we have defined "permanent workman", where it is likely to exceed nine months. Therefore, automatically it will be below nine months. Will the Member's amendment stand then ?

خواجہ محمد صفدر - بالکل بجا ارشاد ہے - لیکن میں اس کی تائید میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر تو کوئی پیغام ہونی ہی

نہیں چاہیے - آپ

“The West Pakistan Industrial and Commercial Employment (Standing Orders) Ordinance, 1960.

میں ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں عارضی ملازمین کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ

“Temporary workman” is a workman who has been engaged for work which is of an essentially temporary nature likely to be finished within a limited period.”

سابقہ قانون میں انتہائی درست طور پر میعاد مقرر نہیں کی گئی تھی بلکہ “limited period” لکھا ہوا ہے اور یہ محدود مدت دو تین ماہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے برعکس زیر بحث ہنگامی قانون میں اس مدت کا تعین نو ماہ کر کے زیادتی کی گئی ہے - اسی طرح مشرقی پاکستان میں بھی اسی قسم کا جو قانون نافذ ہے - اس میں اس لفظ کی یہ تعریف کی گئی ہے - اس میں بھی اس کی تعریف یہی کی گئی ہے جو کہ میں نے پہلے پڑھی ہے -

In this Ordinance they have defined this word as :

“Temporary worker” is a worker who has been engaged for work which is essentially of a temporary nature and is likely to be finished within limited period.”

تو دراصل ہم نے مزدوروں پر یہ مزید سختی روا رکھی ہے - ہم ان کو جو رعایات دینا چاہتے ہیں - وہ ایک ہاتھ سے دیکر دوسرے ہاتھ سے چھین لیتے ہیں - مثلاً ایک کارخانہ دار ایک مزدور کو نو ماہ تک عارضی طور پر اپنے ہاں ملازم رکھتا ہے تو ایسے اس کو مستقل کرنے کی کیا

ضرورت پڑی ہے۔ کیونکہ اگر نو ماہ کے بعد وہ اسے ملازمت سے نکال دے تو اس طرح اس ملازم کی gratuity اور provident fund وٹیرہ بھی ضائع ہو جائے گا۔

وزیر محنت - ایسا نہیں ہوگا۔

خواجہ محمد صفدر - اس لیے یہ میعاد اور مدت کم از کم ہونی چاہیے جیسا کہ مشرق پاکستان کے متعلقہ قانون میں موجود ہے۔ اس سے پہلے اسی موضوع پر مغربی پاکستان کا ایک ہنگامی قانون تھا کہ جسے میں نے یہاں پڑھا ہے۔ دراصل زیر بحث ہنگامی قانون کے تحت مزدوروں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ آپ 'limited' کی وضاحت کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ ضروری طور پر دو چار مہینے کی مدت ہوگی۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ چھ ماہ کی میعاد کو قبول کر لیا جائے۔

وزیر محنت (ملک اللہ یار خان) - جناب والا۔ میں اس کی وضاحت کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب خواجہ محمد صفدر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اس قانون میں اس سے پہلے محدود عرصہ کے متعلق جو شق ہے وہی ٹھیک ہے۔ حالانکہ میں نے آج صبح اس بارے میں جو تقریر ایوان میں کی تھی اس میں یہ عرض کیا تھا کہ ایسے مزدوروں کی تعداد بھی بہت ہے کہ نو دس مہینے تک کسی ادارے میں کام کرنے کے باوجود بھی آپ ان کو نکال سکتے ہیں۔ اسی لئے اس میعاد کی وضاحت کرنا ضروری سمجھا گیا۔ اس کے متعلق جناب خواجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اس میعاد کی وضاحت کر کے ہم نے مزدوروں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں ان کے جواب میں صرف یہی عرض کروں گا کہ یہ ان کا

حسن ظن ہے۔ کیونکہ ہم نے تو اس میعاد کے مقرر کر دینے سے ان ہزارہا مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ اس سے قبل آٹھ دس سال تک کسی ادارے میں کام کرتے رہنے کے باوجود بھی ان سہولتوں سے محروم تھے۔

Mr. Deputy Speaker : The question is—

That in sub-para (e) of para. 1. of the Schedule of the Ordinance, for the word "nine" occurring in line 4, the word "six" be substituted.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Next amendment by Khawaja Muhammad Safdar.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir I beg to move —

That for sub-para (f) of para. 1 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

“(f) An “apprentice” is a learner who is paid an allowance during the period of his training, but such period shall not exceed twelve months.”

Mr. Deputy Speaker : Amendment moved is—

That for sub-para (f) of para. 1 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted namely :—

“(f) An “apprentice” is a learner who is paid an allowance during the period of his training, but such period shall not exceed twelve months.”

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed Sir.

خواجہ محمد صفدر (سیالکوٹ - ۱) - جناب والا - اس خطرے کے پیش نظر کہ قانون کو غلط طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور جیسا کہ

ابھی ابھی میری سابقہ ترمیم کے جواب میں محترم ملک اللہ یار صاحب وزیر محنت نے تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ بعض کارخانہ دار تو دس سال تک ملازمین کو عارضی طور پر رکھتے ہیں اور ان کو مستقل نہیں کیا جاتا۔ تو اب میں ان کی ہی پیش کی ہوئی دلیل ان کو یاد دلاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ بارہ مہینے کی میعاد مقرر کرنے کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔

وزیر محنت (ملک اللہ یار خان)۔ جناب والا۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں اور جناب خواجہ محمد صفدر صاحب بھی اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہوں گے کہ ہمارے صنعتی اور تجارتی اداروں میں بہت سی ایسی trades ہیں کہ جن کے لیے بارہ مہینے نہیں بلکہ دو سال کی تربیت کی ضرورت پڑتی ہے اور ایسی trades بھی ہیں کہ جہاں پر چھ مہینے کی تربیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اس میعاد کو محدود کرنا کارخانہ داروں کے مفاد کے منافی بھی ہو سکتا ہے اور مزدوروں کے اپنے مفاد کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی trades بھی ہیں جن کے لیے صرف تین چار مہینے کی تربیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کو اس کے بعد بھی مستقل مزدور سمجھا جائے گا۔ علاوہ ازیں بعض دیگر اس قسم کی trades بھی ہیں کہ جن کے لیے دو تین سال کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً Automobile Engineering ہے۔ Aeronautical Engineering ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان trades کے لیے بارہ ماہ کی تربیت کم ہے۔ ان کاموں کے لیے کم از کم دو تین سال کی تربیت کی ضرورت ہے۔ لیکن ایسے کام بھی ہیں کہ جنکی تربیت کے لیے چھ

مہینے کی مدت کافی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں کوئی حد مقرر کر دینا
مزدوروں کے مفاد کے متافی ہوگا۔

Mr. Deputy Speaker : The question is—

That for sub-para (f) of para. 1 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted namely :—

(f) An "apprentice" is a learner who is paid an allowance during the period of his training, but such period shall not exceed twelve months."

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Next amendment.

Khawaja Muhammad Safdar : I am not moving it because the word 'casual' has not been accepted by the House.

Mr. Deputy Speaker : Not moved. Next.

Mr. Hamza : Not moving.

Mr. Deputy Speaker : The amendment is not moved. Next amendment.

Khawaja Muhammad Safdar : I am not moving it on the same grounds.

Mr. Deputy Speaker : The amendment is not moved. Next amendment.

Malik Muhammad Akhtar : I beg to move—

That in para 6 of the Schedule of the Ordinance, the comma and words "if they present themselves at the time of the restarting of the shift", occurring in lines 20-21, be deleted.

Mr. Deputy Speaker : Amendment moved is :

That in para 6 of the Schedule of the Ordinance, the comma and words "if they present themselves at the time of the restarting of the shift", occurring in lines 20-21, be deleted.

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲) - جناب صدر - اس پر میں صرف دو جملے عرض کروں گا - اس سیکشن میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ جب کسی جگہ کوئی کام discontinue ہو جائے اور پھر اگر وہی کام دوبارہ شروع کیا جائے تو ان لوگوں کو ہی کام پر لگایا جائے گا جن کو کام کے discontinue ہونے پر الگ کیا گیا تھا یا وہ پہلے کام کر رہے تھے - جناب والا انہوں نے یہ شرط لگائی ہے -

“.....Shall if they present themselves at the time of the restarting of the shift.....”

یہ جو شرط ہے کسی ناگہانی سبب یا وجوہات کی بنا پر جو beyond the powers of the employees ہوں جب کسی کارخانہ میں جس کو بند کیا جائے دوبارہ کام شروع کیا جائے تو میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو لازماً لگایا جائے جو لوگ شفٹ کے بند ہونے تک کام کر رہے تھے جناب والا - کسی کی سروسز کو terminate کرنے کے لیے standing orders میں یہ شرط قرار دی گئی ہے کہ اگر تو وہ مستقل آدمی ہے تو اس کو اتنی مدت کا نوٹس دیا جائے گا اور اگر مستقل نہیں تو اس کو اتنی مدت کا نوٹس دیا جائے گا - لیکن اگر شفٹ discontinue کر دی جاتی ہے اور پھر اگر کام دوبارہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور وہ آدمی اگر اس دن حاضر نہیں ہوتا جس دن کام کی recommencement کی جائے تو وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا - یعنی ان الفاظ سے تمام کے تمام standing orders nullify ہو کر رہ جاتے ہیں - جناب اس کے تمام rights privilege اور permanency وغیرہ ختم ہو جائیں گی - جناب والا تمام مزدور شہروں میں بھی

نہیں رہتے - مزدور اسی وقت جب یا تو چوٹی کا دن ہو یا اتذق سے کام بند ہو جائے - اپنے اپنے گاؤں میں چلے جاتے ہیں - تو اگر کسی وجہ سے کام discontinue ہو گیا اور مزدور گاؤں میں گیا ہوا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں کارخانہ دار نے اس کارخانہ کو دوبارہ چلا دیا ہے تو قانونی طور پر permanent آدمی کا حق ختم ہو کر رہ گیا - جناب والا ان بے شمار ٹرامیم دینے کی یہی وجہ تھی کہ دقیق مطالعہ کے بعد اور دیگر قوانین کے ساتھ موازنہ کرنے کے بعد جو خامیاں تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کیں لیکن

“A bad workman always quarrels with his tools”

یہ ہم سے quarrel ہی کرتے رہیں گے کیونکہ ہم ان کے tools ہیں اور یہ workman (شور و قطع کلامیاں) - - - یہ اب اپنی تین سو غلطیوں کو جن کو میں نے amendment کی صورت میں بیان کیا ہے جن میں بعض جگہ اصولی اختلاف ضرور ہے لیکن یا تو ان کی phrases کی غلطیاں ہیں یا ان کی قانونی غلطیاں ہیں - - -

Mr. Deputy Speaker : The Member may please come to his amendment. He is not relevant.

ملک محمد اختر - جناب والا - ان کا قانون آپس میں contradictory ہے - یہ تمام قانون ان تین چار الفاظ سے negative ہو کر رہ گیا ہے -

Mr. Deputy Speaker : The question is —

That in para 6 of the Schedule of the Ordinance, the comma and words “if they present themselves at the time of the restarting of the shift”, occurring in lines 20—21, be deleted.

The motion was lost.

Next motion.

Khawaja Muhammad Safdar : Not moved.

Mr. Deputy Speaker : Next amendment by Mr. Hamza.

Mr. Hamza : Not moved.

Mr. Deputy Speaker : The amendment is not moved, Next.

Malik Muhammad Akhtar : I beg to move —

That for sub-para. (4) of para. 8 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

“(4) In case any worker loses his lien to his appointment under this section he shall not be deprived of the benefits and privileges which have already accrued to him under the law due to his past services and, in addition, he shall also be kept on the bad list, if any :

Provided that if such a worker fails to explain to the satisfaction of the employer the reason of his failure to return at the expiry of the leave, the employer may, on consideration of extenuating circumstances, if any, suspend him, as a measure of punishment, for a period not exceeding seven days from the date of his return and the worker shall not be entitled to wages for such periods of unauthorised absence and of suspension but he shall not lose the lien to his appointment”.

Mr. Deputy Speaker : The motion is —

That for sub-para. (4) of para. 8 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

“(4) In case any worker loses his lien to his appointment under this section he shall not be deprived of the benefits and privileges which have already accrued to

him under the law due to his past services and, in addition, he shall also be kept on the badli list, if any :

Provided that if such a worker fails to explain to the satisfaction of the employer the reason of his failure to return at the expiry of the leave, the employer may, on consideration of extenuating circumstances, if any, suspend him as a measure of punishment, for a period not exceeding seven days from the date of his return and the worker shall not be entitled to wages for such periods of unauthorised absence and of suspension but he shall not lose the lien to his appointment".

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed.

ملک محمد اختر - جناب والا - یہ ماننے والی بات ہے - یہ East Pakistan Laws میں ہے اب ہمارے لوگوں کا جن کو ہم نے منانا ہے ان کا level ہی ایسا ہے اگر ان تک نہ پہنچا جا سکے تو میں کیا کروں -

Mr. Deputy Speaker : Please withdraw those remarks.

Malik Muhammad Akhtar : I withdraw.

Mr. Deputy Speaker : These remarks are expunged from the proceedings of the Assembly.

ملک محمد اختر - جناب والا - یہ دیکھئے - یہ وزیر دلپذیر مزدوروں کو کیا دے رہے ہیں -

"In case the workman loses his lien on his appointment, he shall be entitled to be kept on the badli list if he does not return within eight days of the expiry of the leave and does not explain to the satisfaction of the employer his inability to return before the expiry of his leave."

جناب سپیکر - آپ اندازہ فرمائیں کہ ۸ دن کی چھٹی کے بعد اگر کوئی مزدور کام پر حاضر نہ ہو سکے تو اس بیچارے کا جو lien ہو وہ ختم کر دیا جائے - یہ کیسے درست ہے - میں نے یہ کہا ہے کہ اگر

آپ اسے غلطی کہتے ہیں تو اسے سزا دیں۔ اگر وہ ۸ دن کی چھٹی کے بعد overstay کرتا ہے تو اس کی leave without pay شمار کریں یا اسے suspend کر دیں۔ اگر آپ اسے نکال دیں گے۔ تو پھر permanent کے لفظ کی یہ insult ہے۔ آپ مزدوروں کو اور عوام کو defraud کر رہے ہیں۔ کسی مزدور کو permanent کرنے کے بعد اگر وہ ۸ دن کی چھٹی گزارنے کے بعد نہ آئے تو آپ اس کا lien اس کی permanent ملازمت کو provident fund اور اس کے دوسرے privileges کو کیوں ختم کرتے ہیں۔ آپ اس کی انکوائری کرائیں۔ اس کو suspend کر دیں۔ اس کو provident fund کا پیسہ نہ دیں۔ لیکن اس کی ملازمت کو کیوں ختم کرتے ہیں۔ وزیر صاحب واحد شخص ہوں گے جو اس قانون کہہ سکتے ہیں اس کا مقصد وہ نہیں رہتا جو ہونا چاہئے۔ اس طرح تو آپ خود کو دھوکا دے رہے ہیں۔ میں اس قانون کو درست کہنے کو تیار نہیں ہوں۔

Mr. Deputy Speaker : I will now put the amendment to vote. The question is :

That for sub-para (4) of para 8 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

- (4) "In case any worker loses his lien to his appointment under this section he shall not be deprived of the benefits and privileges which have already accrued to him under the law due to his past services and, in addition, he shall also be kept on the badli list, if any :

Provided that if such a worker fails to explain to the satisfaction of the employer the reason of his failure to return at the expiry of the leave, the employer may, on consideration of extenuating circumstances, if any, suspend him, as a measure of punishment, for a period not exceeding seven days from the date of his return and the work shall not

be entitled to wages for such periods of unauthorised absence and of suspension but he shall not lose the lien to his appointment."

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Next amendment by Malik Muhammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I beg to move :

That after sub-para (4) of para 8 of the Schedule of the Ordinance, the following be added, namely :—

- (5) "If the services of a worker, to whom any annual leave is due under the provisions of law for the time being in force, is dispensed with, whether as a result of retrenchment, discharge, dismissal, termination, retirement or by reason of his resignation before he has availed of any such leave, the employer shall pay his wages in lieu of the unavailed leave at the rate he is entitled to the payment of wages during the period of leave in accordance with the provisions of those laws and such payments shall be made before the expiry of the second working day after the day on which his employment is dispensed with."

Mr. Deputy Speaker : Amendment moved is :

That after sub-para (4) of para 8 of the Schedule of the Ordinance, the following be added namely :—

- (5) "If the services of a worker, to whom any annual leave is due under the provisions of law for the time being in force, is dispensed with, whether as a result of retrenchment, discharge, dismissal, termination, retirement or by reason of his resignation before he has availed of any such leave, the employer shall pay his wages in lieu of the unavailed leave at the rate he is entitled to the payment of wages during the period of leave in accordance with the provisions of those laws and such payments shall be made before the expiry of the second working day after the day on which his employment is dispensed with."

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲) - جناب سپیکر - میں نے یہ بھی مشرقی پاکستان کے قانون سے لفظ بہ لفظ نقل کیا ہے ۔

وزیر محنت - اور آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہاں provide کیا گیا ہے ۔

ملک محمد اختر - لیکن میں نے اسے ذرا مختلف بنایا ہے ۔ وہ بد نصیب مزدور جو مغربی پاکستان کے صوبہ میں پیدا ہوا ۔ خاندانی طور پر اس کو مزدوری ورثہ میں ملی ہے ۔ اس کی حیثیت تو آزاد مملکت پاکستان میں چار ذاتوں کی طرح ہے یعنی برہمنی ، کھشتری ، ویش اور شودر۔ امیر کا بیٹا امیر بنا ہے اور مزدور کا بیٹا مزدور بنا ہے ۔ یہ بد نصیب مزدور جب کبھی ۸ دن کی چھٹی کے بعد overstay کرتا ہے تو اسے نکال دیا جاتا ہے ۔ اس صورت میں اس بیچارے کی جتنی earned leave بنتی ہے اس کے حساب سے جس قدر اس کی مزدوری بنتی ہے ۔ اس کے مطابق اس کو حقوق ملنے چاہئیں ۔

آپ دیکھیں کہ جب کبھی آپ کسی کو سرکاری ملازمت سے ریٹائر کرتے ہیں ۔ میں وزیر جیل خانہ جات سے دریافت کرتا ہوں جنہوں نے اس ملک کو مزدوروں کا جیل خانہ بنا دیا ہے ۔

Mr. Deputy Spaker : This is irrelevant.

ملک محمد اختر - Alright Sir میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی مزدور چھٹی کے بعد overstay کرتا ہے تو یہ کوئی miscon-duct کا مسئلہ نہیں irregular کی بات نہیں ۔ صرف ۸ دن کی چھٹی کے بعد overstay کرنے کا معاملہ ہے ۔ اس کی دوسری earned leave یا casual leave تو ہو گی اور فرض کر لیں کہ آپ اسے باہر ہی نکال دینا

چاہتے ہیں تو کم از کم اس کو earned leave کا معاوضہ تو دے دیں - یہاں جو برہمن یا بڑی کلاس ہے اس کو آپ ۶ ماہ تک کی چھٹی دے دیتے ہیں اس کے لئے غالباً یہ term ہے - leave preparatory to retirement اور اگر کسی مزدور نے ۸ دن کی چھٹی لی - پھر کام کے لئے حاضر نہ ہو سکا تو وہ مجرم ہے ، گناہگار ہے - مزدور کے گھر پیدا ہوا ہے - اس کے ساتھ جو ساوک کرنا چاہیں کریں - لیکن اس کے جو privileges ہیں اسے ان سے تو محروم نہ کریں - مشرقی پاکستان کے قانون میں یہ privileges موجود ہیں -

Mr. Deputy Speaker : I will now put the amendment to vote. The question is :

That after sub-para (4) of para 8 of the Schedule of the Ordinance, the following be added, namely:—

- (5) "If the services of a worker, to whom any annual leave is due under the provisions of law for the time being in force, is dispensed with, whether as a result of retrenchment, discharge, dismissal, termination, retirement or by reason of his resignation before he has availed of any such leave, the employer shall pay his wages in lieu of the unavailed leave at the rate he is entitled to the payment of wages during the period of leave in accordance with the provisions of those laws and such payments shall be made before the expiry of the second working day after the day on which his employment is dispensed with."

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Next amendment by Khawaja Muhammad Safdar.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir, I beg to move :

That in para 9 of the Schedule of the Ordinance, the words "or without pay" occurring in line 2 be deleted.

Mr. Deputy Speaker : Amendment moved is :

That in para 9 of the Schedule of the Ordinance, the words "or without pay" occurring in line 2, be deleted.

I think there is no opposition ; the motion is carried. Next amendment by Malik Muhammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I beg to move :

That in para 9 of the Schedule of the Ordinance, for the word "ten" occurring in line 2, the word "thirty" be substituted.

Mr. Deputy Speaker : Clause under consideration, amendment moved

That in para 9 of the Schedule of the Ordinance, for the word "ten" occurring in line 2, the word "thirty" be substituted.

Minister for Labour : Opposed.

Mr. Deputy Speaker : The question is—

That in para 9 of the Schedule of the Ordinance, for the word "ten" occurring in line 2 the word "thirty" be substituted.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Next amendment by Khawaja Muhammad Safdar.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir, I beg to move :

That in para 9 of the Schedule of the Ordinance, for the word "ten" occurring in line 2, the word "fifteen" be substituted.

Mr. Deputy Speaker : Amendment moved is :

That in para 9 of the Schedule of the Ordinance, for the word "ten" occurring in line 2, the word "fifteen" be substituted.

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed.

Mr. Deputy Speaker : Yes Khawaja Safdar.

خواجہ محمد صفدر - جناب والا - میں کوئی گزارش نہیں کروں گا البتہ میجر اسلام جان صاحب کچھ کہیں گے -

میجر محمد اسلام جان (راولپنڈی - ۱) - جناب والا - آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغربی پاکستان میں مزدوروں اور ملازموں کو فیکٹریوں میں اور commercial establishments میں سٹینڈنگ آرڈرز کے تحت صرف دو قسم کی چھٹیاں ملتی ہیں - ایک سالانہ چھٹیاں ۱۰ دن کی ہیں جو سیکشن ۴۹ - بی ایکٹ آف ۱۹۴۷ء کے تحت وہ لے سکتے ہیں - اور دوسری casual leave ہے جو پہلے without pay تھی اور اب جناب وزیر محنت نے مہربانی فرما کر اسکو ترمیم کر دیا ہے کہ اب وہ جو چھٹی ہوگی وہ تنخواہ کے ساتھ ہوا کرے گی - لیکن اس کے ساتھ یہ شرط لگا دی ہے کہ وہ صرف تین دن کی casual leave ایک وقت میں لے سکیں گے - جناب والا - اس کے برعکس مشرقی پاکستان فیکٹری ایکٹ ۱۹۶۵ء جو کہ مشرقی پاکستان میں نافذ ہے اس کے سیکشن ۲۸-۲۹ اور ۸۰ کے تحت مشرقی پاکستان میں جو ہمارے بھائی ہیں - ان کو چار قسم کی چھٹیاں ملتی ہیں اور یہ چھٹیاں حکومت مشرقی پاکستان ان کو اتوار یا جو اور چھٹیاں ہیں ان کے علاوہ دیتی ہے - لیکن اس کے برعکس ہمارے یہاں صرف ۲ - دن کی چھٹیاں ہیں اگر آپ اجازت دیں تو اس سلسلے میں East Pakistan Factories Act, 1965 میں سے ایک چھوٹا سا پیرا گراف ہے اس کو پڑھ دوں جو سیکشن ۲۹ - کے تحت ہے -

Festival holidays under section 79.

All workers shall be allowed ten days festival holidays with wages in a year. The days and dates for such festival shall be fixed by the occupier or

manager in such manner as may be prescribed.

A worker may be required to work on any festival day but two days additional compensatory holidays with full pay and a substitute holiday shall be provided for him in accordance with the provisions of Section 51.

جناب والا - اس کا مطالبہ یہ ہے کہ انہیں ۱۰ دن کی تو festival holidays مہینے اور اگر کسی مزدور یا کارکن سے اس کے مالکان کہیں کہ تم festival holiday پر بھی کام کرو گے تو اسے ۶ دن کے علاوہ ۲ چھٹیاں اور مہینے کی اگر وہ دو دن festival holiday پر کام کرے گا تو اس کو دو چھٹیاں with compensation ملیں گی - اس طرح اس کی ۳ چھٹیاں ہو گئیں -

وزیر محنت - وہ کس حساب سے ؟

میجر محمد اسلم جان - ۱۰ - اس کی اپنی چھٹیاں اور ۲ - compensatory اس طرح اس کی ۳ ہو گئیں - اس کے علاوہ جناب والا وہاں casual leave پر کوئی شرط نہیں ہے - مشرقی پاکستان میں سیکشن ۸ کے تحت تنخواہ کے ساتھ ۱۰ - دن کی چھٹیاں ملتی ہیں جبکہ ہمارے یہاں یہ شرط ہے کہ ایک وقت میں صرف تین casual leave وہ لے سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے یہاں بیماری کی چھٹی پورا ۸ - میں - - -

وزیر محنت - پوائنٹ آف آرڈر - جناب والا - جناب میجر صاحب خواجہ محمد صفدر صاحب کی ترمیم پر بول رہے ہیں لیکن ان کی حمایت میں ابھی تک انہوں نے اس ترمیم پر کچھ نہیں فرمایا - میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ خواجہ صاحب کی ترمیم پر فرمائیں -

مسٹر ڈپٹی سپیکر - وہ اسی پر بول رہے ہیں -

وزیر محنت - جناب وہ زیادہ تر تو ایک وقت میں تین دن کی چھٹی کے بارے میں فرما رہے ہیں اور festival holidays کے متعلق فرما رہے ہیں - ہم پیرا نمبر ۸- کو پاس کر چکے ہیں جو اس سے متعلق ہے اور ہم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ festival holiday ان کو دی جائیں گی -

میجر محمد اسلم جان - جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں ملک صاحب کا جواب دے دوں کہ festival holidays مشرق پاکستان میں fixed نہیں ہیں جیسا کہ ہمارے یہاں fixed ہیں۔ میری صرف غرض کرنے کی غرض یہ تھی کہ جب ملک کے دونوں حصوں میں مساوات ہے اور مشرق پاکستان والے ہمارے بھائی ہیں اور اگر آپ مشرق پاکستان میں چھٹیوں کو work out کریں تو ان کی چھٹیاں ہم سے زیادہ ہیں - ایسا کیوں ہے؟ ہم نے بھی ۱۵ دن کی casual leaves مانگی ہیں تو اس میں کوئی ظلم نہیں ہو گیا ہے - اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے لیے argument دے دوں -

Mr. Deputy Speaker : The Member may please go ahead.

میجر محمد اسلم جان - جیسا کہ عرض کیا ہے کہ ان کے یہاں casual leave ۱۰ دن کی ہے اور تنخواہ کے ساتھ ۱۰ دن کی ہے - اس کے علاوہ ہمارے یہاں بیماری میں چھٹی کتنے دنوں کی لے سکتا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے - مشرق پاکستان میں آدھی تنخواہ پر ۱۴ دن کی چھٹی بیماری کے سلسلے میں لے سکتے ہیں اور یہ ان کو سیکشن ۸ کے تحت ملا کرئی ہے۔ اسی طرح وہ سالانہ ۲۲ دن کام کرنے کے بعد

ایک دن کی چھٹی کے حساب سے ہر سال ۱۲۔ چھٹیاں لے سکتے ہیں جبکہ ہمیں سالانہ چھٹیاں ۱۰۔ دن کی ملتی ہیں تو ان کی چھٹیوں کا ٹوٹل بیماری کی چھٹی اور compensatory leave کو چھوڑ کر سال میں ۳۲۔ چھٹیوں کا ہوتا ہے جبکہ ہمارے یہاں وہ ٹوٹل صرف ۲۰۔ دن ہوتا ہے۔ اگر casual leave ۱۔ دن کے بجائے ۱۵۔ دن کر دی جائے تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہوگا پھر ہماری ۲۵۔ چھٹیاں بنیں گی اور ان کی ۳۲۔ بنتی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ کرنی ایسی چیز نہیں جس کو کہ آپ منظور نہ کر سکتے ہوں۔ اگر آپ ان کے لیے جو کچھ میں نے عرض کیا ہے منظور کر لیں تو پھر آپ تین دن کی شرط کو بھی اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہر حال میں ہمارے مزدوروں کی چھٹیاں مشرق پاکستان والوں سے کم ہوں گی یعنی ان کی ۳۲۔ ہوں گی اور اگر آپ ۱۵۔ دن کی ہمارے یہاں مزدوروں کے لیے منظور کر لیں تو پھر ہمارے یہاں ۲۵۔ دن کی چھٹیاں ہو جائیں گی۔ لہذا میری درخواست ہے کہ اس ترمیم کو منظور فرمایا جائے۔

Mr. Deputy Speaker : The question is—

That in para 9 of the Schedule of the Ordinance, for the word "ten" occurring in line 2 the word "fifteen" be substituted.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Next. Malik Muhammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I beg to move :

That in para 9 of the Schedule of the Ordinance, for the word "three" occurring in line 4, the word "seven" be substituted.

Mr. Deputy Speaker Amendment moved is :

That in para 9 of the Schedule of the Ordinance, for the word "three" occurring in line 4, the word "seven" be substituted.

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲) - جناب میں مودبانہ اس ہاؤس کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی کہیں کا انصاف ہے کہ ایک مزدور زیادہ سے زیادہ aggregate چھٹیاں جو لے سکتا ہے اور وہ تین دن کی ہوں گی میں نے اس ترمیم سے صرف یہ عرض کیا ہے اور پورا نمبر ۹ سطر ۴ میں جو قرار دیا گیا ہے -

9. Casual leave : -

"..... Such leave shall not be for more than three days at a time."

جناب والا - یہ تین کا کہیں قانون نہیں ہے - casual leave کسی وقت زیادہ بھی ہو سکتی ہیں - اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اگر فرنٹیر کا رہنے والا کوئی مزدور کراچی کی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے اور اس کو ایک تار ملتا ہے کہ اس کی والدہ فوت ہو گئی ہے تو جناب وزیر صاحب اس کو پی - آئی - اے کا return ٹکٹ لیکر دیں گے - میں کہتا ہوں کہ یہ قانون کیسے بنایا گیا ہے - میرے خیال میں اس قانون کی ڈرائنگ لندن یا جرمنی میں بیٹھ کر کی گئی ہے - انہوں نے اپنے ملک کے نہ جغرافیہ کو مد نظر رکھا ہے اور نہ اس ملک کی غربت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے اور نہ حالات کو مد نظر رکھا ہے - میں اس سے زیادہ اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا -

بریں عقل و دانش بیاڑ گریست

Mr. Deputy Speaker: The question is :

That in para 9 of the Schedule of the Ordinance, for the word "three" occurring in line 4, the word "seven" be substituted.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker: Next. Malik Muhammad Akhtar. Para 10

Malik Muhammad Akhtar: Sir, I beg to move:

That in sub para (1) of para 10 of the Schedule of the Ordinance for the word "but" occurring in line 2, the word "if" be substituted.

Mr. Deputy Speaker: Amendment moved is :

That in sub-para (1) of para 10 of the Schedule of the Ordinance, for the word "but" occurring in line 2, the word "if" be substituted.

Parliamentary Secretary (Labour): Opposed.

ملک محمد اختر - جناب سپیکر - اگر آپ اس لائن کو دیکھیں
تو آپ کو معلوم ہو جائے گا اس میں لکھا ہے -

"Any wages due to the workman but not paid".

میں نے جناب والا but کی جگہ If لگایا ہے میں رائفل کا بٹ تو عایدہ
نہیں کر رہا - میں تو انگریزی کو درست کر رہا ہوں -

Mr. Deputy Speaker: The question is -

That in sub-para (1) of para 10 of the Schedule of the Ordinance for the word "but" occurring in line 2, the word "if" be substituted.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker: Next amendment by Mian Miraj Din.

Parliamentary Secretary (Labour): Not moving Sir.

رانا پھول محمد خان - جناب سپیکر - کیا ہاؤس کا ٹائم بڑھا دیا گیا ہے؟

Mr. Deputy Speaker : Time of the House is extended by five minutes till we finish this para. Next amendment.

Parliamentary Secretary (Labour) : Sir I beg to move —

That for sub-para (2) of para 10 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted namely :—

- (2) "All workmen shall be paid wages on a working day before the expiry of the 7th or 10th day after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable if the total number of workmen employed in the establishment is 1,000 or less or exceeds 1,000 respectively."

Mr. Deputy Speaker : Amendment moved is—

That for sub-para (2) of para 10 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted namely :—

- (2) All workmen shall be paid wages on a working day before the expiry of the 7th or 10th day after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable if the total number of workmen employed in the establishment is 1,000 or less or exceeds 1,000 respectively."

ملک محمد اختر - Opposed Sir. جناب صدر - آپ ہی ان کو
سمجھا دیں - آخری لائن دیکھیں -

"...if the total number of workmen employed in the establishment is..."

اور اسکو دیکھیں تو one thousand بن جاتا ہے -

This 1,000 should have been in words.

Mr. Deputy Speaker : The question is—

That for sub-para (2) of para 10 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

- (2) "All workmen shall be paid wages on a working day before the expiry of the 7th or 10th day after the

last day of the wage period in respect of which the wages are payable if the total number of workmen employed in the establishment is 1,000 or less or exceeds 1,000 respectively."

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Next amendment by Malik Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : That stands disposed of after this amendment.

Mr. Deputy Speaker : The House is adjourned to meet tomorrow morning at 8.00 a.m.

The Assembly then adjourned at (1.35 p. m.) till 8.00 a.m. on Tuesday, the 7th May, 1968.

APPENDIX I

(Ref: Starred Question No. 10245)

ANNEXURE 'A'

NAMES OF PRIVATELY OWNED SCHOOLS IN KARACHI AND THE AMOUNT OF
GRANT-IN AID GIVEN TO EACH SCHOOL DURING THE YEARS 1964-65,
1965-66 AND 1966-67 SEPARATELY

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
1	Mad. Masjid Korangi, N. Sector ...	915	851	802
2	Mad. Masjid Korangi, D. Sector ...	807	611	61
3	Mad. Hussainya ...	9,727	15,883	15,759
4	Kutchy Memon ...	19,473	10,215	10,096
5	Najm Delahi ...	21,364	14,534	14,132
6	Usman Memorial ...	4,254	2,146	1,415
7	Aziz Primary School ...	15,540	9,053	5,591
8	Safiah Primary School ...	21,912	17,013	16,823
9	St. Bainay ...	2,693

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
10	APWA, Korangi	28,330	25,065	18,121
11	St. Paul Primary School	6,803	6,698	5,653
12	APWA, Rati Line	6,133	8,871	6,509
13	Islamia Keamari	3,786	6,342	4,324
14	P. I. B. Colony Primary School	5,62	6,074	5,575
15	Colony Primary School	6,121	5,258	5,533
16	Hayatul Islam	10,073	8,553	7,898
17	Maderasa Jamhoria	57,100	3,759	3,748
18	Maderasa Masjid Tuinishla	812	982	964
19	Maderasa Masjid Fazerta	803	1,014	11,214
20	Cantt. Board Malir Cantt.	12,337	12,680	11,833
21	A. O. C. Malir Cantt.	8,550	5,592	5,772
22	Cantt. Board Primary Education	17,043	18,191	16,680
23	D. P. National	6,175	6,765	6,497

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
24	Madani Primary	7,563	7,286	7,322
25	Masjid Alhamra	1,368	2,042	2,298
26	Masjid Darus Salah	1,301	650	545
27	Madrasa Qudsi	2,286	2,115	2,293
28	Dalmia Primary	4,102	6,269	5,803
29	Dalmia Lower Secondary P.E.C.H.S.	7,457	6,055	6,037
30	Madrasa Tayyalia	5,734	2,928	2,897
31	Muhammadi Primary	6,134	4,443	4,282
32	Begum Qayyum	2,470	3,180	2,515
33	Mad. Tayyalia Drig Road	1,696	1,115	1,029
34	Iqbal Primary, 1-C, Landhi	4,204	3,202	4,043
35	Lamia Rasheedia	3,800	4,684	4,687
36	N. A. Abbasi	5,275	4,407	4,436
37	Iqbal, 2-C, Landhi	6,650	5,795	6,506

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
38	Drigh Colony, Drigh Road	5,985	3,582	...
39	Mahmooda Qayyum	5,615	6,345	...
40	Khokrapar Primary	8,835	7,265	...
41	Jamia Taleem Millee	14,754	11,824	11,480
42	Islamia Feroz P. S.	3,768	3,497	4,013
43	Islamia Loco Line	5,117	7,109	6,645
44	Islamia Gdozi Brolin	4,249	3,069	3,145
45	Islamia Old Thanu	743
46	Islamia Soomar Godop	496	351	360
47	Islamia Murad Memon I	2,856	2,809	2,632
48	Islamia Murad Memon II	750	399	867
49	Islamia Konker	495	448	697
50	Islamia Mazar Jokhia	1,015	866	912

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
51	D. P. National Secondary	4,750	3,475	2,420
52	Wasim Primary School	3,610	5,450	...
53	Fatimi Primary School	4,636	5,338	5,764
54	Sirajul Uloom	3,701	2,725	3,338
55	V. M. Dhoraji	12,838	15,087	12,220
56	Muslim National	7,931	5,622	5,813
57	APWA Beg. Khattu	10,000	5,909	8,228
58	Public Primary S. Tin	1,000	1,552	2,728
59	Drigh Town Committee	...	2,949	2,787
60	Farali Primary	...	11,035	11,670
61	Farali Lower Secondary	...	16,533	...
62	Pak. Islamia	4,794
63	Hurriyat	2,377

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
64	Pak. Islamia Lower Secondary	5,813
65	Akhtar Lower Secondary	3,753
66	Batoul Primary School	3,025
67	Malir English Lower Secondary	4,684
68	Matla-ul-Uloom Primary School ...	7,666	...	7,292
69	Masjid-e-Jehangiri ...	948	534	531
70	Masjid-e-Hilal ...	712	650	543
71	Masjid-e-Rehmania ...	1,282	1,332	1,475
72	Masjid-e-Mohammadi ...	675	742	966
73	Masjid-e-Azam ...	1,678	1,510	1,332
74	Masjid-e-Noorul Haram ...	1,456	1,519	1,475
75	Masjid-Ajmeri ...	1,225	1,284	1,399
76	Masjid-e-Hanfia ...	1,524	1,342	1,169

Serial No.	Grant-in-aid paid during		
	1964-65	1965-66	1966-67
	Rs.	Rs.	Rs.
77 Masjid-e-Faizanul Quran ...	541	593	561
78 Bengali Primary School ...	2,486	2,181	3,972
79 Model Primary School ...	1,331	1,440	1,623
80 Anjuman-e-Islamia ...	250	2,181	1,459
81 Islamia Primary School ...	4,591	6,009	5,701
82 Shamsi Primary School	1,824
83 Nizamabad Primary School ...	5,979	5,211	5,026
84 Orient Pak. Primary School ...	13,348	7,055	6,868
85 Shining Star Primary School ...	7,125	7,816	6,993
86 Liaqat Primary School ...	4,609	5,479	5,432
87 I. W. A. Primary School ...	4,623	6,435	5,921
88 Nabi Bagh Primary School ...	3,351	3,809	3,725
89 Talcemul Islam School	824
90 Bengali Primary School ...	2,466	2,181	2,361

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
91	Anjuman-e-Falah	5,639	3,931	3,767
92	APWA Primary School	...	17,598	1,644
93	Yousufia Primary School	3,128
94	Hasni Children	2,858	1,429	5,843
95	Memon Primary School	...	5,224	4,071
96	Rehmania Primary School	4,661
97	New Era Primary Schools	250	6,434	4,464
98	Mehdi Primary School	2,191
99	Shamim Primary School	1,824
100	Shoaib Mohammadia	2,046
101	H. R. H. III Agha Khan I	7,142
102	H. R. H. III Agha Khan II	6,226
103	Model Primary School (SITE)
104	Sitar-e-Hayder

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
105	Husainabad Primary School	2,951	2,108
106	Cresten Star Primary
107	Ziaul Uloom Lower Secondary ...	9,174	8,829	5,796
108	Qaumi Anjuman Lower Secondary	-	5,197	5,157
109	Orient Pak Lower Secondary ...	8,721	7,836	2,714
110	Shamim Lower Secondary	7,866
111	Hasanabad Lower Secondary	2,073
112	H. R. H. Agha Khan Lower Secondary	14,573
113	Khotri Islamia Primary School ...	4,164	4,634	3,257
114	Okhoi Memon Primary School ...	6,655	5,352	4,420
115	Muslim Primary School No. 1 ...	5,919	6,819	4,942
116	Muslim Primary School No. 2 ...	6,287	6,942	4,444
117	Suleman Azad Primary School ...	7,652*	5,880	4,824

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
118	Qaumi Anjuman ...	2,149	2,737	2,743
119	Ghazi Muhammad Bin Qasim School ...	4,499	4,070	2,890
120	Islamia Missionary ...	5,408	7,379	4,831
121	Anwarul Islam Bakra Piri ...	7,959	11,596	10,332
122	St. Francis Primary School ...	7,181	7,157	5,541
123	Marwari Salwatte ...	8,715	7,327	5,825
124	Central Police Headquarter ...	5,772	5,799	5,273
125	Furqania Primary School ...	4,674	3,227	1,550
126	Qureshi Primary School ...	2,833	3,668	3,264
127	K. M. A. No. 1	7,395	7,119
128	K. M. A. No. 2	9,858	6,777
129	Anwarul Islam Daryaabad ...	3,406	3,200	2,712
130	Balluch Primary School ...	3,545	3,300	2,857

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
131	Pak Baluch Primary School	2,250	2,146	5,215
132	Colony Primary School	...	5,503	5,138
133	Taj Primary School	...	5,337	4,134
134	Mufaad-e-Am Primary School	...	7,347	7,152
135	Zafar Husain Primary School	23,757	22,782	18,925
136	Essa Jamal Primary Schools	1,905	10,448	8,267
137	Madarsa Islamia No. 1	13,350	11,834	10,955
138	Madarsa Islamia No. 2	12,864	11,970	10,385
139	Madarsa Islamia No. 3	7,602	2,820	6,340
140	Madarsa Islamia No. 4	7,385	7,092	5,886
141	For Bunder	12,568	12,917	12,528
142	Young Muslim Primary School	3,542
143	Sipai Primary School	1,856
144	Islamia New Khumarwara	910

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
145	Khatri Islamia Lower Secondary ... School	...		7)
146	Madressa Ittihadul Islam ...	13,592	11,677	10,513
147	Islamia School, Nawabad ...	2,268	2,427	3,126
148	Islamia School, Baghdadi ...	3,776	3,522	3,677
149	APWA Rat Line, Karachi ...	4,868	6,498	5,138
150	APWA Korangi, Karachi ...	8,008	10,835	10,364
151	Hajjani Hanifa Bai Primary ... School, Karachi	4,070	3,154	3,372
152	Anjuman-e-Taraqqi Urdu Girls ... Primary School.	2,947	3,126	2,037
153	Pakistan Navy Girls Primary ... School, Karachi	6,081	8,294	7,638
154	New Ideal Girls Primary School, ... Karachi	6,207	6,800	6,310
155	Aminia Girls Primary School, ... Karachi	12,902	12,687	12,408

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
155	St. Johns Girls Primary School, ... Karachi	9,317	10,117	9,625
157	Akhtar Girls Primary School, ... Karachi	6,635	10,538	10,790
158	Safia Girls Primary School, ... Karachi	18,323	19,144	19,100
159	Aziz National Girls Primary ... School Karachi	6,469	5,978	5,480
160	Rahat Islamia Girls Primary ... School, Karachi	11,276	7,516	7,375
161	Jadid Madrastul Benat Girls ... Primary School, Karachi	5,896	5,922	5,787
162	Ejaz Memorial Girls Primary ... School, Karachi	4,007	2,997	3,530
163	Rana Liaqat Girls Primary ... School, Karachi	...	8,025	7,317
164	Aziz National Lower Secondary ... School, Karachi	8,282	8,660	7,178

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
165	Akhtar Girls Lower Secondary School, Karachi	11,369	12,076	11,287
166	Arman Girls Lower Secondary School, Karachi	9,801
167	Jadid Madrastul Binat Girls Lower School, Karachi	7,125	5,780	6,091
168	Muslim Girls Lower Secondary School, Karachi	...	12,313	11,822
169	Hajian Hanifa Bai Girls Lower Secondary School, Karachi	1,892	5,226	2,613
170	Islamia Nawabad	3,377	3,526	2,334
171	Shah Baig Lane	860	1,229	1,208
172	Mai Sakina	1,978	1,853	1,975
173	Islamia Baghdadi	1,242	1,545	1,321
174	Muslim Girls Siadhi	2,653	2,152	1,868
175	Islamia Mai Aisha	2,065	1,900	1,715

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
176	Muslim Girls New Khadda	2,545	2,298	1,840
177	Ghulam Hussain Khaliqdina	7,492	7,388	7,598
178	Colony Girls Primary School	5,688
179	Gulistan Baloch	7,726	7,876	7,434
180	Islamia Girls Nazimabad	5,923	7,087	6,225
181	Mahmood-e-Niswan	1,685	1,897	2,021
182	Rounaq-e-Islam Primary Kharadar	21,330	18,605	18,274
183	M. N. Silawauta	9,731	11,150	10,369
184	Rounaq-e-Islam Primary, Nanak-wara	17,210	14,353	12,475
185	Ali Zohra	6,303	5,817	5,909
186	Nabi Bagh	3,918	3,841	2,463
187	APWA Golimar	6,431	8,398	8,783
188	APWA Liaquatabad	7,324	7,513	8,445

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during			
		1964-65	1965-66	1966-67	
189	APWA Lyari	...	4,576	5,248	5,115
190	APWA New Karachi	...	12,103	14,598	13,971
191	Police Headquarter	...	1,633	2,127	1,118
192	Kasni Firdaus Colony	...	11,128	10,759	10,912
193	Mazhar-ul-Uloom	...	6,655	7,107	7,916
194	Islamia Women Association	...	4,115	5,442	6,867
195	Habibia Lae Market	...	9,479	9,869	9,415
196	Okhai Memon Kharadar	...	5,977	4,702	5,970
197	Okhai Memon Kharadar	...	5,939	5,656	5,784
198	Taleem Geh-e-Niswan	...	4,383	2,868	1,811
199	Hajyani Zulaikha Bi	...	6,318	5,785	6,593
200	Khatri Is'lamia	...	2,477	2,862	3,209
201	Jaweed Urdu	...	5,431	4,708	6,296
202	Muslim Girls Lower Secondary School, Bihar Colony	..	12,076	10,748	9,386
203	Rounaq-e-Islam Lower Secondary School, Nanaqwara		10,336	10,273	10,908

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid-paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
204	Madrasatul Binat Lower Second- ary School	2,804	2,978	2,966
205	Colony Girls Lower Section ... School	4,111
206	Rounaq-e-Islam Primary Federal ... 'B' Area	...	6,544	10,785
207	Hussainabad Primary Federal ... 'B' Area	...	3,592	3,343
208	Rizvia Lower Secondary School	6,514	..
209	K. M. A. Primary School	6,381	7,210
210	Muslim Girls Lower Secondary ... School, Dastagir Colony	4,877
211	Sind Madressatul Islam School ...	1,06,300	86,979	81,914
212	City Boys Secondary School, ... Karachi	14,747	13,044	16,298
213	Model Boys Secondary School, ... Karachi	25,481	26,131	26,850

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
214	Cutchi Memon Secondary School, ... Karachi	15,869	17,035	16,454
215	Maqbool-e-Aam Secondary ... School, Karachi	20,488	28,928	22,643
216	Saifiyah Boys Secondary School, .. Karachi	28,006	23,820	17,742
217	Allama Iqbal Secondary School, ... Karachi	13,103	17,889	13,508
218	Jamia Taleem-e-Millia, Karachi ...	28,738	21,076	20,957
219	Pak Public Secondary School, ... Karachi	7,516	4,492	3,022
220	PIB Colony Secondary School, ... Karachi	14,251	9,701	8,736
221	Shoaib Muhammadia Secondary ... School, Karachi	19,514	20,826	19,196
222	Malir Boys Secondary School, ... Karachi	17,774	16,332	...

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
223	Muhmuda Qayyum Secondary School, Karachi ...	23,221	14,463	...
224	Arman Secondary School, Karachi	9,349	20,825	21,929
225	New Era Secondary School, Karachi ...	22,837	24,797	29,308
226	APWA Boys Secondary School, Karachi ...	20,261	22,252	20,562
227	Wasim Boys Secondary School, Karachi ...	9,121	13,358	...
228	Drigh Colony Secondary School, Karachi ...	20,246	17,182	...
229	Kohrapar Boys Secondary School, Karachi ...	1,817	14,271	...
230	Public Secondary School, Karachi ...	19,422	27,207	28,740
231	Farabi Secondary School, Karachi	21,177
232	Najam Delhi Secondary School, Karachi	7,937

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
233	Pakistan Western Railway Secondary School, Karachi	11,616
234	Iranian Secondary School	41,910	43,148	42,669
235	Nobi Bagh Secondary School	8,638	7,921	5,063
236	Pakistan National Secondary School	31,165	32,699	21,930
237	Taleemgah Secondary School	20,436	20,288	17,911
238	H.R.H. Agha Khan Secondary School	25,431	23,340	20,882
239	Haji Abdullah Haroon Secondary School	23,230	37,310	39,691
240	Okhai Memon Secondary School	21,746	27,152	21,195
241	Ishatul Quran Secondary School	10,038	12,358	14,343
242	Madressah Islamia 'A' Secondary School	43,108	42,859	38,774
243	Madressah Islam 'B' Secondary School	41,275	38,066	32,171

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
244	Sheldon Secondary School ...	13,409	12,941	9,479
245	H.R.H. Agha Khan Garden Secondary School ...	32,232	28,339	33,163
246	C.M.S. Secondary School ...	38,615	31,790	26,480
247	S.M. Lyari Secondary School ...	32,862	27,128	26,480
248	Karachi Boys Secondary School ...	16,324	19,182	17,457
249	Baluch Secondary School ...	9,336	9,283	8,012
250	Federal Boys Secondary School ...	16,523	17,581	17,029
251	A. U. Islamia Secondary School ...	5,190	6,698	5,025
252	Mumtaz Secondary School ...	10,444	11,395	11,554
253	Tameer-e-Nau Secondary School ...	14,266	16,986	14,150
254	Muslim Boys Secondary School ... Behar Colony	21,050	19,977	16,474
255	Hussaini Boys Secondary Schools...	14,272	14,047	11,420
256	Ghazi Muhammad Bin Qasim School ...	16,888	18,455	12,195

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
257	Shamin Boys Secondary School ...	9,728	10,796	7,866
258	Hali Muslim Secondary School ...	14,574	14,086	...
259	St. Lawrence Secondary School ...	997	522	...
260	Muqem Boys Secondary School ...	2,214	8,047	...
261	Izhar-e-Abbasi Secondary School ...	15,628	16,567	...
262	St. Patrick Secondary School, Mauripur.	2,625
263	K. M. A. Secondary School	19,815	22,953
264	APWA Secondary School	10,658	21,018
265	Momen Socondary School	10,414
266	Muslim Secondary School, Dastgir Colony.	6,314
267	Anjuman-e-Islamia	1,138	...
268	S. M. B. Jinnah Girls Secondary ... School, Karachi.	32,899	23,488	22,736

Serial No.	Name of School	Grant in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
269	Wasim Girls Secondary School, ... Nazimabad Karachi.	12,088	9,354	9,715
270	City Girls Secondary School, ... Karachi.	13,901	14,877	16,951
271	Compolitan Girls Secondary ... School, North Nazimabad, Karachi.	29,848	24,019	25,830
272	Safia Girls Secondary School ... Comb. Street, Karachi.	30,915	26,333	28,231
273	Rounaq-e-Islam Girls Secondary ... School, Kharadar Karachi.	44,713	43,553	41,239
274	Mama Parsi Girls Secondary ... School, Bunder Road, Karachi	11,038	5,606	3,312
275	H. R. H. Agha Khan Girls ... Secondary School, Kharadar, Karachi.	26,590	22,779	21,542
276	H. R. H. Agha Khan Girls ... Secondary School, Diamond Street, Karachi.	31,062	32,358	32,278

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
277	Idara-i-Shirqia Girls Secondary School, Jacob Lines, Karachi, ...	10,316	13,952	15,518
278	G. H. Khaliq Dina Girls Secondary School, Karachi, ...	41,559	34,804	34,537
279	APWA Girls Secondary School, Liaquatabad, Karachi, ...	42,981	48,985	53,263
280	APWA Girls Secondary School: Golimar, Karachi, ...	28,291	34,117	32,041
281	Al Zehra Girls Secondary School, Firdous Colony, ..	7,289	7,115	8,095
282	Maqbool-e-Aam Girls Secondary School, Karachi, ...	17,685	18,149	15,204
283	Husaini Girls Secondary School, Nazimabad, Karachi, ...	19,427	19,759	18,841
284	P. I. B. Colony Girls Secondary School, Karachi, ...	22,528	17,615	18,616
285	Islamia Girls Secondary School, Nazimabad, Karachi, ...	18,121	18,811	17,244
286	Robina Girls Secondary School, Malir, Karachi, ...	28,499	17,415	...

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
287	Karachi Girls Secondary School, Nazimabad, Karachi.	10,740	9,699	9,983
288	St. John's Convent Girls Secondary School, Drigh Road, Karachi.	11,521	11,853	10,804
289	Husainia Girls Secondary School, Saddar, Karachi.	11,123	17,446	13,021
290	Nabi Bagh Girls Secondary School, Lawrence Road, Karachi.	6,878	5,942	5,547
291	Farhana Girls Secondary School, Nazimabad.	39,246	18,470	...
292	Ishatul Quran Girls Secondary School, Nazimabad.	6,701	9,699	11,116
293	Amina Girls School, Delhi Colony.	7,348	9,581	12,756
294	Rahat Islamia Girls Secondary School, PECHS.	11,881	13,953	13,477
295	National Girls Secondary School, North Nazimabad.	12,253	14,951	16,330
296	APWA Girls Secondary School, New Karachi.	...	7,959	13,637
297	APWA Girls Secondary School, Korangi.	...	2,114	10,718

Serial No.	Name of School	Grant-in-aid paid during		
		1964-65	1965-66	1966-67
		Rs.	Rs.	Rs.
298	Pakistan Western Railway Girls ... Secondary School, Cantt., Karachi.	10,466
299	Hajyani Girls Secondary School, ... Ghari Khata, Karachi.	5,435
300	Muslim Girls Secondary School, ... Nazimabad.	14,050
301	Rounaq-e-Islam Girls Secondary ... School, Federal 'B' Area.	10,348
302	Rizvia Girls Secondary School, ... Rizvia Colony.	9,806
303	Jamia Islamia Primary School. ...	13,127	13,381	11,638

Serial No.	Names and locations of Girls Schools in Hyderabad Region	Total No. of students on roll in each of the school	Number of students who passed their Matriculation Examination from the school during					Remarks
			1962	1963	1964	1965	1966	
(a)	(b)	(c)	(d)					(e)
4	Government Girls High School, Matli, Hyderabad	91				5	1965 1967	
5	Government Girls High School, Tando Muhammad Khan, Hyderabad							1968
6	Government Girls High School, Mirpur Khas, Tharparkar	495	61	67	28	39	80	
7	Government Girls High School, Dadu	335	13	17	8	11	36	
8	Government Girls High School, Kotri, Dadu	167					7	1965

Serial No.	Names and locations of Girls Schools in Hyderabad Region	Total No. of students on roll in each of the school	Number of students who passed their Matriculation Examination from the school during					Remarks
			1962	1963	1964	1965	1966	
(a)	(b)	(c)	(d)					(e)
9	Government Girls High School, Sanghar	136		1	12	7		1963
10	Government Girls High School, Nawabshah	359	21	28	31	32	37	
11	Government Girls High School, Khairpur Mirs	415	57	39	32	53	45	
12	Government Girls High School, Shikarpur, Sukkur	370	19	23	29	26	29	
13	Government Girls High School, Rohri, Sukkur	171		4	4	4	20	1962
14	Government Girls High School, Sukkur	768	11	17	11	9	37	

Serial No.	Names and locations of Girls Schools in Hyderabad Region	Total No. of students on roll in each of the school	Number of students who passed their Matriculation Examination from the school during				Remarks	
			1962	1963	1964	1965		1966
(a)	(b)	(c)	(d)				(e)	
15	Government Girls High School, Shahdaktot, Larkana	59					1965	
16	Government Girls High School, Larkana	519	12	15	18	36	50	
17	Government Girls High School, Jacobabad	201	13	17	13	8	19	
18	Khalid Memorial Girls High School, Hyderabad	128					Tenth Class Starts from 1966	
19	Himayat-ul-Islam Girls High School, Hyderabad	223		17	28	28	32	1963

Serial No.	Names and locations of Girls Schools in Hyderabad Region	Total No. of Students on roll in each of the school	Number of students who passed their Matriculation Examination from the school during					Remarks
			1962	1963	1964	1965	1966	
(a)	(b)	(c)	(d)					(e)
20	Memon Anjuman Girls High School, Hyderabad	365	4	6	9	16	1963	
21	Cantonment Girls High School, Hyderabad	114				7	1965	
22	St. Mary's Girls High School, Hyderabad	424	38	51	60	67	1962	
23	APWA Girls High School, Latifabad, Unit No. 8	258	20	24	24	26	1963	
24	Mohammadi Girls English Teaching School, Hyderabad	200				9	1965	

Serial No.	Names and Locations of Girls Schools in Hyderabad Region	Total No. of Students on roll in each of the school	Number of students who passed their Matriculation Examination from the school during					Remarks
			1962	1963	1964	1965	1966	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)				
25	Hassan English Teaching Girls High School, Hyderabad	205				1	1966	
26	Islamia Girls High School, Latifabad, Unit No. 9	65				2	3	1965
27	Shah Latif Girls High School, Latifabad, Unit No. 9	51					2	1965
28	Shah Latif Girls High School, Hirabad, Hyderabad	67						1966
29	M. A. Jinnah Girls High School, Latifabad, No. 9	84						1966

Serial No.	Names and locations of Girls Schools in Hyderabad Region	Total No. of Students on roll in each of the school	Number of students who passed their Matriculation Examination from the school during					Remarks
			1962	1963	1964	1965	1966	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
30	Medrasul Banat Girls High School, Hyderabad	351	26	42	50	35	1962	
31	Girls Own High School, Hyderabad	67		5	4	4	1965	
32	Piggot Memorial Girls High School, Hyderabad	242	37	33	35	35	-	
33	Municipal Girls High School, Tando Muhammad Khan	38					1966	
34	District Council Girls High School, Tando Jam.	50		4	1	5	1964	
35	Municipal Girls High School, Tando Allah Yar	154		9	11	7	1963	

Serial No.	Names and Locations of Girls Schools in Hyderabad Region	Total No. of Students on roll in each of the school	Number of students who passed their Matriculation Examination from the school during					Remarks
			1962	1963	1964	1965	1966	
(a)	(h)	(c)	(d)	(d)	(d)	(e)	(e)	
36	Municipal Girls High School, Tando Adam							
37	Municipal Girls High School, Shahdadpur	154	6	9	11	1963	1963	
38	Municipal Girls High School, Sukkur	122	9	8	20	1963	1963	
39	Medrasul Ghurba Girls High School, Rato Dero	412	11	22	38	15	1966	
40	P. W. R. Girls High School, Sukkur	55	18	22	38	46	54	
41	Ghulam Hyder Moghul Girls High School, Larkana	498	3	4	7	12	14	

APPENDIX III

(Ref: Starred Question No. 10328)

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF HIGH AND MIDDLE SCHOOLS BEING
 RUN BY THE TOWN COMMITTEES AND DISTRICT COUNCILS IN EACH
 DISTRICT OF WEST PAKISTAN

Serial No.	Name of the District	Name of the District Council/ Town Committee	No. of Schools	
			Middle	High
LAHORE REGION				
1	Lahore	... District Council, Lahore	...	14
2	Gujranwala	... District Council Gujranwala	...	9
3	Sialkot	... District Council, Sialkot	...	12
4	Sheikhupura	... District Council, Sheikhupura	...	12
		Town Committee, Chuharkana	...	2
		Town Committee, Shahkot	...	1
		Town Committee, Sangla	...	2
		Town Committee, Khanqah	...	1
		Dogran		
5	Multan	... District Council, Multan	...	20

Serial No.	Name of the District	Name of the District Council/ Town Committee	No. of Schools	
			Middle	High
		Town Committee, Vehari	...	2
		Town Committee, Jehanian	...	1
6	Sahiwal	... District Council, Sahiwal	...	23
		Town Committee, Arifwala	...	2
7	D. G. Khan	... District Council, D. G. Khan	...	3
8	Muzaffargarh	... District Council, Muzaffargarh	...	6
9	Bahawalpur	... District Council, Bahawalpur	...	1
10	Bahawalnagar	... District Council, Bahawalnagar	...	
11	Rahimyar Khan	... District Council, Rahimyar Khan	...	4
		Town Committee, Sadiqabad	...	1
		Town Committee, Liaquatpur	...	1
			...	120
RAWALPINDI REGION				
12	Rawalpindi	... District Council, Rawalpindi	...	29
13	Campbellpur	... District Council, Campbellpur	...	14

Serial No.	Name of the District	Name of the District Council Town Committee	No. of Schools	
			Middle	High
14	Jhelum	... District Council, Jhelum	...	17
15	Gujrat	... District Council, Gujrat	...	13
		Town Committee, Malakwal	...	2
16	Jhang	... District Council, Jhang	...	9
17	Mianwali	... District Council, Mianwali	...	12
		Town Committee, Bhakhar	...	1
		Town Committee, Kala Bagh	...	1
		Town Committee Kallurkot	...	1
18	Sargodha	... District Council, Sargodha	...	22
19	Lyallpur	... District Council, Lyallpur	...	24
		Town Committee, Pir Mahal	...	2
		Town Committee, Tandlianwala	...	2
Total			...	149

HYDERABAD REGION

20	Hyderabad	... District Council, Hyderabad	...	15
----	-----------	---------------------------------	-----	----

Serial No.	Name of the District	Name of the District Council Town Committee	No. of Schools	
			Middle	High
21	Tharparkar	... District Council, Tharparkar	...	13
		Town Committee, Digri	...	1
		Town Committee, Jhudo	...	1
22	Sanghar	... District Council, Sanghar	...	7
23	Thatta	... District Council, Thatta	...	2
24	Dadu	... District Council, Dadu	...	3
25	Sukkur	... District Council, Sukkur	...	6
26	Jacobabad	... District Council, Jacobabad	...	2
27	Larkana	... District Council, Larkana	...	6
28	Nawabshah	... District Council, Nawabshah	...	14
. Total			...	70
GRAND TOTAL			...	339

APPENDIX IV

(Ref: Starred Question No. 10352)

ANNEXURE 'A'

NAMES AND ADDRESSES OF TEXT BOOK SELLERS IN
HYDERABAD AND KHAIRPUR DIVISIONS

I—HYDERABAD DIVISION

<i>Serial No.</i>	<i>Name of Firm</i>	<i>Address</i>
1.	Messrs Kitab Agency	... Tilak Incline, Hyderabad.
2.	Messrs R. H. Ahmed	... Shahi Bazar, Hyderabad.
3.	Messrs Educational Book Depot.	School Road, Hyderabad.
4.	Messrs Muhammad Yousuf and Bros.	Shahi Bazar, Hyderabad.
5.	Messrs Jamil and Bros.	... Kotri, District Hyderabad.
6.	Messrs Deen Dunya Book Depot.	Shahi Bazar, Hyderabad.
7.	Messrs Imperial Book Depot	Shahi Bazar, Hyderabad.
8.	Messrs M. Yousuf Book Sellers.	Shahi Bazar, Hyderabad.
9.	Messrs M. Siddiq A. Karim Book Sellers and Stationers.	Shahi Bazar, Hyderabad.

<i>Serial No.</i>	<i>Name of Firm</i>	<i>Address</i>
10.	Messrs R. M, Fateh Bros.	... Jail Road, Hyderabad.
11.	Messrs Rasul Bux Sabugar	... Shahi Bazar, Thatta.
12.	Messrs Muhammad Rafiq Lutfi.	Shahi Bazar, Shahdadpur
13.	Messrs Qadir Bux and Sons	... Jamia Masjid, Mirpur Khas.

II—KHAIRPUR DIVISION

1.	Messrs Kazmi Store	... Shahi Bazar, Khairpur.
2.	Messrs Master Ji-Book Stall	... Shahi Bazar, Khairpur.
3.	Messrs Ajaib Store	... Frere Road, Sukkur.
4.	Messrs Muslim Book Depot	... Shahi Bazar, Sukkur.
5.	Messrs Aligarh Book Depot	... Neemki Ghari, Sukkur.
6.	Messrs National Book Depot	... Neemki Ghari, Sukkur.
7.	Messrs Maqbool-e-Aam Book Store.	Shahi Bazar, Sukkur.
8.	Messrs Hussainy Book Depot	Near Clock Tower, Sukkur.
9.	Messrs Hijazi Book Store	... Maqam Road, Sukkur.

<i>Serial No.</i>	<i>Name of Firm</i>	<i>Address</i>
10.	Messrs Gul Book Depot	... Neemji Slope, Sukkur.
11.	Messrs Sindhi Book Depot	... Liaqat Road, Larkana.
12.	Messrs Kathiawar Store	... Liaqat Road, Larkana.
13.	Messrs Qureshi Sons	... Masjid Road, Nawabshah.
14.	Messrs Trade Book Depot	... Tijarti Markez, Khairpur.

APPENDIX V

(Ref: Starred Question No. 16377)

STATEMENT 'A'

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF THE TALUKA/NAMES OF DISTRICT WHERE THE SYSTEM OF COMPULSORY EDUCATION EXISTS ALONGWITH THE DATE ON WHICH COMPULSION WAS INTRODUCED

Serial No.	Name of the Taluka	Name of the District	Date on which compulsion was introduced
1	2	3	4

HYDERABAD DIVISION

1	Thatta	... Thatta	... 11th August 1948.
2	Sujawal	... Thatta	... 1st August 1949.
3	Mirpur Sakro	... Thatta	... 5th September 1950
4	Jati	... Thatta	... 7th May 1952.
5	Mirpur Bathoro	... Thatta	... 1st June 1953.
6	Hyderabad	... Hyderabad	... 1st August 1948.
7	Hala	... Hyderabad	... 1st November 1945.
8	Guni	... Hyderabad	... 15th January 1945.
9	Badin	... Hyderabad	... 8th July 1951.
10	Tando Bago	... Hyderabad	... 1st August 1956.
11	Mirpurkhas	... Tharparkar	... 1st August 1949.
12	Umer Kot	... Tharparkar	... 1st July 1948.
13	Nagarparkar	... Tharparkar	... 18th August 1954.
14	Jamesabad	... Tharparkar	... 19th April 1952.
15	Digri	... Tharparkar	... 5th April 1953,

1	2	3	4
16	Samaro	... Tharparkar	... 4th July 1955.
17	Sanghar	... Sanghar	... 1st May 1951.
18	Sighoro	... Sanghar	... 1st May 1954.
19	Shahdadpur	... Sanghar	... 1st July 1948.
20	Khipro	... Sanghar	... 1st July 1948.
21	Dadu	... Dadu	... 5th May 1939.
22	Johi	... Dadu	... 1st September 1948.
23	Mehar	... Dadu	... 1st September 1948.
24	Sehwan	... Dadu	... 1st September 1948.
25	Kakar	... Dadu	... 1st August 1954.

KHAIRPUR DIVISION

26	Khairpur	... Khairpur	... 1st June 1945.
27	Gambat	... Khairpur	... 1st June 1946.
28	Faizgang	... Khairpur	... 1st April 1947.
29	Mirwah	... Khairpur	... 1st April 1948.
30	Kot Diji	... Khairpur	... 1st November 1944.
31	Nawabshah	... Nawabshah	... 1st August 1956.
32	Moro	... Nawabshah	... 1st August 1948.
33	Sakrand	... Nawabshah	... 1st June 1951.
34	Kandiaro	... Nawabshah	... 1st April 1946.
35	Sukkur	... Sukkur	... 22nd July 1938.
36	Shikarpur	... Sukkur	... 1st November 1949.
37	Rohri	... Sukkur	... 1st September 1955.
38	Ghotki	... Sukkur	... 16th June 1953.

1	2	3	4
39	Mirpur Mathelo	... Sukkur	... 1st August 1948.
40	Pano Akil	... Sukkur	... 1st August 1950.
41	Ubahro	... Sukkur	... 1st September 1956.
42	Jacobabad	... Jacobabad	... 1st April 1945.
43	Garhi Khairo	... Jacobabad	... 1st August 1950.
44	Thul	... Jacobabad	... 1st May 1941.
45	Kandhkot	... Jacobabad	... 1st June 1949.
46	Larkana	... Larkana	... 31st October 1928.
47	Dokri	... Larkana	... 3rd July 1945.
48	Shahdadkot	... Larkana	... 26th July 1952.
49	Miro Khan	... Larkana	... 20th September 1949.
50	Ratodero	... Larkana	... 1st September 1955.

STATEMENT 'B'

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF CASES OF VIOLATION OF THE
COMPULSORY EDUCATION RULES DETECTED DURING 1963 TO
1967 AS WELL AS THE NUMBER OF THOSE IN WHICH ACTUAL
PROCEEDINGS WERE STARTED

Serial No.	Name of the District	No. of cases detected	No. of cases where actual proceedings were started
1	2	3	4
HYDERABAD DIVISION			
1	Tando Division	... 36,000	36,000
2	Halla Division	... 1,258	1,258
3	Dadu
4	Thatta	... 1,031	761
5	Saughat	... 5,048	2,754
6	Tharpatkar
KHAIRPUR DIVISION			
7	Jacobabad	... 6,705	5,708
8	Farwahah	... 3,886	2,893
9	Larkana	... 12,000	12,000
10	Shikarpur	... 3,793	2,697
11	Rohri Division	... 2,495	3,182
12	Mirwah Division	... 2,747	1,405
13	Khenpur	... 1,773	1,439

APPENDIX VI

(Ref: Starred Question No. 10801)

MERIT LIST OF S. V. CANDIDATES, LAHORE DIVISION

1965

1	Pir Muhammad	...	747
2	Muhammad Khurshid	...	726
3	Muhammud Hanif Zahid	...	725
4	Muhammad Ashraf	...	721
5	Mr. Ghulam Rasool	...	716
6	Muhammad Iqbal	...	715
7	Muhammad Sarwar	...	714
8	Mr. Nazar Din	...	709
9	Muhammad Sharif	...	708
10	Muhammad Ashraf	...	704
11	Muhammad Siddiq	...	704
12	Muhammad Rashid Akbar	...	701
13	Mehr Din	...	698
14	Muhammad Amin	...	692
15	Muhammad Ismail	...	688
16	Ghulam Mustafa	...	688
17	Atta Ullah Shah	...	687
18	Iltaf Hussain	...	678
19	Muhammad Saeed	...	677
20	Hanif Beg	...	673
21	Sultan Ali	...	655
22	Anwar Ahmed	...	652

23	Mr. Khurshid Ahmed	...	648
24	Mr. Rana Muhammad Yousaf	...	640
25	Mr. Muhammad Ashraf	...	632
26	Muhammad Sharif	...	620

1966

1	Mr. Abdur Rashid	...	763
2	Mr. Muhammad Hussain	...	760
3	Mr. Muhammad Munawar	...	754
4	Mr. Abdus Samad	...	752
5	Muhammad Siddiq	...	747
6	Mr. Nazir Ahmed	...	740
7	Mr. Abdul Majid	...	740
8	Mr. Munir Ahmed	...	733
9	Muhammad Ibrahim	...	729
10	Mr. Manozor Ahmed Tariq	...	728
11	Mr. Muham Akram Shad	...	728
12	Mr. Ashiq Ali	...	724
13	Mr. Ashraf Ali Shah	...	724
14	Mr. Wali Muhammad	...	720
15	Mr. Noor Muhammad	...	712
16	Mr. Rashid Ahmed	...	705
17	Muhammad Rafiq	...	700
18	Mr. Shamsbad Ali	...	699
19	Mr. Khan Muhammad Khan	...	686
20	Mr. Ahmed Ali	...	683
21	Mr. Ahmed Din	...	669

22	Mr. Hayat Muhammad	...	668
23	Mr. Abdul Ghafoor	...	662
24	Mr. Sultan Ali	...	655
25	Mr. Habib Ahmed	...	651
26	Mr. Lal Din	...	631
27	Muhammad Rafiq Shad	...	603
28	Mr. Hussain Ali	...	593

S.V. AGRICULTURE TEACHERS

1.	Mr. Jahan Khan	...	558
2	Mr. Ejaz Majid	...	563
3	Muhammad Nawaz Khan	...	562
4	Mr. Zafar Ahmad	...	474

S. V. 1967. (LAHORE DIVISION)

1	Mr. Manzoor Ahmed Saleem	...	700
2	Mr. Muhammad Hanif	...	758
3	Mr. Abdur Razaq	...	747
4	Mr. Abdul Ghafoor	...	728
5	Mr. Asghar Ali	...	724
6	Mr. Abdur Rehman s/o Ali Muhammad	...	723
7	Mr. Abdur Rehman	...	723
8	Mr. Maqsood Ahmed	...	722
9	Mr. Din Muhammad	...	720
10	Mr. Muhammad Riaz	...	719
11	Mr. Rehmat Ali	...	719
12	Mr. Khaliq Hussain	...	719
13	Mr. Ghulam Nabi	...	718

14	Mr. Muhammad Ashiq	...	710
15	Mr. Muhammad Younus	...	707
16	Mr. Gulzar Hussain	...	706
17	Mr. Nazar Muhammad	...	701
18	Saleem Anwar	...	697
19	Mr. Muhammad Bashir	...	689
20	Mr. Muhammad Rasbid	...	683
21	Mr. Muhammad Isa	...	682
22	Mr. Ahmed Shakaby	...	676
23	Mr. Muhammad Afzal	...	671
24	Mr. Muhammad Maqbool Ahmed	...	669
25	Mr. Muhammad Rafiq	...	662
26	Mr. Muhammad Munir Ahmed	...	659
27	Mr. Muhammad Afzal	...	657
28	Mr. Muhammad Siddiq	...	652
29	Mr. Muhammad Hanif Bhutti	...	640
30	Mr. Muhammad Rafiq	...	603
31	Mr. Muhammad Ali	...	576
32	Mr. Munir Ahmed	...	573
33	Mr. Abudul Ghafoor	...	558

S.V. AGRICULTURE TEACHERS.

1	Mr. Muhammad Hanif Shad	...	674
2	Mr. Muhammad Ashiq	...	614
3	Mr. Muhammad Bashir Qamar	...	612
4	Mr. Muhammad Yousaf	...	592
5	Mr. Muhammad Ali	...	581

6	Mr. Muhammad Akram	...	565
7	Mr. Ghulam Murtaza	...	535
8	Mr. Iqbal Hussain	...	515

MERIT LIST OF S.V. CANDIDATES
MULTAN DIVISION.

1965.

1	Mr. Muhammad Akram Azad	...	751
2	Mr. Gulzar Ahmed	...	759
3	Mr. Ghulam Rasool	...	718
4	Mr. Muhammad Saleem	...	691
5	Mr. Ghulam Shabbir	...	690
6	Mr. Fazal Hussain	...	689
7	Mr. Muhammad Ashiq Bhutti	...	660
8	Mr. Muhammad Akram	...	661
9	Mr. Lutf Ullah	...	613
10	Mr. Muhammad Yaqoob	...	619
11	Mr. Abdul Aziz	...	606
12	Mr. Khushi Muhammad	...	606
13	Mr. Mukhtar Hussain	...	559

1966.

1	Mr. Riaz Ahmed	...	737
2	Mr. Talib Hussain	...	737
3	Mr. Murid Hussain Akhtar	...	726
4	Mr. Nazar Hussain	...	726
5	Mr. Muhammad Rafiq Bhutti	...	719
6	Mr. Abdul Jalil	...	717

7	Mr. Aslam Akhtar	...	710
8	Mr. Muhammad Aslam Tahir	...	706
9	Mr. Abdul Latif Awan	...	698
10	Mr. Abdur Rahim	...	692
11	Mr. Amanat Ali	...	686
12	A. Muhammad Siddiq	...	675
13	Mr. Sahib Ali Shah	...	668
14	Mr. Zafar Hussain	...	661
15	Mr. Ghulam Ahmed	...	652
16	Mr. Muhammad Saeed Akhtar	...	611
17	Mr. Sultan Ali	...	567
18	Mr. Sultan Mahmood	...	527
19	Ali Ahmed	...	501

S.V. AGRICULTURE TEACHERS.

1	Mr. Rehmat Ullah	...	591
2	Mr. Muhammad Bashir	...	580
3	Mr. Muhammad Aslam	...	532

1967

1	Mr. Muhammad Hanif	...	749
2	Niaz Muhammad	...	747
3	Mr. Muhammad Saleem Shad	...	744
4	Mr. Gulzar Ahmed	...	739
5	Mr. Muhammad Shafqat Nadeem	...	739
6	Mr. Ghulam Yasin Chishti	...	737
7	Dost Muhammad	...	730
8	Mr. Muhammad Shafi	...	728

9	Mr. Ghulam Hussain	...	723
10	Mr. Muhammad Hussain	...	722
11	Mr. Shafi Muhammad	...	721
12	Mr. Faiz Muhammad	...	720
13	Mr. Allah Wasaya	...	709
14	Mr. Mukhtar Muhammad	...	708
15	Mr. Muhammad Nawaz	...	703
16	Mr. Abdur Rehman	...	698
17	Mr. Faiz Muhammad Jahfar	...	696
18	Mr. Aman Ullah	...	692
19	Mr. Muhammad Afzal	...	679
20	Mr. Muhammad Iqbal	...	677
21	Mr. Fiaz Muhammad Khan	...	674
22	Fida Hussain	...	671
23	Mr. Fiaz Muhammad	...	671
24	Mr. Muhammad Mushtaq	...	655
25	Mr. Faqir Hussain	...	651
26	Mr. Fiaz Bakhsh Anwar	...	650
27	Mr. Allah Dad	...	649
28	Mr. Muhammad Wahced Ullah	...	637
29	Mr. Allah Bux Khan	...	637
30	Mr. Nazir Ahmed	...	429

S.V. AGRICULTURE TEACHERS

1	Mr. Abdul Khaliq	...	660
2	Mr. Bahadar Ali	...	541

MERIT LIST S. V. CANDIDATES, BAHAWALPUR DIVISION

1966

1	Mr. Fazal Ahmed	...	695
2	Mr. Anwar Hussain Ansari	...	671
3	Mr. Muhammad Sharif	...	654
4	Mr. Wajid Ali	...	654
5	Mr. Ashiq Muhammad	...	644
6	Mr. Abdul Ghafoor	...	639
7	Mr. Muhammad Hussain	...	624
8	Mr. Muhammad Irshad	...	621
9	Mr. Muhammad Azhar	...	618
10	Mr. Mahboob Alam Shaheen	...	609
11	Mr. Ghulam Jilani	...	441

1965

1	Hafiz Muhammad Ahmed	...	717
2	Mr. Abdul Malik Ghaznavi	...	716
3	Mr. Abdul Rashid Qureshi	..	713
4	Mr. Mushtaq Hussain Latif	...	698
5	Mr. Muhammad Hussain Azad	...	668
6	Mohi Nizam-ud-Din	...	601
7	Muhammad Alam Zaheer	...	591
8	Mr. Rafiq Rashid	...	578
9	Mr. Muhammad Nawaz Sabir	...	530

1967

1	Mr. Saldar Hussain	...	717
2	Muhammad Anwar	...	715

3	Sultan Mahmood	...	685
4	Mr. Ghulam Hussain	...	685
5	Mr. Muhammad Ismail	...	671
6	Mr. Farzand Ali	...	671
7	Mr. Muhammad Ismail	...	671
8	Mr. Abdul Ghaffar	...	687
9	Mr. Abdul Hafeez	...	616
10	Mr. Sardar Muhammad	...	643
11	Mr. Faiz Bakhsii	...	634
12	Mr. Feroze Din	...	633
13	Mr. Salamat Ali	...	628
14	Mr. Muhammad Ibrahim	...	616
15	Arshad Ali	...	616
16	Mr. Muhammad Shafi Bhatti	...	595
17	Mr. Manzoor Hussain Shah	...	582
18	Mr. Aziz-ur-Rehman Khan	...	565
19	Mr. Ghulam Jilani	...	441

APPENDIX VII

(Ref: Starred Question No. 11077)

مورخہ ۱۱-۱۱-۶۷

السلام علیکم - آپ کی خدمت میں مشرق مورخہ ۱۸ اکتوبر اور ماہنامہ منشور کراچی کے چند صفحے بھیج رہے ہیں جو کہ ہمارے پرنسپل کی پاکستان دشمن پالیسی کو بڑی اچھی طرح واضح کر رہے ہیں - آپ سے التماس ہے - کہ آپ تحقیقات کر کے ان الزامات کے درست ہونے پر اس پرنسپل کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کریں - آپ کو یہ خط اس لیے بھیج رہے ہیں - کہ آپ ہمارے محسن ہیں اور آپ سے امید ہے کہ آپ قوم کے نونہالوں کی تکالیف کو دور کرنے کی حتی الوسع کوشش کریں گے - ہماری مندرجہ ذیل شکایات پر غور فرمائیں - اور محکمہ تعلیم کے حکام کو انکے دور کرنے کے احکامات جاری کریں -

(۱) ۱۱ ستمبر کو قائد اعظم کی برسی کے موقع پر اس کالج کا کھلا رہنا صرف اس عظیم شخصیت کی بے عزتی ہی نہ تھی بلکہ پوری قوم کی بے عزتی تھی - مگر ہمارے پرنسپل نے کالج کھول کر اپنی ذہنیت کو ظاہر کیا ہے یہ چھٹی اس لئے نہیں دی گئی کہ ایک تو اس میں پرنسپل کو ذاتی فائدہ نہیں تھا - اور اس کے ساتھ ہی حکام کی بے عزتی بھی تھی - کہ ایک سرکاری چھٹی ہونے کے باوجود سرکاری احکامات کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا - اس سلسلے میں بہت سے اخباروں نے بھی پرنسپل کے خلاف کافی لکھا ہے -

مگر اب بھی پرنسپل جس نے ایک دن کی چھٹی نہیں دی تھی اپنے فائدے کے لئے کالج کو آٹھ دنوں کے لئے بند کر رہا ہے - یعنی ۲۵ اکتوبر سے یکم نومبر تک یہ کالج بند رہے گا نہ معلوم چھٹیاں کیوں دی جا رہی ہیں - مگر ظاہری طور پر تو یہ بات نظر آتی ہے - کہ

اس طرح سے کالج کا میس بند رہے گا اور میس کی فیس مہینے کے شروع میں وصول کی جا چکی ہے۔ ان دنوں میں میس کے بند ہونے کی وجہ سے یہ پیسے لڑکوں کو واپس نہیں کیے جائیں گے۔ بلکہ یہ پیسے پرنسپل کی بیوی کی آمدنی ہوگی۔ کیا یہ پرنسپل سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔

اس کے علاوہ ہمارے کالج کی فیس ابھی بہت زیادہ ہے۔ کالج کی فیس کم کی جائے۔

کالج کے میس کو چلانے۔ ہاسٹل کے انتظام۔ مائیکل سٹینڈ کے انتظام اور دوسرے انتظامی امور کے لئے طلبا اور اساتذہ کی مشترکہ کمیٹیاں بنائی جائیں۔

چند طلبا

ایڈورڈز کالج پشاور

مورخہ ۲۰-۱-۶۸

بخدمت جناب محترم گورنر صاحب

السلام علیکم - اس سے قبل بھی ہم ایڈورٹرز کالج کے طلباء آپ کی خدمت میں چند گزارشات بھجوا چکے ہیں جن میں سے ہماری چند شکایتوں پر غور ہو چکا ہے - مگر اب آپ کی خدمت میں ایک ایسی شکایت بھیج رہے ہیں جس کا ازالہ بہت ہی ضروری ہے - بحیثیت ایک سچے مسلمان اور باعنا کے ہماری آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ ہماری اس شکایت کو نہ صرف وقتی طور پر دور کرنے کی کوشش کریں گے - بلکہ اس کی پوری تحقیقات کا بھی حکم فرمائیں گے -

ہم مسلمان ہوتے ہوئے پاکستان کے باشندے ہونے کی وجہ سے فخر محسوس کرتے ہیں کیونکہ پاکستان سب سے بڑی اسلامی حکومت ہے اور باقی اسلامی ممالک میں بھی اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے - مگر پاکستان میں رہتے ہوئے یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا آسٹریلوی پرنسپل ڈاکٹر فل ٹینڈ - جن کی شخصیت کے متعلق بہت سے رسالوں اور اخباروں میں کافی مضامین آچکے ہیں اور جو طرح طرح سے اپنی اسلام دشمن پالیسی کو آشکارا کر رہا ہے اس کی پاکستان دشمن پالیسی تو اس بات سے ظاہر ہو چکی ہے کہ بانی پاکستان کے یوم وفات پر کالج کھول کر اس نے اس عظیم شخصیت کی بے عزتی کی ہے - اس کی اسلام دشمن پالیسی اس بات سے صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس کالج میں پہلے عربی کا مضمون پڑھایا جاتا تھا - مگر اب اس نے یہ مضمون بند کر دیا ہے -

اب اس نے مسلمان جو کہ ہوسٹل میں رہ رہے ہیں - اسلام کے ایک ضروری رکن یعنی روزہ سے دور کرنے کی کوشش کی ہے - اس کی اور اس کی بیوی جو کہ میس کو چلانے کی ذمہ دار ہے کی یہ کوشش ہے -

اور وہ طرح طرح سے لڑکوں کو نہ صرف روزہ رکھنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں - بلکہ اس مقدس مہینے کی بے عزتی بھی کرتے ہیں - اس سے بڑی بے عزتی کیا ہو سکتی ہے کہ اس مقدس مہینے میں ہوسٹل کا بیس دن کے وقت نہ صرف کھلا رہتا ہے بلکہ کھانے کے وقت اسی طرح گھنٹی (لڑکوں) کو بلانے کے لیے بجائی جاتی ہے جیسے کہ عام دنوں میں ہوتا رہتا ہے - اس شکایت کے سچ ہونے کے ثبوت میں آپ کی خدمت میں روزنامہ مشرق کی ایک خبر کا تراشہ بھجوا رہے ہیں جو کہ اس شخص کی ذلیل شخصیت کو اچھی طرح اجاگر کر رہی ہے -

اس کے علاوہ ہماری دوسری شکایت جو کہ غور طلب ہے وہ اس کالج میں یونین کا نہ ہونا ہے - ایک جمہوری حکومت میں طلباء کے اس حق کو ان سے لے لینا کہاں تک درست ہے - اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اس کالج کی انتظامیہ ہی خراب ہے اور جن لوگوں کو ہماری قسمتوں کے فیصلے کے لیے مقرر کیا ہے - وہ تمام کے تمام عیسائی ہیں جب کہ اس کالج کی ۹۸ فیصد تعداد مسلمان طلباء پر مشتمل ہے - اساتذہ کی زیادہ تعداد بھی مسلمان ہیں - گورنمنٹ بھی کالج کو مدد دیتی رہتی ہے تو پھر اس کی انتظامیہ میں ہمارے مقامی افسروں کو شامل کیا جائے جو ہمارے مفاد کے لیے کچھ کریں آپ سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اس کالج کی انتظامیہ کو مجبور کریں کہ وہ اس کالج میں پاکستان کے دوسرے کالجوں کی طرح طلباء کی یونین کی اجازت دیں - اس کے انتخابات جلدی کرائیں اور اس طرح سے ہمیں بھی ہمارا بنیادی حق ملے -

ہماری تیسری شکایت کالج کا میس اور اس کا ناقص کھانا ہے - میس کا انتظام پرنسپل کی بیوی کرتی ہے - میس کی فیس کالج کے دفتر والے

وصول کرتے ہیں مگر اس کے خرچ کا کوئی حساب نہیں رکھا جاتا۔ ۵۰ دنوں سے کم چھٹیوں میں بھی میس کے پورے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کو اس بھاری بوجھ سے نجات کے لیے آپ اس انتظامیہ سے باز پرس کریں۔ کیونکہ انہوں نے ۲۵ اکتوبر سے یکم نومبر تک آٹھ دنوں کی پیسے طلبا کو واپس نہیں کیے۔ جبکہ ان دنوں میں کالج بند تھا اور طلبا اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ اب اس طرح سے چند طلبا ایسے بھی ہیں کہ ان کے امتحانات ۱۰ دسمبر کو ہی ختم ہو گئے ہیں اور وہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں۔ مگر ان سے میس کی پوری فیس وصول کی گئی ہے۔ آپ سے ہم پرزور گزارش کرتے ہیں۔ کہ آپ نہ صرف انتظامیہ کو مجبور کر کے ہماری یہ رقم واپس دلائیں بلکہ میس کے انتظام کو صحیح طور پر چلانے کے لیے اساتذہ اور طلبا پر مشتمل ایک بورڈ بنائیں جو کہ میس کا انتظام پرنسپل کی بیوی سے لے کر چلائیں۔

آخر میں ہم آپ کی توجہ اس پرنسپل کے غیر مساویانہ رویے کی طرف کراتے ہیں۔ اس کالج میں ۹۸ فیصد تعداد مسلمان طلبا کی ہے۔ جو کہ مقامی کالجوں کی نسبت تین گنا زیادہ فیس ادا کرتی ہے۔ اس کے بدلے یہاں پر جو ۲ فیصد عیسائی پڑھتے ہیں ان کی فیس معاف کر دی گئی ہے۔ ایسی بے انصافی کیوں ہو رہی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ یہ سلوک یہاں کے مسلمان اساتذہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ان کو طرح طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کے بدلے میں انگریزوں اور عیسائی اساتذہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کے ثبوت کیلئے ہم صرف اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتے ہیں کہ ہمارے کالج کے کیمسٹری ڈیپارٹمنٹ میں سنٹرسٹاکس نامی ایک انگریز ہیں جن کو کافی

اہمیت دی جاتی ہے۔ مگر انکلینڈ سے آنے کے بعد ۹ مہینوں تک وہ صرف پریکٹیکل کراتا رہا تھا۔ جو کہ ایک Demonstrator کا کام تھا۔ اب اس نے اپنی قابلیت کا مظاہرہ ہمارے حالیہ امتحانوں میں کیا۔ کیہسٹری کا ایک پرچہ جو کہ F. Sc. کے لیے رکھا گیا تھا۔ مگر اس کو B. Sc. والے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس پرچے میں ۵ سوال ایسے تھے۔ جو کہ عمارت ایسے کورس میں شامل نہیں ہیں۔ اس کا رد عمل ہوا اس کے ثبوت کے لیے ہم آپ کی خدمت میں روزنامہ خیبر پشاور کا ایک ترشہ بھیج رہے ہیں۔ جو کہ ہمارے کالج کی انتظامیہ کی بے اعتدالیوں کو اچھی طرح واضح کر رہا ہے۔

آپ سے پر زور گزارش ہے کہ آپ ہماری ان شکایتوں کا ازالہ کریں۔ اور کالج کے پرنسپل کو مجبور کریں کہ وہ یہاں پر ایک یونین مقرر کرے۔

فقط والسلام

چند طلبا۔ ایڈورڈز کالج پشاور

اس خط کی کاپیاں مندرجہ ذیل احباب کو بھیج دی گئیں ہیں۔

۱۔ وزیر تعلیم مغربی پاکستان

۲۔ سیکرٹری محکمہ تعلیم مغربی پاکستان

۳۔ ڈائریکٹر محکمہ تعلیم پشاور ریجن

۴۔ ایڈیٹر ماہانہ ”منشور“، کراچی

مورخہ ۶۸-۳-۲۲

محترم جناب گورنر صاحب

تسلیمات - ہم اپنی بہت سی تکالیف کو شکایات کی صورت میں آپ تک پہنچا چکے ہیں - مگر ابھی تک ان پر کوئی عمل نہیں ہوا - ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے - اور ہم اپنے آپ کو کیسے مسلمان سمجھ سکتے ہیں کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت ہونے پر ناز و فخر ہے - وہاں ہمارے اپنے مذہب کے ساتھ بیرونی لوگ جو سلوک کرتے ہیں ویسا تو ہمارے خیال میں دوسرے ملکوں میں بھی ناممکن ہے - یہ جسارت یہ غیر ملکی لوگ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے حکام ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے - پچھلے دنوں میں کالج کے ایک انگریز لیکچرار نے نہ صرف ہمارے مذہب کی توہین کی ہے بلکہ کامہ طیبہ جو کہ مسلمانوں کے لیے اولین فرض ہے کو اپنے ہاؤں تلے روندہ ڈالا - اگر ہماری یہ بات درست نہیں ہے - تو پرنسپل نے اس انگریز لیکچرار کو پشاور سے لاہور کیوں بھیج دیا ہے اور اب وہ اتنی ہمت کیوں نہیں کرتا کہ اسے واپس بلائے -

ایڈورڈز کالج کے پرنسپل نے اپنی اصلیت چھپانے کے لیے کرائے کے خریدے ہوئے طلباء جن کو طرح طرح کی لالچیں اور رشوتیں دی گئی ہیں کے ذریعہ ایک اوجھا اور ذلیل خط ”مشورہ“ کراچی کے ایڈیٹر کو بھیجا ہے جس میں اسے طرح طرح کی گلیاں دی گئی ہیں - اس ایڈیٹر کی خطا یہ تھی کہ اس نے اس ذلیل پاکستان دشمن پرنسپل کی سلک دشمنی کو آجاگر کرنے کی کوشش کی تھی - اس کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس خط کو بھیجنے کیلئے جو لفافہ استعمال کیا گیا ہے - وہ صرف پرنسپل یا دفتر کے لوگ استعمال کرتے ہیں - اس طرح سے پرنسپل

نے ان لڑکوں کے ذریعہ جو کہ اس کی حرام کی کمائی اور دوسرے ناجائز طریقوں سے کمائی پر ہل رہے ہیں - یہ شرارت کی ہے اور اپنی اصابت اور سی آئی اے کی کارروائیوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے -

ہم اپنے گزشتہ خط کی ایک کاپی بیوی ساتھ ارسال کر رہے ہیں - اپنے مطالبات اور شکایات کے متعلق آپ سے ہرزور اپیل کرتے ہیں کہ آپ ان کی تحقیقات کرائیں - اگر ہماری شکایات کے سچ ہونے میں کوئی شک کی گنجائش ہوتی تو پشاور میونسپل کمیٹی (جس کے ممبر بنیادی جمہوریتوں کے منتخب چیئرمین ہیں) کے ممبروں نے متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور نہ کی ہوتی جس میں صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس قدیم کالج کی انتظامیہ کو درست کرنے کے لئے ایک بورڈ مقرر کیا جائے -

آپ سے استدعا ہے - کہ آپ جو بھی بورڈ مقرر کریں ان کے ممبران کے ناموں اور ان کے کالج میں آنے کی تاریخ کا پہلے ہی اعلان کر دیں تاکہ ہم اپنی شکایات ان تک صحیح حالت میں پہنچا دیں -

اس کے ساتھ ہی ہم آپ کی خدمت میں قرارداد کی کاپیاں اخباروں کے تراشوں کی صورت میں بھیج رہے ہیں -

طابا ایڈورٹز کالج پشاور

مورخہ ۲۳-۳-۶۸

جناب گورنر صاحب

تسلیمات - ہم اپنی بہت سی تکالیف کو شکایات کی صورت میں آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ مگر ابھی تک ان پر کوئی بھی عمل نہیں ہوا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے اور ہم اپنے آپ کو کیسے مسلمان سمجھ سکتے ہیں۔ کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت ہونے پر ناز و فخر ہے۔ ہمارے اپنے مذہب کے ساتھ بیرونی لوگ جو سلوک کرتے ہیں۔ ویسا تو ہمارے خیال میں دوسرے ملکوں میں بھی ناممکن ہے۔ یہ جسارت یہ غیر ملکی لوگ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے حکام ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پچھلے دنوں میں کالج کے ایک انگریز لیکچرار نے نہ صرف ہمارے مذہب کی توہین کی ہے بلکہ کامہ طیبہ جو کہ مسلمان کے لئے اولین فرض ہے۔ کو اپنے پاؤں تلے روندہ ڈالا۔ اگر ہماری یہ بات درست نہیں ہے تو پرنسپل نے اس انگریز لیکچرار کو پشاور سے لاہور کیوں بھیج دیا ہے۔ اور اب وہ اتنی ہمت کیوں نہیں کرتے کہ اسے واپس بلائے۔

ایڈورڈز کالج کے پرنسپل نے اپنی اصنیت چھپانے کے لیے کرانے کے خریدے ہوئے طلباء جن کو طرح طرح کی لالچیں اور رشونیں دی گئی ہیں کے ذریعہ ایک اوجھا اور ذلیل "منشور" کراچی کے ایڈیٹر کو لکھا ہے جس میں اسے طرح طرح کی گالیاں دی گئی ہیں۔ اس ایڈیٹر کی خطا یہ تھی کہ اس نے اس ذلیل پاکستان دشمن پرنسپل کی ملک دشمنی کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی اس کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ خط کو بھیجنے کیلئے جو نفاذ استعمال کیا گیا ہے وہ صرف پرنسپل یا دفتر کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح سے پرنسپل نے ان لڑکوں کے

ذریعہ جو کہ اس کی حرام کی کمائی اور دوسرے ناجائز طریقوں پر چل رہے ہیں یہ شرارت کی ہے۔ اور اپنی اصلیت اور سی آئی اے کی کارروائیوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔

ہم اپنے گزشتہ خط کی ایک کاپی بوی ساتھ ہی ارسال کر رہے ہیں اور اپنے مطالبات اور شکایات کے متعلق آپ سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ آپ ان کی تحقیقات کرائیں اگر ہماری ان شکایات کے سچ ہونے میں کوئی شک کی گنجائش ہوتی تو پشاور میونسپل کمیٹی (جس کے ممبر بنیادی جمہوریتوں کے منتخب چیرمین ہیں) کے ممبروں نے متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور نہ کی ہوتی جس میں صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس قدیم کالج کی انتظامیہ کو درست کرنے کے لیے ایک بورڈ مقرر کیا جائے۔

آپ سے استدعا ہے کہ آپ جو بوی بورڈ مقرر کریں ان کے ممبروں کے ناموں اور ان کے کالج میں آنے کی تاریخ کا پہلے سے ہی اعلان کر دیں تاکہ ہم اپنی شکایات ان تک صحیح حالت میں پہنچا دیں۔

اس کے ساتھ ہی ہم آپ کی خدمت میں قرارداد کی کاپیاں اخباروں کے تراشوں کی صورت میں بھیج رہے ہیں۔

طلبا ایڈورٹز کالج پشاور

APPENDIX VIII

(Ref : Starred Question No. 11091)

"A"

LIST OF THE CANDIDATES WHO HAVE APPLIED FOR THE POST OF
PRIMARY TEACHERS IN THE YEAR 1966

Serial No.	Name of the applicant	Taluka
1	Mr. Jairamdas Sakhomal	Nagarparkar
2	Mr. Ranomal Buderji	Do
3	Mr. Badmo Horkho	Do
4	Mr. Balji Karoram	Do
5	Mr. Dhanger Chatgar	Do
6	Mr. Jawardon Bhagoodan	Do
7	Mr. Bhuromal Barjimal	Do
8	Mr. Noromal Bhumomal	Do
9	Mr. Gulabuddin Muhammad Alim	Do
10	Mr. Hariram Mahroji	Do
11	Mr. Bhawsingh Jodhsingh	Do
12	Mr. Ambaram Manghiram	Do
13	Mr. Paroomal Togomal	Do
14	Mr. Ali Bux Izat Khan	Do
15	Mr. Muhammad Umar Razi Muhammad Nonh	Do
16	Mr. Manghji Anchalsingh	Do
17	Mr. Pahlwan Khuda Bux	Mithi
18	Mr. Rastoorchand Walchand	Do
19	Mr. Hamraj	Do

Serial No.	Name of the applicant	Taluka
20	Mr. Abdul Rahman Muhammad Siddique	Mithi
21	Mr. Koombhji	Do
22	Mr. Raichand Desarmal	Do
23	Mr. Nirbhadas Saloomal	Do
24	Mr. Budhomal K.	Do
25	Mr. Narsomal Manghalram	Do
26	Mr. Saghar Balev	Do
27	Mr. Wankomal Nirbhupal	Do
28	Mr. Ladharam N.	Do
29	Mr. Tikamdas Ranomal	Do
30	Mr. Damoon Punho	Do
31	Mr. Depchand Deboomal	Do
32	Mr. Meharchand Jadoram	Do
33	Mr. Rijhumal Tpoandas	Do
34	Mr. Ali Muhammad Sikiladho	Do
35	Mr. Karam Ali Nasir Khan	Do
36	Mr. Naik Muhammad Haroom Khan	Digi
37	Mr. Fateh Muhammad Muhammad Fayab	Do
38	Mr. Abdul Rashid Wali Muhammad	Do
39	Mr. Nasir Khan	Do
40	Mr. Ghulam Farid Muhammad Ramzan	Do
41	Mr. Hishmat Ali Ghulam Ali	Do
42	Mr. Allah Dino Muhammad Saleh	Do

Serial No.	Name of the applicant	Taluka
43	Mr. Muhammad Yakoob Allahdito	Digri
44	Mr. Mushtaq Ahmad Yaseen Khan	Do
45	Mr. Muhammad Moosa Muhammad Yousif	Do
46	Mr. Khuda Bux Ahmad Khan	Do
47	Mr. Ghulam Muhammad Umaruddin	Do
48	Mr. Muhammad Yousif Mevo Khan	Do
49	Mr. Muhammad Ali Roshan Din	Do
50	Mr. Muhammad Ilyas Abdul Rehman	Do
51	Mr. Muhammad Jamil Abdullah	Do
52	Mr. Muhammad Siddique Abdullah	Do
53	Mr. Atta Muhammad Nazar Muhammad	Do
54	Mr. Muhammad Nazir Muhammad Ramzan	Do
55	Mr. Muhammad Alam Muhammad Bux	Do
56	Mr. Nazir Ahmad Ali Muhammad	Do
57	Mr. Chetan Kumar Pasoomal	Do
58	Mr. Ghulam Mustafa	Do
59	Mr. Nazir Ahmad Saeed Ahmad	Do
60	Mr. Kaiser Karam Khan	Do
61	Mr. Ali Ahmad Muhammad Suleman	Do
62	Mr. Dodo Khan Karam Khan	Do
63	Mr. Abdul Aziz Noor Muhammad	Do
64	Mr. Muhammad Yousif Muhammad Sawan	Do
65	Mr. Imdad Ali Feroz Ali	Do

Serial No.	Name of the applicant	Taluka
66	Mr. Muhammad Hussain Ghulam Muhammad	Digri
67	Mr. Muhammad Ali Ghulam Bani	Do
68	Mr. Abdul Haque Muhammad Hashim	Do
69	Mr. Khushi Muhammad Fazuldin	Do
70	Mr. Naimat Ali Fazul Muhammad	Do
71	Mr. Muhammad Bashir Walidad	Do
72	Mr. Muhammad Asbraf Abdul Karim	Do
73	Mr. Muhammad Anwar Mir Muhammad	Do
74	Mr. Abdul Hafiz Wahid Ali	Do
75	Mr. Muhammad Aslam Fazul Muhammad	Do
76	Mr. Muhammad Saeed Abdul Rahman	Do
77	Mr. Mushtaque Ahmad Ghulam Mustafa	Do
78	Mr. Gulzar Ahmad Bashir Ahmad	Do
79	Mr. Poonji Rano	Do
80	Mr. Fayaz Hussain Barkat Ali	Do
81	Mr. Abdul Rashid Abdul Aziz	Do
82	Mr. Muhammad Munir Inayat Ali	Do
83	Mr. Muzafar Ali Abdul Sattar	Do
84	Mr. Riaz Hussain Barkat Ali	Do
85	Mr. Saifullah Ghulam Muhammad	Do
86	Mr. Muhammad Ashiq Badaruddin	Do
87	Mr. Muhammad Iqbal Rahmatullah	Do
88	Mr. Muhammad Rafique Sardar Muhammad	Do
89	Mr. Rahmat Ali Inamuddin	Do

Serial No.	Name of the applicant	Taluka
90	Mr. Muhammad Hanif Punho Khan	Digri
91	Mr. Muhammad Saleh Muhammad Khan	Jamesabad
92	Mr. Bashir Ali Muhammad Jurial	Do
93	Mr. Liyaqat Ali Muhammad Jurial	Do
94	Mr. Muhammad Abbass	Do
95	Mr. Abid Hussain Muhammad Hussain	Do
96	Mr. Hyder Ali Allah Dito	Do
97	Mr. Ashique Ali	Do
98	Mr. Ali Ahmad Ghulam Rasool	Do
99	Mr. Ali Nawab Dost Ali	Do
100	Mr. Muhammad Iqbal Ali Muhammad	Do
101	Mr. Nazar Ali Bakar Ali	Do
102	Mr. Ghulam Asghar Karam Ali	Do
103	Mr. Liyaqat Ali Mumtaz Khan	Do
104	Mr. Syed Atta Hussain Sawan Shah	Do
105	Mr. Khadim Hussain Qaim Muhammad Shah	Do
106	Mr. Muhammad Hanif Muhammad Ali Muhammad	Do
107	Mr. Abdul Haliz Shakoor Muhammad	Do
108	Mr. Gayasddin Amir Hussain	Do
109	Mr. Mushtaque Ahmad Alawaluddin	Do
110	Mr. Muhammad Nakir Muhammad Ramzan	Do
111	Mr. Khair Muhammad Muhammad Saddique	Do
112	Mr. Muhammad Hashim Muhammad Ramzan	Do

Serial No.	Name of the applicant	Taluka
113	Mr. Rajuddin Fazaludin	Jamesabad
114	Mr. Abdul Khaliq Rahmat Khan	Do
115	Mr. Allah Noor	Do
116	Mr. Muhammad Usman Ali Murad	Do
117	Mr. Allah Dino	Do
118	Mr. Dawan Ali Faiz Ali	Do
119	Mr. Waljimal Tikaram	Do
120	Mr. Poonamchand Bahadromal	Do
121	Mr. Muhammad Iqbal Hashim Ali	Do
122	Mr. Muhammad Anwar	Do
123	Mr. Haibat Khan Umed Ali	Samaro
124	Mr. Wali Muhammad M. Ibrahim	Do
125	Mr. Abdul Ghafoor Gani Khan	Do
126	Mr. Mahmood Khan	Do
127	Mr. Allah Rakhio	Do
128	Mr. Mir Muhammad Miharab Khan	Do
129	Mr. Abdul Karim Shaikh	Do
130	Mr. Khan Muhammad Muhammad Achar	Do
131	Mr. Muhammad Hussain Muhammad Ibrahim	Do
132	Mr. Talib Hussain Muhammad Tayb	Do
133	Mr. Sher Muhammad Juman Khan	Do
134	Mr. Pir Muhammad Juman Khan	Do
135	Mr. Ahmad Khan Mir Muhammad	Do

Serial No.	Name of applicant	Taluka
136	Mr. Moula Bux Abdul Raof	Samaro
137	Mr. Kamaluddin Muhammad Luqman	Do
138	Mr. Motomal Karamchand	Chachro
139	Mr. Kaljiram Ranomal	Do
140	Mr. Bahhutmul Jhamil	Do
141	Mr. Surtomal Ranomal	Do
142	Mr. Kalmiso Karomal	Do
143	Mr. Gandhi Sultan	Do
144	Mr. Abbas Ali Abdul Latif	Do
145	Mr. Muhammad Achar Pinial	Do
146	Mr. Meromal Tamachinal	Do
147	Mr. Murardhan Dasardhan	Do
148	Mr. Pirthviraj Kanji	Do
149	Mr. Gotamperkash Naraindar	Chachro
150	Mr. Lajpat Kasromal	Do
151	Mr. Muhammad Uris Muhammad Khan	Do
152	Mr. Abdul Wahid Abedullah	Do
153	Mr. Abu Bakar Abdul Samad	Do
154	Mr. Hamzo Khan Sher Muhammad	Do
155	Mr. Aban Ali Jan Muhammad	Do
156	Mr. Umed Ali Muhammad Siddique	Do
157	Mr. Abdullah Khan Kado Khan	Do
158	Mr. Ali Muhammad Faiz Muhammad	Do

Serial No.	Name of applicant	Taluka
159	Mr. Abdul Rahim Jam Khan	Chachro
160	Mr. Bahadur Khan Sher Khan	Do
161	Mr. Muhammad Luqman Allahdino	Do
162	Mr. Ramsingh Wenjbraj	Do
163	Mr. Gotam Jethanand	Do
164	Mr. Partabrai Poonamchand	Do
165	Mr. Udham Khetaram	Do
166	Mr. Murlidhar Ratanlal	Do
167	Mr. Adharam Khetaram	Do
168	Mr. Tejpuri Kukampuri	Do
169	Wr. Khetsingh Muhabatsingh	Do
170	Mr. Karmoo Jemal	Do
171	Mr. Tarachand Ladharam	Do
172	Mr. Udham Bhavarlal	Do
173	Mr. Chagan Asaram	Do
174	Mr. Sootji Bughwandas	Do
175	Mr. Kirshantal Ranomal	Do
176	Mr. Ghugji Bhemsingh	Do
177	Mr. Pitamber Shevaram	Do
178	Mr. Shankarlal Moolchand	Do
179	Mr. Krishantal Umerchand	Do
180	Mr. Tughji Manghji	Do
181	Mr. Ranomal Changalmai	Do

Serial No.	Name of the applicant	Taluka
182	Mr. Venjhranj Hamersingh	Chachro
183	Mr. Halchand Bakhtawar	Do
184	Mr. Ramsingh Chandoji	Umerkot
185	Mr. Abdul Jamil Ghulam Yaseen	Do
186	Mr. Anchanand Birdharam	Do
187	Mr. Rausingh	Do
188	Mr. Manzoor Ahmad	Do
189	Mr. Amolakhdas Mohanlal	Do
190	Mr. Narainsingh Rajsingh	Do
191	Mr. Manghji Anchalsingh	Do
192	Mr. Naimat Ali Fazal Ahmad	Do
193	Mr. Muhammad Anwar Noor Muhammad	Do
194	Mr. Abdul Razzak Muhammad Saleh	Do
195	Mr. Nandlal Shevaram	Do
196	Mr. Ubedullah Nizamuddin	Do
197	Mr. Khataomal Sanibhumal	Do
198	Mr. Jethand Danaomal	Do
199	Mr. Muhammad Akram	Do
200	Mr. Shokat Ali Ranaq Ali	Do
201	Mr. Muhammad Riaz	Do
202	Mr. Allah Bux Muhammad Soomar	Do
203	Mr. Muhammad Hashim Luqman	Do
204	Mr. Khano Muro	Do

Serial No.	Name of the applicant	Taluka
205	Mr. Hayat Ahmad Ghulam Ahmad	Umerkot
206	Mr. Ghulam Rasool Muhammad Sharif	Do
207	Mr. Muhammad Ibrahim Sardar Muhammad	Do
208	Mr. Rejhumal Chandiram	Do
209	Mr. Manzaor Ahmad Laluddin	Do
210	Mr. Sahib Chelaram	Do
211	Mr. Bakhtomal Partabrai	Do
212	Mr. Muhammad Soomar Haji Akil	Do
213	Mr. Abdul Rahman Muhammad Ishaque	Do
214	Mr. Tilu Akhoji	Diplo
215	Mr. Muhammad Ismail Bakar Ali	Do
216	Mr. Rahmatullah Khair Muhammad	Do
217	Mr. Ghulam Akbar	Do
218	Mr. Suleman Ishaque	Do
219	Mr. Muhammad Luqman Abdul Hakim	Do
220	Mr. Abdul Aziz Muhammad Ramzan	Do
221	Mr. Ahmad Muhammad Soomar	Do
222	Mr. Faiz Muhammad Muhammad Siddique	Do
223	Mr. Abdul Rahim Muhammad Usman	Do
224	Mr. Sahibuddin Sajan Khan	Do
225	Mr. Yar Muhammad Gul Muhammad	Do
226	Mr. Ghulam Muhammad A. Jurio	Do
227	Mr. Ali Muhammad Muhammad Yakoob	Do
228	Mr. Laji Hemtheji	Do

Serial No.	Name of the applicant	Taluka
229	Mr. Abdul Razak Muhammad Sadiq	Diplo
230	Mr. Muhammad Ismail Muhammad Sardar Khan	Mirpurkhas
231	Mr. Hamid Hussain	Do
232	Mr. Bahawal Muhammad Daehal	Do
233	Mr. Muhammad Anwar	Do
234	Mr. Muhammad Umar Jum Khan	Do
235	Mr. Muhammad Umar Muhammad Usman	Do
236	Mr. Abdul Hamid	Do
237	Mr. Gul Muhammad Khair Muhammad	Do
238	Mr. Muhammad Idan	Do
239	Mr. Muhammad Sadiq	Do
240	Mr. Muhammad Ishaque	Do
241	Mr. Muhammad Yousif Muhammad Alam	Do
242	Mr. Ghulam Aashar	Do
243	Mr. Abdul Manan	Do
244	Mr. Asghar Ali Din Muhammad	Do
245	Mr. Muhammad Ismail Muhammad Ibrahim	Do
246	Mr. Abdul Rahman	Do
247	Mr. Ghulam Akbar Memon	Do
248	Mr. Abdul Waid Wazir Baig	Do
249	Mr. S. H. Rahim	Do
250	Mr. Shokat Ali Rehman Ali	Mirpurkhas
251	Mr. Abdul Rahman Muhammad Siddique	Do

Serial No.	Name of the applicant	Taluka
252	Mr. Yousif Ali Ahmad Ali	Mirpurkhas
253	Mr. Sikandar Ali	Do
254	Mr. Liyaqat Ali	Do
255	Mr. Rafiullah	Do
256	Mr. Rajab Khan Asiraf Ali	Do
257	Mr. Muhammad Iqbal	Do
258	Mr. Shabir Ahmad Abdul Hamid	Do
259	Mr. Abdul Karim Abdul Ghani	Do
260	Mr. Khair Ali Shah Muhammad	Do
261	Mr. Abdul Hamid Muhammad Umar	Do
262	Mr. Faiz Muhammad Abdul Rahim	Do
263	Mr. Mushtaq Ahmad	Do
264	Mr. Muhammad Riaz Irshad Ali	Do
265	Mr. Imdad Ali Feroz Khan	Do
266	Mr. Muhammad Iqbal Muhammad Ali	Do
267	Mr. Muhammad Siddique Shamsuddin	Do
268	Mr. Shaukat Ali Bashiruddin	Do
269	Mr. Iqbal Ahmad Maksood Ahmad	Do
270	Mr. Manzoor Ahmad	Do
271	Mr. Abdullah Mahmood	Do
272	Mr. Muhammad Hanif Amir Hussain	Do
273	Mr. S. K. Rahim Bux	Do
274	Mr. Muhammad Ishaque Muhammad Murad	Do

Serial No.	Name of the applicant	Taluka
275	Ms. Abdul Hamid Abdul Aziz	Do
276	Mr. Asadullah Muhsin	Do
277	Mr. Pandhi Ghazi Khan	Do
278	Mr. Muhammad Younis Muhammad Alam	Do
279	Mr. Safi ur-Rahman	Do
280	Mr. Abdul Hamid	Do
281	Mr. Narain Singh	Do
282	Mr. Lakhomal	Do
283	Mr. Rehmat Ali Sirajuddin	Mirpurkhas
284	Mr. Noor Muhammad	Do
285	Mr. Muhammad Ishaque Abdul Majid	Do
286	Mr. Muhammad Ibrahim Muhammad Suleman	Do
287	Mr. Ghulam Mustafa Gh. Moinuddin	Do
288	Mr. Inuddin Azimuddin	Do
289	Mr. Suleman Khan Sirajuddin	Do
290	Mr. Khadim Hussain	Do
291	Mr. S. Muhammad Rafique	Do
292	Mr. Abdul Rauf Abdul Ghafoor	Do
293	Mr. Bashir Ahmad Din Muhammad	Do
294	Mr. Muhammad Haroon	Do
295	Mr. Muntaz Hussain	Do
296	Mr. Abdul Rahim M. Kazi	Do
297	Mr. Muhammad Ishaque M. Shakoore	Do

Serial No.	Name of the applicant	Taluka
298	Mr. Ghulam Muhammad Shah Ibrahim Shah	Mirpurkhas
299	Mr. Muhammad Hussain Ahmad Hussain	Do
300	Mr. Muhammad Saleh Ali Akbar	Do
301	Mr. Ali Akbar Qaisar Khan	Do
302	Mr. Abdul Rashid A. Hakim	Do
303	Mr. Atta Muhammad Nazir Muhammad	Do
304	Mr. Umaruddin Bisharat Ali	Do
305	Mr. Photo	Do
306	Mr. Muhammad Munsha	Do
307	Mr. Muhammad Ayub H. Ahmad	Do
308	Mr. Sain Bux Abdul Wahid	Do
309	Mr. Abdul Wahid Abdul Hakim	Do
310	Mr. Asif Ali Amir Ali	Do
311	Mr. Dilbar Hussain	Do
312	Mr. Shakil Ahmad	Do
313	Mr. Mehoon Muhammad Qasim	Do
314	Mr. Muhammad Sabir	Do
315	Mr. Muhammad Hanif Amir Hussain	Do
316	Mr. Muhammad Arif Lutufullah	Do
317	Mr. Abdul Rahim	Do
318	Mr. Muhammad Alam Aziz Ahmad	Do
319	Mr. Aziz Ahmad Sardar Khan	Do
320	Mr. Jamshedul Nabi	Do
321	Mr. Bashir Ahmad Abdul Ghani	Do
322	Mr. Muhammad Irshad Ali	Do
323	Mr. Noor Muhammad Muhammad Bux	Do
324	Mr. Muhammad Khalid Muhammad Anwar	Do
325	Mr. Abdul Hakim Abdul Karim	Do
326	Mr. Muhammad Ishaque Abdul Majid	Do
327	Mr. Noor Ahmad Muhammad Makhan	Do
328	Navadan Akaka	Do

APPENDIX 'B'

List of candidates appointed during year 1966

Name of Candidate	School	Taluka
1. Mohd Hayat Tamachi Khan	H. M. Mohd Bux, Lakho	Mirpurkhas
2. Abdul Razzak Mohd Saleh	A.M. Mithi	Mithi
3. Ali Gul Allah Dino	H.M. Nizam Din	Samaro
4. Atta Mohd Nazar Mohd	A.M. Nashter	Mirpurkhas
5. Mohd Siddiq Shamsuddin	A.M. Bolsabad	Mirpurkhas
6. Shabbir Ahmad Din Mohd	A.M. Samaro	Samaro
7. Karam Ali Nasir Khan	H.M. Razi Shah	Mithi
8. Abdul Rehman Mohd Siddiq	H.M. Weriwah	Mithi
9. Ghulam Rasul Mohd Sharif	A.M. Rasulabad	Umerkot

Name of Candidate	School	Taluka
10. Padmo Harkho	H.M. Bharo-Jaro	Nagarparkar
11. Ahmed Khan Mir Mohd	A.M. Pir Sir Hindi	Samaro
12. Mohd Hashim Mohd Ramzan	H.M. Gani Bux Gorchani	Jamesabad
13. Khair Mohd Mohd Sadiq	H.M. Addo Khaskehti	Samaro
14. Khadim Hussain Quim Mohd	A.M. Kot Miras	Jamesabad
15. Rafiuddin Fazal Din	A.M. Jamesabad	Jamesabad
16. Haider Ali Allah dito	A.M. Dengan	Jamesabad
17. Suleman Ishaque	A M. Kot Mir Jan Mohd	Digri
18. Abdul Bakar Abdullah	A.M. Chachro	Chachro
19. Ali Mohd Fazi Mohd	H.M. Mehrasar	Chachro
20. Liaqat Ali Fayaz Ali	A M. Liaquat	Mirpurkhas
21. Rehmattullah Khair Mohd	A.M. Araro	Samaro
22. Abdul Ghasfoor Ghani Khan	A.M. Bustan	Samaro

Name of Candidate	School	Taluka
23. Bhalji Kaloo Ram	A.M. Soondar	Nagarparakar
24. Mohd Umar Kazi Mohd Nooh	H.M. Giryano	Nagarparakar
25. Ramsingh Chandoji	H.M. Fithapur	Nagarparakar
26. Heeraj Bharoji	H.M. Choryo	Nagarparakar
27. Jaisingh Narain Singh	H.M. Saboosan	Nagarparakar
28. Mohd Nazir Mohd Ramzan	A.M. Meharobbta	Jamesabad
29. Yousuf Ali Ahmad Ali	A.M. Bhurguri	Mirpurkhas
30. Gul Mohd Khair Mohd	A.M. Br. Mola Bux	Mirpurkhas
31. Mola Bux Abdul RaooF	H.M. Mohd Ali Bangalani	Samaro
32. Ghulam Hussain Shah Ali	H.M.S. Imam Bux Shah	Mirpurkhas
33. Mohd Ismail Baqar Ali	A.M. Bahawalpuri	Umerkot
34. Riaz Hussain Barkat Ali	A.M. Digni	Digni
35. Hari Ram Mehrooji	A.M. Br. Sookliyon	Nagarparakar

Name of Candidate	School	Taluka
36. Mohd Urs Mohd Khan	H.M. Abdul Majid Rahimooran	Nagarparkar
37. Abu Bakar Rahim Dino	H.M. Ahramar	Nagarparkar
38. Mohd Siddique Abdul Hakim	H.M. Jam Khan Wandhio	Nagarparkar
39. Mohd Iqbal Gulab Khan	A.M. Sir Syed	Mirpurkhas
40. Abdul Raof Abdul Ghafoor	A.M. Sir Syed	do
41. Mohd Soomar Mohd Aquil	H.M. Gadro	Chachro
42. Mohd Anwar Noor Ahmad	H.M. Mohd Khaskeli	Umeikot
43. Mohd Haroon Talib	A.M. Br. Kamal Pitafi	Digri
44. Ali Bux Mohd Hayat	H.M. Bartala	Nagarparkar
45. Rasul Bux Haji	H.M. Sami Weri	Nagarparkar
46. Akber Mohd Haroon	H.M. Malook Kapri	Samaro
47. Darya Khan Allah Dino	H.M. Siroh Baqar	Samaro

APPENDIX IX

(Ref : Starred

GOVERNMENT COLLEGE FOR

S. No.	Name and Designation	Qualifications including subject and Division	Date of birth	Name District	Date of Entry into Govt. Service	Date of Appnt. to present Grades	Date of Appnt. to present station
1	Miss Hajira Khatoon Khan, WPES-I (Sr) Principal.	M. Sc. Phy. II DIC (London)	30-9-22	Lahore	3-11-49	6-2-59	9-10-63
2	Miss Siddiqa Khatoon, Lecturer in Arabic.	M. A. (Ara.) I Div.	4-4-35	Rawalpindi	23-5-57	23-9-57	23-9-57

Question No. 11094)

WOMEN, GUJRAT

Substantive Officiating or Temp.	Region of recruitment (Name with 1st posted on selection by commission,	Region to which recruited as selectee of the commission with date apptt. as selectee.	(a) Date of transfer to Rawalpindi Region if recruited to another Region after 1-6-62.	(b) Date of transfer to another Region if recruited in Rawalpindi Region after 1-6-62.	Present Pay	Date of next increment	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
Substantive	Lahore II and at Gujrat Sr. Class I.	Lahore II Class-II Sr., dated 26-10-60 & Gujrat in Class I (Sr.) dt. 6-2-59	When selected for Sr. Class-I was al- ready working in Rawalpindi Re- gion.	Not Appli- cable	1500 110	Now no incre-	ment as reached to Max.
Permanent	Rawalpindi	Peshawar 19-12-60	Selected for Pesh. Region which is now con- verted into Rawal- pindi Region. Date of selection on 7/58		565	23-9-59	

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Miss Naseem Dil, Lecturer in Math.	M. A. (Math.) II Div.	23-12-57	Hazara	23-9-57	23-9-57	23-9-57
4	Miss Zohara F.D. Ahmad, Lecturer in Physic.	M. Sc. (Phys.) III Div.	20-12-57	Gujrat	20-12-58	20-12-58	20-12-58
5	Mrs. Khalida Sajjad, Lecturer in History. (On leave)	M. A. (His.) II Div.	20-3-58	Lahore	25-3-58	25-3-58	25-3-58
6	Miss Khalida Siddique, Lecturer in Persian. (On leave)	M. A. (Per.) I Div.	15-9-58	Hyderabad	13-10-60	13-10-60	13-10-60
7	Miss Khurshid Bushra Din, Lecturer in Geography.	M. A. (Geog) II Div. B. Ed.	8-7-58	Lahore	26-10-60	26-10-60	26-10-60
8	Miss Muhammad Sultana, Lecturer in Urdu.	M. A. (Urdu) II Div. B.T.	16-4-58	Peshawar	11-10-58	14-10-61	14-10-61

1	2	3	4	5	6	7	8
Permanent	do	Pesawar 19-12-60	Nil	Nil	525	2-11-68	
Substantive	Lahore	Lahore Region	29-6-63 Rawalpindi	Nil	425	2-3-68	
Permanent	Rawalpindi	Nil	Nil	Nil	490	25-3-68	
Permanent	do	Nil	Nil	Nil	455	13-10-68	
Permanent	do	Peshawar 16-3-62	Nil	Nil	645	26-10-68	
Permanent	do	Peshawar	Not applicable	Not applicable	525	14-10-68	

cable

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Miss Ismat Ara, Lecturer in English.	M. A. (Eng. III Div. B.T. 15-19-33)	Peshawar	25-9-61	25-9-61	25-9-61	25-9-61
10	Miss Tahira Bashir, Lecturer in Pol. Sc.	M. A. (Pol. Sc.) II Div.	Lahore	15-11-61	15-11-61	15-11-61	13-2-62
11	Miss Mehr Afroze Durrani, Lecturer in Urdu.	M. A. (Urdu) I Div.	Gujrat	1-4-62	1-4-62	1-4-62	12-5-65
12	Miss Shamim Akhtar, Lecturer in Urdu.	M. A. (Urdu) II Div.	Gujrat	1-7-62	1-7-62	1-7-62	12-6-65
13	Miss Mahmooda Tuqir, Lecturer in Islamiyat.	M. A. (Ara. & Isl.) II Div.	Gujrat	13-11-63	13-11-63	13-11-63	13-11-63

1	2	3	4	5	6	7	8
Officiating	do	Nil	Appointed in Peshawar in Sept. 61, when Gujrat was in Peshawar Region, transferred to Rawalpindi in 1962.	Nil	490	25-9-68	
Officiating	do	Peshawar. Selected by Commission for Lahore Region.	New Apptt. in Rawalpindi in 1962 (Feb.), Jan. 63 transferred).	Nil	525	15-9-68	
Substantive	do	Lahore 16-4-62	Date of transfer 8-5-65	Nil	525	1-4-68	
Substantive	do	Nil	Nil	Nil	525	20-7-68	
Substantive	do	Nil	Nil	Nil	450	13-11-68	

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Miss Farzana Munawar Abbas, Lecturer in History.	M. A. (His.) II Div.	9-6-38	Lahore	3-12-63	3-12-63	3-12-63
15	Mrs. Kishwar Qureshi, Lecturer in Math.	M. A. (Math.) II Div.	15-4-60	Lahore	9-3-64	9-3-64	16-7-65
16	Miss Saeeda Muhammad Ashiq, Lecturer in Persian.	M.A. (Per. & Urdu) II Div.	1-2-68	Lahore	16-9-63	16-9-63	6-10-65
17	Miss Farkhanda Afzal, Lecturer in Zoology.	M.Sc. (Zoo.) II Div.	24-9-41	Rawalpindi	8-10-64	8-10-64	8-10-64
18	Miss Sabiha Sultana, Lecturer in Physics.	M.Sc. (Phy.) II Div.		Lahore	22-10-64	22-10-64	22-10-64
19	Miss Farzana Ismail, Lecturer in Islamiyat.	M. A. (Isl.) II Div.	14-10-43	Gujrat	26-12-65	26-12-65	26-12-65
20	Miss Malahat Sultana, Lecturer in Persian (In place of Khalida Siddique).	M. A. (Per.) II Div.	15-11-39	Gujrat	26-12-65	26-12-65	26-12-65

APPENDIX

915

	1	2	3	4	5	6	7	8
Temp.		do	Nil	Nil	Nil	490	3-12-68	
	do	do	Nil	Nil	Nil	455	9-5-68	
	do	do	Nil	Nil	Nil	490	10-9-68	
	do	do	Nil	Nil	Nil	455	8-10-68	
	do	do	Nil	Nil	Nil	455	22-10-68	
	do	do	Nil	Nil	Nil	385	26-12-68	
	do	do	Nil	Nil	Nil	385	26-12-68	

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Miss Parveen Akhtar, Lecturer in Geography.	M. A. (Geog.) II Div. B. Ed	22-3-40	Lahore	8-10-63	8-10-63	
22	Miss Shahida Sultana Mir, Lecturer in Botany.	M. Sc. (Botany)	2-1-41	Lahore	17-10-64	17-10-64	17-10-64
23	Miss Balqis Haider, Lec- turer in Chemistry.	M. Sc. (Chem.) II Div.	23-12-40	Rawalpindi	8-11-66	8-11-66	8-11-66
24	Miss Surayia Malik, Lec- turer in Economics.	M. A. (Eoc.) II Div.	14-9-41	Sargodha	23-11-66	23-11-66	23-11-66
25	Miss Naseem Shams, Lec- turer in History (In place of Mrs. Khalida Sajjad)	M. A. (His.) II Div.	15-10-33	Lahore	1-9-66	1-9-66	
26	Miss K. Aslam, Lecturer in English.	M. A. (Eng.) III Div.	1-5-31	Rawalpindi	17-5-67	17-5-67	17-5-67
27	Miss Rashida Imam, Lec- turer in English.	M. A. (Eng.) II Div.	27-7-38	Rawalpindi	1-9-67	1-9-67	22-5-67

1	2	3	4	5	6	7	8
do	do	Nil	Nil	Nil	490	8-10-63	
do	Peshawar	Peshawar 5-11-65	Rawalpindi 31-10-65	Nil	455	17-10-68	
do	Rawalpindi	Nil	Nil	Nil	385	8-11-68	
do	do	Nil	Nil	Nil	385	23-11-68	
do	do	Nil	Nil	Nil	385	1-9-68	
do	do	Nil	Nil	Nil	350	17-5-68	
do	do	Nil	Nil	Nil	385	1-9-68	

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Miss Laiqa Farhat, Lecturer in Arabic.	M. A. (Arabic) I Div.	6-4-44	Sargodha	22-9-67	22-9-67	22-9-67
29	Miss Aziza Qureshi, Lecturer in Philosophy.	M. A. (Phil.) I Div.	27-12-43	Jhang	8-12-67	8-12-67	8-12-67
30	Miss Sikandar Sheikh, Lecturer in Biology.	M. Sc. (Zoo.) II Div.	18-5-44	Rawalpindi	18-12-67	18-12-67	18-12-67
31	Miss Saira Choudhry, Lecturer in English.	M. A. (Eng.) II Div.	8-12-42	Attock	9-12-67	9-12-67	9-12-67

1	2	3	4	5	6	7	8
do	do	Nil	Nil	Nil	350	22-9-68	
do	do	Nil	Nil	Nil	350	8-12-68	
do	do	Nil	Nil	Nil	350	18-12-67	
do	do	Nil	Nil	Nil	350	9-12-68	

**GOVT. COLLEGE FOR
STAFF STATEMENT FOR THE**

S. No.	Name and Designation.	Qualifications Subject.	Yr.	Divn.	Date of birth/Home Distt.	Date of entry to Govt. service.	Date of entry to present station.
1	2	3	4	5	6	7	8
W.P.E.S.I. (Sr.)							
	Dr. (Miss) K.F. Yusuf, Principal.	M. A. Geog.	47	Ist	17-6-23 Lahore	1-10-48	1-10-48
W.P.E.S.I. (Jr.)							
1	Mrs. T. Ejaz, Professor.	M. A. Geog.	—	2 nd	24-7-22 Lahore	13-10-50	20-9-62
2	Mrs. Z. Chaudhry, Professor.	M. A. Pol. Sc.	47	—	4-9-22 Rawalpindi	1-11-50	25-11-50
3	Mrs. Rabia Niazi, Professor.	M. A. Urdu	—	3 rd	30-12-24 Rawalpindi	25-11-50	25-11-50

WOMEN, RAWALPINDI.

MONTH OF MARCH, 1968 (1-4-68) MORNING SHIFT.

Date of appointment to present grade	Temp.	Off	Perm.	Region to which recruited as selectee of P.S.C. with date of appointment as selectee.	Date of transfer to Rawalpindi if recruited in Rawalpindi Regn. after 1-6-62.	Date of Transfer to another Reg. if recruited in Rawalpindi Regn. after 1-6-62.	Present pay, date of last increment.	Remarks
	1	2	3	4	5	6	7	8
1-10-48	1-6-60	10-6-61						
—	1-4-58	1-4-58						
—	1-4-58	1-4-58						
—	1-10-58	1-10-58						

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Vacant vice Mrs. M. M. Shah Muhammad, transferred to Lahore.						
W. P. E. S. II							
1	Dr. J. A. Malik, Lect. in Geog.	M. A. Geog.	49	2nd	24-12-27 Lyalpur	24-10-51	24-10-51
2	Miss. F. Hayat, Lect. in Maths.	M. A. Maths.	50	2nd	27-2-26 Rawalpindi	19-5-52	13-7-65
3	Mrs. R. Ikaramul Haq, Lect. in Arabic.	M. A. Arabic	51	1st	21-8-25 Lahore	3-12-53	9-11-59
4	Mrs. Z. Ahmed, Lect. in Urdu.	M. A. Urdu	53	2nd	5-7-29 Rawalpindi	1-10-53	17-10-6
5	Miss Kishwar Ismail, Lect. in Philosophy.	M. A. Phil.	51	2nd	10-6-22 Rawalpindi	28-8-52	13-3-56

	1	2	3	4	5	6	7	8
	24-10-51	24-10-51	1-3-53	Rawalpindi				
	--	19-5-52	19-5-53	--				
	3-12-52	3-12-52	3-12-53	--				
	1-10-53	1-10-53	1-10-54	Peshawar				
	15-6-54	14-7-55	14-7-56	1-10-53 Lahore				
				14-7-55				

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Mrs. F. Shaukat Yusuf, Lect. in Eng.	M. A. Eng.	43	3rd	12-8-21 Rawalpindi	1-10-54	9-3-60
7	Mrs. B. A. Gohar, Lect. in Geog.	M. A. Geog.	42	—	15-2-22 Lahore	22-8-56	19-10-63
8	Mrs. E. P. Ayaz, Lect. in Arabic.	M. A. Arabic	54	2nd	22-11-23 Rawalpindi	22-5-50	24-9-59
9	Mrs. B. Yunus, Lect. in Chem.	M. Sc. Chem.	56	2nd	4-12-55 Lahore	3-12-56	3-12-56
10	Mrs. Azra Riaz, Lect. in Islamiyat.	M. A. Islam.	53	3rd	1-9-31 Lahore	15-6-57	3-12-67
11	Miss Iqbal Rehman, Lect in Urdu.	M.A. Urdu	57	Ist.	6-11-33 Gurdaspur	26-10-57	12-10-59

1	2	3	4	5	6	7	8
1-10-34	27-3-56	27-3-58	Lahore				
			27-7-56				
22-8-56	22-8-56	22-8-57	Karachi				
			22-8-56				
22-9-56	22-9-56	22-9-58	Rawalpindi				
			22-9-56				
3-12-56	21-8-58	21-8-58	Rawalpindi				
			21-8-58				
15-6-57	15-6-57	15-6-59	Multan				
			15-6-57				
26-10-57	14-4-58	14-4-60	Lahore				
			14-4-58				

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Mrs. Zakia Aziz Khan, Lect. in Zoology.	M. Sc. Zoo.	58	2nd	5-11-34 Peshawar	17-10-58	6-3-68 (A. N.)
13	Mrs. Mussart Hafiz, Lect. in History.	M. A. Hist.	59	2nd	10-10-35 Rawalpindi	20-10-59	18-5-62
14	Miss Mahgul Jan, Lect. in Chem.	M. Sc. Chem.	59	2nd	25-2-35	3-11-59	8-11-63
15	Miss Akhtar Jamal, Lect. in Urdu.	M. A. Urdu	59	1st	Rawalpindi 22-5-30 Hazara	12-3-60	12-3-60
16	Miss Asif Jan Zaidi, Lect. in Biology.	M. Sc. Bio.	58	2nd	25-8-36 Rawalpindi	20-11-60	28-1-63

1	2	3	4	5	6	7	8
17-10-58	11-10-59	11-10-59	Peshawar				
			11-10-59				
20-10-59	15-10-62	15-10-62	Peshawar				
			15-10-62				
3-11-59	31-12-60	13-10-62	Lahore				
			31-10-60				
12-3-60	12-3-60	12-3-62	Rawalpindi				
			12-3-60				
20-11-60	20-11-60	20-11-60	Lahore				
			20-11-60				

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Miss Naïsa Nahid Baig, Lect. in Persian.	M. A. Per.	61	Lt.	1-10-33	25-9-61	10-9-62
					Peshawar		
18	Miss Shamim Qaiser, Lect. in Chem.	M. Sc. Chem.	61	2nd	1-3-39	29-9-61	5-10-63
					Jallundur		
19	Mrs. Abida Ehsan, Lect. in Fine Arts.	M. A. Fine Arts	58	2nd	15-7-33	3-11-61	17-4-64
					Rawalpindi		
20	Mrs. Hasina Rafiq Batti, Lect. in Eng.	M. A. Eng.	61	2nd	26-12-33	18-4-62	20-9-63
					Rawalpindi		
21	Mrs. Roof Ehsan, Lect. in Zoo.	M. Sc. Zoo.	61	2nd	1-4-37	24-3-62	16-6-66
					Gujrat		

	1	2	3	4	5	6	7	8
	25-9-61	15-1-62	15-1-62	Peshawar				
				15-1-62				
	29-9-61	10-10-62	—	Hyderabad				
				10-10-62				
	3-11-61	9-11-65	—	Rawalpindi				
				9-11-65				
	18-1-62	7-9-62	7-9-62	7-9-62				
				Rawalpindi				
	24-3-62	24-3-62	24-3-62	24-3-62				
				Hyderabad				

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Mrs. Khalifa Warris, Lect. in Islam.	M. A. Islam.	58	2nd	7-8-56	1-7-62	1-11-65
					Ludhiana		
23	Mrs. Maqbool Hamid, Lect. in English.	M. A. Eng.	61	3rd	2-3-38	24-9-62	24-9-62
					Lahore		
24	Miss Munawar Sultana, Lect. in Math.	M. A. Math.	60	2nd	1-5-37	23-9-62	10-2-68
					Rawalpindi		
25	Miss Nuzhat Sultana, Lect. in Phil.	M. A. Phil.	61	2nd	1-2-38	1-10-62	1-10-62
					Lahore		
26	Miss Khalida Khatoon, Lect. in Zoo.	M. Sc. Zoo.	62	2nd	2-12-38	11-11-63	11-12-67
					Rawalpindi		

1	2	3	4	5	6	7	8
1-7-62	1-7-62	—	1-7-62				
			Rawalpindi				
24-9-62	28-11-66	—	28-11-66				
			Rawalpindi				
28-9-62	28-9-62	28-9-62	28-9-62				
			Rawalpindi				
1-10-62	5-1-66	—	5-1-66				
			Rawalpindi				
11-11-63	—	—	—				

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Miss Tanvir Rasool, Lect. in Eng.	M. A. Eng.	63	2nd	11-8-42 Rawalpindi	15-11-63	11-12-67
28	Miss Nasim Ishaq Lect. in Phy.	M. Sc. Phys.	63	2nd	8-2-42 Lahore	4-12-63	4-12-63
29	Miss Asif Jehan, Lect. in Pol. Sc.	M. A. Pol. Sc.	62	2nd	1-2-36 Bang	13-1-64	13-3-68
30	Miss Surraya Nasreen Lect. in Hist.	M. A. Hist.	61	2nd	6-10-29 Lahore	14-9-64	14-9-64
31	Mrs. Saddiqe Anwar, Lect. in Persian.	M. A. Per.	62	2nd	5-10-34 Lahore	7-10-64	7-10-64
32	Miss Nusrat Jabeen, Lect. in Phys.	M. Sc. Phys.	64	2nd	1-7-42 Rawalpindi	2-11-64	2-11-64

	1	2	3	4	5	6	7	8
	15-11-63	28-11-66	--	28-11-66				
				Rawalpindi				
	4-12-63	28-1-66	4-12-63	28-1-66				
				Rawalpindi				
	13-1-64	9-12-67	9-12-67	9-12-67				
				Rawalpindi				
	14-9-64	23-5-66	--	23-5-66				
				Peshawar				
	7-10-66							
	2-11-64							

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Miss Surraya Khanum, Lect. in English.	M. A. Eng.	64	2nd	1-1-40	22-2-65	22-5-67
					Lahore		
34	Mrs. Aslam Abdullah, Lect. in Econ.	M. A. Eng.	55	2nd	11-3-30	22-11-65	22-11-65
					Lahore		
35	Miss Mahmood Khatoon, Lect. in Econ.	M. A. Econ.	63	2nd	22-6-37	26-1-66	26-1-66
					Rawalpindi		
36	Miss Nusrat Hamid Lect. in Phys.	M. Sc. Phys.	65	1st	11-2-44	10-10-66	10-10-66
					Lahore		
37	Mrs Shamshad Raud, Lect. in Islamiyat.	M. A. Islam.	--	2nd	11-1-33	7-11-66	7-11-66
					Lahore		

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

22-2-65

22-11-65

26-1-66

10-10-66

1 2 3 4 5 6 7 8

7-11-66 7-11-66 — 29-8-65
Lahore

7-1-68

1	2	3	4	5	6	7	8
38	Miss Nasreen Mufti, Lect. in Eng.	M. A. Eng.	67	Ist	10-9-45	7-1-68	7-1-68
					Rawalpindi		
39	Lecturer in Bengali	Vacant.					

GOVT. COLLEGE
Rawalpindi

Sr. No.	Name and Designation	Subject	Yr.	Div.	Date of Birth Home Distt.	Date of entry to Govt. Ser-vice.	Date of entry to present station.
1	2	3	4	5	6	7	8
W.P.E.S. I (Sr)							
	Mrs. Amina Shafiqur Rehman	M.A. Eng.	45	3rd	2.3.23	23.10.45	8.3.68
	Vice Principal.						
W.P.E.S. I (Jr)							
	Mrs. W.F. Hussain	M.A. Eng.	53	2nd	4.10.28	14.10.53	4.6.64
	Prof. in English.				R' Pindi		
	Vacant						
	Vacant						

FOR WOMEN
(Second Shift)

	Date of appointment to present grade on	Region to which transfer to recruited as	Date of transfer to R'Pindi	Date of transfer to another Region if recruited in	Present pay	Remarks.	
Temp.	Offg.	with date of appt. as selectee.	selectee of P.S.C.	in R'Pindi Region after 1.6.62	Date of last increment		
1	2	3	4	5	6	7	8
8.3.68	8.3.68	8.3.68	—
25.5.63	25.5.60	25.5.63	Peshawar	16.10.62	—
			25.5.60				

1	2	3	4	5	6	7	8
W.P.E.S. (II)							
1	Mrs. Saeeda Asghar Lect. in History.	M.A. His.	53	2nd	19.10.55 Amritsar	17.9.52	10.8.64
2	Mrs. M. Baqai Lect. in Eng.	M.A. Eng.	54	3rd	5.9.53. Rawalpindi	23.11.54	1.7.64
3	Mrs. Noreen Hasan Lect. in Math.	M.A. Math.	58	1st	29.11.55 Lahore	18.10.58	1.7.64
4	Mrs. Nusrat Munir Lect. in Urdu.	M.A. Urdu	61	2nd	2.8.57. Amritsar	27.3.62	11.11.66
5	Mrs. F. Tahir Lect. in Eng.	M.A. Eng.	61	3rd	15.10.40 Lyallpur	25.4.62	11.1.66
6	Mrs. Hayat A. Rehman Lect. in Zoology.	M.Sc. Zoology	58	2nd	20.11.55 Sahranpur	17.9.62	15.12.67

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Mrs. Nighat Mushtaq Lect. in Psychology.	M.A. Psy.	62	1st	21.12.40 Lyalpur	29.10.62	21.2.66
8	Mrs. Farhat Ejaz Butt Lect. in Urdu.	M.A. Urdu	59	2nd	31.3.36 Peshawar	17.9.63	5.6.67
9	Miss Azra Hamid Lect. in Chemistry.	M.Sc. Chem.	63	2nd	31.1.42 Rawalpindi	5.10.64	5.10.64
10	Mrs. Khatija Sarfraz Lect. in Arabic.	M.A. Arabic	54	1st	7.6.32 Lahore	31.3.66 (AN)	31.3.66 (AN)
11	Miss Nasim Sarwar Lect. in Pol. Science.	M.A. Pol. Sc.	62	2nd	30.11.36 Lahore	16.9.63	16.6.64
12	Miss Anna Begum Abbasi Lect. in Persian.	M.A. Persian	57	2nd	9.2.29 Rawalpindi	7.10.63	24.8.64
13	Miss Nasim Akhtar Lect. in Physics.	M. Sc. Physics	64	1st	12.3.39 Lahore	18.11.64	18.11.64
14	Mis Tasnim Zobra Lect. in Fine Arts.	M.A. Fine Arts	65	2nd	28.4.41 Lahore	19.9.66	19.9.66

1	2	3	4	5	6	7	8
29.10.62	21.2.66	...	Pawalpindi 21.2.66	—
17.9.63	29.8.66	...	Peshawar 5.6.67	—
5.10.64	12.2.66	...	Rawalpindi 15.2.66	—
31.3.66(AN)	31.3.66(AN)	...	Rawalpindi 31.3.66 (AN)	—	—
16.9.63	—	—
7.10.63	—	—
18.11.64	—	—
19.6.66	...	26.9.66	—	—

APPENDIX X

(Ref : Starred Question No. 11296)

**GOVERNMENT OF WEST PAKISTAN
AUQAF DEPARTMENT**

Dated Lahore, the 29th February, 1968

PRESS RELEASE

Complaints had been received by the Auqaf Department from time to time that the needs of the Auqaf mosques, such as the supply of electric bulbs, sufs, payment of electricity bills, etc., were not being met promptly; and investigation revealed that this was due to the red-tapism involved in the transfer of the funds by the Managers and also lack of interest on the part of the managerial staff in the welfare of the mosques.

To rectify this state of affairs, therefore, it was decided that, where possible, the Khatibs/Imams of the Auqaf Mosques should be made responsible for collecting the income of the properties attached to mosques and spending reasonable amounts on the provision of the necessary amenities out of the income realised by them. This would have not only ensured better maintenance of the mosques, but would have also enhanced the status of the mosque functionaries concerned.

This position was explained by the Chief Administrator of Auqaf, West Pakistan to a representative gathering of the Auqaf Khatibs/Imams

who called on him on Monday. The Moulvis appreciated the ideas behind the move and also the fact that the collection of revenues was optional and not compulsory. They also appreciated that those offering to undertake the responsibility, would also be entitled to receive a reward equal to 2% of the collections made by them, and undertook to take on the responsibility as far as possible.

APPENDIX XI

(Ref : Starred Question No. 11334)

LIST OF MIDDLE SCHOOLS CENTRES FORMED FOR PAYMENT OF SALARIES TO ALL MIDDLE AND PRIMARY SCHOOLS IN THE DISTRICT. (DERA GHAZI KHAN)

S. No.	Name of Centre	Schools attached	Distance from the centre	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Government Girls Middle Schools, Shadanlund.	1. G.G.M.S. Shadan Lund	Local	
		2. G.G.P.S. Shadan Lund	Local	
		3. -do- No. 3	Local	
		4. -do- Ramin No. 1	13 miles	
		5. -do- Ramin No. 2	13 ,,	3 Miles by horse and horse and bus etc.

1	2	3	4	5
6.	-do-	Chah Pathan Wala	42 "	Tonga and bus etc.
7.	-do-	Kala	10 "	Bus only
8.	-do-	Chah Budhe Shah	40 "	Tonga and bus etc.
9.	-do-	Ghuman	3 "	Horse only
10.	-do-	Ahmadari	3 "	By bus only
11.	-do-	Shah Sdredin No. 1	17 "	-do-
12.	-do-	No. 2	17 "	-do-
13.	-do-	Dhau	18 "	-do- and horse.
14.	-do-	Nurpur	3 "	By bus only
15.	-do-	Gajani	12 "	-do- and horse.
16.	-do-	Ghabri Bala	36 "	-do-

1	2	3	4	5
	17. -do-	Batil	39 "	-do-
	18. -do-	Yaru	38 "	-do-
	19. -do-	Basti Jahan Khan	20 "	-do-
2.	Government Girls Middle School, Chotizerin.	1. G.G. Middle School (Local)	Local	
		2. G.G.P.S. Shahiwala	4 miles	By bus only.
		3. -do- Nawan Shehr	5 "	By bus
		4. -do- Qaimwala	4 "	-do-
3.	Govt. Girls Middle School, Paigah.	1. G.G.M.S. Paigah	Local	
		2. G.G.P.S. No. 1	Local	
		3. -do- Chah Bastiwala	$\frac{1}{2}$ miles	On foot.

1	2	3	4	5
4.	-do-	Zubair-a-abad	1 "	By Tonga.
5.	-do-	Aliwala	6 "	-do-
6.	-do-	Qaimwala	3 "	-do-
7.	-do-	Khanwala	4 "	-do-
8.	-do-	Churratta Kot Haijbat	8 "	Bus and Tonga.
9.	-do-	Gadai No. 1	5 "	-do-
10.	-do-	No. 2	5 "	-do-
11.	-do-	Gaugewala	7 "	-do-
12.	-do-	Chinnawala	7 "	-do-
13.	-do-	Chah Masu Khan	9 "	-do-
14.	-do-	Mamori	4 "	-do-

1	2	3	4	5
		15. -do- Jamwala	6 "	-do-
		16. -do- Golewala	7 "	-do-
		17. -do- Mahtam	19 "	-do-
		18. -do- Basharat Pur	20 "	-do-
		19. -do- Pacawala	12 "	-do-
		20. -do- Jethewala	4 "	-do-
		21. -do- Bondowani	6 "	-do-
		22. -do- Sakhisarwar	26 "	-do-
4.	Govt. Girls Middle School, Kot Chhutta.	1. G.G.M.S. Kot Chhuta	Local	
		2. G.G.P.S. Kot Chhuta	Local	
		3. -do- Jalalabod	1 miles	On foot.

1	2	3	4	5
4.	-do-	Nurgala	3 "	By bus only.
5.	-do-	Basti Malana	3 "	By bus
6.	-do-	Qeema wala	5 "	-do-
7.	-do-	Mana No. 1	8 "	-do-
8.	-do-	Mana No. 2	8 "	-do-
9.	-do-	Basti Fauja	10 "	-do-
10.	-do-	Kot Janu	12 "	-do-
11.	-do-	Notak Mahmud	4 "	Tonga and Bus.
12.	-do-	Jhok Utra	7 "	-do-
13.	-do-	Malkani wale	10 "	-do-
14.	-do-	Malkani Khurd	9 "	On foot and Tonga.

1	2	3	4	5
15.	-do-	Basti Mian	8	-do-
16.	-do-	Gal Gihhoto	11	-do-
17.	-do-	Isan Gurreh	9	By Tonga only.
5.	Govt, Girls Middle School, Fazilpur	1. G.G.M.S. Fazilpur	Local	
		2. G.G.P.S. No. 2	Local	
		3. -do- No. 3	Local	
		4. -do- Ratan Tala	Local	
		5. -do- Seed Farm Fazilpur	3 miles	By bus
		6. -do- Sikhaniwala	6	By Tonga
		7. -do- Mehrewala	9	-do-

1	2	3	4	5	
		8. -do-	Nizamabad	6 "	-do-
		9. -do-	Hazratwala	9 "	-do-
		10. -do-	Sahanwala	4 "	-do-
		11. -do-	Pati Juma Arain	6 "	-do-
		12. -do-	Rekh	15 "	-do-
		13. -do.	Hajipur	10 "	-do- by bus.
6.	Govt. Girl's Middle School, Kot Mithan.	1. G.G.M.S.		Local	
		2. G.G.P.S, No. 2		Local	
		3. -do- No. 3		Local	
		4. -do- No. 4		Local	

1	2	3	4	5
5.	-do-	Rajanpur No. 1	10 miles	By bus only.
6.	-do-	Rajanpur No. 2	10 "	-do-
7.	-do-	Rajanpur No. 3	10 "	-do-
8.	-do-	Rajanpur No. 4	10 "	-do-
9.	-do-	Rajanpur No. 5	10 "	-do-
10.	-do-	Colony Rajanpur	10 "	-do-
11.	-dos	Kotla Leesan	16 "	-do-
12.	-do-	Raqbah Nabi Shah	7 "	On foot and bus.
13.	-do-	Miani Malahan	3 "	By Tonga
14.	-do-	Murghai	10 "	By horse and bus.

1	2	3	4	5
15.	-do-	Umarkot	30 "	By bus and horse.
16.	-do-	Kotla Naseer	6 "	By bus.
17.	-do-	Brusabad	6 "	By Tonga
18.	-do-	Rojhan No. 1	32 "	By bus.
19.	-do-	Rojhan No. 2	32 "	-do-
20.	-do-	Shikarpur	20 "	By bus and Tonga.
21.	-do-	Kotla Hasan Shah	25 "	By horse add bus.
22.	-do-	Kotla Hazuri	30 "	By horse only.
23.	-do-	Asni	8 "	-do-
24.	-do-	Dhago	8 "	-do- and bus.

1	2	3	4	5
25.	-do-	Kotla Malan	4 "	By Tonga only.
26.	-do-	Kotla Gamam	8 "	By Tonga and bus.
7.	Govt. Girls Middle School,	1. G.G.M.S. Dajal	Local	
	Dajal.	2. G.G.P.S. Dajal No. 2	Local	
3.	-do-	Naushehra West	3 miles	By camel and horse.
4.	-do-	Tibbi Solgian	6 "	-do-
5.	-do-	Tibbi Lundan	15 "	By bus and horse back.
6.	-do-	Thul Hairo	18 "	-do-
7.	-do-	Lalgarh	8 "	By bus only.
8.	-do-	Lunli Saidan	8 "	-do-

1	2	3	4	5
8.	Govt. Primary School, Jampur.	1. G.G.M.S. Jampur	Local	
		2. G.G.P.S. Jampur No. 1	Local	
		3. -do- Jampur No. 2	Local	
		4. -do- Jampur No. 3	Local	
		5. -do- Jampur No. 4	Local	
		6. -do- Jampur No. 5	Local	
		7. -do- Kotla Mughlan	8 miles	By bus.
		8. -do- Kot Bodla	9 "	By bus and Tonga.
		9. -do- Shahinwala	4 "	By Tonga
		10. -do- Kotla Dewan	4 "	-do- and bus.

1	2	3	4	5
11.	-do-	Qamar Shah	3 "	-do-
12.	-do-	Basti Chhina	5 "	By bus.
13.	-do-	Dhora Hajana	11 "	By Tonga.
14.	-do-	Allahabad	6 "	By bus and Tonga
15.	-do-	Rasulpur	5 "	-do-
16.	-do-	Mahmood Pur	15 "	By bus.
9.	Govt. Girls Middle School, Vehoa.	1. G.G.M.S. Vehoa	Local	
		2. G.G.P.S. Vehoa No. 2.	Local	
		3. -do- Litra No. 1	4 miles	By camel and horse.
		4. -do- Litra No. 4		and bus, etc.

1	2	3	4	5
5.	-do-	Mithewali	6 "	-do-
6.	-do-	Jallowali	7 "	-do-
7.	-do-	Kohar	7 "	-do-
8.	-do-	Kotani	3 "	-do-
9.	-no-	Lakhani	10 "	-do-
10.	-do-	Daulatwala	10 "	By camel and horse.
10.	Govt. Girls Middle School, Nutkani.	1. G.G.M.S. Nutkani	Local	
		2. G.G.P.S. Nutkani No. 2	Local	
		Reta	10 miles	By bus and on foot.
		Fateh Khan	3 "	-do-

1	2	3	4	5
5.	-do-	Sheikh Ibrahim	4	By camel and horse.
6.	-do-	Tibah Imam	5	-do-
7.	-do-	Babi	5	-do-
8.	-do-	Tibbi Qaisrani	8	By bus.
11.	Govt. Girls Middle School, Sokar.	1. G.G.H.S. Sokar	Local	
		2. G.G.P.S. Sokar No. 2	Local	
		3. -do- No. 3	Local	
	(Salaries are actually disbursed at Taunsa)	4. -do- Taunsa No. 2	Local	
		5. -do- No. 3	Local	
	through the Centre Head-	6. -do- No. 4	Local	

1	2	3	4	5
	mistress Sokar in the	7. -do-	No. 5	Local
	interest of schools.)	8. -do-	No. 6	Local
		9. -do-	No. 7	Local
		10. -do-	Bohar	4 miles
		11. -do-	Chahca Bhuta	3 " -do-
		12. -do-	Jhok Gulzar	3 " On foot and camel.
		13. -do-	Tub	3 " -do-
		14. -do-	Saura	3 " By bus and on foot.
		15. -do-	Jhok Latwali	3 " By camel and on foot.
		16. -do-	Jhok Bhutta	3 " -do-

1	2	3	4	5
17.	-do-	Jhok Qazi Wali	3 "	-do-
18.	-do-	Jhok Kanju	3 "	-do-
19.	-do-	Saughiwali	4 "	-do-
20.	-do-	Mangrotha East No. 1	3 "	-do-
21.	-do-	No. 2	3 "	-do-
22.	-do-	No. 1 (West)	3 "	-do-
23.	-do-	No. 2 (West)	3 "	-do-
24.	-do-	Hairo (West)	6 "	By bus and camel.
25.	-do-	Hairo (East)	7 "	-do-
26.	-do-	Bindi	9 "	do-

5

4

27.	-do-	Diarah Din Panah	6	By camel and on foot.
28.	-do-	Makwal Kalan	16	By bus and camel.
29.	-do-	Chah Marakwala	18	-do-
30.	-do-	Nari	9	By bus only.
31.	-do-	Dauna	8	By bus and on foot.
32.	-do-	Kot Qaistrani	10	By bus only.
33.	-do-	No. 2	10	-do-
34.	-do-	No. 3	10	-do-
35.	-do-	Jhek Bedo	19½	-do-
36.	-do-	Shahani	16	-do-

	1	2	3	4	5
37.	-do-	Shergarh	13	"	By bus and camel.
38.	-do-	Jhok Fatehwali	13	"	-do-
39.	-do-	Jhok Bahar	13	"	By bus and camel.
40.	-do-	Basti Buzdar No. 1	12	"	-do-
41.	-do-	-do- No. 2	12	"	-do-
42.	-do-	Jhok Khubar	15	"	-do-
43.	G.G. Pry.	School Jhok Koro	5	"	By bus and camel.
44.	-do-	Mundarani	6	"	By camel and on foot.
45.	-do-	Bughari	3	"	S. I.
46.	-do-	Jhok Zamindar	3	"	D. I. S.
47.	-do-	Gadi	3	"	D. G. Khan

APPENDIX XII

(Ref: Unstarred Question No. 389)

APPENDIX 'A'**PRIMARY SCHOOLS****Gabapat :**

1. Government Boys Primary School, Moach Villgae Hub River Road.
2. Government Boys Primary School, Near Hub Chowki, Hub River Road.
3. Government Boys Primary School, Allah Bano, Allah Bano Village.
4. Government Boys Primary School, Mubarak Village.

Mauripur :

1. Government Boys Primary School, K. S. Ali Dino, Mauripur Village.
2. Government Boys Lower Secondary School, Mauripur Village.
3. Government Boys Primary School, P.A.F., Mauripur.

4. Government Boys Primary School, P. A. F., Mauripur (Camp No. 6).
5. Government Boys Primary School, P. A. F., Mauripur (Camp No. 6)
6. Government Girls Primary School, P. A. F., Mauripur (Camp No. 6).
7. Government Girls Lower Secondary School, P. A. F., Mauripur (Camp No. 6).

Baldia Colony :

1. Government Boys Primary School, Baldia Colony.
2. Government Boys Primary School, (Sindhi), Baldia Colony.
3. Government Girls Primary School, Baldia Colony.

Non-Government

4. Sipahi Boys Primary School, Turk Colony, Baldia.
5. Anglo Boys Primary School, Turk Colony, Baldia.
6. Gujrati Boys Primary School, Gujrat Colony, Baldia.
7. Zainab Bai Boys Primary School, Swat Colony, Baldia.

Pathan Colony :

1. Government Boys Primary School, Pathan Colony.

Agra Taj Colony :*Non-Government :*

1. Ghazi Mohammad Bin Qasim Boys Primary School, Masson Road.
2. Qaumi Anjuman Boys Primary School, Masson Road.
3. Suleman Azad Boys Primary School, Masson Road.
4. Good Luck Boys Primary School, Masson Road.

Kalri :

1. Government Boys Primary School, Ahmad Shah Bukhari Road.
2. Government Boys Primary School, M. M. Sadiq, Ahmad Shah Bukhari Road.
3. Government Boys Primary School, New Kalri, Hingorabad.
4. Government Boys Primary School, A.U. Saleh, Atmaram Road.
5. Government Boys Primary School, Jan Mohammad Haji Dosel, Atmaram Road.
6. Government Boys Primary School, Maulana Ubaidullah, Atmaram Road.
7. Government Girls Primary School, Kalri Zigri, Ahmad Shah Bukhari Road.

8. Government Girls Primary School, Wali Muhammad. Haji Yaqub, Atmaram Road.

Non-Government :

9. Itihad-e-Ghariban Boys Primary School, Haji Pir Muhammad Road.
10. Islamia Girls Primary School, Kalri Road.
11. Islamia Women Girls Primary School, Kalri Road.

Shah Beg Lane :

1. Government Boys Primary School, Q. H. Qasim. Tannery Road.
2. Government Boys Primary School, Dewraj Khanji, Tannery Road.
3. Government Girls Primary School, Shah Beg Lane.
4. Government Girls Primary School, Geno Bai G. Allana, Tannery Road.

Non-Government :

5. Girls Primary School, Shah Beg Lane.
6. Gulistan Balooch Girls Primary School, Shah Beg Lane.

Singhoo Lane :

1. Government Boys Primary School, Umer Lane, New Kumbharwara.
2. Government Boys Primary School, Ali Muhammad, Nabi Dad, New Kumbharwara.
3. Government Boys Primary School, M.M. Usman Brohi, Hassan Ali Road.
4. Government Girls Primary School, Singoo Lane.

Non-Government :

5. Lyari Welfare Boys Primary School, Singoo Lane.
6. Fizi Bai Dossa Girls Primary School, Singoo Lane.

Chakiwara :

1. Government Boys Primary School, M. M. Usman Balooh, Gul Muhammad Lane.
2. Government Boys Primary School, Fakir Muhammad Durra Khan, Tram Terminus.
3. Government Boys Primary School, S. Mahmud Shah, Old Kumbharwara.
4. Government Boys Primary School, N. A. Bachu, Old Kumbharwara.

5. Government Girls Primary School, Hassan Ali Haji Hoti, Gul Muhammad Lane.
6. Government Girls Primary School, Ghulam Rasool Baloch, Chakiwara.

Non Government :

7. Pak Baloch Boys Primary School, Chakiwara.
8. Boys Lower Secondary School, Chakiwara.
9. Javed Girls Primary School, Chakiwara.

S.I.T.E. :

1. Government Boys Primary School, near Police Station, Manghopir Road.

Non-Government :

2. Model Boys Primary School, near Police Station.

Sher Shah Colony :

1. Government Boys Primary School, Sher Shah Village.
2. Government Boys Primary School, Harilal, Sher Shah Village.
3. Government Girls Primary School, Sher Shah Village.

Non-Government :

4. Islamia Boys Primary School, Sher Sher Shah Colony.
5. New Model Girls Primary School, Sher Shah Colony.
6. Saleh Boys Primary School, Sher Shah Road.
7. Baptist Church Boys Primary School, 53/3, Sher Shah Road.

Mewa Shah and Bakra Piri (Closed Area) :

1. Government Boys Primary School, Alama Iqbal Colony, Bakra Piri.
2. Government Girls Primary School No. 1, New Kumbharwara, Bakra Piri.
3. Government Girls Primary School, No. 2, New Kumbharwara, Bakra Piri.

Non-Government :

4. Anwarul Islam Girls Primary School, Bakra Piri.

Miran Naka :

1. Government Girls Primary School, Miran Naka.

Bihar Colony :

1. Government Boys Primary School, Tannery Road.
2. Government Girls Primary School, Tannery Road.

Non-Government :

3. Muslim Boys Primary School, Masson Road No. 1.
4. Muslim Boys Primary School. No. 2, Masson Road.
5. Colony Boys Primary School, Opposite Jamia Masjid.
6. Taj Boys Primary School, Tannery Road.
7. Pearl English Primary School, Near Hanif Manzil.
8. Queen Mary Boys Primary School, Near Hanif Manil.
9. Shaheen Boys Lower Secondary School, Opposite Jamia Masjid.
10. Muhammad Jameel-ud-Din Boys Primary School, Opposite Juma Masjid.
11. Hussaini Boys Primary School, Opposite Jamia Masjid.
12. Adnan Boys Primary School, B-98, Bihar Colony.
13. Al-Mukhtar Boys Primary School, 90/4 Bihar Colony.
14. Des Nath Boys Primary School, Bihar Colony.
15. Shaheen Girls Lower Secondary School, Opposite Jamia Masjid.

SECONDARY SCHOOLS

Gabapat : Nil

Mauripur :

1. Government Boys Secondary School, Hawksbay Road.
2. P.A.F. Model Secondary School, Hawksbay Road.

Baldia Colony Nil

Pathan Colony Nil

Agra Taj Colony.

1. Ghazi Muhammad Pin Qasim Boys Secondary School, Agra Taj Colony.

Kalri :

1. Muslim Boys Secondary School, Masson Road.
2. Muslim Girls Secondary School, Masson Road.

Shah Beg Lane :

1. Government Boys Secondary School, Pritamdas Atmaram Road.

Singhoo Lane Nil

Chakiwara :

1. Government Boys Secondary School, Gul Muhammad Lane.

2. S.M. Lyari Boys Secondary School, Gul Muhammad Lane.

S.I.T.E. :

1. S.I.T.E. Boys Secondary School, Manghopir Road.

Sher Shah Colony : Nil

Mewa Shah and Bakra Piri (Closed Area) Nil

Mira Naka Nil

Bihar Colony :

1. Government Boys Secondary School, Tannery Road.
 2. Government Girls Secondary School, Tannery Road.
-

Tuesday, the 7th May, 1968.

سہ شنبہ - ۸ صفر المظفر ۱۳۸۸ھ

The Assembly met at the Assembly Chamber, Lahore at 8-00 a.m. of the clock. Mr. Speaker, Chaudhri Muhammad Anwar, in the Chair.

Recitation from the Holy Qur'an by Qari Ali Hussain Siddiq, (Qari of the Assembly) and its translation.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَوَلَمْ يَدْعُوا الْبَنِينَ كَفْرًا وَأَتَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ كَانِتَارًا تَرَفًا فَتَقْتُلَهُمَا
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ه وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رِجَالًا
أَنْ يَسْجُدَ لِيَوْمٍ ه وَجَعَلْنَا فِيهَا جِبَالًا سِبْطًا لَعَلَّهُمْ يُحْذَرُونَ ه وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ
سَقْفًا حَقْفًا ظَاهِرًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ ه وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَ
السَّمَاءَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ه وَمَا جَعَلْنَا لِشَيْءٍ مِمَّا
يَخْلُقُ الْإِنْسَانَ أَفَادِينَ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ نَفْسَهُ الْخَالِدُونَ ه كُلُّ نَفْسٍ وَآلِقَةُ الْوَأْتِ
وَبَنُو كَوْمًا بِالْأَشْجَارِ وَالْحَيْسِرَاتِ فَتَنَّهُ ه وَرَأَيْتُمْ جَعْفُونَ ه

د پ ۱۰ - ۲۱ س - ۲۱ ع - آیات ۳۵ تا ۳۰

کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان وزمین دونوں سے جوئے سے تو ہم نے جدا جدا کر دیا۔
اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں پھر آخر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اور ہم ہی
نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ (زمین) لوگوں کے بوجھ سے بٹے اور جھکے نہ لگے اور اس میں کشتارہ
راتے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں
سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے رات دن اور سو دن و چاند کو بنایا یہ سب
لا سو دن و چاند ستارے، آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔ اور سبے پیغمبر ہم
نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بنائے دوام نہیں بخشا۔ بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔
ہر تنفس کو موت کو مزہ چکھنا ہے۔ اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش
کے طور پر مبتلا کرتے ہیں۔ اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker : Now the Question Hour. Mr. Zain Noorani.

CONSTRUCTION OF A NEW RISING WATER MAIN OF STEEL PLATED
PIPES BY K. D. A. AT DABEJI

*9985. Mr. Zain Noorani : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the K. D. A. is constructing at Dabeji a new rising water main of steel plated pipes to replace the existing water main made of prestressed R. C. Pipes ;

(b) whether it is a fact that this is being done because the K. D. A. claims that the sub-soil salt water has corroded the steel of the R. C. Pipes ;

(c) what is the amount spent so far on the cost and on the laying of R. C. Pipes which are to be discarded now ;

(d) whether the K. D. A. conducted a "test" of the soil conditions in which this important main was to be laid prior to deciding to use the R. C. Pipes ;

(e) if answer to (d) above be in the affirmative, whether the test and survey did not reveal that the soil was of such a nature that the R. C. Pipes were likely to be corroded ;

(f) the names of the individual or individuals alongwith their designations who carried out this test or survey and the result of the said test or survey ;

(g) whether it is also a fact that the K. D. A. has set up its own factory for the manufacture of R. C. Pipes similar to the one laid in Dabeji which are being discarded now and that the said R. C. Pipes manufactured by the K. D. A. are being extensively used for the last twelve years or so and are still being used for water supply and sewerage all over Karachi ;

(h) if answer to (g) above be in the affirmative, whether there is not

a distinct possibility that the pipe used all over Karachi will also get corroded like the pipe at Dabeji;

(i) if answer to (h) above be in the affirmative, the action Government intend to take in this regard ?

Minister for Basic Democracies & Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo): (a) Two pre-stressed R.C.C. Pipes Rising Water Mains originally laid under the Greater Karachi Bulk Water Supply Scheme at Dabeji are still in commission. The new Steel Rising Main is being laid in a length of 9500 Rft. only in addition to, but not in replacement of the Prestressed Rising Mains in order to avoid dislocation of the supply in case of bursts.

(b) Yes. Partly for the reasons mentioned in the question. The principal causes of the bursts in the Rising Main has been the combined effect of seepage of water through the barrel, penetration of saline water through the gunite layer to the prestressing high tensile wire, strains caused by bending stresses and vibrations on the pipes laid on the concrete cradle.

(c) Rs. 77 lacs for the original works and Rs. 10 lacs for replacement and the repairs of the pipes in the stretch where bursts had occurred. Total 87 lacs.

(d-e) All the time of excavation of trenches which was done before the pipes were manufactured or laid, saline water was found and to meet the situation the foreign consultants suggested that the pre-stressed pipes should have $\frac{1}{2}$ " to $\frac{3}{4}$ " cover instead of the normal $\frac{3}{8}$ ". The Pipes laid at Dabeji were provided with $\frac{3}{4}$ " cover in order to provide protection against salinity in the soil.

(f) Does not arise.

(g) As pre-stressed pipes of the required sizes were not being manufactured in Pakistan, the Central Government obtained foreign help under the Colombo Plan for setting up a factory at Karachi on the basis of the patents of M/S Rocla of Melbourne, Australia. All pre-stressed pipes

used at Dhabeji and in the rest of Karachi at that time also were manufactured in this Pipe Factory operated by the KDA under the supervision of the experts provided under the Colombo Plan. All the pipes are rendering satisfactory service except a few bursts that occurred at the Dhabeji. The pipes still continue to be used.

(b) No difficulties have arisen as yet, but the possibility cannot be ruled out.

(i) The KDA has decided that large diameter pre-stressed pipes should not be used in the future when they are subjected to high heads. In replacing the 72" diameter mains in the stretch where bursts had occurred the cover has been increased to 14".

Mr. Zain Noorani : Is the Minister aware that K.D.A. issued a press note in December, 1967, stating that the K.D.A. was constructing a new rising water main of steel plates to replace the existing water main of pre-stressed R.C. pipes, which burst last year?

Minister for Basic Democracies : I am not aware of the press note but whatever I have submitted today is the real position because the two Rising Mains are already in commission, and are working and will continue as such because replacement would mean that these are perhaps destroyed whereas they are still in working order. The purpose, however, of this new rising main is that we want to add it to avoid any difficulty in case of any burst of the type which occurred last year due to which we faced a lot of difficulty. So both the mains will continue to work. I Sir, personally feel that it is in the best public interest and benefit.

Mr. Zain Noorani : Sir I regret that the statement of the Minister is incorrect. This is based on the fact that after proper tests, the engineers had reported the condition of the soil. Then what was the reason for not using special cement to prevent these pipes from corroding?

Minister for Basic Democracies : Sir I have already mentioned in the answer that when the reports came that the water is saline and there was

likelihood of the pipes being affected, then necessary pre-cautions were taken, consultants were consulted and whatever they proposed, that was acted upon. Now Sir, I feel that one ought to have expert knowledge before discussing these things and I do not know whether my friend is an Engineer himself. If he has heard it from somebody, then I assure him that whatever is humanly possible, was done.

Mr. Zain Noorani : Sir, I am working on the advice of the non-official consultants, and I have the complete working papers of that. Now please let me know whether the K.D.A. intends to paint the steel pipes twice a year and if so, what will be the annual expenditure on the same ?

Minister for Basic Democracies : Sir, I do not think that this supplementary arises out of it as he did not put the question about the paint.

Mr. Zain Noorani : Sir, they are going to use steel pipes in place of RCC pipes and I assert that this will involve an annual expenditure of Rs. 2 lacs to re-paint the pipes twice a year to save them from corroding.

Minister for Basic Democracies : Sir, what is required to be done for the maintenance of these pipes, will be done.

Mr. Zain Noorani : In view of the fact that the soil conditions in Karachi are very similar to those at Dabejee which is very near to Karachi, and in view of the fact that the Minister does not rule out the possibility of water-mains in Karachi, where they have used RCC pipes, from being corroded, what will happen to these water-mains in the near future if steps are not taken now to prevent them from corroding ?

Minister for Basic Democracies : Sir, about 9 years have passed and nothing has happened there but still I say the possibility of burst or of its going out of order at any time, cannot be ruled out altogether. But no complaint has so far been received in the case of rising mains. I have already stated the reasons why the burst occurred. In other cases,

where the flow of water is by gravity, no complaint has so far been received therefrom. But even if anything happens, our maintenance staff is there to look after it.

REGULARISING GIZRI VILLAGE IN KARACHI

*9990. Mr. Zain Noorani : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government please refer to answer to my Starred Question No. 5347, given on the floor of the House on 27th May 1967 and state the progress so far made in regularising Gizri Village in Karachi and the approximate time by which the same is expected to be finally regularised ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : People of Gizri Village offered and agreed with K.D.A. to get their area properly surveyed and submit their regularization plan for the approval of K.D.A. No progress has been made so far in the matter as the survey plan, as agreed to, has not been supplied by the residents of the area to the K.D.A. for regularization. Basic Democracies Members of the area who represented the case for regularization have been and are being reminded regularly by the K.D.A.

Mr. Zain Noorani : Sir, I would like to point out that the answer given is the same as was given on the 27th of May, last year. The Minister, concerned during the course of a supplementary question, made this statement in the House :

"I agree with the Member that they cannot. I think it is proper that the K.D.A. authorities are instructed to carry out the survey and come up with proposals that ultimately when the whole scheme is executed and when this area is regularized and when the question of improvement charges comes, it will be taken up at that time "

That means, Sir, that the Minister on the floor of the House said that he agreed that the K.D.A. would do the survey, and the question of charges would come later. Now Sir, what has happened to that since then ?

Minister for Basic Democracies : Nothing has happened Sir. My friend insists on one thing and then on the other, and so on. He was of the opinion that the people of that village wanted to be given the option that they come forward with the survey and regularization scheme. K.D.A. agreed to that. Then he pointed out that it would not be possible for them. I said, alright, if it is not possible for them, K.D.A. would do that when the proper time comes. So Sir, when the K.D.A. takes up that scheme, only then, they will survey, because there are two types of schemes. one which is to be executed and completed by the K.D.A. and the other was a zonal scheme for regularization of other things. Regarding the zonal scheme, if those people want it to be surveyed they should deposit the charges and then the K.D.A. will do it. But if they want it to be done by the K.D.A., it will take time. The position is that Gizri Development Work will be taken up when the development of Clifton, which is adjacent to it, is in a sufficiently advanced stage, and when the plots in Clifton are not allotted. Gizri area's development is inter-dependent on Clifton scheme as the two areas are adjacent. The land is still under dispute and the proprietary rights are being claimed by the Ministry of Defence. The matter is to be considered and sorted out.

Mr. Zain Noorani : Sir, it is very painful to contradict the worthy Minister like Mian Sahib whom I respect so much. But it is not correct when he says that nothing has happened since then. Sir, is it not a fact that the K.D.A. has issued not one but two notices to the residents of Gizri that unless they submit a survey report in a short time, K.D.A. would not be responsible for the regularization of Gizri ?

Minister of B D. & Local Government : I will state it positively that there are two types of schemes. Now, this is a zonal scheme. Any zonal scheme we will take up only if they deposit the charges which are required for survey or they come forward with their own plans and if these plans can be regularized they will be regularized. In that field nothing has been done. If the KDA is to take up any work it will take it up according to its own priorities. It is on the demand of the people of that area that the KDA agreed to their proposals. We have been reminding the Members and we will again be reminding the residents also.

HOUSES CONSTRUCTED IN NORTH NAZIMABAD NEAR DE, SILVA
TOWN

*9991. Mr. Zain Noorani : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that cracks have appeared in certain houses constructed in North Nazimabad near De'Silva Town due to the soil of the area being "treacherous" with a tendency to expand when wet and contract when dry ;

(b) whether it is a fact that the K. D. A. has recovered charges from the allottees of the plots on which said houses have been constructed for development of the said area; if so, at what rates ;

(c) when was the development of the said land taken in hand by the K.D.A. and when was it completed ;

(d) whether it is a fact that despite the services of Experts and highly paid Engineers, the K.D.A. did not discover either before or during the development of the said area that the soil was treacherous ;

(e) whether it is a fact that the K.D.A. is charging non-utilisation fee from the said allottees for delay in construction of houses ; if so, at what rates and what is the total amount of non-utilisation fee recovered so far from the allottees of plots in North Nazimabad ;

(f) whether it is also a fact that the K.D.A. has issued notices to the allottees of plots in North Nazimabad to complete the building on their houses immediately or their allotments would be cancelled ;

(g) whether it was not the responsibility of the K.D.A. to ascertain that the land developed and offered to the public for sale did not contain any such defects ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes the houses have not been constructed by K.D.A. but by a firm on behalf of the allottees.

(b) K.D.A. has recovered charges at the following rates' from the plots for development of the land :—

Category-A (200 Sq. Yds.)	Rs. 7.50 per sq. yd.
Category-B (400 Sq. Yds.)	Rs. 8.50 per sq. yd.
Category-C (600 Sq. Yds.)	Rs. 7.00 per sq. yd.
Category-D (1,000 Sq. Yds.)	Rs. 8.00 per sq. yd.
Category-E (1,500 Sq. Yds.)	Rs. 8.25 per sq. yd.
Category-F (2,000 Sq. Yds.)	Rs. 8.25 per sq. yd.
Category-G (3,000 Sq. Yds.)	Rs. 8.25 per sq. yd.

(c) The Scheme was sanctioned by Government in 1953 and the work was taken in hand in 1953. The development work is under execution in areas subsequently taken in hand.

(d) K.D.A. Engineers are responsible for the overall development of lands pertaining to construction of roads, water-supply, sewerage system, storm water drainage, etc. K. D. A. Engineers cannot take responsibility of testing the foundations for each individual house. It is the responsibility of licensed architects and engineers who prepare the designs, etc., for the allottees to prepare safe designs for the foundations after carrying out detailed investigation of the site condition.

(e) Yes, K.D.A. had issued notices to the allottees to complete the construction of the building within the specified period. This period has now been extended upto 30th June 1968, on payment of non-utilization fee by the allottees.

(f) Yes. The non-utilization fee is being charged with effect from 1st January 1966 at the rate of three percent per annum of the total occupancy value of the plot. Up to 31st March, 1968, a sum of Rs. 7.47 lacs has been recovered from the allottees of North Nazimabad as N.U.F. Recently Governing Body, K.D.A., has decided not to charge non-utilization fee from the allottees of Blocks I, J, N, X, Q, S, and T of North Nazimabad for the time being.

(g) K.D.A. developed the area and allotted plots to individuals. It was the responsibility of allottees to see that houses were constructed after Proper designing is made by the competent engineers.

Mr. Zain Noorani : I would refer to part (a) of the question and answer. I have never asked for details of the Hussain De'Silva township about which the answer is given. I have asked about the KDA's own scheme which is near De'Silva town. The answer given to me is about De'Silva town.

Minister of B.D. & Local Government : Whatever is said in the answer is the true position. The KDA did not construct the houses. They developed the land not the soil. By development I mean building of roads, supply of water, sewerage and all that and then the plots were allotted to the people. Plots were constructed by a firm on behalf of the residents. The KDA does not come into the picture.

Mr. Zain Noorani : I would seek Mian Sahib's indulgence. The KDA develops land, roads, pipes, water, everything. Before the KDA sells land the land is developed and when the KDA sells land are they not expected to test the soil in advance. It is expected of their engineers to see that the soil is fit for construction. Was that done in North Nazimabad ?

Minister of B.D. & Local Government : It cannot be said that this land is such where houses cannot be constructed at all. It is for the inhabitants and Engineers to see that in a particular area what type of foundation should be laid and what type of material should be used. It is for the Engineers and experts who construct buildings. The land is available, people know the land and its position. We have developed the area and it was for the Engineers and people who constructed houses to see whether it was fit for construction or not.

Mr. Speaker : Mr. Zain's supplementary is that before a particular area is developed, is it not for the Engineers or the authorities like the KDA to see the actual condition of the soil there ?

Minister of B.D. & Local Government : We do not go into the details so far as my knowledge goes about it. The land around Karachi is to be developed by the KDA. But

”مشتری پوشیدار باش“

Anybody who comes forward comes with a clear understanding and knowledge that the area is fit for construction. If he likes he purchases it and if he does not like it he is free not to purchase it.

Mr. Speaker : The Minister means to say that the allottees should see whether the land is fit for construction or not.

Minister of B.D. & Local Government : How is it possible that land is there and houses cannot be constructed. The only difference is that in Lahore for example a different type of foundation may be laid and a different type of material is used. In Karachi a different type of material may be used. It is for the Engineers to see. If the soil is good they will use one material and if it is not so good they will use another. It is for the purchasers, Engineers and planners who construct houses.

Mr. Zain Noorani : For the information of Mian Sahib this involves thirty thousand plots. Is it not a fact that since then the KDA Engineers have publicly admitted that eighty percent of these plots due to weather conditions expand during winter and contract during summer. That is why eighty percent of the houses that have been built have developed cracks and have shaky foundations.

Minister of B.D. & Local Government : That may be one of the reasons, I cannot say. My submission is that those people who purchase land and construct houses should see the conditions. In the Quetta area when you go to construct a house you will find that construction is of a different type altogether because of earthquakes there. But in Lahore where there are no earthquakes the construction is different. It is for the people to look after that. Whatever service can be rendered in that sphere in future or even now we will do it.

Mr. Zain Noorani : The service that KDA has done is that notices have been issued to the remaining plot holders that if they do not construct houses on their plots, their plots would be cancelled. Would the Minister undertake to give alternate plots if they want.

Minister of B.D. & Local Government : I don't give any undertaking.

The plots should be designed according to the soil. If we hide the condition of the soil from the purchaser then of course we can be held responsible. It is open to them for inspection. After inspection they can decide one way or the other. If they like they may purchase the plot and if they don't like it they may decide against it. If the house is to be constructed it is to be designed according to the soil. Now the KDA cannot take full responsibility of testing the foundation of each individual house. The purchasers may buy land if they like it and if the purchasers do not like a particular area they may not go for it.

Mr. Speaker : The Minister means to say that before making an application for allotment the particular man should engage a consulting Engineer and he should go to the spot to find out whether that plot is fit for construction or not.

Minister of B.D. & Local Government : Mr. Speaker you are yourself a zamindar and you know that land differs from kanal to kanal and acre to acre. My submission is that the person who is going to buy a plot when he is at it, comes to a conclusion that the soil is good or bad. After all he has to build a house. He has to get the opinion of the experts whether the soil is fit for construction or not and in accordance with the requirements of the soil the Engineers should design the building.

Mr. Speaker : What is the harm if these authorities make a survey and see to the condition of the land before selecting particular area for a colony.

Minister of B.D. & Local Government : As far as possible we do it. Whatever land we have in Karachi we cannot change its soil. We cannot change the land around Karachi. But we try to take up those plots where soil is better.

HYDERABAD DRAINAGE SCHEME

*9993. **Mr. Zain Noorani :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that a drainage scheme is being implemented for Hyderabad ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, what is the total estimate of entire scheme ;

(c) out of the total amount required for the scheme how much has been provided by the Government, alongwith the yearwise breakdown of the same ;

(d) since what year has the Hyderabad Drainage Scheme been in planning and execution stage and in what year did it first get administrative sanction ?

Minister of Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) Rs. 3.92 Crores.

(c) The position of funds allocation since 1959 is as under :—

Year		Original grant	Modified grant.	Actuals
		Rs.	Rs.	Rs.
1959-60	...	7,92,000
1960-61	...	15,00,500	2,00,000	...
1961-62	...	5,00,000
1962-63	...	4,00,000	1,50,000	...
1963-64	...	10,00,000	3,50,000	1,20,038
1964-65	...	5,00,000	35,590	4,798
1965-66
1966-67	...	1,00,000	22,590	22,590
1967-68	...	40,000

(d) This Scheme was first administratively approved by the Former Sind Government in 1953. In 1959-60 the Scheme was prepared by defunct Additional Chief Engineer, Buildings and Roads, Hyderabad, and

sent to the office of defunct Chief Engineer, Buildings and Roads, West Pakistan, who did not agree with it and thus it was decided that the scheme be prepared by Foreign Consultants, who were appointed for this purpose in 1963. The approval of the scheme prepared by the Consultants is awaited from the Central Government.

Mr. Zain Noorani : Is it a fact that in 1953 when giving administrative sanction to the scheme the former Sind Government sanctioned a substantial sum for the same. If so, what was the amount and what happened to it ?

Minister of B.D. & Local Government : If you kindly allow me to read it in order to make things clear :

“(d) This scheme was first administratively approved by the former Sind Government in 1953. In 1959-60 the Scheme was prepared by the defunct Additional Chief Engineer, Buildings and Roads, Hyderabad, and sent to the office of defunct Chief Engineer, Buildings and Roads, West Pakistan, who did not agree with it and thus it was decided that the scheme be prepared by Foreign Consultants, who were appointed for this purpose in 1963. The approval of the scheme prepared by the Consultants is awaited from the Central Government.”

Permit me, Sir, there is a long history behind this case. If you like me to read the whole background

Mr. Speaker : What was the Member's supplementary ?

Mr. Zain Noorani : The answer says that the scheme was sanctioned in 1953 by the Sind Government. I say that a substantial amount was also sanctioned in that behalf by the Sind Government in 1953. What was the amount and what happened to it ?

Minister of B.D. & Local Government : This was not asked by my friend in the question. It is lengthy.

Mr. Zain Noorani : What is the total amount that is estimated to be spent on this scheme now ?

Minister of Basic Democracies & Local Government : The total amount is 3 92 crores, but it is going to be split into two phases-Rs. one

crore would be spent on first phase, and 2.9 crores would be spent on the second phase.

Mr. Zain Noorani : Is the Minister aware that during the last 9 years, only Rs. 117,428/- have been spent on this scheme. Taking this figure into account and Rs. 3.9 crores just mentioned as the total estimate, is he aware it will take two hundred years before the scheme is completed ?

Minister of Basic Democracies & Local Government : I don't know whether my friend is that good mathematician although he is a good parliamentarian. My submission is that I have stated in my answer to the question that the whole scheme has gone to the Central Government for approval. When it is approved, the proper amount will be made available according, of course, to the financial resources of the Government. My submission is that this amount is not exactly spent on the execution of this scheme. There is a preliminary stage, the feasibility report and all those things. It has been stated that whenever this scheme is approved by the proper authorities, I think a reasonable amount of money would be made available.

Kazi Muhammad Azam Abbasi : When was the scheme sent to the Central Government for approval ?

Minister of Basic Democracies & Local Government : I have already submitted that if my friend would like, I will give its very lengthy background.

Mr. Speaker : He only wants to know when the scheme was submitted to the Central Government.

Minister of Basic Democracies & Local Government : The position is that consultants were appointed in 1963. Afterwards there were some objections, discussions and all that, and it was submitted to these authorities in October 1964. After scrutiny of the PC-1 Forms and feasibility report, it was submitted to the Provincial Planning and Development Department in November 1964 for clearance by the Planning and Development Working Party. The Provincial Planning and Development Department passed on the copies of PC-1 proforma and

feasibility report to the Economic Affairs Division of the Government of Pakistan. The Planning and Development Department in February 1965 informed this office that this project would be considered for approval after it is put up in World Bank programme of 1965-66 for assistance. Finally it was sent by us in December 1967. So, this has been passing through different phases objections, etc.

ALLOCATION OF PLOTS FOR CINEMA HOUSES BY K.D.A.

*9997. Mr. Zain Noorani : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government please refer to answer to my Starred Question No. 7952, given on the floor of the House on 18th October and state :—

(a) whether any plots have been allocated since then for the construction of Cinema Houses ; if so, details of the same mentioning the (i) area, (ii) colony or scheme number (iii) the name of the party to whom it has been allotted and (iv) the price at which it has been allotted ;

(b) whether it is a fact that a plot of land has been allotted in Landhi Colony near and almost opposite to the Ghausia Masjid for the purpose of construction of a Cinema ;

(c) if answer to (b) above be in the affirmative, (i) the name of the person party to whom the plot has been allotted (ii) the total area of the plot, (iii) the date of the allotment and (iv) the rate at which it has been allotted ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : (a) No allotment has been made after 18th October, 1967.

(b) Yes. Two cinema plots had been allotted to M/S, Kamil Noor Khan and Azhar Hussain Zaidi by the defunct Rehabilitation Department Government of Pakistan. Both these plots are close to Ghausia Masjid, Landhi.

(c)		Date of	
Name of the allottee	Area	Allotment	Rate
1. Mr Kamil Noor Khan.	2000 Sq. Yds.	16-10-62	Rs. 25 per sq. yd.
2. Mr. Azhar Hussain Zaidi.	2000 Sq. Yds.	16-10-62	Rs. 25 per sq. yd.

With your permission, Sir, for the information of the Member before he puts any supplementary, I would like to explain the position about it, that the planning of the Landhi Refugee Colony was done by the Pakistan P.W.D. The plots were allotted by the Rehabilitation Department of the Central Government before 1958. In the year 1962, the National Housing and Settlement Agencies of the Central Government confirmed the allotment on payment of occupancy value of Rs. 25/- per sq. yard. A dispute arose between one of the allottees and the National Housing and Settlement Agency on account of the increase of the occupancy value from the original rate of Rs. 3/- to Rs. 25/- per square yard. The dispute has now been decided in favour of the Government. Steps will now be taken by the allottees for obtaining licences for construction of pucca cinemas. Authorities concerned will naturally consider all aspects and take decisions.

So, Sir, that land was not allotted by the K.D.A. but by the National Housing and Settlement Agency. So far as my information goes, the dispute has now been decided and they will be applying for having no-objection certificates and necessary formalities will be gone through.

Mr. Zain Noorani : Sir, I would request the Minister to have this question re-examined because the answer does not seem to be correct. There is a plot near the Ghausia Masjid, which is a third plot. It has not only been allotted to a Parsee gentleman but he has started construction. There was press agitation after which the administration has temporarily stopped construction of that cinema. So, I am not very keen to come up again but I only request the Minister to go into it and see what are the details.

Minister of Basic Democracies & Local Government : So far as my discussion with the people is concerned, I think the construction on these plots has not started. Maybe, my friend is confusing it with some other plot.

Mr. Zain Noorani : I am taking of the third plot.

Minister of Basic Democracies & Local Government : We have said that those plots have been allotted by the Rehabilitation Department. As far as my information goes, no construction is taking place and anyhow, I will check up again and try to find out what is the actual position.

PAY SCALE OF ENGINEERS OF MUNICIPAL COMMITTEES

*10028. **Chaudhri Muhammad Idrees :** Will the Minister of Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the scale of Engineers of Municipal Committees in the Province were revised and consolidated in the year, 1966 ;

(b) whether it is a fact that the pay scales of Engineers of District Councils have not so far been revised and consolidated ; if so, the reasons therefor, and the likely date by which the same will be done ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) The pay scales of Engineers of District Councils could not be revised for want of certain information. The draft rules have been finalised and are likely to be issued shortly.

Malik Muhammad Aslam Khan : May I know what is that certain information, which is being awaited ?

Minister of Basic Democracies and Local Government : Not awaited now. At that time it was thought that separate cadre of the District Council should be created and their seniority in different branches of

that cadre may be fixed. Then their revision of pay will take place. But instead of waiting for that we have gone further and rules have been framed and they are with the Law Department.

COLLECTION OF HOUSE TAX

*10063. Chaudhri Muhammad Idrees : Will the Minister of Basic Democracies and Local Government be pleased to state the amount of House Tax collected by the Lahore Municipal Corporation during the year, 1966-67 alongwith the expenditure incurred on the salaries of the staff who collected the said tax ?

Minister of Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : The amount of House Tax collected by the Lahore Municipal Corporation during the year 1966-67 Rs. 39,89,477

The expenditure incurred on the salaries of the staff working in the Tax Branch. 3,35,718

But for the information of the Member I may add that this staff, in addition to the collection of house-tax, collects some other taxes also, which include dangerous and offensive trades tax, the collection of which is Rs. 2,14,717; then Wheel Tax amounting to Rs. 1,77,950/-, and sale of water amounting to Rs 15,07,401/-. The total comes to Rs. 58,89,245/-, the expenditure is Rs. 3,35,718/-.

میاں محمد شفیع۔ کیا جناب وزیر موصوف یہ فرمائیں گے کہ ۱۹۶۶-۶۷ میں کتنا کل ہاؤس ٹیکس تھا۔ جس میں سے ۳۹,۸۹,۴۷۷ روپے ہاؤس کے عملے نے۔۔۔

Mr. Speaker : The Member should give a fresh notice for that.

Malik Muhammad Akhtar : The Minister knows that the collection of house-tax has been transferred to the local bank ; has the Corporation retrenched any of its staff after that action ?

Minister of Basic Democracies and Local Government : I have sub-

mitted that the collection of these taxes is done by the Tax Branch. Any amount being collected by the bank, even if it is being done, the staff is collecting not one but all these taxes.

Malik Muhammad Akhtar : Is the Minister prepared to make a statement that the burden of the duty of the staff collecting house-tax has not been reduced by the transfer of the collection of house-tax to the bank ?

میاں محمد شفیع۔ جناب والا۔ ۱۹۶۶-۶۷ء کا کل ہاؤس ٹیکس ۳۹۲۹۸۲۷۷ روپے وصول ہو گیا تو اس کے بعد بقایا کتنا رہ گیا ہے۔

Mr. Speaker : Same supplementary in another form; disallowed.

چودھری محمد ادیس۔ میں نے یہ سوال اس لئے پوچھا تھا۔ اور شکایت یہ ہے کہ ہاؤس ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس کی شرح یکساں ہونے ہوئے پراپرٹی ٹیکس بہت زیادہ وصول ہوتا ہے۔ کیا آپ کا عملہ اس کو compare کرنے کی کوشش کرے گا۔

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ۔ کیا آپ ایک بات پر میرے ساتھ اتفاق فرمائیں گے۔ کہ مقامی طور پر بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔ آپ کے اس سوال میں جذبہ ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں۔

SECOND CLASS MUNICIPALITIES

*10065. **Chaudhri Muhammad Idrees :** Will the Minister of Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the number and names of Second Class Municipalities in the Province as on 31st October, 1967 ;

(b) the number and names of Municipalities out of those mentioned

in (a) above where whole time Chairmen were working on the said date ;

(c) the income of each of the said Municipalities during the year, 1966-67 ?

Minister of Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Number—74

Names

- (1) Gujar Khan.
- (2) Chakwal.
- (3) Jhelum.
- (4) Campbellpur.
- (5) Mandi Bahauddin.
- (6) Lalamusa.
- (7) Jalapur Jattan.
- (8) Gujrat.
- (9) Bannu.
- (10) D. I. Khan.
- (11) Nawabshah.
- (12) Khairpur.
- (13) Rohri.
- (14) Shikarpur.
- (15) Larkana.
- (16) Kambar.
- (17) Shahdadkot.
- (18) Jacobabad.
- (19) Jaranwala.

- (20) Tandlianwala.
- (21) Toba Tek Singh.
- (22) Gojra.
- (23) Kamalia.
- (24) Khushab.
- (25) Bhera.
- (26) Mianwali.
- (27) Jhang.
- (28) Chiniot.
- (29) Bahawalpur.
- (30) Ahmadpur East.
- (31) Khanpur.
- (32) Rahimyar Khan.
- (33) Sadiqabad.
- (34) Chistian.
- (35) Bahawalnagar.
- (36) Haroonabad.
- (37) Kasur.
- (38) Pattoki.
- (39) Kamoke.
- (40) Wazirabad.
- (41) Hafizabad.
- (42) Sheikhupura.
- (43) Nankana Sahib.

- (44) Daska
- (45) Narowal.
- (46) Landhi Korangi.
- (47) Abbottabad.
- (48) Mardan.
- (49) Kohat.
- (50) Nowshera.
- (51) Charsadda.
- (52) Swabi.
- (53) Mirpurkhas.
- (54) Dadu.
- (55) Thatta.
- (56) Shahdadpur.
- (57) Kotri.
- (58) Tando Mohd. Khan.
- (59) Tando Allah Yar.
- (60) Tando Adam.
- (61) D. G. Khan.
- (62) Muzaffargarh.
- (63) Leiah.
- (64) Sahiwal.
- (65) Okara.
- (66) Pakpattan.
- (67) Chichawatni.

- (68) Arifwala.
- (69) Khanewal.
- (70) Mian Channu.
- (71) Bure Wala.
- (72) Vehari.
- (73) Karur Pakka.
- (74) Shujabad.

(b) Number — 32

Names

- (1) Gujar Khan.
- (2) Bannu.
- (3) D. I. Khan.
- (4) Nawab Shah.
- (5) Khairpur.
- (6) Rohri.
- (7) Shikarpur.
- (8) Larkana.
- (9) Kambar.
- (10) Shahdad Kot.
- (11) Jacobabad.
- (12) Jaranwala.
- (13) Gojra.
- (14) Bahawalpur.
- (15) Khanpur.

- (16) Chishtian.
 (17) Haroonabad.
 (18) Kasur.
 (19) Sheikhpura.
 (20) Landi Korangi.
 (21) Kohat.
 (22) Mardan.
 (23) Abbottabad.
 (24) Mirpur Khas.
 (25) Dadu.
 (26) Thatta.
 (27) Shahdadpur.
 (28) Kotri.
 (29) Tando Mohd. Khan.
 (30) Tando Allah Yar.
 (31) Tando Adam.
 (32) Burewala.

		Rs.
(c) (1)	Gujar Khan.	... 6,54,380
(2)	Chakwal	... 5,67,382
(3)	Jhelum	... 11,45,032
(4)	Campbellpur	... 4,76,407
(5)	Mandi Bahauddin	... 9,76,218
(6)	Lalamusa	... 5,81,710
(7)	Jalalpur Jattan	... 3,05,360

1000 PROVINCIAL ASSEMBLY OF WEST PAKISTAN [7TH MAY, 1968

(8)	Gujrat	...	17,04,740
(9)	Bannu	---	9,32,792
(10)	D. I. Khan	...	7,17,532
(11)	Jacobabad	..	15,73,736
(12)	Nawab Shah	..	20,20,470
(13)	Robri	---	7,87,100
(14)	Shahdad Kot	...	5,65,063
(15)	Kambar	---	3,80,024
(16)	Larkana	..	12,32,041
(17)	Khairpur	---	13,03,306
(18)	Shikarpur	...	8,04,122
(19)	Jaranwala	..	10,61,816
(20)	Tandlianwala	..	5,62,147
(21)	Toba Tek Singh	...	8,64,642
(22)	Gojra	..	11,77,491
(23)	Kamalia	...	5,31,655
(24)	Khushab	...	3,80,286
(25)	Bhera	..	2,04,972
(26)	Mianwali	...	9,04,972
(27)	Jhang	..	11,97,797
(28)	Chiniot	...	7,74,960
(29)	Bahawalpur	...	18,51,200
(30)	Ahmadpur East	..	6,06,425
(31)	Khanpur	...	11,21,300

(32)	Rahimyar Khan	...	14,49,400
(33)	Sadiqabad	—	6,32,000
(34)	Chishtian	...	8,96,100
(35)	Bahawalnagar	...	12,48,719
(36)	Haroonabad	...	8,86,646
(37)	Kasur	...	13,64,600
(38)	Pattoki	...	5,26,125
(39)	Kamoke	...	5,87,500
(40)	Wazirabad	...	5,95,018
(41)	Hafizabad	...	9,49,015
(42)	Sheikhupura	...	8,60,261
(43)	Nankana Sahib	..	3,62,634
(44)	Daska	...	4,07,113
(45)	Narowal	...	3,63,702
(46)	Landi Korangi	...	12,55,000
(47)	Abbottabad	...	4,68,560
(48)	Charsadda	...	4,41,055
(49)	Nowshera	...	3,23,700
(50)	Kohat	...	7,07,506
(51)	Swabi	...	2,05,220
(52)	Mardan	...	9,39,976
(53)	Mirpur Khas	...	20,90,200
(54)	Dadu	—	4,01,600
(55)	Thatta	...	3,08,720

(56)	Shahdadpur	...	8,90,100
(57)	Kotri	...	3,08,331
(58)	Tando Mohammad Khan	...	7,32,500
(59)	Tando Allah Yar	...	8,52,824,443
(60)	Tando Adam	...	13,46,900
(61)	D. G. Khan	...	11,60,140
(62)	Muzaffargarh	...	2,95,825
(63)	Leiah	...	7,08,825
(64)	Sahiwal	...	24,17,000
(65)	Okara	...	20,91,512
(66)	Chichawatni	...	12,67,955
(67)	Pakpattan	...	7,68,064
(68)	Arifwala	...	8,30,999
(69)	Khanewal	...	9,45,932
(70)	Mian Channu	..	9,76,298
(71)	Burewala	..	19,98,060
(72)	Vehari	...	9,67,966
(73)	Karur Pacca	...	3,22,269
(74)	Shujabad	...	3,85,123

چودھری محمد ادیس - جناب والا - وزیر متعلقہ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سوال نامہ کے صفحہ ۱۱ کو ملاحظہ فرمائیں - وہاں item نمبر ۵۹ پر جو figures دی گئی ہیں وہ غلط پرنٹ ہو گئی ہیں -

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - یہ واقعی غلط ہے -

مسٹر حمزہ - تو پھر صحیح بتا دیں -

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - وہ ہے ۸۵۲۸۲۷ -

درمیان میں ایک لکیر کے نہ ہونے سے کتنا فرق پڑ گیا ہے -

مسٹر حمزہ - لیکن قاضی صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں یہاں کوئی فرق

نہیں ہے -

Mr. Speaker : Next question.

ALLOCATION OF FUNDS TO UNION COMMITTEES

*10066. Chaudhri Muhammad Idrees : Will the Minister of Basic Democracies and Local Government be pleased to state (i) the amount allocated by each second class Municipality to Union Committees and (ii) the amount spent on construction work during 1966-67 ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) :

Name of 2nd Class Municipal Committees	(i) The amount allocated by each 2nd Class M.C. to Union Committees	(ii) The amount spent on construction work during 1966-67
--	---	---

	Rs.	Rs.
1 Gujar Khan.	80,000.00	1,07,355.00
2 Chakwal.	8,000.00	51,201.00
3 Jhelum.	Nil	2,59,145.00
4 Campbellpur.	52,488.00	26,772.00

5	Mandi Bahauddin.	12,250.00	Nil
6	Lalamusa.	Nil	71,572.00
7	Jalalpur Jattan.	Nil	56,930.00
8	Gujrat.	Nil	3,61,722.00
9	Bannu.	1,200.00	31,460.00
10	D.I. Khan.	3,000.00	576.00
11	Nawab Shab.	28,000.00	6,09,273.00
12	Khairpur.	30,000.00	2,02,566.00
13	Rohri.	18,000.00	44,550.00
14	Shikarpur.	48,000.00	1,34, 00.00
15	Larkana.	6 42,000.00	2,66,151.00
16	Kambar.	15,000.00	1,65,265.00
17	Shahdadkot.	12,000.00	1,96,999.00
18	Jaranwala.	1,69,000.00	1,10,214.00
19	Tandlianwala.	12,000.00	3,458.50
20	Jacobabad.	49,000.00	4,42,226.00
21	Toba Tek Singh.	Nil	3,35,700 77
22	Gojra.	Nil	89,969.00
23	Kamalia.	64,000.00	57,186.00
24	Khushab.	Nil	44,043.00
25	Bhera.	17,700.00	10,333.00
26	Mianwali.	Nil	43,596.00
27	Jhang.	Nil	Nil
28	Chiniot.	Nil	Nil

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

1005

29	Bahawalpur.	38,000.00	35,235.00
30	Ahmedpur East.	36,000.00	29,004.00
31	Khanpur.	12,500.00	6,05,412.00
32	Rahimyar Khan.	24,500.00	3,07,1920.00
33	Sadiqabad.	29,093.00	4,015.00
34	Chistian.	Nil	1,99,532.00
35	Bahawalnagar.	Nil	50,000.00
36	Haroonabad.	Nil	1,64,712.00
37	Kasur.	32,000.00	9,218.00
38	Pattoki.	15,000.00	Nil
39	Kamoke.	12,000.00	85,500.00
40	Wazirabad.	1,59,969.00	47,239.00
41	Hafizabad.	Nil	Nil
42	Sheikhupura.	46,000.00	1,59,727.00
43	Nankana Sahib.	14,600.00	10,380.00
44	Daska.	15,000.00	74,000.00
45	Narowal.	Nil	32,000.00
46	Landhi Korangi.	1,06,520.00	13,536.00
47	Abbottabad.	30,000.00	20,107.00
48	Mardan.	37,193.00	2,56,323.00
49	Kohat.	Nil	1,08,270.00
50	Nowshera.	2,80,000.00	1,61,449.00
51	Charsadda.	Nil	40,187.00
52	Swabi Maneri.	1,000.00	90,841.00

53	Mirpur Khas.	38,500.00	36,705.00
54	Dadu.	10,000.00	78,802.00
55	Thatta.	2,000.00	5,200.00
56	Shahdadpur.	17,600.00	1,75,197.00
57	Kotri.	7,060.00	47,404.00
58	Tando Muhammad Khan.	8,000.00	1,67,096.00
59	Tando Allah Yar.	10,000.00	1,55,911.00
60	Tando Adam.	43,000.00	4,62,008.00
61	D.G. Khan.	1,40,000.00	1,22,543.00
62	Muzaffargarh	Nil	42,432.00
63	Leiah.	6,00.00	1,12,366.00
64	Sahiwal.	13,000.00	Nil
65	Okara.	45,000.00	3,701.007
66	Pakpattan.	10,000.00	56,551.00
67	Chichawatni.	20,000.00	17,168.00
68	Arifwala.	12,000.00	1,64,800.000
69	Khanewal.	Nil	Nil
70	Mian Channu.	17,600.00	13,615.00
71	Burewala.	17,800.00	Nil
72	Vehari	25,500.00	Nil
73	Karur Pakka.	Nil	Nil
74	Shujabad.	6,000.60	Nil

چودھری محمد سرور خان - جواب میں جن یونین کمیٹیوں کے نام

دہئے گئے ہیں ان میں ایسی بھی ہیں جن کے آگے Nil لکھا گیا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ فنڈز کا دینا ضابطہ کار ہے یا نہ دینا ضابطہ کار ہے۔ اگر یہ آپ کے ضابطہ کار کے خلاف ہے تو آپ نے کیا ایکشن لیا ہے۔

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ۔ یہ میونسپل کارپوریشن پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کہ وہ یونین کمیٹی کو جتنا دینا چاہے دے۔ آپ کا اعتراض وزنی ہے اور اسی لئے ہم نے ۱۹ نکاتی پروگرام جاری کیا ہے۔ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر میونسپل کمیٹی کی octroi کی آمدنی کا دس فیصد یونین کمیٹیوں کو دینا پڑے گا۔ ان نکات پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اور اب آئندہ بجٹ میں اس کا پورا خیال رکھا جائے گا اور Nil والوں کی شکایت دور ہو جائے گی۔

چودھری محمد ادریس۔ اسی سوال نامہ کے صفحہ ۱۳ پر نمبر ۲۷ اور ۲۸ ملاحظہ فرمائیں۔ ان دونوں میونسپل کمیٹیوں نے نہ تو ڈویلپمنٹ ہو کڑی پیسہ خرچ کیا ہے اور نہ ہی کسی یونین کونسل کو کچھ دیا ہے۔ کیا آپ متعلقہ حکام کے نام احکام جاری کریں گے کہ ان کی ضروریات کے مطابق رقم دیں۔

مسٹر سپیکر۔ آپ ان میونسپل کمیٹیوں کے نام بھی بتا دیں۔

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ۔ جناب مجھے معلوم ہیں۔ وہ جھنگ اور چنیوٹ ہیں۔

CONSTRUCTION OF A METALLED ROAD FROM JASSAR UNION
COUNCIL OFFICE TO JASSAR RAILWAY STATION

*10079. Chaudhri Muhammad Sarwar Khan: Will the Minister of Basic Democracies and Local Government please refer to answer to

starred question No. 497, given on the floor of the House on 6th July, 1965, and state :—

(a) whether it is a fact that a Project was prepared by Government for the construction of a metalled road from Jassar Union Council Office to the Jassar Railway Station in February, 1965 ;

(b) whether it is a fact that detailed estimates were prepared by the Project Engineer, Sialkot in May, 1965, for the construction of the said link road ;

(c) if answer to (a) and (b) above be in the affirmative, reasons for not constructing the said road so far alongwith the date by which it is likely to be completed ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

جناب والا - اس سلسلہ میں میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے فاضل دوست اپنے علاقہ کی صحیح طور پر نمائندگی کرتے ہوئے اس بات کو مناسب اوقات میں پیش کرتے رہے ہیں - میں نے جب یہ سوال دیکھا تو اسے ضروری خیال کیا تھا کہ ڈسٹرکٹ کونسل متعلقہ کو ہدایات جاری کی جائیں تاکہ مختلف سکیموں پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے -

Chaudhri Muhammad Sarwar Khan : Thank you, Sir.

MAKING LOCAL BODIES SERVICE AS PENSIONABLE

*10093. **Mr. Hamza :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the service rendered in Local Bodies in India by displaced persons appointed in Local Bodies in Pakistan was counted towards their service for all purposes ;

(b) whether it is a fact that the Local Bodies Service was non-pensionable before Independence ;

(c) whether it is a fact that Local Bodies Service has now been made pensionable by various Local Bodies in the Province and Government pension rules have been made applicable ;

(d) whether it is a fact that in case of displaced Government servants the period of service rendered by them in undivided India is counted towards pension ;

(e) whether it is a fact that the period of service rendered in the Local Bodies in India by displaced employees of the Local Bodies in Sargodha Division is not being counted towards pension ;

(f) whether it is a fact that the period of service rendered in the Local Bodies in India by Local Bodies displaced employees in Lahore Division is being counted towards pension ;

(g) if answer to (e) and (f) above be in the affirmative, reasons for not allowing the same concession to employees of Local Bodies in Sargodha Division as is available to the employees of the same category in Lahore Division ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes. The Local Bodies Employees whose previous services in India had already been verified by the competent authority had been counted towards their services for all purposes, but for the remaining employees a uniform policy is under the active consideration of Government and as soon as the same is finalized they will get the due benefits.

(b) Yes ;

(c) Yes ;

(d) Yes ;

(e) Yes ; only in those cases whose services have not yet been verified by the Competent Authority ;

(f) Yes ; only in those cases where the services have been verified by the Competent Authority ;

(g) In view of (e) & (f) above does not arise.

مسٹر حمزہ - جناب سپیکر - جواب تو مل گیا ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ وزیر صاحب خاص طور پر اس میں دلچسپی لیں - میں ذاتی طور پر اس معاملہ کی پیروی کرتا رہا ہوں - میری کوششوں کے باوجود آپ کے محکمہ نے ان ملازمین کے لئے جو مشرقی پنجاب کے لوکل باڈیز سے متعلق ہیں کوئی واضح پالیسی نہیں بنائی - اس وقت سینکڑوں افراد انتہائی مشکلات میں گرفتار ہیں -

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - میں اس میں ذاتی دلچسپی لوں گا - میرے محکمہ نے تفصیلات تیار کی ہیں اور سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کو بھیج دی ہیں - وہاں سے جب اطلاع موصول ہوگی - تو ہم اس کا انتظام کریں گے -

ELECTION OF VICE-CHAIRMAN OF MUNICIPAL COMMITTEE,
LYALLPUR.

*10095. Mr. Hamza : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the date on which previous Vice-Chairman of Municipal Corporation, Lyallpur tendered his resignation ;

(b) the date on which new Vice-Chairman was elected by the said Municipal Committee alongwith the reasons of the inordinate delay, if any, in election of the said Vice-Chairman ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) The previous Vice-Chairman, Sh. Maqsood Elahi of Municipal Committee, Lyallpur, resigned on 5th May 1966.

(b) The election is yet to be held.

مسٹر حمزہ - میں نے یہ دریافت کیا تھا کہ آپ بنیادی جمہوریت کے وزیر ہیں اور اس کے بڑے مداح ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے الیکشن کیوں نہیں کرائے۔ کیا سرکاری پارٹی میں کوئی اختلاف تھا یا کیا کوئی مصیبت تو نہیں آن پڑی تھی؟

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - وہاں کا جو وائس چیئرمین تھا اس نے استعفیٰ دینے دیا تھا۔ بعد میں اس نے درخواست دی کہ میں استعفیٰ واپس لیتا ہوں۔ اس مسئلہ کو examine کیا گیا ہے اور اب بہت جلد انتخاب کرایا جائے گا۔

مسٹر حمزہ - یہ جو اتنی دیر کی گئی ہے اس کی کوئی غرض و غایت تھی۔

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - مختلف لوگوں سے رائے اپنی تھی۔

خواجہ محمد صفدر - اس دیر کے لئے کیا وزیر صاحب مطمئن ہیں۔

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - یہ ٹھیک ہے کہ چناؤ پہلے ہونا چاہئے تھا۔ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد چناؤ ہو جائے۔

قاضی محمد اعظم عباسی - کیا وائس چیئرمین اپنا استعفیٰ واپس لے سکتا ہے۔

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - قانونی طور پر وہ واپس نہیں لے سکتا۔

مسٹر حمزہ - جناب وزیر بلدیات نے جس تکلیف کا ذکر کیا ہے وہ تو رفع ہو چکی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ میونسپل کمیٹی کے وائس چیئرمین کے الیکشن کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ اگر تاریخ مقرر ہو گئی تھی تو اس کے بعد کون سی مشکل درپیش آئی۔ کہ اسے پھر بغیر تاریخ مقرر کئے ملتوی کر دیا گیا؟

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - محکمہ کو شکایات موصول ہوئی ہیں۔ اس لئے انتخاب کو روک دیا گیا۔

خان محمد انور علی خان بلوچ - جناب سپیکر - مسٹر حمزہ نے جو سوال پیش کیا ہے اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اس وقت دھاندلی ہوئی تھی۔

خواجہ محمد صفدر - آپ حکومت کو یہ کیسا سرٹیفیکیٹ دے رہے ہیں۔ کیا آپ ان لوگوں کا نام لے سکتے ہیں؟

خان محمد انور علی خان بلوچ - وہ سہگل برادرز ہیں۔

ملک محمد اختر - پوائنٹ آف آرڈر - میں بلوچ صاحب کی رہنمائی کے لئے عرض کروں گا کہ ان کا نام Invisible Government ہے۔

مسٹر سپیکر - یہ کوئی پوائنٹ آف آرڈر نہیں۔

بلوچ صاحب آپ کا ضمنی سوال کیا ہے؟

مسٹر حمزہ - وہ ان کا بھانڈہ پھوڑنا چاہتے ہیں۔

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - میں نے عرض کر دیا ہے کہ کچھ شکایات موصول ہوئی تھیں چنانچہ انتخابات کو ملتوی کرنا پڑا۔

مسٹر حمزہ - وہ شکایات کیا تھیں -

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - وہ چند شکایات تھیں -

خواجہ محمد صفدر - آپ ساری شکایات بتا دیں - جن کی وجہ سے انتخاب کو روکنا پڑا -

مسٹر سپیکر - ان شکایات کی nature کیا تھی ؟

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - جناب والا - کچھ ممبران کی طرف سے شکایات موصول ہوئی تھیں - اس سیٹ کے لئے چار پالچ امیدوار تھے - اور ان کے لئے canvassing کی جا رہی تھی -

خواجہ محمد صفدر - کھل کر بات کریں - یہ کیا بات ہوئی کہ آدمی بات آپ منہ میں رکھتے ہیں اور آدمی پیٹ میں -

Mr. Speaker : Let him complete the answer.

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - اس انتخاب کو روکنے کے لئے دوبارہ انتخاب کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا - لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اب بہت جلد انتخاب کرایا جائے گا -

خواجہ محمد صفدر - کیا سابقہ موقع پر جو تاریخ مقرر کی گئی تھی اس سے پیشتر بھی کوئی تاریخ مقرر ہوئی تھی ؟

ملک محمد اسلم خان - کیا اس re-election میں تاخیر کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جناب وزیر موصوف یہ محسوس کرتے ہیں کہ چونکہ وائس چیئرمین کی وہاں پر کوئی پاورز نہیں ہیں اس لئے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے ؟ (تہقہہ)

خان محمد انور علی خان بلوچ - جناب سپیکر - اگر وہاں کوئی دھاندلی ہوئی ہے تو میں جناب وزیر موصوف سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے دھاندلی کی ہے کوئی کارروائی کی جائے گی ؟

مسٹر سپیکر - بلوچ صاحب آپ کا سوال کسی مفروضہ پر مبنی ہے ؟

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - جی ہاں -

خان محمد انور علی خان بلوچ - جناب سپیکر - جناب خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں وہاں الیکشن نہیں ہوا میں کہتا ہوں کہ الیکشن ہوا -

مسٹر حمزہ - جناب سپیکر - جناب خواجہ صاحب کے سرٹیفیکیٹ کے پیش نظر کیا میں جناب وزیر بلدیات سے دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ کے اس ملک میں کوئی الیکشن بغیر دھاندلی کے بھی ہوا ہے ؟

Mr. Speaker : Disallowed. Next question now. (interruptions).
Please put next question now.

AMOUNT OF DIVISIONAL PUBLIC SCHOOL, LYALLPUR

*10096. Mr. Hamza : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state the amount allocated by the District Council, Lyallpur, for Divisional Public School, Lyallpur, during the year 1967-68 alongwith the reasons for allocating the said amount ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : Rs. 2,00,000 (Rupees two lacs) have been paid by the District Council, Lyallpur, to the Divisional Public School, Lyallpur, during the year 1967-68. The School is situated

in Lyallpur District and probably the District Council, Lyallpur, considered it appropriate to give the amount mentioned above because Lyallpur District is the main beneficiary. A detailed report asking for the full justification to the payment of grant is, however, being called for from the District Council.

Any how, a directive is being issued to all Local Bodies to obtain prior permission of Government before giving grants to Public Schools. Instructions are also being issued to the effect that contributions from Local Bodies should be discouraged and that more emphasis should be laid on contributions from Philanthropists and Industrialists for which great scope exists in Lyallpur District.

مسٹر حمزہ - جناب سپیکر - جناب وزیر بلدیات و بنیادی جمہوریت و لوکل باڈیز نے جواب دیتے ہوئے اغلباً (probably) کا لفظ استعمال کیا ہے میں نے ان سے آج سے ۶ - ماہ قبل یہ سوال کیا تھا اور یہ سوال لائل پور سے بھی متعلق ہے جہاں وہ اکثر دورے پر جایا کرتے ہیں تو کیا وہ یقین کے ساتھ یا وثوق کے ساتھ کوئی اطلاع دے سکتے ہیں اور اگر نہیں تو کیوں ؟

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - جناب وثوق کے ساتھ یہ اطلاع دی ہے چکی ہے کہ یہ لائل پور ڈسٹرکٹ میں ہے اور ڈسٹرکٹ کونسل لائل پور نے ۲ - لاکھ روپیہ دیا ہے - probably کا لفظ میں نے آپ کی خوشنودی کے لئے استعمال کیا تھا -

مسٹر حمزہ - کیا جناب وزیر بلدیات کو یہ یاد ہے کہ پچھلی بار بھی جب میں نے اس کے متعلق سوال کیا تھا تو اس ایوان میں انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں اس ڈسٹرکٹ کونسل کو ہدایت جاری کروں گا کہ وہ پبلک کی رقم اس قسم کے اداروں کو نہ دے اب آپ کی

اس یقین دہانی کے باوجود اور آپ کے اس بیان کے باوجود اس ڈسٹرکٹ کونسل نے یہ اقدامات کئے ہیں تو آپ نے ان اقدامات کے کرنے پر ان کے خلاف کیا کارروائی کی ؟

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - جناب میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو بالکل روک دیا جائے گا - بلکہ میں نے ان کی حوصلہ شکنی کے بارے میں کہا تھا - پچھلے سال انہوں نے ۳ - لاکھ روپے دئے تھے اس دفعہ ۴ - لاکھ دئے ہیں پھر بھی میں اس بات کو examine کر رہا ہوں - بات یہ ہے کہ جب ایک کام شروع کر لیا جائے اور جب ایک عمارت پر ۱۰ - یا ۱۵ - لاکھ روپیہ خرچ کر لیا جاتا ہے تو پھر ایک لاکھ کے لئے سارا سرمایہ ضائع کر دینا مناسب نہیں سمجھا جاتا لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ لوکل باڈیز کے اخراجات کم ہو جائیں -

مسٹر حمزہ - کیا وزیر بنیادی جمہوریت یہ بتائیں گے کہ جب یہ ادارہ جاری کیا گیا تھا تو جہاں تک مجھے علم ہے اس پر ۵۰ لاکھ سے زیادہ اخراجات آنے والے تھے اس وقت آپ کو اس امر کا احساس نہ ہوا کہ ڈسٹرکٹ کونسل کے مالی وسائل کیا ہیں اور آپ کو کیا یہ بھی احساس نہیں تھا کہ وہاں کی آبادی لوکل ریٹ ادا کرتی ہے اور ان میں زیادہ تر دیہات کے رہنے والے ہیں جن کے بچے تعلیم پاتے ہیں اور ڈسٹرکٹ کونسل کے سکول میں بچوں کو سر چھانے کے لئے کمرہ بھی میسر نہیں آتا - کیا آپ کے لئے ہر وقت ہدایت جاری کرنا ضروری نہیں تھا کہ اس قسم کے ادارے نہ بنائے جائیں اور اگر بنانا ہیں تو ان لوگوں کی ہمت اور مالی وسائل سے بنائے جائیں جن کے بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ؟

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - جب میرے نوٹس میں یہ

چیز لائی گئی تو میں نے اوکل اداروں کو پبلک سکول کھولنے کے سلسلے میں اسی قسم کا directive جاری کر دیا ہے۔

ESTABLISHMENT OF VEGETABLE MARKET IN LAHORE

*10165. **Sardar Manzur Ahmad Khan Qaisrani** : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Vegetable Market has not been established in Lahore as required under the West Pakistan Vegetable Market (Lahore) Ordinance, 1963 ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative. reasons therefor ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) An area approximately 89 kanals situated in Mauza Bela Basti Ram was acquired for the purpose of establishment of a Vegetable Market and the following works have been completed :—

(1) Construction of a bridge on Chhota Ravi and the Link Road in order to provide suitable access to the Vegetable Market and other affected schemes.

(2) Roads in the scheme.

The following works are in progress and are expected to be completed by 30th June, 1968 :—

(1) Water-Supply.

(2) Sewerage.

(3) Drainage.

As soon as the works are completed arrangements will be made for the shifting of the existing Market to the new site.

**NOMINATION OF OFFICIAL MEMBERS ON LAHORE AND KARACHI
MUNICIPAL CORPORATION**

***10202. Kazi Muhammad Azam Abbasi :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the number of official members nominated by Government (i) on the Lahore and Karachi Municipal Corporation and (ii) on the Municipal Committees of Hyderabad, Multan, Lyallpur and Peshawar separately ;

(b) the number of the said nominated official members who attended the meetings of the said Corporation and Committees since June, 1965 upto September, 1967 separately ;

(c) the number of meetings of the said Municipal Committees and Municipal Corporation which had to be adjourned for want of quorum during the said period ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Lahore

... 7 (June 1965 to January, 1966)

*13 (January 1966 to September 1967).

*The Regional Director, Radio Pakistan has not taken on so far.

(ii) Karachi Municipal Corporation. (1) 7 (June 1965 to January 1966).

(2) 24 (March 1966 to September 1967).

(iii) Hyderabad ... 16

(iv) Multan (1) 9 (June 1965 to January 1966).

(2) 13 (March 1966 to September, 1967.)

(v) Lyallpur ... (1) 6 (June 1965 to February 1966).

(2) 15 (March 1966 to September, 1967).

(vi) Peshawar ... 5

(b) List attached may kindly be seen.*

(c) (i) Lahore ... 6

(ii) Karachi ... (1) 20 (June 1965 to January 1966).

(2) 46 (March 1966 to September, 1967).

(iii) Hyderabad ... 18

(iv) Multan ... 1

(v) Lyallpur ... 3

(vi) Peshawar ... Nil

Kazi Muhammad Azam Abbasi : Sir, the reply given to this question shows that the nominated official Members generally do not attend Committee meetings of the Municipal Committees. So much so, that in Karachi from March to September 1967, out of 50 meetings held 46 meetings were adjourned for want of quorum. In Hyderabad, 18 meetings were adjourned out of 36 on the same ground. Sir, may I ask the Minister whether any such action against these nominated official Members has been taken or not ?

Minister for Basic Democracies : Sir, a directive has been issued by the Government that those officials who are nominated to different tiers of Basic Democracies but fail to attend the meetings without any reasonable cause, should be reported and action will be taken against them. In some cases, action has already been taken as the Government has taken it very seriously. A personal letter, in this connection, has already been issued to the Governor to the Commissioners that they should see that all the nominated Members attend the meetings and if somebody does not attend, a serious view should be taken.

Kazi Muhammad Azam Abbasi : Sir, in Lahore, the Municipal Corporation nominated Members is 13 and in Hyderabad, this number is 16, why this difference ?

Minister for Basic Democracies : Sir, basically we leave it to the local controlling body to recommend the person whose nomination is necessary to a Government body. Then we nominate a person. We are particular about the legal provisions which make it incumbent that the number of the official Members should not be more than half of the number of elected Members.

Kazi Muhammad Azam Abbasi : The Regional Director, Radio Pakistan is a nominated official Member of Lahore Municipal Corporation but he has not taken the oath of his office so far. Why is it so ?

Minister for Basic Democracies & Local Government : Sir, the position is that when a Member is transferred out, a new Member in his place is nominated. The present Regional Director has been informed by the Corporation to come and take oath of office.

ALLOWING NEW PAY SCALES TO STAFF OF TOWN COMMITTEE,
JALALPUR PIRWALA

***10213. Diwan Syed Ghulam Abbas Bokhari :** Will the Minister of Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Octroi clerks in the Town Committee Jalalpur Pirwala have been allowed consolidated scales of pay with retrospective effect from 1st December 1962 while the other staff in the said town committee is still deprived of the new consolidated pay scales ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, whether Government intend to allow the new consolidated pay scales to the said staff with effect from 1st December 1962 ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo): (a) The Octroi Clerks and other staff of Town Committee, Jalalpur Pirwala, having qualifications prescribed for their posts were allowed consolidated scales of pay with effect from 1st December 1962.

(a) In view of (b) above, the question to allow consolidated scale to the other staff with effect from 1st December 1962 does not arise.

METALLING OF JALALPUR PIRWALA SHUJABAD ROAD

***10214. Dewan Syed Ghulam Abbas Bokhari:** Will the Minister of Basic Democracies and Local Government be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that the length of Jalalpur Pirwala Shujabad Road is 27 miles, out of which 15 miles have been metalled;

(b) whether it is a fact that the metalling of remaining two portions of the said road from Shujabad side from 16th mile to 18th mile and from 19th mile to 21st mile was entrusted to two different Contractors two years ago;

(c) whether it is a fact that the said two portions of the said road have not so far been metalled with the result that driving of buses on unmetalled and under construction stretch of the said road is very troublesome;

(d) if answer to (a) to (c) above be in the affirmative, the time limit stipulated in the contracts for the metalling of the said portions, reasons for the failure of the Contractors to metal them within the time limit and whether Government intend to take immediate steps for the metalling of the said portions?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo): (a) Yes.

(b) Yes, except that the metalling of the later portion was entrusted to a Contractor only last year;

(c) Yes ; but this is not causing any difficulty to the buses because soling has already been completed on the portions in question ;

(d) The time stipulated for the first portion by the P.W.D. was August, 1967 and that for the second portion was November, 1967. In the case of the first portion the delay was due to the shortage of bitumen labour and non-availability of Bricks and in the case of the second portion it was due to the frequent break down of the road roller. Both the Contractors have been warned. Material has since reached the site of the work, and these portions of the road are expected to be completed by June of this year.

**RESERVATION OF LAND BY K.D.A. IN THE SITE, LANDHI AND
KORANGI INDUSTRIAL ESTATES FOR CONSTRUCTION OF
LABOUR QUARTERS**

***10232. Begum Ashraf Burney :** Will the Minister of Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that K.D.A. has reserved land in Site, Landhi Korangi Industrial Estates for construction of labour quarters; if so, total area so reserved in each Industrial Estate, separately ;

(b) whether any of the area so reserved has been allotted to any Industrialist upto 30th June 1967 for construction of (i) Labour quarters and (ii) factory buildings ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) The K.D.A. has reserved land in Scheme No. 4 (Landhi) for construction of labour quarters in an area of 471.80 acres. As regards Korangi, according to plan there is no area reserved for construction of labour quarters, however, 19799 quarters for low-income group have been constructed near Industrial Zone which is supposed to provide labour force for the industrialist, SITE is not K.D.A. Scheme as such the question of reserving any land by K.D.A. does not arise.

(b) (i) Following plots in Scheme No. 4 (Landhi) have been allotted to the Industrialists noted against each upto 30th June, 1967 for labour housing :—

Serial No.	Plot No.	Area	Name of the allottee
		Acres	
1	F 1, 3 and F.A.	40	Messrs Adam Industries Limited.
2	F 5, and F6.	20	Messrs Steel Corporation, Limited.
3	F. 7 and F. 8.	20	Messrs Hussain Industries Limited.
4	F. 9 and F. 10.	20	Messrs Gul Ahmed Textile Mills Limited.
5	F. 12.	10	Messrs Firdous Textile Mills, Limited.
6	F. 22.	12	Messrs General Tyre and Rubber Co. of Pakistan Limited.
7	F. 23.	10	Messrs Nagera Textile Mills Limited.
8	F. 24.	10	Messrs Karachi Road Transport Corporation.
9	F. 29-A.	5	Messrs Prince Glass Works, Limited.
10	F. 29-B.	5	Messrs General Refractorise (WPIDC), Limited.
11	F. 17—F. 41 and	34	Messrs Pakistan Tools Factory (WPIDC) Limited.
12	F. 42.	40	Reserved for Messrs Dawood Cotton Mills Limited.
	Total ...	226	

(ii) Information pertaining to allotment of land made for construction of factory buildings in the following areas are as Annexure 'A' and placed on the table of the House.*

However no land basically reserved for the construction of labour quarters has been allotted for industrial purposes.

(1) Scheme No. 4, Landhi Industrial Area.

(2) Landhi Township Industrial Area.

(3) Korangi Township Industrial Area.

بیگم اشرف بولی - میں جناب وزیر موصوف سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ جو پلائس آپ نے Appendix میں دکھائے ہیں یعنی وہ جو صنعت کاروں کو SITE اور لانڈھی میں دیتے گئے ہیں کیا ان میں سے کسی نے لیبر کوارٹرز تعمیر کرنے شروع کئے یا نہیں - وقت قلیل ہے زیادہ نہیں ہوجھوں گی لیکن صرف یہ پوچھنا باقی ہے کہ کیا آپ کے پاس میعاد مقرر ہے کہ جو انڈسٹریز پہلے سے کام کر رہی ہیں وہ اپنے مزدوروں کے لئے اس میعاد میں یعنی ایک مدت کے اندر الاٹ شدہ پلاٹ پر لیبر کوارٹرز کی تعمیر شروع کریں -

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - جہاں تک جناب والا - میری اطلاع کا تعلق ہے ابھی وہاں کسی نے کوارٹرز بنانے شروع نہیں کئے - اس سلسلہ میں ہم مناسب کوشش کریں گے لیکن چونکہ فاضل ممبر کے علم میں ہے کہ جب بھی کے ڈی اے کسی کو پلاٹ الاٹ کرتی ہے تو ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں انہوں نے تعمیر کرنا ہوتا ہے اگر وہ ان شرائط کی جن پر کہ پلائس دیتے گئے ہیں خلاف ورزی کریں گے تو ان کے خلاف مناسب قانونی اقدام کیا جائے گا -

یہ کم اشرف برنی - کیا میں گزارش کر سکتی ہوں کہ جو انڈسٹریز کام کر رہی ہیں ان کو ہدایت کی جائے کہ اگر ان کو پلانس الاٹ ہو چکے ہیں تو ایک سال کے اندر ان پر تعمیر شروع کر دیں اور دو تین سالوں کے اندر کم از کم ۲۵ فیصد کوارٹرز لیبر کے لئے مہیا کریں ۔

Mr. Speaker : This is a suggestion.

SURPLUS FUND DEPOSITED BY KARACHI MUNICIPAL CORPORATION
WITH HABIB BANK LIMITED

*10241. Begum Ashraf Burney : Will the Minister of Basic Democracies and Local Government please refer to answer to starred question No. 8047, given on the floor of the House, on 29th September 1967 and state :—

(a) the date on which surplus funds of about Rs. 2 crore was deposited by the Karachi Municipal Corporation during 1966-67 with the Habib Bank Ltd., at 2½ per cent interest per annum and whether the same was a fixed term deposit or a short notice call deposit :

(b) reasons for depositing the surplus funds of the corporation at such a low rate of interest ;

(c) whether it is a fact that the normal rate of deposit for fixed term is much higher and even the rate of interest of Savings Bank Accounts is 3½ per cent ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Rupees 2 crore were not deposited by K.M.C with Habib Bank, Limited. On any particular date during 1966-67. Standing instructions given to Habib Bank are that the amount exceeding a certain limit should be treated as a call deposit. In this way the Corporation earns some interest and at the very same time it has cash liquidity to pay short notice huge liabilities.

(b) All the fund is not placed as a call deposit. Keeping in view the cash requirement of K.M.C. a judicious investment is made in various forms so that cash is available as and when the payments becomes due. A certain sum has to be placed under short notice call deposit because huge payments are required to be made to various. e.g., K.D.A.—Rs. 75 lacs in the beginning of the year and Rs. 35 lacs every quarter. If for such payment premature withdrawals were to be made from fixed deposit no interest is paid for the entire period. Thus the Corporation would lose heavily. To meet such short notice demand the choice is either to keep funds in current account or in short notice account. It may not be out of place to add that on short notice call deposit all the banks give the same rate of interest.

(c) It is true that the rate of interest on fixed deposit and saving bank account is higher than the rate of interest admissible on call deposit. But KMC cannot making use of saving bank account for limitation by placed inter-Bank agreement and the State Bank of Pakistan. Maximum amount which can be subscribed to a saving A C is Rs. 50,000 and he withdrawals are restricted to Rs. 6000 a week and that twice a week only.

بیگم اشرف پرنی - جناب والا - میں جناب وزیر موصوف سے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ جو روپیہ رکھنے ہیں اس سلسلے میں آپ کراچی میونسپل کارپوریشن کو کیوں ہدایت نہیں کرتے کہ وہ اس بینک میں رقم رکھیں جو گورنمنٹ بزنس transact کرتا ہو یعنی نیشنل بینک آف پاکستان میں تاکہ گورنمنٹ کو اس سے فائدہ پہنچے -

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - جناب والا - اس کے لئے وجہ یہ ہے کہ ۱۹۶۰ء میں جب بی ڈی آرڈر جاری کیا گیا اس سے پہلے کراچی کا ایک علیحدہ ایکٹ تھا جس کے تحت تقریباً ۱۹۵۷ء میں شاید بلکہ اس سے

بھی پہلے حبیب بینک کی شاخ میونسپل کارپوریشن کے دفتر میں کھل چکی تھی اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ کام کرنے کا ہو چکا تھا جب B.D.A. اور promulgate M.A.O. کئے گئے تو کارپوریشن نے حکومت کو لکھا چونکہ یہ انتظام ٹھیک چل رہا ہے اس سلسلے کو جاری رکھنے کی اجازت دی جائے تو گورنمنٹ نے اس سلسلے میں اجازت دے دی تھی۔

بیگم اشرف بونی - جیسا کہ منسٹر موصوف نے فرمایا ہے Basic Democracy Order کے سیکشن ۳۲ کے جس کے تحت یہ کام ہو رہا

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - اس سلسلے میں آپ کا آگے

سوال ہے۔

Begum Ashraf Burney : This is not appropriate with that question.

CUSTODY OR INVESTMENT OF FUNDS OF LOCAL BODIES IN GOVERNMENT TREASURY OR A BANK TRANSACTING GOVERNMENT TREASURY BUSINESS

*10244. Begum Ashraf Burney : Will the Minister of Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that specific provision exists in respect of custody or investment of funds of local Bodies in a Government Treasury or a Bank transacting Government Treasury business or in such other manner as may be specified by the Government from time to time ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, whether it is a fact that funds of the Lahore Municipal Corporation and the Karachi Municipal Corporation have been deposited in certain Banks which are not transacting the business of Government Treasury ; if so, reasons therefor ;

(c) whether Government intend to ensure that in future the specific instructions of the Government in this behalf are fully followed and that there is no departure therefrom to any extent ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes. According to Section 32 of the Municipal Administration Ordinance read with A 49 of the Basic Democracies Order, 1959 :—

(i) the current funds of a Municipal Committee are to be kept in a Government Treasury, or in a bank transacting the business of a Government Treasury, or in such other manner as may be specified by the Government from time to time ;

(ii) the surplus funds of Lahore Municipal Corporation are deposited with the National Bank of Pakistan and the surplus funds are with the Habib Banks.

In the case of K.M.C. current account is kept with the Habib Bank. This was done prior to the enforcement of the Municipal Administration Ordinance. The detailed rules are being framed by the Government on the question of Local Bodies deposit. The Corporations/Controlling Authorities will be asked to conform to the rules as issued. In the meantime, the Commissioner, Lahore and L.M.C. have already been asked to have their investment policy devised carefully. The Commissioner, Karachi/K.M.C. have also been asked similarly.

بیگم اشرف برلی - میں وزیر موصوف سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کراچی میونسپل کارپوریشن نے یہ رقم حبیب بینک میں، شروع سے رکھی ہوئی ہے یا رکھی جا رہی تھی لہذا اس میں آپ نے تبدیلی نہیں کی - اس کو بھی قریباً ۱۰ سال ہونے کو آ رہے ہیں کیا وجہ ہے آپ نے اس طرف غور نہیں فرمایا کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو بڑا نقصان ہے - کراچی میونسپل کارپوریشن کے فنڈز بھی بہت زیادہ ہیں - اگر وہ روپیہ گورنمنٹ بینکوں میں جو گورنمنٹ بزنس transact

کرتے ہیں رکھا جائے تو گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا - کیا وجہ ہے کہ ۱۰ سال کا عرصہ ہو رہا ہے اور آپ نے اس طرف غور نہیں فرمایا ؟

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - جناب والا - جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قانون میں یہ ہے کہ یا نیشنل بینک یا سرکاری خزانہ میں یا جس طرح بھی حکومت اس بارے میں فیصلہ کرے کیا جائے گا - میں نے عرض کیا کہ قانون کے مطابق اس بینک کو اجازت دی گئی تھی بعد میں قانون میں تبدیلی واقع ہو گئی تو ادارہ متعلقہ نے اس سلسلے میں حکومت سے اجازت چاہی جو حکومت نے دے دی - پھر صورت فاضل ممبر کی اطلاع کے لئے میں نے جواب میں پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہم اس کے لئے واضح رولز بنا رہے ہیں بلکہ محکمہ بی ڈی کی طرف سے ان کو لکھا بھی جا چکا ہے کیونکہ فائننس والوں کی مالی امور کی نسبت رائے کی بہت اہمیت ہوتی ہے تو اس سلسلے میں جب ان کی طرف سے مناسب عدایات جاری ہوں گی تو وہ رولز جاری کر دیں گے اور پھر اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ یہ جو آپ نے اعتراضات فرمائے ہیں ان کے متعلق کیا کیا جا سکتا ہے -

CONSTRUCTION OF ROADS BY KARACHI MUNICIPAL CORPORATION

*10280. Begum Ashraf Burney : Will the Minister of Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the total expenditure incurred on the construction of roads by the Karachi Municipal Corporation during the financial years, 1964-65, 1965-66 and 1966-67 ; separately ;

(b) the extent of damage in terms of money caused to the said roads by the heavy rains in Karachi during July and August 1967 ;

(c) the amount spent by the Karachi Municipal Corporation on the repairs of the said damaged roads so far ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Total expenditure incurred on the construction of roads during financial years is given below :—

	Rs.
1964-65	22,41,596.00
1965-66	24,86,234.00
1966-67	55,63,275.00
(b) Extent of damages	6,94,275.00
(As per estimates).	
(c) Amount spent on repairs	5,21,000.00
(Actual expenditure).	

Begum Ashraf Burney : Was also any newly constructed road damaged ? If so, was the Contractor also made liable for the damages ?

Minister of Basic Democracies and Local Government : The lady Member is aware that Karachi is a big city. If she would put the question about a particular road, I will be in a position to answer. By chance, I don't know personally the roads by name. But for the information of the Member and the House I may mention that some roads were washed away, some were damaged, and complaints were received. Then the Governor appointed the Members of the Governor's Inspection Team to go into details about this, and asked the Governor's Inspection Team to recommend short-term measures as well as long-term measures. They suggested short-term measures, which have been acted upon and repairs have already been carried out. So far as long-term proposals are concerned, already a directive has gone from the Government and it has been received in the K.M.C. who had started taking action on that. The lady Member is aware that the rains that we had in Karachi last year were such as were never witnessed during the last many years. Naturally,

the rain water was more than what was expected.

یگم اشرف برنی - ابھی منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر میں ان کو بتا دوں کہ کون سی سڑکیں ایسی ہیں جنہیں نقصان پہنچا ہے تو وہ اس کے متعلق کچھ فرمائیں گے - جناح ہسپتال کے سامنے ایک سڑک ہے جو بارشوں سے دو تین مہینے پہلے تعمیر ہوئی تھی - بارشوں میں وہ تقریباً بالکل خراب ہو گئی ہے - جس ٹھیکے دار نے اسے تعمیر کیا تھا اس پر اس نقصان کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے یا نہیں ؟

Mr. Speaker : The Member may give a fresh notice for that. Now the question hour is over. Will the Minister please lay the remaining Answers on the Table of the House ?

وزیر بنیادی جمہوریت و لوکل گورنمنٹ - جناب والا - میں باقی سوالات کے جوابات ایوان کے میز پر رکھتا ہوں -

ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE
CONSTRUCT.ON WORK ON KUTCHA ROAD BETWEEN NEW SAEEDABAD
AND SARTARI IN HYDERABAD DIVISION

*10287. Rais Atta Muhammad Khan Marri Baloch : Will the Minister of B.D. and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that work on Kutcha Road between New Saeedabad and Sartari in Hyderabad Division was started sometime back ;

(b) whether it is a fact that about 400 villages are situated on the said road ;

(c) whether it is a fact that the said work has been stopped after construction of a portion of the road ; if so, reasons therefor ;

(d) whether Government intend to restart the said work and complete the construction of the road ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) 22 villages are situated on the said road.

(c) Some earth work was started on the road but was stopped in 1960-61 because of the weak financial position of the District Council Hyderabad.

(d) The road is a District Council road and is not with the Communications and Works Department. Because of the poor financial position of the District Councils, Hyderabad and Sanhgar through which the road passes, there are no immediate plans to metal the road.

**DELEGATION OF CERTAIN POWERS TO VICE-CHAIRMEN BY CHAIRMEN
OF DISTRICT COUNCILS**

***10294. Haji Sardar Atta Muhammad :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Chairmen of certain District Councils in former Provinces of Punjab and N.-W. F.P., have delegated certain powers to their respective Vice-Chairmen ; if so, the names of such District Councils and the nature of powers assigned to the Vice-Chairmen of those District Councils ;

(b) whether it is a fact that no power has been delegated by the Chairmen of the District Councils to their respective Vice-Chairmen in former Sind area ; particularly in Hyderabad Division ;

(c) if answer to (b) above be in the affirmative, reasons therefor ;

(d) if answer to (b) above be in the negative, the nature of powers so given ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo): (a) Yes. The necessary information in this respect was furnished in reply to Starred Assembly Question No. 6460 and 9200.

(b) Under rule 10 of the West Pakistan District Councils *Vice-Chairmen (Elections, Powers and Vote of No-Confidence) Rules, 1966*, powers specified in clauses (a) to (i) vest in the Vice-Chairmen in their own right. These powers are being exercised by the Vice-Chairmen throughout the Province including the former Sind Region. Over and above these powers it is open to the Chairman of a District Council to entrust such other functions to the Vice-Chairman as he may deem necessary. The Chairmen in the former Sind Region have not yet entrusted any additional function to their Vice-Chairmen.

(c) This is a matter which vests in the discretion of the Chairmen.

(d) Does not arise. Government are examining the proposal to further enhance the powers and functions of Vice-Chairmen of District Councils in their own right.

PUBLIC FUNCTIONS HELD BY BASIC DEMOCRACIES DEPARTMENT

*10305. Haji Sardar Atta Muhammad: Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state:—

(a) the number and nature of public functions held by the districts of Tharparkar, Sukkur, Karachi and Dadu during 1966 and 1967, in which the Chairmen of Town Committees and Union Committees were invited alongwith the number and names of such Chairmen who participated in those functions;

(b) whether names of the Chairmen who participated in the said functions were noted in any register?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian

Muhammad Yasin Khan Wattoo): (a) A statement is placed on the table of the House.*

(b) They were noted in the Districts of Sukkur and Tharparkar in 1967.

AUDIT OBJECTIONS RAISED ON ACCOUNTS OF UNION COUNCILS OF
THARPARKAR DISTRICT

*10308. **Haji Sardar Atta Muhammad**: Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state:—

(a) the nature of audit objections raised on the accounts of Union Councils Satidera, Pethhapur, Nagarparkar of taluka Nagarparkar and Union Councils, Gidhro, Parno, Khainser and Hirar of taluka Chhachhro of Tharparkar district in the year, 1964-65, 1965-66 and 1966-67 ;

(b) whether Government intend to take steps against the officials responsible for the said audit objections ; if so, the steps Government intend to take and the reasons for delay in taking the action against the said officials ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo): (a) statement is attached.

(b) Reports about the irregularities have been asked from the Chairmen of Union Councils concerned. Action will be taken in the light of their reports.

STATEMENT SHOWING THE NATURE OF OBJECTIONS RAISED
BY THE AUDIT DEPARTMENT ON THE ACCOUNTS OF UNION
COUNCILS NAGARPARKAR, PITHAPUR, SATIDERA OF
TALUKA NAGARPARKAR AND UNION COUNCILS,
GADRO, PARNO, KHENSAR AND HIRAR OF TALUKA
CHACHRO DISTRICT THARPARKAR

NATURE OF OBJECTIONS

Serial No.	Name of Union Council	Not maintaining of record	Mis-riaton	Irregu- lar Expendi- ture.	Miscellaneous
------------	-----------------------	---------------------------	------------	----------------------------	---------------

1964-65		Nos.	Nos.	Nos.	Nos.
1	Nagarparkar	...	1	...	2 2
2	Pithapur	...	3	2	2 1
3	Satidera (1964-65 and 1965-66)	...	1	..	4 2
4	Gadro	..	Record destroyed by Enemy troops in September 1965.		
5	Parno	...	1	...	4 2
6	Khansar	...	1	...	3 1
7	Hirar	—	...	2	... 3
1965-66					
1	Nagarparkar	...	1	1	7 3
2	Pithapur	1	3 4
3	Satidera	(as shown at Serial No. 3 above)			
4	Gadro	...	1	...	1 1
5	Parno	...	1	...	2 1
6	Khansar	...	(Accounts not yet audited).		
7	Hirar	...	2	1	5 6

1966-67

1 Nagarparkar

2 Pithapur

3 Satidera

4 Gadro

5 Parno

6 Khensar

7 Hidar

... The record of these Union Councils have not been audited as yet by Audit Department.

IMPLEMENTATION OF RURAL WORKS PROGRAMME IN HYDERABAD
AND KHAIRPUR DIVISIONS

*10313. **Haji Sardar Atta Muhammad** : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether any committee for the implementation of Rural Works Programme and other kinds of development projects have been set up in the Districts of Hyderabad and Khairpur Divisions ; if so, the names, designations, financial position and political affiliation of the members of each of the said committees ;

(b) whether any representation has been given to each taluka in the said committees ;

(c) the proportion of official and non-official members in each of the said committees and the authority empowered to select the members of the said committees ;

(d) whether it is a fact that in certain districts of the said Divisions, even the Vice-Chairmen of District Councils have not been taken as members of the said committees ; if so, the names of such districts ;

(e) whether Government intend to appoint the Vice-Chairmen mentioned in (d) above as the members of the said committees ; if so, when, if not, reasons therefor ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd.

Yasin Khan Wattoo) :

Hyderabad Division

(a) Yes ; excepting in Dadu District names of the members of each project committee for districts of Hyderabad, Tharparkar, Sanghar and Thatta are placed on the Table of the House.*

(b) Yes ; excepting Dadu District as there is no such committee in this district.

(c) (i) *Hyderabad District*—Proportion of 50% has been kept for official and elected representatives. Deputy Commissioner has selected the above committee.

(ii) *Tharparkar District*—From amongst the total number of 30 members 15 are non-official. Besides there are 7 co-opted members who attend meetings as observers, amongst whom 5 are non-officials. Deputy Commissioner has selected the above Committee.

(iii) *Sanghar District*—There are only officials on the District Project Committee, however, the programmes are finalized in the

Khairpur Division

(a) Yes, the name, designation financial position and political affiliation of the members of each Project Committee for district of Khairpur Division are placed on the Table of the House.*

Yes ; except Nara taluka in Khairpur District and Sukkur, Shikarpur, Gayriyasin, Ubauro and Rohri, talukas in Sukkur District.

(i) *Khairpur District*—Proportion of 50% has been kept for official and non-official members. The Deputy Commissioner and Project Director, RWP is empowered to select the members of abovesaid Committee.

(ii) *Sukkur District*—Proportion of 50% has been kept for official and non-official members. The Deputy Commissioner and Project Director, RWP., Sukkur selected the official members and the District Council selects the non-official members.

(iii) *Jacobabad District*—From amongst 17 members, 6 are non-officials. The Deputy Commissioner and Project Director, RWP., Jacobabad has

District Council meetings which consists of elected and official members.

selected the members of the Committee.

(iv) *Thatta District*—The proportion of official and non-official members is 9 : 14. The Deputy Commissioner has selected the above Committee.

(iv) *Nawabshah District*—Proportion of 50% has been given for official and non-official members. The District Council has selected these members.

(v) *Larkana District*—The Deputy Commissioner-cum-Project Director, Rural Works Programme has constituted the Committee. From amongst 19 members 7 are non-official members.

(d) No. The Vice-Chairmen are members of such Committees in each district excepting Dadu, where there is no such committee.

(d) No. The Vice-Chairmen are the members of above-said committee, in each district excepting Larkana district.

The Deputy Commissioner and Project Director, RWP. Larkana has stated that programme is to receive final approval from the District Council where Vice-Chairman has a big say. Hence he is involved at that level.

(e) Does not apply, in view of the answer furnished in (d) above.

(e) Does not apply in view of the answer furnished in (d) above.

DEVELOPMENT SCHEMES UNDER IMPLEMENTATION IN TALUKA
NAGARPARKAR

*10315. Haj Sardar Atta Muhammad : Will the Minister for Basic

Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the names and details of development schemes including those relating to the construction of bunds and water tanks under implementation in Taluka Nagarparkar in District Tharparkar and the estimated cost of each of the said schemes ;

(b) the number and nature of the staff engaged for the implementation of the said schemes alongwith the number of Government vehicles provided to them and the monthly consumption of petrol in the said vehicles todate ;

(c) the year during which the said schemes were approved and the year during which the amount was allocated and released for the implementation of the said schemes ;

(d) in case any delay occurred in releasing the amount for the schemes the reasons therefor ;

(e) the present stage of the said schemes ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) (i) The following schemes are under implementation during 1967-68 :—

Serial No.	Name of Union Council	Name of Scheme	Estimated cost Rs.
1966-67			
1	Nagarparkar ..	Primary School at Mahdro	5,000
2	Do ...	Addi, to Girls Primary School, Nagarparkar	3,000
3	Virawah ...	Extension M.D. Dano Dhandhal	8,500
4	Satidara ...	Primary school, Satidara	5,000
5	Do- ...	Well at Bhalyani	3,500

6	Adhigam	... Primary School, Surachand	... 5,000
7	Do.	... Well at Adhigam	... 3,500
8	Mamehero	... Union Ghar	... 8,500
9	Pilu	... Construction of Baoli (well Village Gori)	... 8,500
10	Haro	... Primary School, Goongri	... 4,250
11	Do.	... Primary School, Sami-ji-veri	... 4,250
12	Tigusar	... Primary School, Vizuario	... 4,250
13	Do.	... Primary School, Dhambro	... 4,250
14	Pithapur	... Primary School, Bartila	... 4,250
15	Do.	... Primary School, Phul Poro	... 4,250
16	Chotal	... Primary School, Wali-ji-veri	... 4,250
17	Do.	... Primary School, Mehmano	... 4,250
Total			... 85,000

(ii) The following Schemes are under implementation during 1967-68.

Serial No.	Name of Union Council	Name of Scheme	Estimated cost Rs.
1	Nagarparkar	... Pavement of streets, Nagarparkar	... 20,000
2	Do.	... Primary School, Nagarparkar	... 17,000
3	Virawah	... Addition to compound Union Ghar	... 8,000
4	Do.	... Primary School, Bhalwa	... 6,000
5	Tigusar	... Primary School, Sahu Sand	... 6,000

ANSWERS TO STARBED QUESTIONS LAID ON THE TABLE

1041

6	Do.	... Primary School, Dhobar	... 6,000
7	Do.	... Well at Misri Shah	... 4,000
8	Satideras	... Primary School, Bhuro Sand	... 6,000
9	Do.	... Well at Tinkaraio	... 4,000
10	Pilu	... Primary School, Mithrio Bajir	... 6,000
11	Do.	... Well at Barcha (Huran Jo Paro)	... 4000
12	Maro	... Primary School, Barlo	... 6,000
13	Do.	... Well at Taju-Veri	... 4,000
14	Do.	... Well at Mithrio	... 4,000
15	Adhigam	... Primary School, Adhigam	... 6,000
16	Do.	... Well at Khareriyun	... 6,000
17	Do.	... Well at Kasbo	... 4,000
18	Chotal	... Primary School, Mithrio Janejo	... 4,000
19	Do.	... Well at Mahlano Bhil	... 4,000
20	Do.	... Well at Kobio	... 4,000
21	Pithapur	... Primary School, Kuaro	... 5,000
22	Do.	... Primary School, Churio	... 5,000
23	Do.	... Well at Litali	... 3,000
24	Memchero	... Primary School Kuleh-ji-veri	... 4,000
25	Do.	... Well at Deegri	... 4,000
26	Do.	Well at Alusji-veri	... 4,000

Total ... 1,56,000

(b) All schemes were initiated, implemented by Union Councils concerned and they further let out these works to contractors. Union Councils are basically responsible for implementation, supervision of schemes. Mukhtiarkar, Supervisor Basic Democracies and district council overseer had administrative, financial and technical control. None of the officials are provided Government transport and, therefore, the question of details regarding monthly consumption of petrol does not arise.

(c) The annual district development programme for the year 1966-67 and 1967-68 were approved on 13th March, 1967 and 20th November, 1967, respectively. Allocation for 1966-67 and 1967-68 were intimated on 1st March 1967 and 6th January 1968 and amounts were released on 15th March 1967 and 9th January 1968 respectively.

(d) Question does not arise.

(e) (i) 17th schemes for the year 1966-67 are near completion.

(ii) Amount for the year 1967-68 has been released on 9th January, 1968 and 26 schemes are being implemented.

DISPOSAL OF CASES OF THREE ASSESSORS AND COLLECTORS OF
KARACHI MUNICIPAL CORPORATION

*10378. Malik Mir Hazar Khan: Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the case of three Assessors and Collectors of Karachi Municipal Corporation, who were working prior to the coming into force of Local Council Services, was referred by the Commissioner of Karachi for notification to the Basic Democracies and Local Government Department in 1964 but the same is still pending with the Department at Lahore;

(b) whether it is a fact that the case for the inclusion of the posts of Superintendents of Karachi Municipal Corporation in L. C. S. in senior

Class II cadre, on the pattern of posts already existence in Local Service Board, was forwarded by the Commissioner Karachi to the Basic Democracies and Local Government Department, Lahore, in 1964 but the same is still pending disposal ;

(c) if answer to (a) and (b) above be in the affirmative, reasons for the delay in the disposal of the said cases and the time still required for disposal of both the said cases ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo): (a) The case has been finalised and final seniority list which includes the names of the Assessors and Collectors of Karachi Municipal Corporation, has been issued.

(b) The case for the inclusion of the posts of Superintendents of K. M. C. in the L. C. S. will be considered in due course of time along-with similar other cases of Local Bodies/Councils in the Province.

(c) As above.

**SUPPLY OF DRINKING WATER TO RESIDENTS OF MITHEY-WALI AND
JHANGRA VILLAGES OF TEHSIL TAUNSA SHARIF**

***10392. Sardar Manzur Ahmed Khan Qaisrani :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that difficulties are being faced by the residents of Mithey-Wali and Jhangra villages of Tehsil Taunsa Sharif, District D. G. Khan, in getting drinking water ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, the steps Government intend to take to provide drinking water to the residents of the said villages ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo): (a) Yes.

(b) Trial bores to find potable water in the area have been done out

of the funds received from the District Council but no suitable sub-soil water is available.

The only feasible source is to bring water from Ziarat Miran Shah to Lukhani which is on the edge of Mauza Jhangher. The scheme has been estimated at Rs. 24.65 lacs.

No new water supply scheme is proposed to be taken up during 1968-69 due to the paucity of funds. Consequently, the scheme cannot be taken up during the next financial year.

**DRINKING WATER SCHEME FOR BADA AND BEESAK IN TEHSIL
SWABI**

***10443. Khan Ajoon Khan Jadoon :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that work on Rural Drinking Water Scheme for BADA and BEESAK in Tehsil Swabi has completed on papers but water has not so far been supplied in the water tanks constructed in village BADA and village BEESAK;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, reason for the non-supply of water in the said tanks and the steps Government intend to take in this behalf ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) No.

(b) The defects have been removed and the water is now being supplied to the villages. Villages BADA and BEESAK are receiving water through their tower.

**AUCTIONING OF BUS STAND AT LAKKI MARWAT, DISTRICT
BANNU**

***10472. Nawabzada Rahim Dil Khan :** Will the Minister for Basic

Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Bus Stand at Lakki Marwat, District Bannu, was auctioned by the District Council Bannu, in 1962 for a term of one year for Rs. 10,000 ;

(b) whether it is a fact that the Town Committee Lakki in its resolution protested against the said auction claiming that the Bus Stand was within the jurisdiction of Town Committee Lakki ;

(c) whether it is a fact that the said District Council cancelled the said contract and left the Bus Stand to the said Town Committee ;

(d) if answers to (a) to (c) above be in the affirmative, whether Town Committee Lakki auctioned the said Bus Stand ; if so, for what amount, and the total income accrued therefrom since 1962 to date ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) No.

(b), (c) & (d) The question does not arise.

COMPENSATION FOR FAMILIES OF 2 EMPLOYEES WHO DIED OF GAS
POISONING

*10481. Khan Gul Hameed Khan : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that 2 staff members of Lahore Improvement Trust died of Gas poisoning on 2nd December, 1967 while cleaning a man-hole ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, whether said Improvement Trust has given any compensation to the unfortunate members of the bereaved family ; if so, amount so granted and if not, reasons therefor ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) A sum of Rs. 2,800.00 has already been sanctioned and deposited with the Senior Civil Judge by the Lahore Improvement Trust for payment to the members of the bereaved families. A further sum of Rs. 2,000 was voluntarily collected by the officials of the Trust and presented to the heirs of the deceased.

ROADS IN MIANWALI DISTRICT

*10486. Khan Gul Hameed Khan : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the total mileage of Kacha roads in the area of Mianwali District Council ;

(b) the grant-in-aid Government intend to give to District Council Mianwali during the current or the next year for metalling the said roads.?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) 492.42 miles.

(b) No.

GULISTAN COLONY LAHORE

*10517. Chaudhri Idd Muhammad : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that a large number of persons have constructed houses etc. on the land situated in Dharampura, Lahore and named as 'Gulistan Colony';

(b) whether it is a fact that the said land is an evacuee property and the Settlement Department has not so far disposed of the same in any manner ;

(c) whether it is a fact that the Lahore Municipal Corporation has also allotted this land in plots to various persons ;

(d) if answer to (a) to (c) above be in the affirmative, the reasons for which the said land has been allotted by the Corporation ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) According to information available on Lahore Municipal Corporation's record, the land of the Colony is mostly Evacuee Waqf Property. This Department is not aware of disposal, in any manner, of the land in question by the Settlement Department.

(c) Yes.

(d) A piece of land measuring 265 kanals, 8 marlas and 179 sq. ft. was allotted to the Lahore Municipal, - vide letter No. ADCR/2065, dated 28th June 1956, under the orders of the Commissioner, Lahore Division, acting as Rehabilitation Commissioner. This land was to be allotted to rehabilitate dis-placed persons after preparing a proper scheme. It was split up into 571 plots of 5 marlas each and the following policy was laid down for the allotment of these plots :—

(a) Plots will be allotted to refugees, migrated from Indian Dominion, who are squatting in Jhuggies which have to be removed and alternate accommodation is to be provided to the inmates.

(b) Persons whose houses have to be demolished on account of Lahore Improvement Trust Schemes or other Development Schemes or on account of their dangerous condition.

(c) Refugees living in evacuee buildings from which they have to be evacuated.

Subsequently, the policy was re-shaped on 12th November 1958, and the following persons were considered eligible for allotment in the aforesaid scheme :—

(a) Muhajirs whose jhuggies were dismantled on account of floods and who had regular allotments for the place ; and

(b) Muhajirs whose houses were demolished on account of carrying out any Improvement or Development Scheme.

Out of the total number of 571 plots about 400 plots were allotted.

RE-ORGANISATION OF MUNICIPAL COMMITTEES

*10549. Chaudhri Idd Muhammad : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state whether it is a fact that some time ago a special Committee was set up by Government to suggest re-organisation of Municipal Committees in the Province ; if so, (i) the names of the members of the said Committee, (ii) the number of meetings held by this Committee alongwith the names of places where the meetings were held, (iii) when the Committee was formed, (iv) whether report has been submitted ; if so, the details thereof and if report has not so far been submitted to Government reasons thereof and the time by which the said report will be submitted to Government ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (i) Yes.

(1) Mr. Inayat Ullah, C.S.P.

(2) Mr. Parvez Ahmed Butt, C.S.P.

(3) Mr. Yousaf Ali Shah, M.P.A.

(4) Mr. Masudul Hassan.

(5) Mr. Muhammad Ziauddin Khan, C.S.P.

(6) Mr. Afzal Mahmood.

(7) Mr. Shaukat Ali, P.C.S.

(ii) The Committee so far have held the meetings in the cities on the dates mentioned against each : —

- | | |
|---|---|
| (1) Lahore | ... 14th November 1967. 19th February 1968. |
| (2) Karachi | ... 24th/25th November 1967. 20th January 1968. |
| (3) Rawalpindi | ... 15th December 1967. 18th January 1967. |
| (4) Peshawar | ... 15/16th December 1967. |
| (5) Multan | ... 10th January 1968. |
| (6) Lyallpur | ... 12th January 1968. |
| (7) Islamabad with Chairman, Capital Development Authority. | ... 17th January 1968. |
| (8) Chunion | ... 5th February 1968. |
| (9) Daska | ... 9th February 1968. |
| (10) Jhang | ... 16th February 1968. |

(iii) 31st October, 1967

(iv) Submission of the report is awaited.

**RETIREMENT SYSTEM OF NON-GAZETTED STAFF OF LOCAL BODIES
AND COUNCILS**

*10555. Chaudhri Idd Muhammad : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state whether it is a fact that Government have decided to stagger the system of retirement of

non-gazetted staff working in Local Bodies and Councils in the Province; if so, the details of this system and the time by which this will be enforced ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes. The details of this system is as follows :—

First Stage

- (i) All persons who are 59 years or more on the 31st December, 1967, shall retire on the 1st of January, 1968, without their cases being reviewed.
- (ii) All persons who will attain the age of 59 years on or prior to 31st December, 1968, should be granted extension without review only up to the dates such persons attain the age of 59 years and these persons shall automatically retire on that day.
- (iii) Persons, who do not come in the above two categories, shall be granted extension without review upto 31st December, 1968 :

Provided, however, that if the Competent Authority considers a person corrupt or really inefficient his case may be reviewed for retirement forthwith.

Second Stage

- (a) All persons who attain the age of 58 years or more on the 31st December, 1968, shall stand automatically retained on the 1st January, 1969, without their cases being reviewed.
- (b) A person who will attain the age of 58 years on or prior to the 31st December, 1969, should be granted extension only upto the day such person attains the age of 58 years, and he shall automatically retire on that day.
- (c) Persons who do not come in the above two categories shall be granted extension without review upto the 31st December, 1969.

SCHEMES FOR BEAUTIFICATION OF LAHORE

*10574. Chaudhri Idd Muhammad : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that a number of development schemes for beautification of Lahore were approved at a meeting held under the Chairmanship of the Commissioner, Lahore Division, Lahore, on December 6, 1967 ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, (i) the details of the schemes, (ii) when the schemes would be implemented practically and (iii) the amount allocated for the purpose ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) (i) Re-modelling of Gol Bagh, Renovation of the existing Town Hall, construction of New Town Hall, Fencing and Development of Gardens outside the walled area and the Improvement of the Street lighting arrangements in the City.

(ii) and (iii) —. Gol Bagh is being re-modelled and is expected to be completed within six months. The expenditure involved would be met out of the provision of 2 lacs made under the head gardens in the current year's budget of L. M.C.

2. The renovation of the existing Town Hall, is already in hand and is expected to be completed in three months' time. A provision of Rs. 2 lacs stands sanctioned for it in the budget.

3. As regards the New Town Hall, its star-shaped design has been discarded as it did not fit in with the environmental surroundings and buildings and the Leading Architects are being consulted for its re-designing. Its estimated cost is Rs. 12 lacs out of which a sum of Rs. 6 lacs has been provided in the current year's budget.

4. A phased programme for the fencing and development of gardens outside the walled area of Lahore has been prepared and the strip lying

between Bhati and Taxali Gates is being taken in the first stage.

5. As regards street lighting, Mercury Vapour Lamps complete with fittings have already been installed on the Mall, Empress, Davis, Mcleod and Ferozepur Roads, Anarkali and between Bhati and Taxali Gates, A provision of Rs. 2 lacs exists in the budget.

**PURE DRINKING WATER SCHEME AND A DRAINAGE SCHEME OF SHER
SHAH COLONY, LAHORE**

***10588. Rai Mansab Ali Khan Kharal :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that pure drinking water scheme and a drainage scheme is under implementation in Sher Shah Colony, Ichhra, Lahore ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, its date of inspection and the likely date by which it would be fully implemented ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) (i) *Water Supply*—

Date of inception	... 1st December, 1967.
Date of completion	... 22nd January, 1968.

(ii) *Sewerage*—

Date of inception	... 1st January, 1968.
Completed on	.. 31st March, 1968.

SUPPLY OF DRINKING WATER IN NANKANA SAHIB

***10589. Rai Mansab Ali Khan Kharal :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state whether there is

any scheme for the supply of drinking water in Nankana Sahib, District Sheikhpura ; if so, the time by which the same will be implemented ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : The Water Supply Scheme at Nankana Sahib, District Sheikhpura, was prepared at an estimated cost of Rs. 6.15 lacs and proposed for inclusion in the Annual Development Programme for the year, 1968-69. Since Municipal Committee, Nankana Sahib, is not willing to bear its 1/3rd share and annual maintenance, the scheme has been dropped for execution during, 1968-69.

CHECKING WORKS CARRIED OUT BY THE UNION COUNCILS

*10590. **Rai Mausab Ali Khan Kharal :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state whether the Basic Democracies Department has ever taken stock of the works carried out by the Union Councils in the Province and verified how much amount was actually spent on (i) development works and (ii) other projects out of the amounts handed over to them ; if so, the procedure adopted by the Department in this connection and the result of the assessment ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : Yes. All Rural Works Programme funds have been granted to Districts/Agencies and local councils for Development works in the province. Even loans which are made to individuals in the sparsely settled areas to install wells or such eligible schemes are all development works.

Our Department or Basic Democracies Directorate of Rural Works Programme is analysing project reports now with data processing techniques. We are able to measure on a quarterly basis, the amount of R. W. P. funds the districts have granted to local councils for the implementation of schemes. On an annual basis we measure the precise expenditure on schemes.

This system of evaluation of Rural Works Programme Works like this.

Schemes are sanctioned by Districts/Agencies. All these sanctioned schemes are reported to us on a standardised variable form which is supplied by our Directorate. These sanctioned schemes are checked in the Directorate, are processed on I. B. M. machines in the Bureau of Statistics. This gives us details of portfolio (or pending) schemes for each Union Council and other councils in the province.

The District send their quarterly reports which are checked against the sanctioned schemes list. These reports are also processed on I. B. M. machinery and enables us to record the amount of Rural Works Programme funds granted to specific schemes and watch their progress.

The Districts/Agencies send the completion/year and reports of all funded schemes which are checked and are processed and analysed in the Bureau of Statistics. Thus we evaluate programme accomplishment in respect of expenditures, local contributions and amount of Rural Works Programme funds granted and many other details.

Divisional Evaluation Teams inspect a good 5 per cent sample of schemes reported to verify the data. Our review of the inspection reports to date, confirm a reasonable accuracy. We do take corrective action when unreasonable deviations are identified. But in general we fined the reporting to be accurate and honest.

Our analysis has shown that on an average in the case of schemes executed by the Union Council cash expenditure is 88 per cent of available cash. Available cash mean R. W. P. funds given to schemes plus cash contributed by the local councils or private cash. The difference between available cash and actual cash expenditure is termed as savings. Thus the savings for those schemes completed is 12 per cent of available cash.

We think that the savings are excessive and can be reduced by improved estimating, better planning by funding control measure which has been introduced under the new reporting system.

As a measure to control saving, a performance factor is introduce,

under which 25 per cent of the R. W. P funds are distributed on the basis of good performance. This District /Agencies failing in submitting their periodical reports are not granted R. W. P. performance funds, as performance funds can only be given to those Districts/Agencies which send their reports of all types in time.

RESOLUTIONS PASSED BY THE LAHORE MUNICIPAL CORPORATION
AND KARACHI MUNICIPAL CORPORATION

*10639. Chaudhri Idd Muhammad: Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the number of resolutions passed by the Lahore Municipal Corporation during the years, 1966 and 1967 ;

(b) the number of resolutions, out of those mentioned in (a) above which have been (i) implemented and (ii) not implemented with reasons for non-implementation ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) The total number of Resolutions passed by the Lahore Municipal Corporation and Karachi Municipal Corporation respectively is as under :—

Lahore Municipal Corporation, 1966-67...1651.

Karachi Municipal Corporation, 1966-67...590.

(b) Lahore Municipal Corporation.

(i) Implemented 1966-67 1403

Karachi Municipal Corporation.

(i) Implemented 1966-67 581

Lahore Municipal Corporation.

Not implemented 1966-67 248

Karachi Municipal Corporation.

Not implemented 1966-67. 9

Reasons

Lahore Municipal Corporation—Out of 248 Resolutions mentioned in (b) above, 93 Resolutions pertaining to years 1966 and 1967 were transferred to the Lahore Improvement Trust for taking appropriate action in the wake of the transfer of Water Supply, Sewerage and Drainage Work to that Organisation, with effect from 9th March, 1967. The present position of remaining 155 Resolutions is as follows :—

<i>Total Number of Resolutions</i>	<i>Stage of action</i>
4	... Pending with the Street Naming Sub-Committee.
21	... Sites for construction of buildings/fire stations are being searched for.
33	... Sanction of Government is awaited]
13	... Estimates of cost of street lighting awaited from WAPDA.
21	... Awaiting implementation because the residents of the area have neither deposited their share of money nor furnished written undertakings to do so for works to be done under Section 81 (3) of Municipal Administration Ordinance, 1960.
2	... Under correspondence with National Bank of Pakistan and Lahore Improvement Trust.
2	— These related to the repair of bullock-carts. Implementation withheld because a number of bullock-carts are proposed to be reduced with the purchase of new trucks/tippers.
59	... These relate to engineering works are in different stages of progress.

KARACHI MUNICIPAL CORPORATION

<i>Serial Number of Resolutions.</i>	<i>Stage of action</i>
104	... Approved by the Corporation, but suspended by the Controlling Authority.
474	... The Resolution was rejected by the Controlling Authority.
181	... The Commissioner, Karachi Division suspended the Corporation Resolution.
175	... The Commissioner, Karachi Division ordered that the plot No. I.R.B.7. Rambagh Quarter be granted to the Evacuee Trust Committee for Rs. 5,00,000. The order has been complied with and they were asked to pay the occupancy value amounting to Rs. 5,00,000 <i>plus</i> land rent but they have not paid the amount. Messrs. Qureshi Bazaar Association have filed Writ in the High Court of West Pakistan against the decision of the Commissioner, Karachi. The matter is subjudice.
245	... The Corporation resolved that the Nullah be given to Sind Madressah Board for educational purposes at Rs. 3 per sq. yd. The Commissioner, Karachi ordered that the Nullah be granted to Habib Bank Ltd. at Rs. 525 per sq. yd.

395

... The Corporation resolved that the request of the party for the conversion of lease be rejected. The party filed an appeal with the Commissioner, Karachi after hearing both the parties in the matter,—*vide* his order, dated 2nd September 1967, accepted the appeal and allowed the conversion of the plot into commercial on payment of conversion charges of Rs. 30 per sq. yd. The orders of the Commissioner, Karachi Division have been complied with. The party has already paid the conversion charges to K. M. C. at this rate. The Commissioner was pleased to suspend this Resolution. Decision of the Commissioner implemented.

447

.. The Corporation resolved that the request of the party for the conversion of lease be rejected. The party filed an appeal with the Commissioner, Karachi against this decision of the Corporation. The Commissioner, Karachi after hearing both the parties in the matter,—*vide* his order, dated 9th September 1967, accepted the appeal and allowed the conversion of the plot into commercial on payment of conversion charges of Rs. 30 per sq. yard. The orders of the Commissioner, Karachi have been complied with and the party has sent cheque towards the

conversion charges at the above rate. The Commissioner was also pleased to suspend this Resolution. Decision of the Commissioner implemented.

243

- .. The Corporation resolved that the land be granted to the occupants at Rs. 110 per sq. yard and in case they do not accept the grant of land be sold by auction. The Commissioner after hearing both the parties in an appeal filed by Dr. Ali Muhammad Nagori against the decision of the Corporation,—*vide* his order, dated 15th April 1967, accepted the appeal and suspended the Corporation Resolution. He was further pleased to order to grant land measuring 358 sq. yards out of 516 sq. yards to the occupants and the rest area to Dr. Ali Muhammad Nagori. The orders of the Commissioner, Karachi Division have been complied with Dr. Nagori has paid the occupancy value for the area granted to him while the occupants have not yet paid the occupancy value demanded. Decision of Commissioner implemented.

258

- ... They resolved that the conversion charges be recovered at Rs. 100 per yard. The party filed an appeal before the Commissioner, Karachi against the decision of the Corpora-

tion. The Commissioner, Karachi after hearing both the parties,—*vide* his order, dated 15th April 1967 accepted the appeal and suspended the Corporation Resolution. The Commissioner was further pleased to order that the conversion charges be recovered at Rs. 15 per sq. yard. The orders of the Commissioner, Karachi have been complied with and the party has already paid the conversion charges at this rate. Commissioner's decision implemented.

DEFECTIVE SEWERAGE SYSTEM IN LAHORE

*10647. **Rai Mansab Ali Khan Kharal** : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Sewerage System in Lahore is defective with the result that during rains dirty water spreads in the streets and bazars causing inconvenience to the public ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, steps being taken by the Department in this connection ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) Realizing the need for over hauling the sewerage and drainage system of Lahore and to provide for the needs and requirements of the Greater Lahore for many many years to come, a Greater Lahore Project has been prepared by Government. The Project has been entrusted by the Government to the Lahore Improvement Trust. The progress made so far for the implementation of the Project has been quite satisfactory. A master

plan for the sewerage and drainage of Lahore has already been prepared by the Engineering Consultants and steps are being taken to undertake large works to implement the Plan. In the meantime a considerable amount of work has already been taken in hand. A few details of work already done are as under :—

(1) The desilting of major underground sewers in Lahore --75 per cent of such sewers have been already desilted and cleared.

(2) Shadbagh outfall sewer which was damaged during floods of 1955 has been completely reconstructed.

(3) Detailed surveys of 18 depressed and neglected areas of Lahore including Tilak Nagar, Mustafa Abad, Chah Miran, Nawan Kot, etc., are being carried out.

(4) Some such surveys have already been finalised and even necessary drainage and sewerage facilities have been provided. Special steps in the form of (small schemes) are being taken to drain such low-lying areas such as Ramgarh, Swaminagar, Kotli Pir Abdur Rehman and Sanda.

(5) In view of the tremendous work already done by the Trust at great speed, the people belonging to the neglected and depressed areas of Lahore have been pressing the Trust to undertake improvements in other areas also. Every efforts is being made to meet these requests as promptly as possible.

(6) During the first two years of the project drainage conditions of the area adjacent to Chhota Ravi and Ravi and Mianmir are also proposed to be improved. It is hoped that by the end of 1972 the present Municipal and Trust areas would be covered by sewerage and drainage.

INQUIRY INTO MALPRACTICES IN CONSTRUCTION OF NANKANA-
MANANWALA ROAD

*10649. Rai Mansab Ali Khan Kharal : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether Inquiry Officer, appointed for looking into the malpractices done in the construction of Nankana-Mananwala Road has submitted his report to the Government ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, what reasons have been given for defective construction of the said road and whether any action would be taken against the persons found guilty of the malpractices, if any ;

(c) in case no malpractices was done, reasons for which the said road was damaged and became unworthy of traffic within a few months of its completion ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) No. The Divisional Evaluation Team, Lahore is probing into the matter.

(b) Final report of the Divisional Evaluation Team, Lahore is still awaited.

(c) In view of reply in para 2 above, this question does not arise at this stage.

PROJECTS UNDER RURAL WORKS PROGRAMME

*10703. **Mian Nazeer Ahmed :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the total number of Projects under Rural Works Programme completed in the Province during 1966-67 and 1967-68 (upto 31st March, 1968) alongwith expenditure incurred in this behalf during each of the said years ;

(b) the total number of the said Projects to be implemented during the remaining part of the year, 1967-68 and the estimated expenditure in this behalf ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) :

(a)	Period	No. of schemes completed	Cost of scheme Rs.
(i)	Year, 1966-67	3,887	2,81,95,596.48
(ii)	Year, 1967-68 (upto 31st March 1968).	1,835	71,37,952.00
(b) (i)	No. of projects to be implemented during the remaining period of the year, 1967-68.	10,847	
(ii)	Estimated expenditure in this behalf.		8,06,98,127

ROADS IN LYARI AREA IN KARACHI

*10762. Mian Saifullah Khan : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to refer to Part 'C' of the answer to my starred question No. 5290 given on the floor of the House on 26th May, 1967 and state whether the drains along all roads have been constructed and street lights provided in Lyari Area by Karachi Municipal Corporation ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : The question of providing surface drains on roads in Lyari Area presents a complex problem in view of the specially low levels, typical topographical features and excessive slum conditions in the locality. Further, provision of drains along roads is effectively possible only if there is out fall drain available for ultimate discharge and the levels of the surface drains along roads correspond to the levels and sections of the available out fall drains. Providing surface

drains along all the roads without reference to the sections and levels of the out fall drains shall go to waste. After survey of the locality, it was found possible to provide drains along the following roads and the same are now under execution :--

Name of Drains	Estimated cost
	Rs.
(1) Open surface drain at Agra Taj Colony Main Road Union Committee No. 25 Road No. 1.	12,149
(2) Open surface drain at Agra Taj Colony Main Road No. 2 Union Committee No.	2524,941
(3) Open surface drain on Atma Ram Road at Hungorabad Union Committee No. 25.	9,072
(4) Open surface drain at Rowa Chand Rattan Chand Street Union Committee No. 29.	5,725
(5) Open surface drain on School Road Union Committee No. 32.	11,470
(6) Open surface drain on Fida Hussain Shaikha Road Union Committee No. 29.	19,340
(7) Conversion of Kutchra drain into Pucca drain Union Committee No. 32.	14,470
(8) Open surface drain near Sweepers quarters Lyari Union Committee No. 32.	8,120
(9) Open surface drain on Muhammad Ali Alvi Road Union Committee No. 38.	9,012
(10) Open surface drain in Bihar Colony Union Committee No. 37.	4,634
(11) Open surface drain on Masjid Road Union Committee No. 54.	9,830

(12) Open surface drain in Union Committee No. 36.	20,185
Total :	<u>1,49,948</u>

In addition to above, the construction of the following drains is under sanction and execution will be taken up very soon.

Name of Drains	Estimated cost Rs.
(1) Open surface drain in Union Committee No. 26.	18,500
(2) Open surface drain in Union Committee No. 34.	63,198
(3) Open surface drain in Union Committee No. 42.	15,433
(4) Open surface drain in Union Committee No. 42.	18,184
(5) Open surface drain in Union Committee No. 43.	16,664
Total :	<u>1,32,295</u>

For other roads in Lyari Area, the construction of surface drains cannot be taken up until the decision regarding additional out fall drains in Lyari Area is finally taken as out fall drains proposed by Messrs Litchfield in their Greater Karachi surface drainage project for Lyari Area are only of a theoretical pattern based on complete removal of present Lyari population and complete re-development of the area which seems rather impracticable and far from factual approach to the problem. However, this issue is being scrutinized separately under the detailed study being made for ascertaining the technical feasibility of Litchfield surface drains project for Karachi City.

In K.M.C. Budget for the year, 1967-68, sufficient amount has been provided for the construction of drains and providing streets lights on all the roads. The work is in hand.

PROVIDING SANITATION TO LYARI AREA AND SHER SHAH COLONY
BY K.M.C.

*10763. Mian Saifullah Khan : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to refer to Part 2 of the answer to my started question No. 5299 given on the floor of the House on 15th June, 1967 and state whether the budgetted items for the improvement of sanitation have been provided to Lyari and Sher Shah Colony by Karachi Municipal Corporation ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : The budgetted items for improvement of sanitation have been provided to Lyari Area and Sher Shah Colony except for a few items. The details of works which were completed or are under completion are as under :—

LATRINES AT SHER SHAH COLONY

	Rs.
(1) Two sets of latrines under construction.	16,497
(2) Six sets of latrines under sanction.	39,300
Total :	<u>55,797</u>

DUST BINS

	Rs.
(1) Ten sets under sanction.	5,832

LATRINES AT LYARI

(1) Twelve sets of latrines completed.	76,270
(2) Twenty-two sets of latrines under construction.	57,197
Total :	<u>1,33,467</u>

DUST BINS

	Rs.
(1) Ten sets sanctioned (Work order have been placed).	5,832

*10771. **Mian Salfullah Khan** : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to refer to the answer to my starred question No. 8502 given on the floor of the House on 29th September, 1967 and state whether the scheme for Karachi Water Supply has since been recost and discussed in A.D.P. meeting ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : The Scheme for providing Water Supply and Sewerage Utility Services for Lyari with an estimated cost of Rs. 233.70 lacs was approved by the Provincial Development Working Party in 1966. Thereafter, on the requisition of the Planning and Development Department, Government of West Pakistan, additional copies of P. C. I. Form with rough cost estimates were supplied to them on difference occasions for processing the scheme through Central Development Working Party and the Executive Committee of the National Economic Council. No. intimation regarding clearance of the scheme by the Central Development Working Party, etc., has been received as yet. No provision has been made for it in the A.D.P. for 1968-69.

MAINTAINING PROPER CLEANLINESS IN SHAD BAGH COLONY,
LAHORE

*10798. **Rana Phool Muhammad Khan** : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the drainage system in Shad Bagh, Lahore is most defective with the result that the sullage water always gushes out of the manholes, flows on lanes and roads, accumulates in the open grassy plots and stagnates there emitting very bad smell and breeding mosquito ;

(b) whether it is a fact that the sewerage pipe line laid in the said colony is of very small diameter and the sullage water being large in quantity cannot easily pass through it and gashes out of the manholes ;

(c) whether it is a fact that insanitary conditions always prevail and

heaps of filth remain unremoved for many days in the said colony but on proper arrangements have been made for maintaining proper cleanliness therein ;

(d) whether it is a fact that the residents of the said Shad Bagh Colony have been making complaints to the authorities concerned against the most defective drainage system and the insanitary conditions in the said colony since long but to no avail ;

(e) if answer to (a) to (c) above be in the affirmative, reasons for not improving the drainage system and maintaining cleanliness in the said colony along with the names and designations of officials responsible for this state of affairs and the action Government intend to take against these officials ;

(f) whether Government intend to take immediate steps to improve the drainage system and ensure cleanliness in the said Colony ; if so, the exact date by which action will be taken in this behalf ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) No.

(c) The rubbish in Shad Bagh area is removed through two agencies—

(i) Corporation Staff and

(ii) Zamindara Carts.

It is ensured that the area is kept in a state of reasonable cleanliness. However, Zamindara Carts some time fail to turn up and this results in accumulation of rubbish on the concerned sites/depots for a day or so. Care is, however, taken to clear these sites also by the Corporation's staff.

(d) Yes.

(e) The drainage conditions in Shad Bagh area would improve as a result of the recently re-constructed outfall sewer and the disposal work of Tajpura repairs of the damaged portion of sewer and de-silting

programme undertaken by the Greater Lahore Water Supply, Sewerage and Drainage Project. The agencies working in the field have been performing their duties as best as they can. Therefore, the question of taking any action against any official does not arise.

(f) Work is already in hand. The Greater Lahore, Water Supply, Sewerage and Drainage Project is carrying on with desilting programme, re-construction of manholes and provision of Gully Gratings wherever required.

SALE OF SECURITIES BY MUNICIPAL CORPORATION

*10862. Malik Muhammad Akhtar : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to refer to part (d) of my starred question No. 9003 given on 19th October, 1967 and place on the Table of the House a copy each of the communication passed between the Commissioner, Lahore Division, and the Chairman, Lahore Municipal Corporation, in respect of grant of *post facto* sanction for sale of the securities ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : A copy each of the communication passed between the Commissioner, Lahore Division, and the Chairman, Lahore Municipal Corporation in connection with Investment of Municipal surplus money is placed on the Table of the House.*

INSTRUCTIONS REGARDING REGULATION OF SURPLUS FUNDS OF LOCAL BODIES

*10865. Malik Muhammad Akhtar : Will the Minister, for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that a copy of Ministry of Finance Government of Pakistan Circular Memorandum No. F6(i)IFIV/65, dated 16th

*Please see Appendix V at the end.

February, 1965 regarding regulation of surplus funds of local bodies was received by the Commissioner, Lahore Division for necessary action ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, details of instructions issued by the Commissioner, Lahore Division to all heads of the offices under his jurisdiction and if no instructions have so far been issued by him in this respect, reasons therefor ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes. It was received by him from Divisional Saving Officer, Lahore, but not from the Government in the Basic Democracies, Social Welfare and Local Government Department.

(b) A copy of the instructions issued consequently by the Commissioner, Lahore Division is (placed on the Table of the House).*

DEPOSIT OF SURPLUS FUNDS BY LAHORE MUNICIPAL CORPORATION
IN APPROVED BANKS

*10867. Malik Muhammad Akhtar : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that in November, 1967 the Secretary to Government, West Pakistan, Basic Democracies and Local Government Department issued a letter to the Commissioner, Lahore Division directing him to instruct the Lahore Municipal Corporation to equally deposit its surplus funds in the approved Banks; if so, a copy of the said letter be placed on the Table of the House ;

(b) whether the said Commissioner has issued any instructions to the Chairman, Lahore Municipal Corporation in the matter in the light of the said letter ; if so, details of the instructions so issued and if no instructions have so far been issued, reasons therefor ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian

*Please see Appendix VI at the end.

Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes. A copy of Government letter No. SOI-(LG)-LMC-3 (36)/67, dated 14th November 1967 addressed to the Commissioner, Lahore Division, Lahore and a copy to the Chairman, Lahore Municipal Corporation is placed on the Table of the House.*

(b) The Commissioner has assured the Government that till a detailed policy for the investment of surplus funds of Local Bodies is devised at Government level, he will like the Lahore Municipal Corporation to follow a policy devised by a house after open discussion. It is presumed that he has instructed the L.M.C. accordingly.

The Chairman, L.M.C. has informed that he has not invested even a single rupee in any bank subsequent to the receipt of the Government letter referred to above. The Chairman has also informed that in fact the L.M.C. is withdrawing all the matured deposits from various banks which have been provided on the capital income of its budget for the year 1967-68.

Rules for regulating the deposits of Local Bodies have been under the consideration of Government and will be issued as soon as cleared by the Finance Department.

—————
OPENING OF UNITED BANK LTD., AT PREMISES OF TOWN
HALL, LAHORE

*10868. Malik Muhammad Akhtar : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to refer to the answer to my starred question No. 8963 given on the floor of the House on 29th September, 1967 and place on the Table of the House a copy of the lease deed executed between the Chairman, Lahore Municipal Corporation and the United Bank Limited in connection with the lease of a portion of the Town Hall Building ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian

**Please see Appendix VII at the end.*

Muhammad Yasin Khan Wattoo) : The terms and conditions of the lease communicated to the United Bank Limited are embodied in the Accounts Officer, L.M Cs. Memo. No. 5420/G., dated the 10th November, 1966. The lease has been renewed on the existing terms and conditions for the year 1968 (31st December 1967 to 30th December 1968). A copy of the same is placed on the Table of the House.* However, the reply to the acceptance of the terms and conditions contained in the above referred memo, has not so far been received from the United Bank Ltd. and the matter is under correspondence between the L.M.C. and the United Bank Ltd.

It may be clarified that small strip of land, and not "a portion of the Town Hall Building" was leased out by the L. M. C. to the United Bank Ltd. for the construction of the Booth.

EXECUTION OF WORKS UNDER SECTION 81(3) OF THE MUNICIPAL
ADMINISTRATION ORDINANCE

*10869. Malik Muhammad Akhtar : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that since the Lahore Municipal Corporation was reconstituted in 1966, certain works under section 81 (3) of the Municipal Administration Ordinance have been executed through the ages of the Corporation itself ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, the details of works so executed stating the names of the streets, number of the Union Committees within which situated, the name of the Chairman of the Union Committee concerned and the total amount spent on each work ;

(c) whether the conditions laid down under section 81(3) of the Municipal Administration Ordinance and the rules framed thereunder

*Please see Appendix VIII at the end.

was fulfilled in the execution of each of the said works and that no departure was made from the said conditions ;

(d) the total amount due from the residents of the said areas, the amount so far recovered and the balance still outstanding as on 31st December, 1967 ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) The required information till 31st December, 1967, is given in the statement placed on the Table of the House.*

(c) Under directions of the Commissioner, Lahore Division (Controlling Authority), the L. M. C., have been authorized to incur expenditure on the levelling, pavement, lighting, etc., of the private streets and to recover 50% of the cost from the frontagers of the area in due course after the completion of the work. In accordance with this policy directive, notices under section 81(3) are issued to the residents of the area and works are put in hand after they give their consent to pay 50% share of the cost of the completed project.

(d) The total amount due from the residents of the area as on 31st December 1967 was Rs. 5,44,681 of which a sum of Rs. 21,265 only has been recovered leaving an outstanding recoverable balance of Rs. 5,23,416.

ESTABLISHING AGRICULTURE CENTRES IN UNION COUNCILS

*10943. Mr. Muhammad Umar Qureshi : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that on 14th November, 1967, the Divisional Council, Hyderabad passed a resolution recommending the Government to establish an agriculture Centre in each Union Council for imparting training to the cultivators ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, whether any action has been taken on the said resolution ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) The necessary action is being taken by the Government on Agriculture side.

SUKKUR SEWERAGE AND DRAINAGE SCHEME PART I

*10957. Mr. Muhammad Umar Quresbi : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the year in which Sukkur Sewerage and Drainage Scheme Part I was approved ;

(b) the year in which work on the said scheme was started ;

(c) the year-wise amount allocated for the said scheme and the amount actually spent thereon each year and the time by which the work on the said scheme will be completed ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) The Sukkur Sewerage and Drainage Scheme was approved during 1963-64 at an estimated cost of Rs. 49,75,000 ;

(b) The work on this scheme was started during 1963-64 ;

(c) Yearwise allotment and expenditure incurred on this scheme is as under :—

		<i>Allotment</i>	<i>Expenditure</i>
		Rs.	Rs.
1963-64	...	5,00,000	98,685
1964-65	...	3,00,000	2,11,365

1965-66	...	50,000	42,360
1966-67	...	2,00,000	37,940
1967-68

The completion of the scheme depends upon the availability of funds provided from the Government. However, it is hoped that the scheme shall be completed during the IV plan period.

GREATER LAHORE SCHEMS

*10972. Mian Muhammad Shafi : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state the details of the projects, on which the work has been taken in hand under the "Greater Lahore Water-Supply, Sewerage and Drainage Scheme alongwith the likely date by which they will be implemented ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : The details of the project on which the work has been taken in hand are shown in the consolidated statement placed on the Table of the House* giving cost, up-to-date progress and target dates of completion.

DHOBI MANDI SCHEME, LAHORE

*10973. Mian Muhammad Shafi : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the expenditure so far incurred on the implementation of "Dhobi Mandi Scheme Lahore" and the likely date by which it will finally implemented ;

(b) the alternative arrangements made for the residential accommodation of the inhabitants of the area affected by the said scheme ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo): (a) The Dhobi Mandi Scheme forms a part of larger Central Area Commercial Development Scheme. An amount of Rs. 1,36,295.00 has so far been spent on its feasibility study, etc. As the scheme is under examination in the Trust it is not possible at this moment to fix date of its implementation ;

(b) The scheme also contemplates to provide alternative residential accommodation to the affected persons in the 2,000 acres (Katcha Multan Road Scheme) which has also been submitted by the Trust to Government.

SCHMES WITH LAHORE IMPROVEMENT TRUST

***10974. Mian Muhammad Shafi :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the names of schemes prepared by the Lahore Improvement Trust during the last 10 years alongwith the names of these out of them which were sanctioned by the Government ;

(b) the names of schemes out of those mentioned in (a) above which have been fully implemented and are under the process of implementation ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo): (a) Schemes framed by the Lahore Improvement Trust during the last 10 years.

<i>Serial No.</i>	<i>Name of the scheme</i>
1.	Islamia Park Scheme.
2.	Timber Market Scheme.
3.	General Bus Stand.
4.	New Link Road Scheme.

5. 221 Acres (New Muslim Town) Scheme
6. Truck Stand Scheme.
7. New Mewa Mandi Scheme.
8. Sabzi Mandi Scheme.
9. New Garden Town Scheme.
10. Mela Ram Road, Lahore.
11. Ichhra Dev. Scheme.
12. Raj Garh Dev. Scheme.
13. Garhi Shahu Scheme No. 3.
14. Jia Musa Scheme.
15. Central Commercial Area.
16. 2000 Acres (Katcha Multan Road).
17. Industrial Housing Scheme.
18. Ravi Park Scheme.
19. Out fall road scheme.
20. Model Town Scheme.
21. Kashmir Egerton Road Scheme.

Out of scheme mentioned at (a) Nos. 1 to 10 have been sanctioned.

(b) Schemes from No. 1 to No. 4 have been fully implemented. Schemes from No. 5 to No. 10 are at various stages of implementation.

SUPPLYING WATER TO LAHORE

*10975. Mian Muhammad Shafi : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the functions assigned to the Lahore Municipal Corporation with regard to water-supply after the enforcement of the Greater Lahore Water-Supply, Sewerage and Drainage Scheme Ordinance, 1967 ;

(b) the areas in which, the said Corporation is still responsible for the administration of water supply service and the arrangements being made by the said Corporation in this regard ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : (a) All work relating to Water Supply has been transferred to the Lahore Improvement Trust on the promulgation of the Greater Lahore Water Supply, Sewerage and Drainage Ordinance, 1967. The Corporation has no concern whatsoever with the work connected with the Water Supply in various areas of Lahore City.

(b) As answer in (a) above.

DISPOSAL OF QAUID-AZAM TRUST LANDS IN GULBERG, LAHORE

***11071. Pir Ali Gohar Chishti :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Lahore Improvement Trust arranged the disposal of the Quaid-i-Azam Trust lands situated in Gulberg, Lahore ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, (i) the total land in kanals ; (ii) the number of residential and commercial plots alongwith their maximum and minimum areas ; (iii) the number of plots so far sold or auctioned ; (iv) the maximum and minimum rates per kanal of the plots, and (v) the number of plots which have not been sold or auctioned alongwith reasons thereof ?

Minister of Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) (i) 324 k, 2m, 179 sft.

(ii) 117, 114 are residential plots with an area 239 k, 1 m, 196 sft., one plot with an area 3 k, 5m, 50 sft., is under school ; one plot with an area of 1 k, 2 m, 134 [sft., is [under mosque and 14 k, 16 m, 130 sft., is under mosque and market.

The maximum area 11 k, 4 m, 55 sft.

The minimum area ... 0 k, 7 m, 0 sft.

(iii) 113 sold or exempted.

(iv) Maximum rate for Gulberg II plots—Rs. 3,000 p. k.

Maximum rate for Gulberg III plots—Rs. 3,050 p.k.

Minimum rate for Gulberg II plots—Rs. 1,200 p.k.

Minimum rate for Gulberg III plots - Rs. 3,050 p. k.

(v) Four (these four plots are reserved for exemption to Quaid-i-Azam Trust).

MEETINGS HELD BY DIVISIONAL COUNCIL, SARGODHA

*11084. Chaudhri Muhammad Idrees : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the number of meetings held by Divisional Council, Sargodha, during the year, 1966-67 and from 1st July, 1967 to 31st December 1967 ;

(b) the dates on which the said meetings were held ;

(c) the number of items on the agenda prepared for each of the said meetings ;

(d) the time of commencement and adjournment of each meeting alongwith the period of recess taken for tea ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) :

(a)	(b)	(c)	(d)
Nos. of Meetings held by the Divisional Council, Sargodha during the Years	Dates on which meetings were held	Nos. of items on the Agenda for each Meeting	Times of commencement of adjournment recess tea
1966-67	1st July, 1967 to 31st December, 1967	Nos. of questions proposals R.W.P. Schemes each meeting	ment of each meet- ing
1st special meeting	11th July, 1966	Inaugural speech by Commissioner and administration of each allegiance	15 Min.
1st meeting ordinary	8th October, 1966	5 35 14	8.00 a.m. 11.00 p.m. 1.30 p.m. Do.
	7th January, 1967	... 45	10.30 a.m. 1.30 p.m. Do.
2nd meeting	10th April, 1967	... 85	10.00 a.m. 1.00 p.m. Do.
3rd meeting	8th July, 1967	2 29	9.30 a.m. 1.30 p.m. Do.
4th meeting	14th October, 1967	9 37	8.30 a.m. 12.30 p.m. Do.
5th meeting	2nd December, 1967	5 36	9.30 a.m. 1.30 p.m. Do.
6th meeting	1967	21	10.00 a.m. 1.30 p.m. Do.

PROVIDING WATER TO VILLAGE KHARSAR, TALUKA NAGARPARKAR
DISTRICT THARPARKAR

*11093. **Rana Chander Singh** : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that in 1967 Village Kharsar, in Union Council, Viravah, Taluka Nagarparkar, District Tharparkar was totally burnt to ashes by fire ;

(b) whether it is a fact that due to scarcity of water in that area the fire could not be brought under control ;

(c) if answer to (a) and (b) above be in the affirmative, whether Government intend to construct Talabs or provide other means of water-supply in that area of Desert ; if so, when and if not, the reasons therefor ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : (a) No information is available.

(b) No information is available.

(c) There is no such scheme with this Department.

REVISION OF RULES GOVERNING RETIREMENT OF OFFICERS AND EMPLOYEES
WORKING IN VARIOUS TIERS OF BASIC DEMOCRACIES

*11108. **Pir Ali Gohar Chishti** : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that there has been proposal under the consideration of Government for the revision of rules governing retirement of the Officers and employees working in various tiers of Basic Democracies ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, whether the matter has been decided ; if not, time required for the same ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : The West Pakistan Local Councils and Municipal Committees Servants (Retirement) Rules, 1966 were published in November, 1966 and at present there is no proposal for the revision of these rules.

(b) Question does not arise.

RESIGNATION OF B.D. MEMBER FROM WARD No. 38 BURT RAILWAY COLONY, LAHORE

***11158. Pir Ali Gohar Chishti :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Mr. Muhammad Nasir Qari, a B.D. Member from Ward No. 38, Burt Railway Colony, Lahore tendered his resignation from the B.D. Membership on January 13th 1968 ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, whether the Member assigned any reasons for his resignation and cited certain complaints ;

(c) if answer to (b) above be in the affirmative, what are the reasons and nature of the complaints ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The member has complained that (i) the Lahore Municipal Corporation has no direct responsibility for the welfare of the area falling under Railway Colony which is a part of electoral unit No. 744 ; (ii) that sanitation work in the Railway Colony is in a hopeless mess and the condition of the roads is deplorable ; (iii) the Railway Authorities do not allow participation of Basic Democrats in their local affairs.

REPAIRS TO A STRETCH OF ROAD BETWEEN KHADRA AND JAMRAO

*11183. Haji Mir Khuda Bux Talpur : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that a stretch of road about four furlongs in length between Khadra and Jamrao in Sanghar District, which comes within the jurisdiction of District Council is in a deplorable condition due to the water logging ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, whether Government intend to repair the said stretch of this road ; if so, when ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) No. The question of repairing this road was discussed in the meeting of District Council, Sanghar, but was dropped as the urgency of the road is not felt due to the fact that a pucca metalled road is passing side by side with this link road.

DELEGATION OF POWERS BY MUNICIPAL COMMITTEES TO THE RESPECTIVE
UNION COMMITTEES

*11187. Khan Gul Hameed Khan : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the West Pakistan Government has recently issued a circular whereby all the Municipal Committees of the Province have been directed to delegate some of their powers to their respective Union Committees ;

(b) whether it is a fact that Mianwali Municipality has not delegated any powers to its Union Committees so far ; if so, reasons therefor and the likely date by which the said Municipality would implement the instructions of the above said circular ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) No. Question does not arise.

INSTALLATION OF LIGHT POINTS IN KOHAT CITY

***11256. Khanzada Taj Muhammad Khan Bangash :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Municipal Committee, Kohat, deposited an amount of Rs. 6,100.80 with the WAPDA Sub-Division (Electricity) Kohat in connection with the installation of light points in the City ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, whether it is a fact that those points have not yet been installed ;

(c) if answer to (b) above be in the affirmative, reasons for the delay ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes. A sum of Rs. 6,100.80 was paid on 16th July 1967 to WAPDA for installation of 60 light points as estimated by the WAPDA Sub-Division, Kohat.

(b) Yes.

(c) This concerns the WAPDA. No reasons have been given by them.

**DISPLAY OF ADVERTISEMENT BOARDS OF PICTURES RELEASED
IN CINEMAS**

***11261. Chaudhri Muhammad Sarwar Khan :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Cinema owners of Lahore are hanging advertisement Boards of the pictures being released in their cinemas on the trees standing on the road sides in Lahore City ;

(b) whether Lahore Corporation realises any rent from the said owners on this account ; if so, the amount so realised since 1965 uptil now ;

(c) in case the display of the said boards is unauthorised, the action Government intend to take against the concerned officials for their failure to check the said unauthorised practice ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) No. Such display of Boards, Banners etc. is not permissible under the Bye-Laws.

(c) Regular raids are conducted for the removal of such unauthorised boards and the offenders are challaned.

ENGINES INSTALLED IN SHAD BAGH, LAHORE FOR PUMPING OUT
SULLAGE WATER

*11277. Babu Muhammad Rafique : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the engines installed in Shad Bagh, Lahore for pumping out sullage water are not operated regularly ;

(b) whether it is a fact that the oil supplied for the said engines is misused by the operators of the said engines ;

(c) if answer to (a) and (b) above be in the affirmative, the steps Government intend to take to check the misuse of oil and to ensure proper running of engines ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian

Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) No.

(b) No.

(c) No steps required to be taken in view of (a) and (b) above.

TWO THOUSAND ACRE SCHEME MULTAN ROAD, LAHORE

*11308. **Chaudhri Muhammad Nawaz** : Will the Minister of Basic Democracies and Local Government please refer to answer to starred question No. 9083, placed on the Table of the House on 29th September, 1967, and state the total amount allocated for "Two Thousand Acre Scheme," Multan Road, Lahore in the year 1966-67 and 1967-68 separately, alongwith the actual amount spent so far on the said scheme during the said years ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : The reply is as under :—

Serial No.	Year	Amount allocated	Expenditure incurred	Remarks
1	1965-66	10.31 lacs	Nil	This amount was released towards the close of the financial year.
2	1966-67	Nil	3,91,125.00	Out of funds allocated at No. 1.
3	1967-68	100.00 lacs	1,70,779.00	As above. The release of funds is subject to scheme being approved by the competent authority. The scheme is yet unapproved.

COMPENSATION FOR LAND ACQUIRED FOR "2000 ACRE SCHEME"
MULTAN ROAD, LAHORE.

*11309. Chaudhri Muhammad Nawaz : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the present stage of the "2000 Acre Scheme" Multan Road, Lahore ;

(b) whether land has been acquired from the land-owners for the said scheme ;

(c) if answer to (b) above be in the affirmative, whether compensation for the land acquired has been paid to the land-owners ; if not, reasons therefor and the time by which compensation will be paid to the affected land-owners ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) The scheme has been submitted to the Planning and Development Department for clearance by the Provincial Development Working Party/other competent authorities.

(b) No.

(c) In view of the reply at (b) this question does not arise.

REPORT REGARDING STARTING OF 90 PROJECTS BY LAHORE MUNICIPAL
CORPORATION.

*11315. Chaudhri Muhammad Nawaz : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Lahore Municipal Corporation submitted a report to Lahore Divisional Council showing that 90 Projects were started by the said Corporation during the months of October, November and December, 1967 and were completed at a cost of thirty lakh rupees during the said period ;

(b) whether it is a fact that the said report of the Corporation was

not based on facts and the said 90 Projects were not completed but the work on most of them was not even started during the said period and has not been started so far ; if so, the reasons for submitting wrong report to the Divisional Council and the action proposed to be taken against the official for submitting false report ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes. The quarterly report of Lahore Municipal Corporation (for the period October to December 67) submitted to the Divisional Council, Lahore, consisted of 67 items instead of 90 items. The approximate cost was Rs. 10,39,000 and not Rs. 30 lakhs.

(b) No. The report was based on facts. All works mentioned therein were in progress.

**REMOVAL OF THE VICE-CHAIRMAN OF THE LANDHI-KORANGI
MUNICIPALITY.**

***11329. Chaudhri Muhammad Sarwar Khan :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Vice-Chairman of the Landhi-Korangi Municipality has ceased to be a member of the said Municipality as a result of a no-confidence motion passed against him as Chairman of the Union Committee ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, (i) the date on which the said no-confidence motion was moved and passed ; (ii) whether the new Vice-Chairman has been elected ; if so, when ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) (i) 30th October, 1967.

(ii) Not yet.

PROPOSAL TO CREATE A NUMBER OF MUNICIPALITIES IN KARACHI

*11335. Chaudhri Mohammad Sarwar Khan : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that an overwhelming majority of the elected Members of the Divisional Council (Karachi) recently submitted a requisition to convene a special meeting of the Council to discuss the proposal to create a number of Municipalities in Karachi ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, when was the said requisition submitted and whether the said meeting was held; if so, when ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) The requisition for Special Meeting was submitted on 13th February 1967. The meeting was not held as it was not admissible under the Rules.

POSTS OF ASSISTANT DIRECTORS, BASIC DEMOCRACIES IN FORMER
SIND AREA.

*11336. Syed Muhammad Murad Shah : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the number of posts of Assistant Directors, Basic Democracies, in the former Sind area ;,

(b) the number of posts, out of them, which were to be filled (i) by direct recruitment and (ii) by promotion of Development Officers, separately, alongwith the names of persons appointed under each category showing the names of places to which each of them belongs ;

(c) whether the promotion of Development Officers against the said posts was made on the basis of seniority ; if so, a copy of the seniority list may be placed on the table of the House ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Eleven.

(b) the post of Assistant Directors Basic Democracies are filled up on all West Pakistan basis and not on Regional basis and as such it cannot be stated how many posts out of those mentioned at (a) above were to be filled by direct recruitment and by promotion. The names of officers at present working in Sind Region with their home districts are detailed below :—

<i>Names of the persons</i>	<i>Home Districts</i>
(1) Mr. M.A. Siddiqui	... Kalat.
(2) Mr. Noor Muhammad Sial	... Khairpur.
(3) Mr. Muhammad Sultan	... Sanghar.
(4) Mr. Rasool Bux Unar	... Khairpur.
(5) Mr. Abdul Qayyum Sheikh	... Sukkur.
(6) Mr. S.H. Ramzi	... Bahawalpur.

The first two were recruited directly while the remaining 4 are promotees. There are 5 vacancies which will be filled up shortly.

(c) No. The question of seniority list does not arise.

APPOINTMENT OF WHOLETIME CHAIRMAN OF MUNICIPAL COMMITTEES AND DISTRICT COUNCILS

*11340. Khan Gul Hameed Khan : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the total number of Municipal Committees and District Councils in West Pakistan where wholcetime and part-time Chairmen respectively are posted ;

(b) whether it is a fact that the part-time Chairmen are not devoting full attention to the work of the respective local bodies, with the result that the implementation of Development Programme is delayed ;

(c) whether Government intend to appoint wholetime Chairmen of Municipal Committees and District Councils throughout the Province; if so, when ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Municipal Committees where wholetime Chairmen are posted 58

Municipal Committees where Part-time Chairmen are posted 29

District Councils where wholetime Chairmen are posted 5 Nil

District Councils where part-time Chairmen are posted 46

(b) No.

(c) No.

METALLING OF ROAD BETWEEN CHAK RAILWAY STATION AND SIKANDERABAD.

*11422. Diwan Syed Ghulam Abbas Bokhari : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Sikanderabad is an important commercial town of agricultural produce situated at a distance of 3 miles from Chak Railway Station in Multan District ;

(b) whether it is a fact that Kacha road existing between Chak Railway Station and the said town is in a state of utter disrepair with the result that it has become impassable ;

(c) whether it is a fact that the inhabitants of that area have been clamouring since long for the metalling of the said road as they are facing inconvenience in coming and going to the Chak Railway Station ;

(d) if answer to (a) to (c) above be in the affirmative, whether Government intend to metal the said road ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo): (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) Yes. Efforts are being made to earmark necessary funds for this work during the next financial year.

CONSTRUCTION OF BUILDING FOR BOARDING HOUSE OF DISTRICT
COUNCIL HIGH SCHOOL SIKANDERABAD.

*11423. Diwan Syed Ghulam Abbas Bokhari: Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state: —

(a) whether it is a fact that a District Council High School is functioning at Sikanderabad in District Multan;

(b) whether it is a fact that the number of students of mofussil areas studying in that High School is nearly one hundred and fifty, who are putting up at the boarding house of the said school;

(c) whether it is a fact that the building of the said boarding house is a rented one which is in a dilapidated condition and is situated in an unhealthy environment;

(d) if answer to (a) to (c) above be in the affirmative, whether Government intend to make arrangements for the construction of a suitable building for the said boarding house?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo): (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes. Efforts are underway to shift the boarding house to the nearby available building.

(d) Yes. Necessary provision of funds is being made during the next financial year for the construction of new building.

SUPPLY OF MEDICINES TO PATIENTS FROM DISPENSARY AT
DUNYAPUR

***11428.** Diwan Syed Ghulam Abbas Bokhari : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Dunyapur is a well known and important town of Tehsil Lodhran, District Multan and it is a central place having a population of thirty thousand people ;

(b) whether it is a fact that a District Council dispensary exists in the said town but the medicines are not provided to the poor patients visiting the said dispensary ;

(c) whether it is also a fact that the Doctor Incharge of the said dispensary instead of giving medicines to the poor patients, gives them prescription slips and instructs them to purchase the medicines from the bazar ;

(d) if answer to (a) to (c) above be in the affirmative, whether Government intend to make arrangements for providing the requisites medicines to the patients from the said dispensary ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes. Its population is 6148 according to census of 1961.

(b) Yes. Every patient is being given medicines according to his requirement.

(c) No.

(d) In view of (a) to (c) above, does not arise.

METALLING OF KANDIWALA ROAD

***11475.** Chaudhri Muhammad Nawaz : Will the Minister for Basic

Democracies and Local Government please refer to answer to part (a) of starred question No. 4248, placed on the Table of the House on 24th November 1966 and state:—

(a) whether the work of metalling of Kandiwala Road has been started ; if not, reasons therefor ;

(b) whether it is a fact that in addition to Middle Schools for boys and girls, Police Station, Veterinary Hospital, and a Civil Hospital already existing on the unmetalled portion of the said road, a Telegraph Office has recently been opened there ;

(c) if answer to (b) above be in the affirmative, whether Government intend to consider the advisability of metalling the said road without further delay ; if not, reasons therefor ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : (a) No, the matter regarding construction of Lalian-Kandiwala road was discussed by the District Project Committee/District Council, Sargodha in their meeting held on 2nd February, 1967 and 7th February, 1967 respectively and it was decided that the road scheme already approved by the District Project Committee/District Council were of more pressing nature than the road in question, therefore, it could not be included in the current year Annual Development Programme.

(b) No, only 2 primary schools and one canal dispensary is situated on the 3½ mile portion which lies in District Sargodha.

(c) In view of the position explained above there is no such possibility of metalling this road during the current year.

**GREATER LAHORE WATER SUPPLY SEWERAGE AND DRAINAGE
PROJECT**

*11529. **Mian Muhammad Shafi :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state the total amount of loan

received by "Lahore Improvement Trust" from the World Bank for implementing Greater Lahore Drainage and Water Supply Scheme alongwith the amount out of the above said loan which has so far been spent ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : The total amount of loan for the Greater Lahore Water-Supply, Sewerage and Drainage Project from International Development Association and Government of Sweden is 3.5 million dollars i.e., Rs. 1,66,60,000 for the first two years of the Project.

Out of this amount \$ 4,99,885 (Rs. 23,89,453) have been spent.

SCHOOLS CONSTRUCTED BY DISTRICT COUNCIL, LASBELA

***11532. Mr. Muhammad Hashim Lassi :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the total number of schools constructed by the District Council Lasbela during the years 1964, 1965, 1966 and 1967 in District Lasbela ;

(b) the number of schools to which an extension of one room was made by the said Council in the years 1964, 1965, 1966 and 1967 ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd.

Yasin Khan Wattoo) : (a) Year-wise number of Schools constructed by the District Council, Lasbela is as under :—

1963-64	23 Schools.
1964-65	10 Schools.
1965-66	1 School.
1966-67	3 Schools.

(b) The extension of one room provided to the existing Schools Buildings year-wise is given below :—

1963-64	1 School.
1964-65	2 Schools.
1965-66	7 Schools.
1966-67	1 School.

NON-PAYMENT OF HOUSE TAX BY RESIDENTS OF SAHIWAL.

*11555. **Chaudhri Muhammad Nawaz** : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state the number of the defaulters who have not paid their House Tax Bills to the Sahiwal Municipal Committee alongwith the amount of arrears outstanding against them from 1960-61 to 1967-68 and reasons for not recovering arrears from them so far ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : The total amount recovered as arrears of House Tax is Rs. 1,33,983. 28 defaulters are private persons and five defaulters are Government Departments. Cases with Government Departments are pending settlement while cases against private persons are being pursued.

JASHAN-I-ROHI COMMITTEE OF BAHAWALPUR

*11575. **Khawaja Muhammad Safdar** : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the names alongwith official designations of the Chairman and members of the Jashan-i-Rohi Committee of Bahawalpur who organised the Jashan-i-Rohi held in March, 1968 ;

(b) the income from all sources i.e. sale of tickets, donations rent of stalls, etc., which accrued to the said Jashan-i-Rohi Committee ;

(c) the total expenditure alongwith the details incurred by the Jashan-i-Rohi Committee Bahawalpur ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : (a) There were 59 members of the Organizing Committee of the Jashn-e-Rohi, 1968. A complete list is placed on the Table of the House.*

(b) The income from all sources was Rs. 2,25,952.11. Statement is placed on the Table of the House.*

(c) The total expenditure to date is Rs. 1,52,763.98. A complete list is placed on the Table of the House.*

JASHAN-I-MULTAN COMMITTEE

***11578. Khawaja Muhammad Safdar :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the names alongwith official designations of Chairman and members of the Jashan-i-Multan Committee which arranged Jashan-i-Multan in March, 1968 ;

(b) a statement of accounts for income and expenditures of the said Jashan-i-Multan showing various heads of income such as sale of Tickets donations, rent of stalls as well as different heads of expenditure such as fire-works, Mushaira, Qawwali, Variety show, lighting etc. may kindly be placed on the table of the House ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : (a) (1) All M. N. As.

(2) All M. P. As.

(3) Deputy Commissioner.

(4) Chairman, Municipal Committee, Multan.

(5) Divisional Inspector of Schools.

(6) Deputy Director, Lahore.

(7) Deputy Director, Industries.

- (8) Director, Excise and Taxation, Multan.
- (9) Mian Mughis Sheikh, Managing Director, C.T.M. Multan.
- (10) Mian Mukhtar A. Sheikh, Managing Director, U.T.M. Multan.
- (11) Khawja Abdul Wadeed, Zeenat Cotton Factory, Multan and
- (12) Mufti Karim Bakhsh, Prop., Firdous Hotel, Multan.

(b) Income—

	Hs.
(1) Sale of tickets for Cultural Show ...	1,48,420
(2) Sale of entry tickets for Industrial Exhibition and rent of stalls ..	96,000
(3) Amounts donated by various banks for Mushaira ...	7,500
(4) Amounts donated by banks for Drama ...	3,000
(5) Donation from others for Husn-e-Qirat	5,000
Net Income ...	2,59,920

Expenditure—

(1) Cultural Show and Qawali ...	55,504
(2) Expenditure on Mushaira ...	7,500
(3) Expenditure on Drama ...	3,000
(4) Expenditure on Husn-e-Qirat ..	5,000
(5) Expenditure on Electricity including Fire-work ...	40,320
Total ..	1,11,324
Net saving ...	1,48,596

Note—Electric light supplied free of cost by the Multan Electric Supply Company at Cultural Show, Drama and Mushaira.

**POSTS OF ASSISTANT DIRECTORS BASIC DEMOCRACIES IN FORMER
SIND REGION.**

***11617. Mr. Mazhar Hussain Ghaloo :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the number of the posts of Assistant Directors Basic Democracies in former Sind Region ;

(b) the number of posts out of those mentioned in (a) above, which were to be filled by direct recruitment and by promotion of Development Officers, separately, alongwith the names of persons appointed under each category showing the names of places to which each of them belongs ;

(c) whether the promotion of Development Officers against the said posts was made on the seniority basis ; if so, a copy of the seniority list of Development Officers of Sind Region be placed on the table of the House ;

(d) whether it is a fact that the case of Mr. Sultan, Assistant Director Basic Democracies, Sanghar, has never been referred to West Pakistan Public Service Commission for approval in his capacity as Development Officer or Assistant Director, Basic Democracies since last 10 years ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : (a) Eleven.

(b) the post of Assistant Directors, Basic Democracies are filled up on all West Pakistan basis and not on Regional basis and as such it cannot be stated how many posts out of those mentioned at (a) above were to be filled by direct recruitment and by promotion. The names of officers at present working in Sind Region with their home districts are detailed below :—

<i>Names of the persons</i>	<i>Home Districts</i>
(1) Mr. M.A. Siddiqui	... Kalat.
(2) Mr. Noor Muhammad Sial	... Khairpur.

- (3) Mr. Muhammad Sultan ... Sanghar.
- (4) Mr. Rasool Bux Unar ... Khairpur.
- (5) Mr. Abdul Qayyum Sheikh ... Sukkur
- (6) Mr. S.H. Ramzi ... Bahawalpur

The first two were recruited directly while the remaining 4 are promotees. There are 5 vacancies which will be filled up shortly.

(c) No. The question of seniority list does not arise.

(d) Yes.

**SUB-COMMITTEE TO UNDERTAKE SURVEY OF DEPLORABLE CONDITIONS
PREVAILING IN SCHOOLS IN LAHORE DIVISION**

*11633. **Malik Ghulam Ali** : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state whether it is a fact that the Lahore Divisional Council had constituted a Sub-Committee to undertake survey of the deplorable conditions prevailing in the schools in Lahore Division ; if so, work done by the said Committee upto now ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes A Sub-Committee was constituted by the Lahore Divisional Council to undertake the survey of the deplorable condition prevailing in schools.

(b) A survey was conducted by the Sub-Committee. Detailed reports about the schools in all the four Districts of Lahore Division were prepared and placed before the Sub-Committee. The decisions arrived at were brought to the notice of the local bodies through the District inspectorates of schools concerned. The Managements are making efforts to improve their schools according to their resources.

SWEETS AND MEALS PREPARED WITH VANASPATI BY HOTELS

*11636. Malik Ghulam Ali : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that owners of sweetshops and hotels, dealing in eatables within the limits of Lahore Corporation are required to display notice boards to the effect that sweets and meals are prepared with Vanaspati ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, arrangements made by Lahore Municipal Corporation for the inspection of the display of the notice boards ;

(c) the action taken against the owners of Sweet shops and Hotel during 1966-67 and 1967-68 for not displaying the said notice boards alongwith number of challans made, if any, in this connection during the said period ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes. Under Lahore Municipal Corporation Sanitation Bye-Laws 1964 Part VIII 59 (h).

(b) It is the duty of the Chief Sanitary Inspector/Sanitary Inspector to check the enforcement of the above mentioned Bye-Laws.

(c) Defaulters are prosecuted. During the period 86 prosecutions were launched. Year-wise detail is as under :—

1966-67	...	18
1967-68 upto 31st March 1968	..	68

WATER CHARGES LEVIED IN THE VARIOUS LOCALITIES OF KARACHI.

*11656. Mr. Mahmood Azam Farooqi : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the rates at which water charges have been levied in the various localities of Karachi, namely, Nazimabad, Government Quarters in Jacob

Lines, Pakistan Quarters, Lawrence Road, Liaqatabad, North Nazimabad, Federal 'B' Area and old town etc.,

(b) whether it is a fact that there is no uniformity in the rates of water charges which has resulted inequity ;

(c) if the answer to (b) above be in affirmative, whether the Government consider the desirability of introduction of uniform and equitable rate for water charges applicable to all consumers of this basic commodity in Karachi ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Mohd. Yasin Khan Wattoo): (a) (i) Water charges at the rate of Rs. 1.50 per thousand gallons of water is being charged from the consumers in all K.D.A. Schemes including North Nazimabad and Federal-B Area on the basis of Meter reading. Where there are no Meters flat rates are charged which are as under :—

		<i>Size of connection</i>	<i>Water charges per month</i>	
			Rs.	
North Nazimabad	...	1/2" Dia-meter	...	16.50
		3/4" Dia-meter	...	41.70
		1" Dia-meter	...	83.34
		<i>Size of plot Rate of Water Charges per month</i>		
			Single Storey	Double Storey
		Sq. Yds.	Rs.	Rs.
Federal B-Area	...	120	8.70	Nil.
		200	10.50	15.13
		400	17.85	25.50
		600	23.25	33.37
		1,000	33.75	48.37
		1,500	45.37	65.25
		2,000	54.39	76.00

(ii) Nazimabad	...	6½ % of the annual
Liaqatabad		rental value.
Old Town		1.50 per thousand gallon
		by meter reading which-
		is maximum.
(iii) Jacob Lines	...	Rs. 1.50 per thousand
Pakistan on Lawrance		gallon by meter reading.
Road.		

(b) and (c) There is uniformity in the water charges based on meter connections. For flat rates the matter is being considered by the K.D.A.

PROCEDURE FOR COLLECTION OF WATER CHARGES IN KARACHI

*11657. Mr. Mahmood Azam Farooqi: Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state : —

(a) the procedure, at present in operation, for the collection of water charges from the occupants of quarters and houses in Federal 'B' Area of K. D. A. Scheme No. 16 in Karachi i.e. in which office the challans for payment are prepared, where the payments are made and in which office the received bills are deposited by the consumers for accounting purposes ;

(b) whether it is a fact that the procedure for collection of bills for water charges is cumbersome and causes great inconvenience to people ;

(c) if answer to (b) above be in the affirmative, whether Government intend to consider the desirability of simplifying the procedure ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo): (a) The procedure for collection of water charges in Federal B, Area Scheme No. 16 is as follows :—

(i) Bill are prepared in the office of the Executive Engineer of Scheme No. 16.

(ii) Challans are prepared in the office of the Deputy Chief Accountant (Development).

(iii) Payments are received from the consumers in the Cash Department of the Accounts Office of K. D. A.

(b) It is correct that the present procedure of collecting the bills is cumbersome and is causing inconvenience to the people.

(c) The K. D. A. is already considering the question of simplifying this procedure.

RURAL WATER SUPPLY SCHEMES

*11699. Rais Haji Darya Khan Jalbani: Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state the amount so far spent on the implementation of each scheme out of the amount allocated in the 1967-68 budget for Rural Water Supply Schemes Khairpur Division alongwith the names of the villages where the said schemes have been implemented ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo): A provision of Rs. 10,56,000 was made in the Budget Estimate for execution of the following 10 rural Water Supply Schemes in Khairpur Civil Division against which an expenditure of Rs. 6,85,783 has been incurred up to 31st March 1968 and the works are still in progress.

Serial No.	Name of schemes	Provision for 1967-68	Expenditure for 1967-68 (upto 31-3-68)
1	Water Supply Scheme, Faiz Gu-nj, District Khairpur.	40,000	18,368
2	Water Supply Scheme Maro, District Nawabshah.	10,000	10,282

3	Water Supply Scheme, Miro, Khan District Larkana.	10,000	2,445
4	Water Supply Scheme Gambat, District Khairpur.	80,000	65,394
5	Water Supply Scheme Pirjogoth, District Khairpur.	70,000	40,880
6	Water Supply Scheme Sakrand District Nawabshah.	20,000	5,916
7	Water Supply Scheme Ghotki, District Sukkur.	50,000	29,459
8	Water Supply Scheme, Kam- bar, District Larkana.	5,00,000	2,80,978
9	Water Supply Scheme, Kand- kot, District Jaccobabad.	2,50,000	2,13,638
10	Water Supply Scheme, Usto Muhammad Khan, District Jaccobabad.	26,000	17,723
Total		10,56,000	6,85,783

**AMOUNT EXPENDED AND REMAINED UNUTILIZED UNDER RURAL
WORKS PROGRAMME SECTOR.**

***11705. Rana Phool Muhammad Khan:** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state the year-wise details of amount (i) expended and (ii) remained unutilized with reasons therefor during 1965-66, 1966-67 and 1967-68 under Rural Works Programme Sector?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo): Details are as follows :—

Year	Amount expended		Amount remained unutilized at the end of financial year
		Rs.	Rs.
1965-66	...	8,57,89,000	1,42,11,000
1966-67	...	1,65,30,000	1,84,70,000
1967-68	...	1,91,06,000	(since the finan- cial year is con- tinuing it is not possible to indi- cate the un-uti- lized amount at this stage).

(this is the amount granted to specific R. W. P. schemes up to 31-12-67)

Reasons for non-utilization—The Rural Works Programme funds are non-lapseable and as such if certain amount remains un-utilized on the schemes under implementation, work on them continues during the subsequent years. Therefore almost all the amount shown unutilized has since been expended but it cannot be shown as such unless the schemes are completed.

A few of the other reasons are as follows :—

- (i) delayed release of funds during all these years ;
- (ii) during 1965-66 a period of emergency in which all the development activities remained suspended.

**CONSTRUCTION OF A MEMORIAL IN MEMORY OF MARTYERS OF
SEPTEMBER 1965.**

*11732. Rana Phool Muhammad Khan : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that a resolution has already been passed by the District Council, Lahore to the effect that a Memorial in taken of

deep reference to Martyrs of the September, 1965 War be constructed in Lahore ;

(b) whether it is a fact that the said Memorial is proposed to be constructed in the lawns opposite the Provincial Assembly Secretariat building ;

(c) if answer to (a) and (b) above be in the affirmative, the steps being taken by the Government in this regard ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo): (a) Yes. The Resolution was passed by the District Council, Lahore, in its meeting held on 15th April 1966.

(b) Yes.

(c) The matter is receiving active consideration of Government.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

PLANS OF CONSTRUCTION IN KARACHI

373. **Mian Saifullah Khan:** Will the Minister of Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the number of plans of construction submitted for approval to the Architecture Branch of Municipal Corporation Karachi during 1964, 1965 and 1966 separately ;

(b) the number of plans out of those mentioned in (a) above which were (i) approved and (ii) rejected ;

(c) the number of plans mentioned in (a) which were submitted by (i) private owners and (ii) public sector ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo): (a) The number of plans of construction submitted for approval during 1964-65 and 1966, is 1107, 1336 and 1205, respectively.

(b) The number of plans approved during the years, 1964-65 and 1966 is 887, 935 and 1135, respectively and number of rejected plans is 114, 83 and 11, respectively.

(c) All the plans were submitted by the private sector.

STAY OF ANTI-CORRUPTION INSPECTOR, UMERKOT IN REST HOUSE,
THARPARKAR

378. **Haji Sardar Atta Muhammad** : Will the Minister of Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the number of Rest Houses which are under the control of District Council, Tharparkar alongwith the locations thereof the date on which opening ceremony of each of the said Rest House was performed and by whom ;

(b) whether any Officers stayed as guests in the said Rest House after the performance of their opening ceremonies ;

(c) the dates on which the Anti-Corruption Inspector, Umerkot got the said Rest House reserved as well as the dates on which he actually stayed therein from 1st January 1960 to 31st December 1967 ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Two Rest Houses-cum-Musafir Khanas-one at Tando Jan Muhammad and second at Chachro are under the control of the District Council, Tharkarpar. These were completed on 15th October 1964 and 15th February 1964, respectively. No opening ceremonies were performed by the District Council, Tharparkar.

(b) The following officers stayed in the above two Rest Houses with the dates given again st each :—

<i>(i) Rest House Chachro—</i>	<i>From</i>
(1) Mr. Challani Government Auditor.	3rd June 1966 to 9th June 1966
(2) Superintendent of Police Office	18th August 1966 to 22nd August 1966.

- | | |
|--|---|
| (3) Superintendent of Post Office | 23rd August 1966 to 27th August 1966. |
| (4) District Inspector of Schools, Tharparkar. | 16th October 1966 to 18th July 1967. |
| (5) Vice-Chairman, District Council, Tharparkar. | 17th July 1967 to 19th July 1967. |
| (6) Vice-Chairman, District Council, Tharparkar. | 10th August 1967 to 12th August 1967. |
| (7) Head of Department, Zoology, University of Sind. | 7th September 1967 to 18th September 1967. |
| (8) Mukhtiarkar on Special Duty. | 11th September 1967 to 14th September 1967. |
| (9) Excise and Taxation Officer, Mirpurkhas. | 23rd September 1967 to 26th September 1967. |
| (10) Vice-Chairman, District Council, Tharparkar. | 23rd September 1967 to 25th September 1967. |
| (11) Mukhtiarkar on Special Duty Board of Revenue. | 26th September 1967 to 30th September 1967. |
| (12) Election Officer, District Tharparkar. | 16th October 1967 to 17th October 1967. |
| (13) Vice-Chairman, District Council, Tharparkar. | 22nd January 1968 to 23rd January 1968. |
- (ii) *Rest House Tando Jan Muhammad.*
- | | |
|---|-------------------------------|
| (1) Director of Education, Hyderabad. | 3rd May 1967 to 5th May 1967. |
| (2) Secretary Army Service Board, Mirpurkhas. | on 18th October 1967 only |

(c) The Anti-Corruption Inspector, Umerkot did not apply for the reservation of the Rest Houses and he never stayed there during 1st January 1960 to 31st December 1967.

MUNICIPAL DISPENSARIES IN VARIOUS AREAS OF KARACHI, CITY

339. **Mian Saifullah Khan** : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) the present number of Municipal Dispensaries and their exact locales in each of the following areas of Karachi City :

Gabapat, Mauripur, Baldia Colony, Pathan Colony, Shershah Colony, Mewashnh, Miran Naka, Bihar Colony, Agra Taj Colony, Kalrishah Beg Lane, Singhoo Lane, Chakiwara and site ;

(b) the number of dispensaries proposed to be opened in the said areas during 1967-68 and 1968-69 ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) The reply is as under :—

Serial No.	Name of the Colony	Existing Dispensaries
1	Gabapat	... No K. M. C. Dispensary as the area is outside K. M. C. limit.
2	Mauripur	... No K. M. C. Dispensary as the area is outside K. M. C. limit.
3	Baldia Colony	... No K. M. C. Dispensary as the area is outside K. M. C. limit.

- | | | | |
|----|---------------------|-----|---|
| 4 | Pathan Colony | ... | No K. M. C. Dispensary as the area is outside K. M. C. limit. |
| 5 | Shershah Colony | ... | Shershah Road Dispensary, near Ghass Piri, Lyari Quarters. |
| 6 | Mewa Shah | ... | New Lyari Dispensary, Mewa Shah Road, Lyari Quarters. |
| 7 | Miran Naka | ... | Shershah Road Dispensary, covers this area. |
| 8 | Bihar Colony | ... | Bihar Colony Dispensary, Masan Road, Bihar Colony. |
| 9 | Agra Taj Colony | ... | Bihar Colony Dispensary, covers this area. |
| 10 | Kalri Shah Beg Lane | ... | Bihar Colony Dispensary, also covers this area. |
| 11 | Singhoo Lane | ... | New Lyari Dispensary Mewa Shah Road covers this area. |
| 12 | Chakiwara | ... | Old Lyari Behind Lea Dispensary Market
Old Unani D.D.
Dispensary. Chowdry Road. |
| 13 | S. I. T. E. | ... | New Lyari Dispensary also covers this area. |
- No K. M. C. Dispensary, as the area has only recently been transferred to K.M.C.

(b) A number of Dispensaries are already functioning in these areas and it is not felt necessary to make any Budget provision for construction of more Dispensaries for the year 1967-68. However a 200 bedded hospital

in Lyari area is under construction for which a sum of Rs. 300,000 has been provided in the budget for the year 1967-68 and it is expected that the same will start functioning in near future and will cover these areas.

COLLECTION OF HOUSE TAX IN LAHORE

425. Malik Muhammad Akhtar : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that in 1967, the Lahore Municipal Corporation authorized the United Bank Ltd., Lahore, to collect the House Tax ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, the total amount so collected by the said bank upto 15th April 1968 alongwith the amount transferred therefrom by the said bank to the said Corporation and the rate of interest allowed thereon by the bank ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) A sum of Rs. 24,99,841/55 had been collected upto 15th April 1968 by United Bank Ltd. on behalf of Lahore Municipal Corporation. Of this amount a sum of Rs. 12 lacs has been transferred by the Bank to the Corporation in two instalments Rs. 10 lacs on 4th October, 67 and 2 lacs on 23rd October, 1967, interest at the rate of 2½ per cent has been paid by the Bank on the total amount for the period ending 30th March, 1968.

**AMOUNT DEPOSITED BY LAHORE MUNICIPAL CORPORATION WITH
THE UNITED BANK LTD.**

426. Malik Muhammad Akhtar : Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that a sum of Rs. 10 lac was deposited by the L.M.C. with the United Bank Ltd., Lahore in the fixed deposit on 18th December 1965 for a period of one year ;

(b) whether it is a fact that on the expiry of the above said period of one year, the said fixed deposit was renewed for another one year by L.M.C. ;

(c) whether it is a fact that thereafter the said bank informed the L.M.C. that the said amount has been deposited for a period of 4 years and that no withdrawal of money would be allowed during that period ;

(d) if answer to (a) to (c) above be in the affirmative, the steps taken for the withdrawal of the amount ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes ; but that was based on some misunderstanding and the correct position has been explained to the Bank. The matter is, however, still under correspondence.

(d) As at (c) above.

INCOME FROM LAHORE OCTROI POSTS

427. **Malik Muhammad Akhtar :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Lahore Municipal Corporation has decided to deposit the income from 9 major octroi posts in United Bank Ltd., Lahore ;

(b) if answer to (a) above be in the affirmative, the total amount so deposited with the said bank upto 15th April 1968 alongwith the rate of interest allowed thereon by the bank and amounts withdrawn therefrom upto the said date ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : (a) The correct position is this ; the collection of octroi income from 9, out of 77 posts was entrusted to the United Bank Ltd., in December, 1966. This was done in Public interest and to ensure safe speedy transit of the octroi income. This arrangement had to be changed as in February, 1967, the State Bank of Pakistan issued instructions to the effect that no Banks can undertake to collect funds on behalf of their constituents at places outside their regular premises. Under the above mentioned arrangement, the bank had been allowed to collect octroi income daily in the evenings from the 9 octroi barriers and godowns on the production of Identity Cards by its staff duly verified by the Bank Management and the Chairman, Lahore Municipal Corporation. The Bank was responsible for any loss suffered by the Corporation in transit. In lieu of these services, the Bank was allowed to retain the collected money in deposit for a period of one month at 2½% interest.

At present, Lahore Municipal Corporation has its own arrangement of collecting the octroi income. For this purpose, at the request of LMC, United Bank Limited has placed its cash van at their disposal. In addition United Bank Limited has also afforded Lahore Municipal Corporation insurance cover against any possible losses of cash in transit to the tune of Rs. 50,00,000/-. In consideration of this assistance, the old arrangement of placing the collected funds in short deposit with United Bank Limited has been allowed to be continued.

(b) A sum of Rs. 1,23,89,657/- was deposited as above from 5th July 1967 to 15th April 1968. Out of this amount, a sum of Rs. 71,00,347/- has been transferred to National Bank of Pakistan, Town Hall Branch.

AWARDING MEDALS TO BEST CHAIRMEN OF UNION COMMITTEES

432. **Malik Muhammad Akhtar :** Will the Minister for Basic Democracies and Local Government be pleased to state the criteria for awarding medals to best Chairmen of Union Committees of various towns in the Province ?

Minister for Basic Democracies and Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : The criteria for awarding medals to the Chairmen of Union Councils, Town Committees and Union Committees is (i) their performance in the field of development as well as in the judicial work under the Muslim Family Laws Ordinance and the Conciliation Courts Ordinance, (ii) the interest taken by them in the uplift of their Unions and (iii) in making the Basic Democracies Institution a success.

POINT OF ORDER

RE : INCORRECT REPORT OF THE ASSEMBLY PROCEEDINGS BY
THE PRESS.

مسٹر حمزہ (لائیور - ۶) - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب سپیکر - میرے سامنے ۷ مئی ۱۹۶۸ء کا روزنامہ اسروزے جس میں کل کی کارروائی چھپی ہے - اس میں لکھا گیا ہے - "حمزہ نے مزید کہا کہ حکومت نے یوم اقبال کے جلسہ میں گڑ بڑ کرنے کی کوشش کی اور وہاں شورش کشمیری کے منہ سے بھی بعض نامناسب باتیں نکل گئیں" میں نے یہ بات شورش کشمیری سے قطعاً منسوب نہیں کی - میں اس کی تردید کرتا ہوں - آپ اسمبلی کا ریکارڈ طلب فرما کر تصدیق کر سکتے ہیں -

Mr. Speaker : I think that is the press report and that is not the authentic information on our record. We will check up from our record.....

Khawaja Muhammad Safdar : Sir, the press should be asked to rectify the mistake.

Mr. Speaker : Yes, according to the record of the Assembly.

STATEMENT OF THE LAW MINISTER REGARDING THE
CONSTITUTION OF A TRIBUNAL TO CONSIDER
THE DECLARATION OF FORFEITURE OF
CHATAN PRESS ETC.

Minister of Law (Mr. Allah Bachayo Ghulam Ali Akhund): May I make a submission Sir. Yesterday, the adjournment motions with regard to Chatan were discussed and there is one necessary point which I would like to place before you. It is this that an order.....

Khawaja Muhammad Safdar : At this stage under what rules Sir ?

Malik Muhammad Akhtar : Moreover there are two Privilege Motions, which are to be taken first.

Khawaja Muhammad Safdar : Under what rules ?

Minister of Law : With your permission I can always discuss Sir.

Mr. Speaker : What is it about ?

Minister of Law : It is an order passed appointing a Sub-Judge of Anti-Corruption to consider the declaration of forfeiture; there are two forfeitures, one is about the declaration of forfeiture of press and the other is the declaration of forfeiture of the issues of that date. Now, the Governor in pursuance of provisions of sub-rule (4) of rule 52 of the Defence of Pakistan Rules, read with Government of Pakistan Notification No. SRO-172, dated the 16th November, 1966, has been pleased to constitute a tribunal consisting of Mr. Muhammad Ayub Khan, Sub-Judge, Anti-Corruption Lahore, who has been a Sessions Judge, and to refer the said declaration of forfeiture to such tribunal for the adjudication of the forfeiture.

So, Sir, this is the point which I wanted to submit. Now the matter is sub-judice and these matters could not be agitated here. The tribunal is already seized of these matters - the question of declaration, which is mentioned in the two adjournment motions.

STATEMENT OF THE LAW MINISTER REGARDING THE CONSTITUTION OF 1117
A TRIBUNAL TO CONSIDER THE DECLARATION OF FORFEITURE OF
CHATAN PRESS ETC.

Mr. Speaker : Will the Minister please give me a copy of that notification ?

(At this stage the Minister of Law handed over the copy of the notification to Mr. Speaker.)

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I may say for the information of the House that this order is not recent and before the adjournment motion had been discussed in this House, I had a copy of this order with me and I had already given its number. He is too late to claim the privilege that the matter is sub-judice.

میجر محمد اسام جان (راولپنڈی - ۱) - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب والا -
یہ مسجھ میں نہیں آ رہا کہ سزا پہلے دی جا رہی ہے اور انصاف بعد میں
ہو رہا ہے یہ فیصلہ بعد میں ہو گا کہ آیا یہ حکم درست ہے یا غلط ہے یہ
کہاں کا انصاف ہے ؟

مسٹر حمزہ - جہاں تک اس آرڈر کا تعلق ہے - جیسا کہ وزیر قانون نے
فرمایا ہے یہ متعلقہ ہے - یہ متعلقہ تو ہے مگر غیر متعلقہ وقت پر اس کا
حوالہ دیا گیا ہے - آپ اس پر غور نہیں کر سکتے - کیا ان کی اہلیت کا
یہی معیار یا حال ہے ؟

Minister of Law : You don't want an order, which is a legal order, to be placed before the House; you don't want its consideration.

Mr. Speaker : This order had been passed by the Governor on the 25th of April.

Minister of Law : Yes Sir, and he has referred the question of forfeiture to the tribunal, which is already seized of the matter.

Mr. Speaker : Why was this order not produced yesterday ?

Malik Muhammad Akhtar : It was referred by me Sir.

Minister of Law : The Member says that even he was aware and inspite of that

Mr. Speaker : At least I was not aware of it.

Minister of Law : That is what I was saying

مسٹر حمزہ - جناب سپیکر - کل یہاں قاضی فضل اللہ صاحب بیان دینے اور میں کرمانی صاحب گالیاں دینے میں مصروف رہے - انہیں یہ یاد نہ رہا کہ وہ اس آرڈر کو یہاں پیش کرتے -

خواجہ محمد صفدر - مجھے شورش کشمیری کی جانب سے ایک خط اور ایک تار موصول ہوا ہے - اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ پڑھ کر سنا دوں -

مسٹر سپیکر - یہ شیج اس لئے نہیں ہے -

He has only produced a copy of the order of the Governor.

خواجہ محمد صفدر - جس شخص کے متعلق یہ آرڈر ہے میں اس کا خط پڑھنا چاہتا ہوں -

Malik Muhammad Akhtar : Sir, on a point of order. Sir, probably the Law Minister after having allowed all that discussion wants to seek shelter of that order so that the ruling of the Chair may not be given on the adjournment motions. That is not, I should say, a healthy practice. The order was with him and he did not claim any privilege. Sir, I consider that we should be allowed to express our opinion about the procedural matters involved after this document has been produced, and I beg to submit that there is no bar on your giving a ruling about the admissibility of the adjournment motions because the point, which is relevant and actually involved is one and only one whether the motion be technically admitted in the House or not. Of course, there has been some discussion, unpleasant even, and after having defamed a person like that, I don't consider they have got any right to come forward to

claim a privilege. If the Law Minister is prepared to make a statement that he was unaware of this order, I can produce evidence in the House that he was aware of this order.

QUESTIONS OF PRIVILEGE

RE: INCORRECT STATEMENT MADE BY THE MINISTER FOR IRRIGATION AND POWER ABOUT MR. GHULAM KIBRIA, PRESIDENT, ELECTRICAL ENGINEER'S ASSOCIATION.

Mr. Speaker : We will now take up the Privilege Motion by Malik Muhammad Akhtar. I think he had moved this Privilege Motion yesterday and the Minister for Irrigation and Power was to reply to this motion.

وزیر آبپاشی (مخدوم حمید الدین) - جناب سپیکر - مجھے معترم ملک محمد اختر صاحب سے توقع نہ تھی کہ وہ اس قسم کی تحریک استحقاق یہاں پیش کریں گے۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹری دستور اور پارلیمنٹری مزاج سے خاصی واقفیت رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی تحریک لانے سے پہلے انہیں حقائق سے متعلق بھی کچھ تحقیقات کر لینی چاہئے تھی۔ جناب والا - جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ہر ایوان سے متعلق چند خاص تحفظات بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً statement جو اندرون ایوان تو کی جا سکتی ہے مگر بیرون ایوان نہیں کی جا سکتی۔ یہاں لیجسلیچر کو آزادی ہے اور ان کے rights کی protection کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ جو مجھ سے منسوب کیا گیا ہے اگر میں نے کہا بھی ہوتا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان تحفظات کے اندر شامل ہو سکتا ہے مگر میں یہ عرض کرتا ہوں یہ بات مبنی بر حقیقت نہیں ہے جو میرے متعلق کہا گیا ہے کہ میں نے اپنی تقریر کے دوران کہا ہے یا میرے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ

میں نے اپنی تقریر مورخہ ۳ مئی ۱۹۶۸ء میں جو ”ڈان“ میں چھپی ہے کہا ہے کہ -

‘‘The President of the Electrical Engineer’ Association, who had made a press statement criticising the working of the Water & Power Development Authority, was a disgruntled officer of the Water & Power Development Authority and wanted his service to be extended but was retired.’’

جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اگر میں کہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ بات تعہذات کے تحت یہاں ہو سکتی تھی مگر وہ حقیقت نہیں ہے۔ وہ نا درست ہے۔ میں نے ایسے کہیں نہیں کہا بلکہ اس سے متعلق جہاں تک میری دانست میں ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ محترم خواجہ صاحب کی تقریر کے دوران مجھے ضرورت محسوس ہوئی اور شاید میں تین چار یا پانچ منٹ کے لئے باہر پانی پینے کے لئے گیا جب میں اندر ہاؤس میں واپس آیا تو میں نے سنا کہ خواجہ صاحب اخبار سے ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے متعلق میں نے کسی تین کے ساتھ نہیں کہا۔ کسی شخص کے نام کو مختص کرنے کے بعد نہیں کہا یا کسی آرگنائزیشن سے متعلق نہیں کہا بلکہ ان کی اس سٹیٹمنٹ سے میں نے ایک تاثر لیا جس سے مجھے قیاس ہوا۔ میں نے presume کیا بلکہ استفسار یہ انداز میں اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے خواجہ صاحب سے استفسار کیا کہ مجھے شک ہوتا ہے کہ کہیں یہ سٹیٹمنٹ کسی ایسے شخص کی نہ ہو یا وہ ایسا شخص معلوم ہوتا ہے جو شاید واہڈا کی سروس میں ہو اور شاید اسے extension نہ ملی ہو۔ میری طرف سے ایک قیاس تھا۔ ایک قیاس آرائی تھی۔ وہ کسی شخص کے خلاف تھی وہ کسی مختص شخص کے خلاف نہ تھی۔ میری یہ قیاس آرائی مغربی پاکستان کے کسی ایک فرد سے متعلق ہو سکتی تھی۔ ”ڈان“ میں

مجھ سے متعلق کہا گیا ہے کہ میں نے انجینئرنگ اینسوسی ایشن کے صدر سے متعلق یا کسی شخص سے متعلق مختص کر کے یہ کہا ہے کہ یہ disgruntled آدمی ہے۔ وہ واہڈا کی سروس میں تھا یہ صحیح نہیں ہے یہ نا درست ہے۔ جہاں تک ڈان کے پرچے کا تعلق ہے اس میں جو متعلقہ حصہ ہے وہ میں پڑھ دینا چاہتا ہوں :-

"Makhdum Hameed-ud-Din said Khawaja Muhammad Safdar was perhaps quoting from the statement of a WAPDA officer who was not given extension in service."

جناب والا۔ کسی تیقن کے ساتھ کسی شخص کے متعلق نہیں کہا ہے جیسا کہ میں نے ایک گراؤنڈ میں کہا ہے کہ میں نے کھڑے ہو کر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں پڑھی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا میں سمجھتا ہوں پارلیمانی ماحول کے اس محدود انداز میں پارلیمانی ظرافت کو بھی کچھ دخل ہے جس کو آپ retort کہنا مناسب سمجھیں یہ اس قسم کی چیز تھی۔ یہاں اس سے بہت سخت چیز بھی ان تحفظات کے پیش نظر کہہ لی جاتی ہے۔ یہ میری تقریر کا authenticated حصہ جو آپ کی مہربانی سے اسمبلی سیکرٹریٹ سے مجھے مہیا کیا گیا ہے وہ بھی یہاں پڑھ دینا چاہتا ہوں اس سے بھی کسی قسم کی کوئی ایسی بات مترشح نہیں ہوتی کہ میں نے ان کا نام مخصوص کر کے ان کو disgruntled یا frustrated کہا ہے یا ان کو واہڈا کا ملازم قرار دیا ہے۔ یہ بات خواجہ صاحب سے متعلق ہے کہ

"میرے پاس اخبار کی ایک کٹنگ ہے۔ آخری

جس کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں اس میں کوئی

کبریٰ صاحب ہیں"

یہ خواجہ صاحب نے فرمایا ہے۔

”یہ پریذیڈنٹ ہیں پاکستان ایسوسی ایشن آف
الیکٹریکل اینڈ مکینیکل انجینئر کے۔ وہ کہتے ہیں
کہ اوسطاً ایک سال میں ویسٹ پاکستان میں
۱۲ ہزار ۷ سو مرتبہ بجلی قیل ہوئی ہے۔
الذازہ کیجئے ایک دن میں کئی بار بنتی ہے۔“

One hour break down costs Rs. one crore.

یہ انگریزی میں فرمایا ہے۔

یہ ٹیکنیکل لوگ ہیں جن کا یہ دبا ہوا ہے۔“

”خواجہ صاحب یہ کوئی ریٹائرڈ آفیسر
ہوگا۔“

”خواجہ صاحب یہ کوئی ریٹائرڈ آفیسر ہوگا جس
کو extension نہیں ملی ہوگی یہ بیان اس نے
دیا ہوگا۔“

جناب والا۔ میں نے اس میں کہیں کسی تین کے ساتھ نہیں کہا۔
استفسار کے انداز یا presumption کے ساتھ یا کسی قیاس کے ساتھ کہا
ہوگا اور میرا یہ قیاس مغربی پاکستان کے ہر ایک فرد کے متعلق ہو سکتا
ہے۔ میں نے کسی ایسے شخص جس کا نام غلام کبریا صاحب ہے اور وہ
ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں ان کے متعلق نہیں کہا بلکہ اپنی سیٹ پر
بیٹھے ہوئے بطور رپورٹ کے ان کی سٹیٹمنٹ سے متعلق کہا ہے۔ میں نے
کہیں ان صاحب کو dis-gruntled نہیں کہا۔

جناب والا۔ میں عرض کروں گا کہ بحیثیت وزیر متعلقہ کے جو اس

وقت آب پاشی و برقیات سے متعلق کام تفویض ہے۔ انجینئرنگ اور اس کمیونٹی سے میرا براہ راست تعلق ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے اور اب بھی ہے اور ہمیشہ خواہش رہے گی کہ یہ اپنے پیشے میں ترقی کریں۔ ان کو خوشحالی حاصل ہو۔ یہ اپنی فیلڈ میں progress کریں۔ جہاں تک زندگی میں ممکن ہو جہانتک میرے پاس ذمہ داری تفویض ہے میری یہ کوشش رہے گی کہ ہمیشہ ان کو ترقی اور خوشحالی حاصل ہو۔ میری کبھی یہ کوشش نہیں رہی۔ میری اور میرے کسی ساتھی کی یہ کوشش نہیں رہی کہ کسی شخص کے جذبات کو کوئی ٹھیس پہنچے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ تحریک استحقاق سبھی پر حقیقت نہیں ہے۔ اور کسی استحقاق کی پائمالی نہیں کی گئی ہے۔ برین بنا میں عرض کروں گا کہ اس تحریک استحقاق کو مسترد فرمایا جائے۔

خواجہ محمد صفدر۔ جناب والا۔ میں وزیر آبپاشی کی اس تشریح و توضیح کے بعد ملک اختر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی تجویز کو پریس نہ کریں۔

Malik Muhammad Akhtar : I don't press it.

Mr. Speaker : The motion is not pressed.

RE : INCORRECT ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 10995 ABOUT
THE BANK ACCOUNTS MAINTAINED BY THE BOARD OF INTER AND
SECONDARY EDUCATION, LAHORE.

Mr. Speaker : We now pass on to the next privilege motion also by Malik Muhammad Akhtar. He may please ask for leave to raise his question of privilege.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I beg leave of the House to raise a

question of breach of privilege of the Assembly on the ground that a breach of privilege of the Assembly has occurred due to incorrect answer given to Question No. 10995 by the Minister for Education on 6th May, 1968. It has been stated in the answer to the question that the Board of Intermediate and Secondary Education, Lahore, has not been maintaining its current account as well as keeping its fixed deposits in various Banks in contravention of the instructions contained in the Central Government circular No. F. 6 (1) IF. IV/65 dated 16th February, 1965, even after the issuance of the said circular as assured by the Parliamentary Secretary, Education on the floor of the House on 9.10.67 while opposing the West Pakistan Autonomous Bodies Regulation of Investment of Surplus Funds Bill, 1967. The statement is incorrect as Habib Bank Ltd. has its Branch in the premises of the Board and has been holding current accounts of the Board as well as its other deposits even during the period the said circular was in force. The incorrect information supplied to the House has caused a breach of privilege of the Members of the House.

Sir, I would also refer to another question No. 10997, which I asked yesterday. The Minister for Education in reply thereto, admitted that these instructions had been in force. Similar query was raised in that question whether the Engineering . . .

Mr. Speaker : That is not relevant.

Malik Muhammad Akhtar : But Sir, the Minister has admitted that the circular which I have referred to in the privilege motion, has been in force in the Universities and that it remained in force from 16th February 1965, to 31st December, 1967.

Mr. Speaker : The Member may please talk about the Board of Intermediate and Secondary Education.

Malik Muhammad Akhtar : Yes Sir, I mean to say that these instructions remained in force for about 8/9 months and the Board has utterly disregarded these instructions and they have not answered the question comprehensively. I would like the Minister to make further inquiries to

see whether it is correct that one of the relatives of the Chairman of the Board has been employed by one of the banks.

Mr. Speaker : The Member may please confine his arguments to the fact that the answer is incorrect and is not comprehensive.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, the answer is incorrect. Sir, if you care to peruse, my question was :

“Will the Minister for Education please refer to the statement made by the Parliamentary Secretary Education on the floor of the House on 9th October, 1967, while opposing the West Pakistan Autonomous Bodies Regulation of Investment of Surplus Funds Bill 1967 and state :—

(a) whether it is a fact that the Board of Intermediate and Secondary Education Lahore, has been maintaining its current account as well as keeping its fixed deposits in various banks in contraventions of the instructions contained in the Central Government Circular ;”

And Sir, its answer is ‘No’. But the fact is that they have been maintaining their account with Habib Bank and other banks. Not only this, they have also been maintaining fixed deposits. As far as the validity of the circular is concerned, the Minister has in a subsequent question, admitted that the said circular has been in force for a certain period but was later on withdrawn. But even after the issue of this circular, they have been maintaining their account in the Bank. Hence the answer is incorrect.

Minister for Education (Mr. Muhammad Ali Khan) : Sir, the reply given to the Member yesterday, was absolutely correct and based on facts. As far as the letter dated 16th February, 1965, which the Member mentions is concerned, the position is that the Finance Department did not receive any such letter from the Central Government. In fact, it received a letter bearing No. 6 (1) OF IV/65 dated 18th February, 1967, from the Ministry of Finance, Government of Pakistan, conveying the decisions

taken in the Finance Secretaries Conference held on 24th and 25th September, 1964, which were briefly as under :

“The undersigned is directed to state that the question of regulating the investment of funds of Government Corporations, authorities, semi-Government institutions, local bodies etc. has been under the consideration in the Finance Secretaries Conference held at Rawalpindi on the 24th and 25th September, 1964 and the following decisions relating to the funds of Local Bodies were taken :— ”

So Sir, this relates only to the Local Bodies, as it says :

“(i) All local bodies should keep their funds with the Government in a personal or other deposit account at a treasury or sub-treasury, but at any place where there is an office or establishment of a local body but no treasury or sub-treasury, a current account with the National Bank of Pakistan may be opened.”

Sir, the Board of Intermediate and Secondary Education Lahore, is not a Local Body. Hence this decision does not relate to the Board. Besides that Sir, this very letter which conveyed the decisions of Finance Secretaries Conference, was withdrawn keeping in view that there would be lot of rush at the Bank and they would not be able to cope with the requirements and the situation. Sir, the above decision was again withdrawn by the Ministry of Finance vide their letter No. 6 (9) IF IV/66 dated 18th January, 1967. In short, no final decision has been taken by the Ministry of Finance so far nor has any decision been taken with regard to the corporations. So Sir, this decision was meant for local bodies and other semi-government Corporations and not for the Universities and Boards.

Mr. Speaker : Prima facie, there has been no case of breach of privilege, the motion is ruled out of order.

ADJOURNMENT MOTIONS

MURDER OF MIAN HAMID-UR-RAHMAN, S.I., P. S. OLD ANARKALI
LAHORE

Mr. Speaker : We will now take up adjournment motions. First motion is No. 20 by Mr. Hamza.

Mr. Hamza : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance, namely, the failure of the law and order machinery of the Government as is evident from the murder of Mian Hamid-ur-Rehman, Sub-Inspector, Police, Old Anarkali Police Station, on Lake Road in the Provincial metropolis in a busy bazar in broad-day-light on 7th January, 1968. This has caused great resentment among the public all over the Province.

Minister for Home (Kazi Fazlullah Ubedullah) : Sir, I oppose it and beg to submit that this unfortunate incident occurred on 7th January when the Sub-Inspector lost his life at the hands of some bad elements. The first report was immediately recorded and after two days, the culprits were apprehended and sent to the Court for trial. The proceedings are going on, witnesses have already been examined last hearing having been held yesterday. I do not know further progress of that case.

The case is likely to be committed to Sessions. It is a matter which is sub-judice and, therefore, I submit that apart from the fact that it is an old matter it is sub-judice and does not warrant the adjournment of the business of the House.

مسٹر حمزہ (لالپور - ۶) - جناب وزیر امور داخلہ نے میری تحریک التوا کی مخالفت نہیں کی مجھے اس کا اعتراف ہے - کہ قاتلوں کے خلاف مقدمات درج کئے گئے ہیں اور لازمی طور پر وہ مقدمات کسی عدالت کے زیر سماعت ہوں گے - لیکن میں جو چیز زیر بحث لانا چاہتا ہوں - وہ یہ ہے - جیسا کہ میری تحریک التوا میں بھی واضح طور پر تحریر کیا گیا ہے -

کہ ملک اور صوبے میں امن عامہ کی حالت اس حد تک ابتر ہو چکی ہے۔ کہ لاہور جیسے شہر میں جو صوبے کا دارالخلافہ ہے ایک سب انسپکٹر پولیس کو دن دھاڑے بھرے بازار میں گولی ماری گئی۔ جناب سپیکر۔ جس ملک میں امن کے محافظ بذات خود قاتلوں کی گولیوں کا نشانہ بنیں اور اس ملک کے ایک عام شہری کے مال و جان کی حفاظت وہ حکومت کیسے کر سکتی ہے۔ میں اپنی تحریک التوا زیر بحث لانا چاہتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت واقعی اس ایوان کو اہمیت دیتی ہے۔ اور اس ایوان کے معزز اراکین کے مشورے پر عمل کرنا چاہتی ہے۔ اور ان کے مشورے کو اہمیت دیتی ہے۔ ان پر عمل کرتی ہے۔ تو اس ضروری مسئلہ پر بحث کے لئے ایسے دو گھنٹے مخصوص کرنی چاہئیں۔ تاکہ تمام ایوان کے ممبران اپنی تجاویز پیش کر سکیں۔ اور حکومت ان کی تجاویز کے مطابق آئندہ اس قسم کی صورت حال کے مداوا کے لئے انتظامات کر سکے۔

Mr. Speaker : "The matter proposed to be discussed through this adjournment motion is sub-judice. The motion is ruled out of order."

**GOVT. DIRECTIONS TO NAWABZADA IFTIKHAR AHMAD KHAN ANSARI
NOT TO DELIVER ANY SPEECH AGAINST THE ADMINISTRATION, IN
WEST PAKISTAN**

Mr. Speaker : Next, No. 28.

Matik Muhammad Akhtar : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly for the purpose of discussing a definite matter of recent and urgent public importance namely the Government of West Pakistan has directed Nawabzada Iftikhar Ahmed Khan Ansari under the Maintenance of Public Order Ordinance not to deliver any speech or public talk criticising the Administration in any place in West Pakistan for a

period of six months. The news has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

**GAG ORDERS AGAINST NAWABZADA IFTIKHAR AHMED KHAN ANSARI
UNDER THE MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER ORDINANCE.**

Mr. Speaker : No : 95 by Khawaja Muhammad Safdar.

Khawaja Muhammad Safdar : I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance namely the most uncalled for gag order served on Nawabzada Iftikhar Ahmed Khan Ansari, a well-known leader of the Opposition under the Maintenance of Public Order Ordinance restricting him from making any speech whatsoever throughout West Pakistan for a period of six months has caused great resentment in the minds of the public of West Pakistan.

Minister for Home (Kazi Fazlullah Ubaidullah) : Sir, I oppose both these motions on the ground that it is not a matter of recent occurrence in the first instance. In the second place they are not of urgent public importance.

My submission in this behalf is that Nawabzada Iftikhar Ahmed Khan Ansari who was at one time Member of this House has unfortunately been delivering very provocative speeches. I have read them carefully. One of the speeches was delivered in Sargodha. I have got a verbatim report on the speech. Another was delivered at Chiniot where he seemed to be very jubilant over the fact that there was no Section 144 and he could speak freely and then he indulged in abusive language against the President, against the rulers and Ministers and Government and tried (by his speeches) to create disaffection and hatred against the Government and that necessitated action. The verbatim reports of the speeches were examined by the Home Department and also by the Law Department. The Law Department advised that the sum and substance and tone and tenor of the speeches was highly objectionable and actionable

and they merited preventive action and this action was therefore taken. I submit that that action was bonafide and there is nothing malicious about it, and, therefore, these adjournment motions should be ruled out of order.

Mr. Speaker : So far as the facts of the adjournment motion are concerned those have not been denied by the Government. Only justification has been given by the Home Minister. Justification for a particular action should have been given at the time when the motion is held in order and permission is granted. No technical objection has been taken. I hold the motions in order.

Malik Muhammad Akhtar has asked for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly for the purpose of discussing a definite matter of recent and urgent public importance namely the Government of West Pakistan has directed Nawabzada Iftikhar Ahmed Khan Ansari under the Maintenance of Public Order Ordinance not to deliver any speech or public talk criticising the Administration in any place in West Pakistan for a period of six months. The news has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Those Members who are in favour of leave being granted, may rise in their places.

(As less than 25 Members rose in their places, leave to move the motion was refused).

Mr. Speaker : This disposes of the other motion also.

TWELVE RURAL DISPENSARIES WITHOUT DOCTORS IN NAWAB
SHAH DISTRICT

Mr. Speaker : Next 42 by Malik Muhammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : I have already asked for leave to move it.

Minister of B.D. & Local Government : Which one ?

Mr. Speaker : Rural dispensaries are without doctors in Nawabshah district.

Minister of B.D. & Local Government (Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo) : Sir, this question has not been raised at the earliest possible opportunity.

For the sake of information of the House I would like to read out from a statement which says that the District Council, Nawabshah, is running 20 dispensaries. In five there are Government doctors and five have District Council doctors. The remaining ten have no qualified doctors. They are being run by trained compounders. The dispensaries opened under the Rural Works Programme have been without doctors for a year or more. The reason why the dispensaries are without doctors is that there is an all-round shortage of doctors. Efforts have been made to recruit doctors through the Health Department and by advertising the posts. The Health Department have expressed inability to provide doctors due to shortage. No doctors are coming forward in response to the advertisements. Recently seven posts were advertised but only two candidates replied who have been immediately appointed. Trained compounders are running the dispensaries which are without doctors in the following villages. Ten names have been given.

This is the factual position. The matter is not of recent occurrence. The motion is factually incorrect. The question is about ten dispensaries and not about 12. Moreover it is not a single specific matter.

Taking into consideration the factual and legal position I would submit that this may be ruled out of order.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I am grateful to the Minister that he has very conscientiously realised his duty and he has made a statement to the effect that there are at least ten dispensaries which are without doctors, and not 12, Sir the number does not matter much for me though he has tried to seek disallowance of the motion on that ground. But Sir he has again raised a general question that is with regard to the fact that the doctors are not coming forward to join

service especially because they don't like to be posted in rural areas. This is an old grievance and it needs redress and you have been kind enough to allow a good debate on it a couple of days ago. But I would beg them, Sir, that when they are getting a bond executed by the doctors to serve in their home districts and there are reserved seats for backward districts why don't they utilise it. There is something—some evasion of the rules and restrictions and I consider that the Government is negligent in not looking after the compliance of such instructions and that is the root cause of the trouble. I would just humbly submit and request the Minister as well as my friends who are in power, who can deliver the goods; because we can only rise and make statements in this House; I would appeal to them in public interest that our brothers residing in rural areas are being bothered by their dispensers whom they have appointed in these dispensaries and they may kindly treat the rural population of Pakistan as human beings and look into their affairs.

Mr. Speaker : This is a very old grievance of course, but I think in this matter more concerted effort of the Health Department and the Basic Democracies Department should be made so that the rural areas should be provided with the doctors. Actually the local bodies are not in a position to pay the heavy remunerations to the doctors. But any-how, some solution should be sought and some uniform action throughout West Pakistan or some solution in consultation with the Health Department should be found out.

Minister of Basic Democracies : We have consistently tried to provide doctors in the rural areas but the difficulty is the question of supply and demand, because when there is field for doctors in the urban areas, most of the people don't go out to serve in the villages. I am happy that my friend from Lahore has that much love for villagers, and most of us belong to the villages, in fact, 80 percent of people live in the villages. We are anxious to provide them with doctors. Wherever anybody is willing we at once appoint him. Here the situation is where nobody goes, we cannot force him. But Sir, as you have rightly pointed out, Health Department and the Basic Democracies Department have been trying in this behalf and in future we will be making concerted

efforts. We will try to do whatever we can to provide doctors for the rural areas.

Mr. Speaker : I think if you give them more attractive remunerations, some doctors could come in the local bodies service.

Minister of Basic Democracies : Finances of the local bodies have to be taken into consideration Sir.

Mr. Speaker : But there are local bodies, which can pay more.

Minister of Basic Democracies : In those local bodies the doctors are there.

Mr. Speaker : But ordinarily they advertise the posts with fixed pay scales which they get in Government service and they don't give more. When they don't give more, they naturally prefer Government service and not go to the local bodies.

Minister of Basic Democracies : You will agree Sir the question of supply and demand is there.

Mr. Speaker : Anyhow, we hope the Minister will give proper attention to this matter and with the help of Begum Sahiba, he will be able to solve this difficulty. And I don't think Malik Akhtar will press the motion.

Malik Muhammad Akhtar : Not pressed Sir.

USE OF CONTAMINATED AND CHEMICALLY IMPURE WATER IN THE
LADY WELLINGTON HOSPITAL, LAHORE.

Mr. Speaker : Then we come to the next motion, which has already been moved.

وزیر صحت (بیگم زاہدہ خلیق الزمان) - جناب والا - میں اس کی رپورٹ

آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں -

مسٹر سپیکر - میں نے پچھلی دفعہ Public Analyst کی رپورٹ مانگی تھی یہ دیکھنے کے لئے کہ اس نے رپورٹ میں کیا لکھا ہے کیا یہ صحیح ہے کہ یہ پانی انسانی استعمال کے لئے نا موزوں ہے -

Malik Muhammad Akhtar : This sample of water is declared to be chemically unsuitable for human consumption.

خواجہ محمد صفدر - ہسپتال میں تو یہی پانی استعمال ہو رہا ہے -

وزیر صحت - پالی دو قسم کا ہے - میرا مقصد ہے کہ وہاں دو ٹیوب ویل ہیں - ایک کا پانی اچھا ہے اور دوسرے کا اچھا نہیں -

مسٹر سپیکر - جو نوٹہ جات لئے گئے تھے وہ کس ٹیوب ویل کے تھے ؟

وزیر صحت - جناب والا - اس کے متعلق ایک latest report ہے جو اسی فائل میں ہے -

Mr. Speaker : This is a sample of the new tubewell.

اس میں تو یہ دیا گیا ہے کہ لئے ٹیوب ویل کا پانی اچھا نہیں اور دوسرے ٹیوب ویل کا پانی انسانی استعمال کے لئے صحیح نہیں - لیکن جہاں تک اس تحریک التوا کا تعلق ہے وہ لئے ٹیوب ویل کے متعلق ہے -

ملک محمد اختر - جی ہاں -

وزیر صحت - اس کا پالی انسانی استعمال کے کام میں نہیں آتا -

ملک محمد اختر - میں نے اس کا پانی وہاں جا کر خود
 پیا ہے -

وزیر صحت - جس طرح آپ غلط اطلاعات لاتے ہیں اسی طرح آپ نے
 غلط پانی پی لیا ہے -

مسٹر سپیکر - کیا اس ٹیوب ویل کا پانی معائنہ کرنے کے بعد اس قابل
 پایا گیا کہ وہ اوزاروں کے لئے موزوں ہے -

وزیر صحت - جی ہاں - اس کام کے لئے صحیح ہے - اور اب یہ اور
 بھی صحیح ہو رہا ہے -

خواجہ محمد صفدر - وہ کیسے صحیح ہو رہا ہے ؟

وزیر صحت - یہ پانی پینے کے لئے تو ٹھیک نہیں لیکن اس سے اور
 کام تو لئے جا سکتے ہیں - ان دونوں ٹیوب ویلوں میں سے ایک کا پانی کھارا
 ہے اور دوسرے کا میٹھا ہے نئے ٹیوب ویل کا پانی اوزاروں کے دھونے -
 لائٹری اور کپڑے دھونے کے کام میں آتا ہے - اور میٹھا پانی مریضوں کے
 کے لئے استعمال ہوتا ہے -

مسٹر سپیکر - کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ تحریک التوا محکمہ
 ہیلتھ کے متعلق ہے اور اس میں محکمہ ہیلتھ کی ذمہ داری کہاں
 تک ہے -

ملک محمد اختر - جناب والا - اس کی رپورٹ میسر ہو گئی ہے جس
 میں لکھا ہے -

Water is unfit for human consumption and the surgical instruments
 are getting rusty due to bad water, and they did not care to stop the
 use of the water and the patients have been using the water Sir.

مسٹر سپیکر - لیکن یہ انسانی استعمال کے لئے صحیح نہیں -

وزیر صحت - جناب والا - اگر یہ خود تلخ پانی ہی آئیں تو میں کیا کر سکتی ہوں - ممکن ہے انہوں نے منہ کا مزا بدلنے کے لئے وہ پانی پیا ہو -

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I would like to make a statement that the water until and unless this news was made, and even after that, has been used for human consumption ; even after this news-item, and I have personally enquired.

مسٹر سپیکر - اس assurance اور یقین دہانی سے کیا آپ مطمئن نہیں ہیں -

Malik Muhammad Akhtar : I would press it Sir.

مسٹر حمزہ - جناب سپیکر - کیا اس ٹیوب ویل کے نل پر کوئی مائن بورڈ لگا ہے کہ یہ انسانی استعمال کے لئے مناسب نہیں - اگر کوئی مائن بورڈ نہیں تو کسی کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ اچھا پانی نہیں ؟

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I would like to explain the distribution of this tube-well. The distribution system is such that all the patients are obliged to use that water. The only course open to them was that they should have connected the mains with the old tubewell and disconnected altogether the mains with the new tubewell.

مسٹر سپیکر - بیگم صاحبہ کیا یہ پانی کپڑے دھونے اور اوزاروں کو صاف رکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کو پینے کے لئے استعمال نہیں کرتے ہیں ؟

وزیر صحت - جناب اختر صاحب کے ایسے لوگ پیتے ہیں ورنہ وہاں مریض جو داخل ہوتے ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ پانی پینے کے لئے نہیں ہے - ممکن ہے اختر صاحب منہ کا مزا بدلنے کے لئے یہی لیتے ہوں -

Malik Muhammad Akhtar : It is quite a serious matter and concerns my constituency. I would like to press it.

Mr. Speaker : After hearing the Minister for Health and the mover of this motion and after going through the report of the Public Analyst, dated the 5th November, I hold this motion in order.

Malik Muhammad Akhtar asks for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and urgent public importance, namely, contaminated and chemically impure water is being used in the Lady Wellington Hospital, Lahore. The water is unsuitable for human consumption and for sterilization of instruments. The water spoiled surgical instruments and patient's laundry. The negligence of the Hospital has exposed the life of the patients to the danger of death. The news has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Those Members who are in favour of leave being granted should rise in their places.

(As less than twenty five Members rose in their places, leave to move, the motion was refused)

SUPPLY OF ATTA UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION, ON RATION DEPOTS
AT LAHORE.

Mr. Speaker : Next motion about atta at Lahore Ration Depots. This was deferred for today.

Minister for Food & Agriculture (Malik Khuda Bakhsh) : I have, in the first instance, to oppose it on technical grounds. As you might have noticed, Sir, this motion is not specific and has made no mention of any particular ration depot of a particular occasion. It is a general complaint that has been made ; if I have been able to understand the motion correctly. Secondly, it is based on a report dated the 3rd February, 1968, appearing in a local daily in which a joint complaint has been made that the quality of Atta being supplied at the ration depots is not of the required standard. Generally, whenever such report appears in the Press or is brought to our notice, we hasten to do our level best to check the ration depots, to supervise them and to ensure that the quality of Atta is brought into a standard form.

First of all, I would like you to consider my objection whether a specific allegation has been made. Secondly, it relates to a period or a date which is now, I think, 3½ or 4 months old.

Mr. Speaker : What is the present position ?

Minister for Food & Agriculture : About the present position the Member has made no mention but we are ensuring that it should be as best as possible. I can give the House assurance that we are doing our level best. Some times complaints do arise regarding a depot of a city or of a particular area that the quality of Atta is not what it should be and we hasten to check them up but in this motion it has not been stated at which ration depot Atta is being supplied which is unfit for human consumption. As you know, Sir, ration depots are being supplied Atta from different mills. If the Member had mentioned any particular ration depot in that case I would have traced the Atta to a particular mill and would have been able to categorically deny or confirm my friend's information. In view of these circumstances I think you will have kindly to consider the possibility of ruling this motion out of order. On the other hand, if you think it is in order then I will submit that according to the information available with me, the quality of Atta is not bad to the extent he has mentioned and so I would deny the allegation to that extent.

Mr. Speaker : Is the Member satisfied with the statement of the Minister ?

Malik Muhammad Akhtar : I will not press the motion but I would like to bring a point to the notice of the Leader of the House so that he catches the source of trouble. The report says—

”افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ راشن ڈپو پر آئے
 کا معیار انتہائی خراب ہے اسکی بنیادی وجہ یہ ہے
 کہ محکمہ خوراک ڈپو ہولڈروں کو گندم
 کیساتھ گلی سڑی مکئی فروخت کرنے کیلئے
 فراہم کرتا ہے۔ وہ اگر اسے خریدنے سے انکار
 کرتے ہیں تو پھر ڈپو ہولڈر مکئی کا آٹا پسوا کر
 اسے گندم کے آٹے میں ملا دیتے ہیں۔“

I have got every faith and full confidence as far as my friend the Leader of the House is concerned. He has tackled the problem like anything and I hope he will be able to tackle this thing as well because it is just adversely affecting our health. As far as I am concerned I had an occasion to use ration depot Atta for a couple of days and soon I found that there was something wrong with my stomach and I had to undergo medical treatment. Then I had to purchase other sort of Atta from other mills which, of course, was available at a much higher rate. The rate was high even for me not to say of a common man. I am also a common man but it is troublesome for them.

Mr. Speaker : Will the Minister give due consideration to it ?

Minister for Food and Agriculture : I will not only give due consideration but I would welcome their cooperation. It is a difficult task and I would beg of all the Members their utmost cooperation in this difficult task. I am obliged to Malik Muhammad Akhtar for having brought this thing to my notice. I will take necessary action and whatever he has said will be considered at the time of shaping our policies.

Mr. Speaker : The motion is not pressed.

FALL FROM A BUS AND CONSEQUENT DEATH OF A GIRL STUDENT OF
KHATOON-I-PAKISTAN GIRLS COLLEGE, KARACHI.

Mr. Speaker : Next motion, about the death of a girl student at Karachi.

Minister for Home (Kazi Fazlullah Ubedullah): Sir, I oppose the motion and submit that the facts as have been reported to me are that on the 19th April, 1968, a College girl was travelling in a bus returning from her college at about 4 p.m. in the evening. Just opposite Liaquat Hospital, she fell from the bus as she was standing on the foot-board and the bus stopped with a jerk. The bus started soon after that and the girl was picked up by two of her class-mates and by a fellow Altaf Hussain by name, who took her to Liaquat Hospital from where she was removed to Jinnah Hospital. No report was made of the incident, therefore, no case was registered. The said girl is stated to have expired on the 20th April, i.e. on the following day. Even then no information was given by the Jinnah Hospital authorities to the Police. The said incident was mentioned in the Daily Jang of 24th April, on which the police took up the investigation. First report was registered on the 25th April, and Altaf Hussain, the witness of the incident, was examined and the investigations are proceeding. A case against the driver and conductor of the bus has been registered. Both of them are absconding and have not been apprehended as yet. Since, the investigations are on and case has now been registered, I submit that the matter is subjudice.

Mr. Speaker : Is the Member satisfied ?

Malik Muhammad Akhtar : Sir, my adjournment is altogether different and I would press it.

Mr. Speaker : Police as well as the Government has already taken action in the matter. The matter is subjudice, the motion is ruled out of order.

BULLET INJURIES RECEIVED BY CHAUDHRI MAULA DAD, EDITOR,
'BAZAR', LYALLPUR

Mr. Speaker : Next motion No. 51.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent and urgent public importance namely, Chaudhri Maula Dad, Editor, Weekly 'Bazar' Lyallpur, has been injured with a bullet shot. The injured journalist has been continuously reporting the case of a lady teacher in which certain police officers were involved. The working journalists of Lyallpur district and social workers have demanded impartial enquiry expressing non-confidence in the local police. The failure of the Government to appoint an impartial agency for investigation has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Minister for Home (Kazi Fazlullah Ubaidullah) : Sir, I oppose this motion. It is a fact that this journalist has been shot dead. The case has been registered and two of the accused have been apprehended. The third one is at large. The grievance of this journalist is that a Sub-Inspector of Police was at the back of this incident and that he was a party in this shooting incident. The Government has given this investigation to a very independent officer of the Crimes Branch. After careful investigation, the Department came to know that the said Sub-Inspector was not involved in the matter and that's why he has not been implicated in the case. The case has been registered under Section 307, and two of the accused, as I have already stated, have been arrested. The matter, therefore, is subjudice, and does not warrant the adjournment of the business of the Assembly.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, the grievance of the journalists and local political and social organisations is that the police is not impartial in the matter. Even the learned Minister has made a statement that the said Sub-Inspector is alleged to be at the back of the whole affair, and in spite of that he has been let loose.

Mr. Speaker : But the investigations have taken place through an impartial agency of the Crimes Branch.

Malik Muhammad Akhtar : Even then they have left him out. Sir, in this way they are creating two classes in the country.

Mr. Speaker : The matter is subjudice. The Government has held an impartial inquiry through Crimes Branch and has taken all the action which could be possible in this matter. Therefore, there is no negligence made out. The motion is, therefore, ruled out of order.

GOVT. DIRECTIONS TO MR. MUHAMMAD YUSAF BUTT, PRESIDENT
STATE BANK EMPLOYEES FEDERATION, NOT TO DELIVER
ANY SPEECH RELATING TO THE EXECUTIVE OF
THE PROVINCE.

Mr. Speaker : Next motion No. 55.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and of urgent public importance, namely, the Provincial Government has directed Mr. Muhammad Yusaf Butt, President State Bank Employees Federation not to deliver any speech or to make a statement for three months relating to the executive of Province. The orders have been passed under the Maintenance of Public Order Ordinance. The news has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

ORDER OF THE GOVT. RESTRAINING MR. MUHAMMAD YUSAF
BUTT, PRESIDENT, STATE BANK EMPLOYEES FEDERATION
FROM MAKING ANY SPEECH CONCERNING THE
PRESIDENT OF PAKISTAN.

Mr. Speaker : Motion No. 96 is on the same subject. Yes, Khawaja Sahib.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly to discuss a definite matter of recent occurrence and of urgent public importance, namely, the

wholly uncalled for and repressive order of the Government of West Pakistan under section 5 of the West Pakistan, Maintenance of Public Order Ordinance restraining Mr. Muhammad Yusaf Butt, President of the State Bank of Pakistan Employees Federation from making any speech or giving public talk in any place in West Pakistan concerning the President of Pakistan and the administration for a period of three months, has caused grave concern to the public of the Province.

Minister for Home (Kazi Fazlullah Ubaidullah): Sir, I oppose these motions. The fact is that Mr. Muhammad Yusaf Butt delivered a speech in October 1967, which was considered to be very objectionable by the Home Department. A verbatim report of the speech was obtained and sent to Law Department for their examination who were of the opinion that the speech warranted action to be taken against him, as this fellow had indulged in abusing the President of Pakistan's person and against the Government as well. Therefore, this action of the Government was justified. I, therefore, submit that the facts of the case do not warrant the adjournment of the business of the House.

Mr. Speaker: I hold the motions in order.

Malik Muhammad Akhtar has asked for leave to make a motion for the adjournment of the business of the Assembly for the purpose of discussing a definite matter of recent occurrence and urgent public importance, namely, the Provincial Government has directed Mr. Muhammad Yusaf Butt, President, State Bank Employees Federation, not to deliver any speech or to make a statement for three months relating to the executive of Province. The orders have been passed under the Maintenance of Public Order Ordinance. The news has perturbed the minds of the public of West Pakistan.

Those Members who are in favour of leave being granted should rise in their places.

(As less than 25 Members rose in their places, leave to move, the motion was refused.)

Mr. Speaker: This also disposes of Khawaja Muhammad Safdar's motion.

DACOITY AND FIRING IN A LADIE'S COMPARTMENT OF A PASS-
ENGER TRAIN IN THE SAHIWAL -LYALLPUR - WAZIRABAD
SECTION.

Mr. Speaker : Next motion No. 61.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, this motion has already been moved by me, but I would like to lay a submission before the Minister gives a reply. I know, Sir, that the matter is subjudice but I want to raise two points in this connection. Firstly, the police failed to accompany the train as escort and secondly there was no constable available at the police post when the party went there to get the case registered. That is my adjournment motion and the Minister should reply to me those points instead of saying that the matter is subjudice.

Minister for Home : I oppose the motion and I ask for time to answer the points raised by my friend. It may be taken up tomorrow or the day after.

Mr. Speaker : Day after tomorrow.

ATTACK ON THE CHIEF COMMERCIAL MANAGER. P.W.R. BY A
GROUP OF POLICEMEN AFTER THE COLLISION OF HIS
CAR WITH A POLICE VAN.

Mr. Speaker : No : 67. I think this motion was moved by Malik Muhammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Yes Sir, it was moved. It is regarding the collision of a police van with the car of some railway Officer.

Minister for Home : I oppose the motion and I will request for time to answer it. It may be taken up day after tomorrow.

Mr. Speaker : It would be taken up on the 9th.

PUBLICATION OF A PHOTO OF THE HOLY PROPHET IN AN
AMERICAN JOURNAL, THE 'SCIENCE DIGEST'.

Mr. Speaker : Next. 69. This was also moved:

Minister for Home : Which one ?

Mr. Speaker : It is regarding 'Science Digest' which published a photo of the Holy Prophet.

Minister for Home : I ask for time.

Mr. Speaker : It would be taken up on the 9th.

The rest of the adjournment motions would be taken up tomorrow.

ORDINANCES

THE WEST PAKISTAN INDUSTRIAL AND COMMERCIAL
EMPLOYMENT (STANDING ORDERS) ORDINANCE,
1968. (*resumption of discussion*).

Mr. Speaker : The House will now resume discussion on the motion that the Assembly do approve of the West Pakistan Industrial and Commercial Employment (Standing Orders) Ordinance, 1968.

Malik Muhammad Akhtar to move his amendment at S. No. 40.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I beg to move :

That in sub-para (1) of para 11 of the Schedule of the Ordinance, the words "without notice" occurring at the end be deleted.

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That in sub-para (1) of para 11 of the Schedule of the Ordinance, the words "without notice" occurring at the end be deleted.

Minister of Labour : Opposed.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲) - میں اپنی ترمیم پر زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا صرف اس کا مقصد بیان کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ جناب والا۔ جب مالک چاہے کسی وقت کسی حادثہ کے ہوتے ہوئے یا مشینری کے فیل ہونے کی صورت میں یا کسی اور ایسی وجوہات کی بنا پر جو اس کے اختیار میں نہ ہوں کلی طور پر یا جزوی طور پر کسی میعاد کے لئے بغیر نوٹس کے اپنے کارخانہ کو بند کر سکتا ہے۔ میں اس میں سے صرف ایک لفظ حذف کرانا چاہتا ہوں۔ ”نوٹس کے بغیر“ جب ہم لیبر لاز کو بہتر بنا رہے ہیں تو فیکٹری کے مالک کو یہ اختیار دینا کہ وہ نوٹس کے بغیر فیکٹری بند کرے۔ اس سے ہم لیبر کو اس لیول پر نہیں لارہے جس لیول پر دوسرے ڈیپارٹمنٹ ہیں۔

وزیر معنت (ملک اللہ یار خان) - جناب والا۔ جیسا کہ اس شق سے ظاہر ہے یہ ادارے اس وقت اپنا کام بند کر سکتے ہیں جب کہ ناگزیر حالات ان کے سامنے ہوں۔ مثال کے طور پر جب کسی فیکٹری میں آگ لگ جائے یا مشینری خراب ہو جائے یا کوئی متعدی بیماری پھیل جائے یا ایسے حالات ہو جائیں جو مالک کے کنٹرول سے باہر ہوں کہ اسے فوراً اپنی فیکٹری یا کارخانہ بند کرنا پڑے۔ اسی لئے قانون میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے اور یہ الفاظ درج ہیں۔ *with or without notice* بعض ایسے حالات میں ممکن نہیں ہوتا کہ اس کے لئے نوٹس بھی دیا جاسکے۔ اس لئے یہاں یہ الفاظ رکھے گئے ہیں۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی تحریر ہے کہ *with or without notice* جس کا مطلب ہے کہ اگر وقت ہو تو انہیں نوٹس دینا پڑے گا۔ لیکن اس کی میعاد مقرر کر دینا ممکن نہیں ہوگا۔ کسی فیکٹری یا ادارے کو مخصوص حالات کی بنا پر بند کر دینے کے لئے نوٹس کی ایک میعاد مقرر کر دینا ان کے مفاد کے منافی ہوگا۔

Mr. Speaker : The question is :

That in sub-para (1) of para 11 of the Schedule of Ordinance, the words "without notice" occurring at the end be deleted.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next amendment.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I beg to move :

That in sub-para (3) of para 11 of the Schedule of the Ordinance, the word "one-half" occurring in lines 3-4 be deleted.

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That in sub-para (3) of para 11 of the Schedule of the Ordinance, the word "one-half" occurring in lines 3-4 be deleted.

Minister of Labour : Opposed.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲) - جناب صدر - میں نے اس ترمیم کے ذریعہ یہ گزارش کی ہے کہ جب کام کو بند کر دیا جائے مشینری کے خراب ہونے کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ پیداوار کم ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں وزیر متعلقہ کی جانب سے قرار یہ دیا گیا ہے کہ اس وقت مزدوروں کو ان کی یومیہ اجرت کا نصف دیا جائے گا پہلے سات دن کے لئے - جناب والا - اس بارہ میں بہری دوسری ترمیم ہے اس میں دیا گیا ہے کہ پہلے سات دن میں کیا صورت ہوگی -

مسٹر سپیکر - اگر آپ کی ترمیم کے مطابق یہ الفاظ یہاں سے حذف کر دینے جائیں تو گرامر کی رو سے یہ عبارت غلط ہو جائے گی -

If the Member's amendment is accepted then the sub-para would read : " . . . an amount equal to (of) their daily wages"

Malik Muhammad Akhtar : ". . . an amount equal to of their daily wages"

مسٹر سپیکر - "of" جو نہیں اڑایا آپ نے ؟

ملک محمد اختر - آپ درست فرما رہے ہیں -

Mr. Speaker : The words "one-half of" should have been deleted.

Malik Muhammad Akhtar : Alright Sir, it may be ruled out.

Mr. Speaker : The amendment makes the sub-clause unintelligible and ungrammatical. Therefore, it is ruled out of order.

Malik Muhammad Akhtar : You will appreciate my difficulty. All these amendments had to be worked out in fifteen or twenty days.

Mr. Speaker : I appreciate that. Next. Khawaja Muhammad Safdar.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir, I beg to move :

That in sub-para (3) of para 11 of the Schedule of the Ordinance for the words "seven" occurring twice in lines 4-6 the words "thirty" and "fifteen" respectively be substituted.

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That in sub-para (3) of para 11 of the Schedule of the Ordinance for the words "seven" occurring twice in lines 4-6 the words "thirty" and "fifteen" respectively be substituted.

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed.

خواجہ محمد صفدر (سیالکوٹ - ۱) - جناب والا - شیڈول کے پیرا ۱۱

کے سب پیرا ۳ میں یہ درج ہے کہ اگر کسی صورت سے کارخانہ بند ہو جائے تو کارخانہ کا مالک پہلے سات دن کے لئے نصف یومیہ اجرت دے گا اور اس سے اگلے سات دن کے لئے مزدوروں کو ایک تمہائی یومیہ اجرت ادا کرے گا۔ جیسا کہ محترم وزیر محنت نے کل ارشاد فرمایا تھا یہ قانون مزدوروں کی بہتری کے لئے جناب گورنر صاحب نے بہ عجلت ہنگامی قانون کی شکل میں نافذ کیا تھا۔ تاکہ اس سے جو مفاد اور فائدہ اور منفعت محنت کشوں کو حاصل ہو سکتی ہے اس سے ایک مہینہ کے لئے وہ محروم نہ رہ جائیں۔ انہوں نے اسمبلی کے اجلاس کا بھی انتظار نہ کیا۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قانون حقیقت میں مزدوروں کے مفاد کے لئے نہیں بلکہ کارخانہ داروں اور صنعتکاروں کی منفعت کے لئے بنایا گیا ہے۔ اور شاید ان کے دباؤ کے تحت جناب وزیر محنت نے جنہیں میں وزیر کارخانہ داران کہوں گا۔ جناب گورنر کو یہ مشورہ دیا کہ اگرچہ اسمبلی کا اجلاس مہینہ یا سوا مہینہ کے اندر شروع ہو رہا ہے مگر آپ ایک ہنگامی قانون جاری کر دیجئے تاکہ ہمارے یہ دوست جلد از جلد زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ سیری ان گزارشات کی وجہ یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں اسی قسم کا ایک قانون ۱۹۶۵ء سے نافذ ہے۔ وہ قانون جناب وزیر صاحب کی نظر سے ضرور گزرا ہے کیونکہ اس قانون کی بعض دفعات اس ہنگامی قانون میں شامل ہیں۔ اس کی متعلقہ دفعہ کی طرف میں جناب وزیر محنت صاحب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس دفعہ میں یہ درج ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے خواہ وہ مجبوری بجلی کے بند ہونے کی وجہ سے ہے۔ خواہ وہ مجبوری مشینری کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ خواہ وہ مجبوری ترقی کے زمانہ میں کارخانہ داروں کو خام مال نہ ماننے کی وجہ سے ہے خواہ کسی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو کارخانہ دار اپنے مزدوروں کو ۵ دن تک نصف تنخواہ ادا کرے گا۔ آپ ۷ دن اور ۵ دن میں فرق ملاحظہ فرمائیں۔ اور اس کے بعد بھی اگر سال بھر میں ۵

دن سے زیادہ دن بن جاتے ہیں تو ہر ۷ دن کے لئے ۱/۳ تنخواہ مزدوروں کو ملے گی۔ جناب وزیر محنت صاحب نے فرمایا ہے کہ یہاں سال بھر کے لئے اگر کارخانہ lay off ہو جائے یا بند ہو جائے تو پہلے ۷ دن کے لئے نصف تنخواہ ملے گی اگلے سات دن کے لئے ۱/۳ تنخواہ ملے گی اور اگر کارخانہ یا فیکٹری سال بھر کے لئے بند ہو جائے تو مزدور کو مزید کچھ نہیں ملے گا اور وہ ہوا پر زندہ رہے گا اس لئے میں نے یہ تجویز پیش کی ہے اگرچہ میری یہ عین خواہش تھی کہ ہم اگر اپنے مشرقی پاکستان کے بھائیوں سے مسابقت نہیں لے جا سکتے کم از کم مساوی درجہ تو حاصل کر لیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مجھے پورا یقین تھا کہ جناب وزیر محنت صاحب اس صورت کو کبھی قبول نہیں فرمائیں گے اس لئے میں نے ان سے رعایت برتنے ہوئے کہ چلئے آپ اپنے کارخانہ دار دوستوں سے دوستی نبھالیں اور ۲۵ دن کی بجائے ۳۰ دن نصف تنخواہ مزدور کو دی جائے۔ اگر سال بھر میں ۳۰ دن سے lay off بڑھ جائے تو اگلے ۱۵ دن کے لئے ۱/۳ تنخواہ دی جائے۔ میرا خیال تھا کہ جناب وزیر محنت صاحب اس کو قبول کر لیں گے۔ یہ ایک درمیانی راستہ ہے تاکہ ان کے تعلقات بھی برقرار رہیں اور مزدوروں کے لئے بھی کچھ بہتری کی صورت پیدا ہو جائے۔ مشرقی پاکستان کے برابر نہ سہی وہ صوبہ زیادہ ترقی یافتہ سہی مگر کچھ تو اپنے ہاں کے مزدوروں کو بھی مل جائے گا۔ میں دوبارہ جناب وزیر محنت صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ میری اس نہایت ہی معمولی سی ترمیم کو قبول فرما لیں۔

وزیر محنت۔ جناب والا۔ سب سے پہلے میں جناب قائد حزب اختلاف کے اس خیال سے اتفاق نہیں رکھتا کہ یہ قانون جب ہنگامی قانون کی صورت میں نافذ ہوا تو بعض کارخانہ داروں کو رعایت اور ان کی امداد کے پیش نظر

اس کو ہنگامی قانون کی صورت میں نافذ کیا گیا حالانکہ اسمبلی سیشن میں سپینہ ڈیڑھ سپینہ باقی تھا اور اس کو آسانی سے اسمبلی میں پیش کیا جا سکتا تھا۔ اس سے قبل بھی اسی پوائنٹ پر عرض کر چکا ہوں کہ اگر وہ اس قانون کا مطالعہ کریں تو وہ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بعض فائدے جو اس قانون کی رو سے مزدوروں کو ملتے تھے وہ نہ ملتے اگر اس کو ہنگامی قانون کی صورت میں جلد از جلد نافذ نہ کیا جاتا اگر اس کو ایک سپینہ یا دو سپینہ کے بعد اس ہاؤس میں بل کی صورت میں پیش کیا جاتا تو ان فائدوں کے حصول کے لئے انہیں تین چار ماہ انتظار کرنا پڑتا۔ میں اس ضمن میں بعض ایسی مثالیں بھی پیش کر سکتا ہوں جہاں ان کے قوانین کے تحت مزدوروں کو بالخصوص **The West Pakistan Industrial and Commercial Employment (Standing Orders) Ordinance, 1968** کے تحت فائدے پہنچانا مقصود تھا وہ فائدے گزشتہ دو ماہ کے اندر ہزاروں مزدوروں نے اٹھائے ہیں۔ حال ہی میں جنرل ربر اینڈ گائرز کمپنی کراچی نے بعض ناگزیر حالات کی بنا پر اڑھائی سو مزدوروں کی چھانٹی کی ہے اور اس چھانٹی کے متعلق قائد حزب اختلاف خواجہ محمد صفدر صاحب نے ایک تحریک التوا بھی دی ہے۔ ان اڑھائی سو مزدوروں نے اس قانون سے جو زیر بحث ہے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ ان کو اس قانون کے احکام جاریہ کے تحت گریجویٹی۔ سالانہ چھٹیوں اور جو بتایا جات تھے ان کو حاصل کرنے میں فائدہ پہنچا ہے۔ اگر یہ قانون ہنگامی قانون کی صورت میں نافذ نہ کیا جاتا تو وہ تمام مزدور جن کا ذکر جناب قائد حزب اختلاف نے اپنی تحریک التوا میں کیا ہے ان فائدوں سے محروم ہو جاتے۔ اسی طرح کی بے شمار مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ ہزاروں مزدوروں نے اس خصوصی قانون کے تحت دو ماہ کے اندر فائدہ اٹھایا۔ جناب والا۔ اس قانون کو ہنگامی قانون کی صورت میں اس لئے نافذ کرنے کی ضرورت ہوتی کہ جو

فائدے مزدوروں کو دینے مقصود تھے وہ فائدے ہم ان کو جلد از جلد دینا چاہتے تھے۔

جناب والا۔ اس کے علاوہ دوسرا اعتراض قائد حزب اختلاف نے اس شق کے بارے میں یہ فرمایا ہے اور انہوں نے مشرقی پاکستان کے اسی قسم کے احکام جاریہ سے موازنہ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہ ہم نے مزدوروں کے حقوق بہتر طور پر تحفظ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے جتنی کہ مشرقی پاکستان کی حکومت نے کی ہے۔ میں اس ضمن میں اسی شق کی طرف جو مشرقی پاکستان کی حکومت نے احکام جاریہ کو ۱۹۶۵ء میں نافذ کیا تھا توجہ دلا کر دیکھوں۔ غالباً انہوں نے اس قانون کا اچھی طرح سے مطالعہ نہیں کیا ہے یا وہ شق جو اپنے اس قانون میں پیش کی ہے اسکا مطالعہ نہیں کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ شق جو اس قانون میں درج ہے اس شق سے یہاں کے مزدوروں کو مشرقی پاکستان کے مقابلہ میں زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر جناب قائد حزب اختلاف شق نمبر ۹ احکام جاریہ کے قانون کا مطالعہ فرمائیں اور دیکھیں کہ مشرقی پاکستان کا مزدور چھانٹی کی صورت میں سال بھر میں ۵۵ دن فائدہ اٹھا سکتا ہے یعنی ۵۵ دن میں وہ ۱/۲ اور ۱/۳ اجرت لے سکتا ہے۔ انہوں نے ایک سال میں ۵۵ دن کی قید لگا دی ہے حالانکہ ہم نے اپنے قانون میں ۵۵ دن کی قید نہیں لگائی۔ جو پروویژن کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک سال میں کوئی کارخانہ دار یا کسی ادارے کا مالک ایک مرتبہ نہیں بلکہ ۸ مرتبہ بھی اپنی فیکٹری یا کارخانہ بند کرتا ہے تو اس صورت میں ہر دفعہ کارخانے کے بند ہونے کے بعد ۱۵ دن تک اس کی اجرت کا ۱/۲ اور ۱/۳ تنخواہ کا حصہ ملا کرے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پینتالیس دن کے لئے ہی نہیں بلکہ ساٹھ یا اسی دن تک کے لئے بھی اس فائدے سے مستفید ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس

سلسلے میں کوئی حد مقرر ہی نہیں کی ہے۔ تو اگر ہم جناب قائد حزب اختلاف کے ارشاد کے مطابق پینتالیس دن کی قید لگا دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزدوروں کے مفاد کے منافی ہوگا۔

جناب والا۔ اس کے علاوہ ایک اور فقرہ جو اسی شق کی دفعہ نمبر ۹ کی ذیلی دفعہ نمبر ۳ میں ہے، اگر جناب خواجہ صاحب اس کا مطالعہ فرمائیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔

“In any case where, during a calendar year, a worker is to be laid-off, after the first forty-five days as aforesaid, for any continuous period of fifteen days or more, the employer may instead of laying-off such a worker, retrench him under section 12.”

تو اس شق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک طرف تو ان مزدوروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش سے لیکن دوسری جانب انہوں نے اس بات کا امکان بھی مہیا کر دیا ہے کہ اگر مالکان چاہیں تو وہ ایسے مزدور کو ملازمت سے علیحدہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ ان مخصوص دنوں میں اپنی اجرت حاصل کرنے کا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب مالکان اور کارخانہ داروں کو اس بات کا علم ہو کہ چالیس پینتالیس دنوں کے لئے ان کی فیکٹریاں بند ہوں گی اور ان کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی فیکٹریاں پینتالیس دنوں سے کم عرصہ کے لئے بند رکھ سکیں، تو ایسی حالت میں ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کارخانوں کو مکمل طور پر بند بھی کر دیں اور یہ کہ تمام مزدوروں کو ملازمت سے علیحدہ کر دیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ ان مزدوروں کو اجرت دیں، وہ ان سب کو ملازمت سے ہی علیحدہ کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان الفاظ کی جانب جناب خواجہ صاحب نے توجہ نہیں فرمائی۔ اس کے علاوہ

مشرقی پاکستان میں اسی طرح کا جو قانون جاری ہے اس میں بھی مزدوروں کو جو مراعات دی گئی ہیں، وہ ہم سے زیادہ نہیں ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان سے زیادہ مراعات مزدوروں کو دی ہیں۔

Mr. Speaker : The question is—

That in sub-para (3) of para 11 of the Schedule of the Ordinance, for the word "seven", occurring twice in line 4 and 6, the words "thirty" and "fifteen" respectively be substituted.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next amendment by Malik Muhammad Akhtar is out of order on similar grounds. That stands disposed of. Next amendment.

Khawaja Muhammad Safdar : I beg to move —

That in sub-para. (4) of para. 11 of the Schedule of the Ordinance, the full stop appearing at the end be replaced by a colon and add the following proviso thereafter, namely :—

"Provided if the strike is declared legal the workmen affected by the total or partial closing down of a department or departments shall be entitled to receive wages for the whole period of the strike."

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That in sub-para. (4) of para. 11 of the Schedule of the Ordinance, the full stop appearing at the end be replaced by a colon and add the following proviso thereafter, namely :—

"Provided if the strike is declared legal the workmen affected by the total or partial closing

down of a department or departments shall be entitled to receive wages for the whole period of the strike."

Minister for Labour : Opposed.

خواجہ محمد صفدر (سیالکوٹ - ۱) - جناب والا - میری اس ترمیم کی غرض و غایت یہ ہے کہ سب پیرا نمبر ۱۱، پیرا نمبر ۱۱ میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ اگر کسی کارخانے میں ہڑتال ہو جائے تو کارخانے کے مالک کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس کارخانے کے کسی شعبے کو جزوی طور پر یا مکمل طور پر بند کر دے اور اس کو بند کرنے کا نوٹس کارخانے کے باہر ثبت کر کے مزدوروں کو جواب دے دے۔ تو میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں آ رہی ہے کہ ایسی صورت میں مزدوروں کو معاوضہ دینے کی کیا صورت ہوگی۔ فرض کیجئے کہ اس قانون میں یہ درج کیا گیا ہو کہ وہ ہڑتال خلاف قانون قرار دے دی گئی تو ایسی صورت میں بجائے اجرت وصول کرنے کے مزدور الٹے سزا کے مستوجب ہو جائیں گے۔ یہ امکانات بہت قلیل ہیں۔ لیکن اگر کوئی عدالت اس ہڑتال کو کہ جس کے نتیجے کے طور پر کارخانے کا کوئی حصہ بند کر دیا گیا تھا اور مزدوروں کو ملازمت سے جواب دے دیا گیا تھا، قانون کے مطابق قرار دے دے، تو کیا جن مزدوروں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، ان کو ان ایام کی مزدوری دی جائے گی۔ میں نے یہ چند سطور اسی غرض سے لکھی ہیں کہ ایسی صورت میں مزدوروں کو اجرت مل سکے۔ اس صورت حال کے پیدا ہو جانے کی صورت میں میں نے اس قانون میں کہیں بھی نہیں دیکھا کہ ایسی کوئی بات درج ہو کہ مزدوروں کو اجرت دی جائے گی اور اسی لئے میں نے دو تین سطروں کا اضافہ یہاں پر کیا ہے جسے امید ہے کہ جناب وزیر محنت قبول فرما لیں گے۔

وزیر معنت (ملک اللہ یار خان) - جناب والا - میں جناب خواجہ صاحب کی اس ترمیم کی مخالفت اس لئے کر رہا ہوں کہ میری دانست میں یہ ترمیم غیر ضروری ہے - کیونکہ جب بھی کسی ہڑتال کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے تو اس صورت میں ہڑتالی مزدوروں کو ان کی تنخواہ نہیں دی جاتی - البتہ بعض حالات میں ان کو ان کی تنخواہ کا کچھ حصہ دے دیا جاتا ہے - لیکن اس کے برعکس کسی ہڑتال کے قانونی قرار دینے کے لئے کی صورت میں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جن ایام میں وہ ہڑتال پر تھے اور ان ایام کو قانونی قرار دے دیا گیا ہو ، ان مزدوروں کو ان ایام کی اجرت نہ دی جائے اور اس قسم کے سینکڑوں مقدمات صنعتی عدالت نے فیصلہ کئے ہیں کہ جب کسی ہڑتال کو قانونی طور پر جائز قرار دیا گیا تو ہڑتال کنندہ مزدوروں کو ان کی پوری پوری تنخواہیں یا اجرتیں ملتی رہی ہیں - میں سمجھتا ہوں کہ قانون میں کوئی بھی ایسی شق موجود نہیں ہے کہ جہاں پر یہ درج ہو کہ کسی ہڑتال کے قانونی قرار دینے کے لئے صورت میں مزدوروں کو ان کی تنخواہیں نہیں ملیں گی -

Mr. Speaker : Is it not in the discretion of the Industrial Court ?

وزیر معنت - جی نہیں - یہ ایسا نہیں ہے - یہ صنعتی عدالت کی صوابدید پر نہیں ہے - کیونکہ جب کوئی ہڑتال قانونی قرار دی جائے گی تو تصور یہ کیا جائے گا کہ ہڑتال کے ایام میں بھی مزدور اپنے کام پر لگے ہوئے تھے اور اس کی وضاحت Industrial Disputes Ordinance میں بھی کی گئی ہے -

مسٹر حمزہ - اس کی کون سی دفعہ میں اس کی وضاحت موجود

وزیر معائنات - مجھے انسوس ہے کہ اس کی متعلقہ دفعہ مجھے بس وقت یاد نہیں ہے لیکن جو کچھ میں نے عرض کیا یہ درست ہے۔

Mr. Speaker : The question is—

That in sub-para. (4) of para. 11 of the Schedule of the Ordinance, the full stop appearing at the end be replaced by a colon and add the following proviso thereafter, namely :—

“Provided if the strike is declared legal the workmen affected by the total or partial closing down of a department or departments shall be entitled to receive wages for the whole period of the strike.”

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next amendment No. 46 is a similar one and stands disposed of.

Next amendment.

خواجہ محمد صفدر - پوائنٹ آف آرڈر - جناب والا - میری رائے میں ترمیم نمبر ۴۸ پہلے اور ترمیم نمبر ۴۷ اس کے بعد زیر بحث آئی چاہئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ترمیم نمبر ۴۷ پہلے زیر بحث آگئی تو ترمیم نمبر ۴۸ زیر بحث آ ہی نہیں سکتی۔ ترمیم نمبر ۴۸ کے نام پر ہے اور وہ صرف ایک ہی شق کے متعلق ہے جو کہ سب پر نامبر ۱ ہے۔ لیکن ملک محمد اختر صاحب کی ترمیم نمبر ۴۷ ساری دفعہ کے متعلق ہے۔

مسٹر سپیکر - ان کی ترمیم substitution کے متعلق ہے۔

خواجہ محمد صفدر - میری ترمیم بھی substitution کے متعلق

ہی ہے۔

مسٹر سپیکر - لیکن آپ کی ترمیم partial substitution کے بارے میں ہے اور ملک صاحب کی ترمیم total substitution کے متعلق ہے - اس لئے ان کی ترمیم پہلے آئی چاہئے - کیونکہ اگر یہ معزز ایوان یہ فیصلہ کر لے کہ ان کی ترمیم منظور کر کے ساری کلاز کو substitute کر دیا جائے تو وہ ساری کی ساری کلاز ہی substitute کر دی جائے گی ورنہ آپ کی partial substitution والی ترمیم پیش کی جائے گی -

Malik Muhammad Akhtar : I beg to move:

That for Para. 12 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted, namely:—

“12. (1) For terminating the employment of a permanent worker by the employer, otherwise than in the manner provided elsewhere in this Ordinance, ninety-days' notice in the case of monthly rated workers and forty-five days' notice in the case of other workers, in writing, shall be given by the employer:

Provided that wages for ninety days or forty-five days, as the case may be, paid in lieu of such notice:

Provided further that the worker whose employment is so terminated, shall be paid by the employer compensation at the rate of fourteen-days' wages for every completed year of service or for any part thereof in excess of six months, in addition to any other benefit to which he may be entitled under this ordinance or any other law for the time being in force.

Explanation—For the purpose of calculation of wages under this sub-section, wages shall mean the average of the basic wages and dearness allowance, if any, paid to the worker during the period of twelve months immediately preceding the date of termination.

(2) If a permanent worker desires to terminate his employment, one month's notice in the case of monthly rated workers, and fourteen days' notice in the case of other workers in writing, shall be given by him to his employer :

Provided that a worker who terminates his employment under this sub-section shall not be entitled to the payment of any compensation mentioned in sub-section (1) but he shall be entitled to other benefits, if any, under this Ordinance or under any other law for the time being in force.

(3) For terminating the employment of temporary worker by the employer, otherwise than in the manner provided elsewhere in this Ordinance and if it is not due to the completion, cessation, abolition or discontinuance of the temporary work which he was appointed to perform, one month's notice in the case of monthly rated workers and fourteen days' notice in other cases, in writing, shall be given by the employer :

Provided that wages for one month or fourteen days, as the case may be, may be paid in lieu of such notice."

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That for Para. 12 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted namely :—

"12. (1) For terminating the employment of a permanent worker by the employer, otherwise than in the manner provided elsewhere in this Ordinance, ninety-days' notice in the case of monthly rated workers and forty-five days' notice in the case of other workers, in writing, shall be given by the employer :

Provided that wages for ninety-days or forty-five days, as the case may be, may be paid in lieu of such notice :

Provided further that the worker whose employment is so terminated, shall be paid by the employer compensation at the rate of fourteen days' wages for every completed year of service or for any part thereof in excess of six months, in addition to any other benefit to which he may be entitled under this ordinance or any other law for the time being in force.

Explanation—For the purpose of calculation of wages under this sub section, wages shall mean the average of the basic wages and dearness allowance, if any, paid to the worker during the period of twelve months immediately preceding the date of termination.

(2) If a permanent worker desires to terminate his employment one month's notice in the case of monthly rated workers, and fourteen days' notice in the case of other workers in writing, shall be given by him to his employer :

Provided that a worker who terminates his employment under this sub-section shall not be entitled to the payment of any compensation mentioned in sub-section (1) but he shall be entitled to other benefits, if any, under this Ordinance or under any other law for the time being in force.

(3) For terminating employment of temporary worker by the employer, otherwise than in the manner provided elsewhere in this Ordinance and if it is not due to the completion, cessation, abolition or discontinuance of the temporary work which he was appointed to perform, one month's notice in the case of monthly rated workers and fourteen days' notice in other cases, in writing, shall be given by the employer :

Provided that wages for one month or fourteen days, as the case may be, may be paid in lieu of such notice."

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲) - جناب سپیکر - یہ amendment self explanatory ہے - میں ذرا ماہی تبصرہ کروں گا اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مغربی پاکستان میں انہوں نے کسی کی سروسز کو terminate کرنے کے لئے ایک ماہ کا نوٹس رکھا ہے - جب کہ میں نے یہ تجویز کیا ہے کہ permanent employee کی سروسز کو terminate کرنے کے لئے ۵ دن کا نوٹس دیا جائے اور ان لوگوں کو جو مستقل ملازم نہ ہوں گے، ان کو اگر چاہے تو وہ اس نوٹس کے عوض ان کو تنخواہ دے کر رخصت کر سکتا ہے جیسا کہ عام طور پر سرکاری محکموں میں کیا جاتا ہے - جناب والا - اس کے بعد میں نے یہ قید لگائی ہے کہ جب کسی شخص کی سروسز تین ماہ کے نوٹس یا ۵ دن کے نوٹس کے تحت ختم کی جائے گی ان کو ان تمام benefits سے محروم نہ کیا جائے گا جو اس کو حاصل ہیں مثلاً earned leave جیسی privileges اور اسی قسم کی دوسری privileges مثلاً provident fund اور پنشن وغیرہ - جناب والا - میں چاہتا تھا کہ آپ اس amendment کو مان لیں اس میں explanation بھی ہے کہ اس کا معاوضہ جو دیا جائے گا وہ اس کی ایک سالہ پہلے کی تنخواہ اور دیگر واجبات جو ہوں گے ان کی average pay پر کیا جائے گا جناب والا - انہوں نے جہاں یہ حق کسی کارخانہ دار یا صنعتکار یا کسی کمرشل ادارے کے مالک کو دیا ہے کہ وہ اپنے ملازموں کو نوکری سے علیحدہ کر سکتا ہے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی ملازم مستقل ہے تو وہ ایک ماہ کا نوٹس دے کر اور اگر otherwise ہے تو کیوں نہ ۵ دن کا نوٹس دے کر وہ بھی اس طرح اپنی سروسز کو ختم کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ تمام مراعات جو اس کی ہوں گی اگر وہ نوکری بھی چھوڑنا چاہے تو وہ ان مراعات سے جو اسے حاصل ہیں محروم نہیں کیا جائے گا - جناب والا - اگر کسی عارضی

کر کی خدمات کو صنعت کار نے ختم کرنا ہے تو اس کو بھی الیمین نوٹس دینا ہوگا اور وہی مراعات دینی ہونگی۔ جناب والا۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے لیبر لاز میں تضاد ہے میں نے کل بھی عرض کیا تھا اب میں صرف ایک جملہ دہراؤں کا کہ مشرقی پاکستان میں privileges زیادہ ہیں وہاں پر نوٹس کی میعاد بھی زیادہ ہے مگر اس کے مقابلے میں یہاں مغربی پاکستان میں پورے پورے benefits نہیں دئے جا رہے ہیں جناب والا۔ ایک ملک میں دو قوانین نہیں ہو سکتے۔ جو تمام کے تمام لیبر لاز اس وقت ہیں ان میں یکسانیت ہونی چاہیئے جیسے آئین میں بھی قانون کی نظر میں یکسانیت کا بنیادی حق دیا گیا ہے۔ اگر چہ ہم National Emergency کے پیش نظر اس حق کو بروئے کار نہیں لا سکتے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو National Emergency ختم ہوگی تو یہ جو مشرقی اور مغربی پاکستان کے لیبر لاز میں تضاد اور تفاوت پایا جاتا ہے۔ بنیادی حقوق کے تحت ختم ہو کر رہ جائے گا۔ جناب والا۔ مجھے بے حد خوشی ہوتی اگر جناب وزیر معنت ان دنوں لاکھ مزدوروں کے لئے جن کی تعداد آئندہ بیس سالوں میں کم و بیش ایک کروڑ ہو جائے گی کے لئے اچھے اچھے قوانین لاتے۔

جناب والا۔ جہاں تک میرا خیال ہے، یہ قوانین جو ہیں ایگریکلچرل سیکٹر پر بھی فی الواقع لاگو ہونے ہیں تو ان قوانین سے اس طرح تقریباً ہماری آبادی کا ۹۰ فی صد حصہ متاثر ہوگا۔ اور جناب والا۔ یہ ایک اچھا موقع تھا کہ ایک آزاد مملکت میں ہم نے تمام لوگوں کے حقوق کو مساوی نظر سے دیکھنا تھا۔ یہ صنعتکار جن کا آج۔ حکومت، ملکی سرمائے انشورنس اور بینکنگ وغیرہ پر قبضہ ہے انہوں نے یہ چیز کر دی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی صنعت قائم کرنا چاہے تو نہ تو یہ صنعتکار اسے بنکوں سے قرضہ لینے دیتے ہیں اور نہ ہی لائسنس حاصل کرنے دیتے ہیں۔

Minister for Labour : Point of order Sir.

جناب والا - ملک صاحب کے یہ الفاظ کہ حکومت نے صنعتوں پر پابندی لگا رکھی ہے اور وہ نئی صنعتوں کے اجراء کے لئے اجازت و لائسنس نہیں دیتے اس کا اس ترمیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے -

Malik Mohammad Akhtar : I will not repeat it Sir. I am very sorry for that.

جناب والا - سینے میں جو آگ سلگ رہی ہے آخر اس نے دہواں تو دجنا ہی ہے -

جناب والا - میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس بڑھنے والی آبادی یعنی لیبر کالونیز کی آبادی ایک کروڑ سے زیادہ ہو جائے گی اور جب ایگریکلچر سیکٹر بھی ان لوگوں میں آتا ہے تو پھر یہ چیز موام کو دھوکا دینے کے لئے یہاں رکھ دی گئی ہے - یہ بہتر تھا کہ اس آزاد مملکت کی فلاح و بہبود کے لئے اس قسم کے متشددانہ قوانین نہ بنائے جاتے - یہ قوانین زمانہ پارینہ کے قوانین ہیں جب کہ انسان اتنا تمدن نہیں تھا - ان قوانین کو بہتر بنانے کے لئے ۴۰ سال کے بعد جو قوانین بنا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وزیر معنت کم و بیش ۱۹۲۵ء سے ۵۰ سال پیچھے چلے گئے ہیں - ایسے قوانین ۱۸۷۵ء میں تو بر محل تھے - اس زمانہ کے حالات کے مطابق تھے - جب انگریز حکمران تھا اس سلسلہ میں میں تو موجودہ حکومت کی تعریف کروں گا کہ انگریز نے کمیونزم کے نام سے مزدوروں کو exploit کیا تھا اور ان کے گلے پر چھری پھیری تھی - اب آپ نے ایک انڈیپنڈنٹ خارجہ پالیسی بنائی ہے - اور مزدوروں کو اس پر بسی سے بچا لیا ہے - لیکن اگر یہ ایسا ہے

صنعتکاروں کا اثر بڑھ رہا ہے۔ اب یہ تین سنہری اور روہیلی جال لائے ہیں برائے شکاری ان کو نئے طریقے سے پھنسا جاتے ہیں۔ پرالی شراب اب نئے جام میں انڈیل رہے ہیں۔ وزیر محنت جو قوانین بنا رہے ہیں۔ ان کے متعلق پریس کے کسی سیکشن نے کوئی statement نہیں دی ماسوائے اس کے کہ وہ خود اپنی تعریف کرتے ہیں اور اسی قسم کی خودستالی کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھے قوانین لا رہے ہیں۔

Mr. Speaker : The Member may please be relevant to the Ordinance.

Malik Muhammad Akhtar : I am going to conclude Sir.

میں یہ عرض کروں گا کہ یہ قوانین سیاہ قوانین ہیں۔ یہ ایک جال ہے اور ایک پیش قدمی ہے کیونکہ مزدوروں کی تعداد بڑھنے والی ہے انہوں نے ان کو ایک بڑے جیل خانہ میں مقید کرنے کے لئے یہ لکھ دیا ہے۔

Mr. Speaker : In his amendment the Minister has said :

"12 (1) For terminating the employment of a permanent worker by the employer, otherwise than in the manner provided elsewhere in this Ordinance"

کسی اور جگہ بھی ہے۔

ملک محمد اختر۔ میں نے مشرقی پاکستان کے قوانین سے لیا ہے۔

مسٹر سپیکر۔ ان میں تو کہیں نہیں۔

وزیر محنت۔ معزز ممبر نے اپنے قانون کو پڑھا ہی نہیں انہوں نے صرف

مشرقی پاکستان کے قانون کو پڑھا ہے۔

ملک محمد اختر۔ سیکشن ۱۲ میں تو نہیں تھا لیکن اور بہت سی

جگہوں میں termination of service کے متعلق لکھا ہے۔

مسٹر سپیکر - اس لئے یہ یہاں apply نہیں کرے گا بلکہ کسی اور جگہ apply کرے گا۔

Malik Muhammad Akhtar : I wanted it to be exhaustive to cover all provisions of the Ordinance under discussion.

Mr. Speaker : And not this provision.

Malik Muhammad Akhtar : Including this provision.

Mr. Speaker : Then the word "elsewhere" should not have been used.

Malik Muhammad Akhtar : Supposing I had not used those words and there is another provision or method of terminating the service then they would have taken the plea that it is out of order. I have only guarded against that position. Those words if used will not be inconsistent, rather they will be consistent.

مسٹر سپیکر - میرے خیال میں ان الفاظ کی ضرورت نہیں تھی - جس طرح انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں اسی طرح آپ بھی استعمال کرتے تو ٹھیک تھا۔

میجر محمد اسلم جان - جناب والا - اسی قسم کی میری - خواجہ محمد صفدر صاحب اور حمزہ صاحب کی ترامیم ہیں - اگر یہ ترمیم defeat ہو گئی تو پھر شاید وہ move نہ ہو سکیں - اگر آپ انہیں move کرنے دیں تو پھر میں اس وقت کچھ نہیں کہتا۔

Mr. Speaker : I shall allow them.

میجر محمد اسلم جان - بہت اچھا جناب۔

Mr. Speaker : The question is :

That for Para. 12 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

“12. (1) For terminating the employment of a permanent worker by the employer, otherwise than in the manner provided elsewhere in this Ordinance, ninety-days' notice in the case of monthly rated workers and forty-five days' notice in the case of other workers, in writing, shall be given by the employer :

Provided that wages for ninety days or forty-five days, as the case may be, may be paid in lieu such of notice :

Provided further that the worker whose employment is so terminated, shall be paid by the employer compensation at the rate of fourteen-days' wages for every completed year of service or for any part thereof in excess of six months, in addition to any other benefit to which he may be entitled under this ordinance or any other law for the time being in force.

Explanation—For the purpose of calculation of wages under this sub-section, wages shall mean the average of the basic wages and dearness allowance, if any, paid to the worker during the period of twelve months immediately preceding the date of termination.

(2) If a permanent worker desires to terminate his employment, one month's notice in the case of monthly rated workers, and fourteen days' notice in the case of other workers in writing, shall be given by him to his employer :

Provided that a worker who terminates his employment under this sub-section shall not be entitled to the payment of any compensation mentioned in sub-section (1) but he shall be entitled to other benefits, if any, under this Ordinance or under any other law for the time being in force.

ORDINANCES

1487

(3) For terminating the employment of temporary worker by the employer, otherwise than in the manner provided elsewhere in this Ordinance and if it is not due to the completion, cessation, abolition or discontinuance of the temporary work which he was appointed to perform, one month's notice in the case of monthly rated workers and fourteen days' notice in other cases, in writing, shall be given by the employer :

Provided that wages for one month or fourteen days, as the case may be, may be paid in lieu of such notice."

The motion was lost.

Minister of Food (Malik Khuda Bakhsh) : I would just like to make one point. Is it necessary for you to read this amendment again at this time because I wanted to save your breath. Number one. Secondly, will it be very highly irregular if it is not put in this form because I have during my life seen in Legislatures that for the second time the amendment is not read in the form that you have been pleased to read. Is there anything specific in the Rules or is it your discretion? Because if it is your discretion then I would request you to exercise it.

Mr. Speaker : The position is that so far as Parliamentary precedents and conventions are concerned there are three parts of a motion. First, the motion is made by the Member i.e. moving of the motion. The second part of it is the proposing of the motion. That is done by the Chair. The Chair reads out and places it before the House to show that this is the motion and the Members can express their opinion and views on the motion. The final stage is the putting of the motion when the Speaker or the Chair puts the motion and the Assembly's view is taken on that motion. When a motion is made all these three stages have to be covered.

Minister of Food : The Speaker can simply say that those who are for the amendment or motion say 'Aye' and those against may say 'No'. Is there any rule which prevents you from doing that?

Mr. Speaker : This is the only way of getting the decision of the Assembly.

Minister of Food : It has already been read out twice. This is the third time that you are going to repeat the same thing. When a motion is a longish one I sympathise with you. I have to sympathise.

Mr. Speaker : But Parliamentary conventions have to be followed.

Minister of Food : Is there anything in Parliamentary practice which prevents you from saying, those in favour of the motion may say 'Aye' and those against may say 'No'. I think there is no rule which prevents you from doing that.

Mr. Speaker : This is for revising and refreshing the memory of the House that this is the amendment because after the moving of the amendment there is a long debate.

Mr. Speaker : Next amendment is from Khawaja Muhammad Safdar.

Khawaja Muhammad Safdar : Not moving Sir.

Mr. Speaker : Next, Mr. Hamza.

Mr. Hamza : Sir I hereby move -

That for sub-para (1) of para. 12 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted, namely :-

"(1) For terminating employment of a permanent workman, three months' notice in writing shall be given either by the employer or the workman. Three months wages calculated on the basis of average of wages earned by the workman during the last six months shall be paid in lieu of notice."

Mr. Speaker : Amendment moved is -

That for sub-para (1) of para. 12 of the Schedule

of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

“(1) For terminating employment of a permanent workman, three months' notice in writing shall be given either by the employer or the workman. Three months wages calculated on the basis of average of wages earned by the workman during the last six months shall be paid in lieu of notice.”

Minister of Labour : Opposed Sir.

مسٹر حمزہ - جناب میرے رفیق کار میجر اسلم جان صاحب اس پر تقریر کریں گے۔

میجر محمد اسلم جان (راولپنڈی - ۱) - جناب سپیکر - یہ ترمیم اس لئے دی گئی ہے کہ پیرا ۱۲ کا جو سب پیرا (۱) ہے اس میں اگر مالکان چاہیں اور اگر workman یا مزدور چاہے تو بھی صرف ایک مہینے کا نوٹس دے گا ہوگا۔

جناب والا - جس طرح سے ہم بار بار مشرقی پاکستان اسپلانٹمنٹ آف لیبر (مشینڈنگ آرڈرز) ایکٹ ۱۹۶۵ء کی طرف وزیر محنت کی توجہ مبذول کراتے رہے ہیں اسی طرح ہم ان کی اس طرف توجہ مبذول کرائیں گے کہ یہ ایک ہی ملک کے دو حصوں میں علیحدہ علیحدہ قسم کے قوانین ہیں۔ اگر ان کی توجہ کسی غیر ملک انگلینڈ یا امریکہ کے قانون کی طرف دلائی جاتی تو وہ یہ کہتے کہ وہ advanced ملک ہیں ہمیں ان کی نقل نہیں کرنی چاہئے اور نہ ان کی نقل ہم کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں آپ کی اجازت سے سب سیکشن (۱) آف سیکشن ۱۹ - آف مشرقی پاکستان اسپلانٹمنٹ (مشینڈنگ آرڈرز) ایکٹ ۱۹۶۵ء کے دو یا ایک پیرا گراف پڑھ کر سنا رہا ہوں۔

Sub-section (1) of section 19 of the East Pakistan Employment of Labour (Standing Orders) Act 1965 :

Termination of employment : For terminating the employment of a permanent worker by the employer otherwise than in the manner provided elsewhere in this Act, ninety days notice in the case of monthly rated worker and 45 days notice in the case of other workers in writing shall be given by the employer, provided that the wages for ninety days or fortyfive days, as the case may be, may be paid in lieu of such notice.

جناب والا - آپ نے اس میں غور فرمایا کہ جب ماہوار تنخواہ پر مزدور کام کرتا ہے اور اگر مالکان اس کو علیحدہ کرنا چاہیں تو وہ اس کو ۹۰ - دن کا نوٹس دیں گے یا ۹۰ - دن کی اس کو تنخواہ دیں گے - اور جہاں پر کہ مزدور یومیہ اجرت پر کام کرتا ہے اور مالکان اس کو نکالنا چاہتے ہیں تو وہ کم سے کم ۴۵ - دن کا نوٹس دیں گے یا ۴۵ - دن کی تنخواہ دیں گے - اور جو مستقل ملازمین ہیں یا جہاں تک مستقل ملازمین کا تعلق ہے سب سیکشن (۲) میں یہ ہے کہ اگر کوئی مزدور نوکری چھوڑنا چاہے تو ایسی حالت میں وہ مزدور ایک مہینہ کا نوٹس دے گا اور اگر وہ یومیہ پر ہے تو وہ ۱۴ - دن کا نوٹس دے گا - مزدور کی طرف سے جو نوٹس دیا جاتا ہے اس میں دو مختلف چیزیں ہیں - اگر مالک نکالے تو تین مہینے کا نوٹس دے -

وزیر محنت (ملک اللہ یار خان) - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب والا - اس ترمیم میں مزدور کی طرف سے ملازمت سے علیحدہ ہونے کا کوئی لفظ نہیں ہے اس لئے میجر صاحب کے یہ الفاظ غیر ضروری ہیں -

میجر محمد اسلم جان - میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو مزدور کی طرف سے ہونا چاہئے اس کو آپ نے مالک کی طرف سے کر دیا ہے - یہ آپ

نے انتہائی ظلم کیا ہے اور میں عرض کروں گا کہ مزدوروں پر ظلم کی کوئی انتہا ہوتی ہے بجائے اس کے کہ یہ قوانین بہتر بنائے جائے اس میں کچھ ترقی کی جاتی آپ ۱۹۲۶ء کے قوانین سے بھی پیچھے چلے جا رہے ہیں میں عرض کروں گا کہ دنیا ترقی کر رہی ہے دنیا پیچھے نہیں جا رہی ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اور ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ اگر مزدور چھوڑنا چاہے تو وہ صرف ایک مہینہ کا نوٹس دے اس کو تین مہینے کا نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب والا۔ اگر مغربی پاکستان میں غلط قوانین بن رہے ہیں تو آپ کم سے کم یہ دیکھیں کہ مشرقی پاکستان میں جو قوانین بن رہے ہیں ان کی ہی ہم نقل کر لیں۔ مشرقی پاکستان میں جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہم سے علیحدہ نہیں ہیں ہم اور وہ ایک ہیں تو ہمارے ان کے قانون بھی ایک ہونے چاہئیں اگر ہم اچھے قوانین نہیں بنا سکتے تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہمیں ان کی نقل ہی کر لینی چاہئے۔ اس لئے میں نہایت مودبانہ عرض کروں گا کہ اگر ملک کے ایک حصہ میں مزدوروں کے ساتھ کوئی رعایت ہے تو وہی رعایت ملک کے دوسرے حصہ میں بھی ہونی چاہئے اور وہ رعایت برائے سہرابانی ان کو دی جائے۔

وزیر معنت (ملک اللہ یار خان)۔ جناب والا۔ میجر اسلم جان صاحب

کا یہ کہنا کہ یہ قانون ۱۹۲۶ء کے قانون سے بھی بدتر ہے۔ میں ان کی اطلاع کے لئے یہ عرض کروں گا اور عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ قانون ۱۹۴۶ء میں نافذ ہوا اور ۱۹۴۶ء سے پہلے کسی قسم کا قانون نافذ نہیں ہوا پھر ترمیمی شکل میں ۱۹۶۰ء میں نافذ ہوا پھر اس کی ترمیم مارچ ۱۹۶۸ء میں کر کے اس کو پاس کیا گیا۔ جہاں تک مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں لیبر قوانین کا تعلق ہے اور بعض جگہ ان میں کچھ اختلاف کا سوال ہے تو اس کے لئے میں یہ عرض کرنا ضروری

سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان میں صنعتی اعتبار سے جو حالات ہیں وہ مغربی پاکستان میں صنعتی لحاظ سے مختلف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں مزدوروں کی تعداد مغربی پاکستان کے مزدوروں کی تعداد سے بہت کم ہے اس لئے قوانین کو مرتب کرتے وقت صرف اس بات کا لحاظ رکھنا کہ جو مشرقی پاکستان میں قوانین بنے ہمیں ان ہی قوانین کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور ان ہی کی نقل کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ صنعتی میدان میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے حالات میں بہت زیادہ فرق ہے اس کے علاوہ جو ترمیم جناب قائد حزب اختلاف نے دی ہے کہ کسی مستقل مزدور کو ایک مہینے کے نوٹس کے بجائے تین مہینے کا نوٹس یا تین مہینے کی تنخواہ دی جائے میں عرض کروں گا کہ یہ انتہائی طور پر نامناسب اور بے انصافی کے مترادف ہے کیونکہ ملازمت سے علیحدہ کرنے کی بہت سے صورتیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی مالک کسی مزدور کو کسی بھی وجہ سے ملازمت سے الگ کر سکتا ہے کیونکہ بعض دفعہ ایسے بھی حالات ہوتے ہیں اور ان کا ذکر جناب والا۔ اس سے پیشتر بعض شقوں میں کیا گیا ہے کہ بعض اوقات ناگزیر حالات کی بنا پر جب مالک مجبور ہو جانا ہے کہ وہ اپنی فیکٹری کو بند کر دے تو اس وقت بھی وہ اپنے مزدوروں کو نوکری سے علیحدہ کر دیتا ہے تو ایسے حالات پیش آجاتے ہیں کیونکہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بعض ایسے کارخانہ دار بھی ہیں یا اداروں کے مالک ہیں جن کا کوئی بس نہیں چلتا حالات پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تو ان حالات میں اگر کوئی مالک اپنے مزدوروں کو ملازمت سے علیحدہ کرتا ہے تو یہ انتہائی نا انصافی ہوگی کہ اس وقت بھی وہ مزدوروں کو ایک مہینے کی بجائے تین مہینے کا نوٹس دے یا اس کے عوض میں ان کو تین ماہ کی تنخواہ دے۔ کبھی جناب والا۔

ایسا بھی ہوتا ہے کہ کارخانے میں آگ لگ جاتی ہے یا جنگ کی صورت میں بمباری کی وجہ سے کارخانہ تباہ ہو جاتا ہے تو قدرتی طور پر مالک کو اپنے ملازمین کو علیحدہ کرنا پڑتا ہے اگر ایسی صورت ہو تو وہاں نوٹس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ کام تو اسی دن سے بند کرنا ہوتا ہے تو اس میں ان کو ایک مہینے کی تنخواہ دینی پڑتی ہے۔ اگر قائد حزب اختلاف کی ترمیم منظور کر لی جائے تو اس صورت میں کارخانے دار کو ایک مہینے کی بجائے تین مہینے کی تنخواہ دینی پڑے گی حالانکہ اس میں مزدوروں کو علیحدہ کرنے کے بارے میں مالک کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لئے جناب والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تین مہینے کا نوٹس یا اس کے عوض میں تین مہینوں کی تنخواہ انتہائی طور پر نا انصافی ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی بھی مزدور کو علیحدہ کرنے کی صورت میں ایک مہینے کا نوٹس یا ایک مہینے کی تنخواہ سے زیادہ رعایت نہیں دی جا سکتی۔ حکومت کے ملازمین کو بھی اسی قدر مراعات اور تحفظ حاصل ہیں۔ حکومت کے ملازمین کو ایک مہینے کا نوٹس یا اس کے عوض میں تنخواہ دی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ حکومت کی طرف سے کوئی رعایت نہیں دی جاتی۔ جناب والا۔ ایک اور نکتہ رہ گیا ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے اوسط تنخواہوں کا ذکر کیا ہے جو کہ عوض میں دی جائے تو سیری تجویز ہے کہ گزشتہ تین ماہ کی اوسط کے لحاظ سے تنخواہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ۶ ماہ کی تنخواہ کی اوسط نکالی جائے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزدور اور مالک کے مفاد کے منافی ہوگا۔ ہم نے جو چیز پیش کی ہے امید ہے اس پر غور کیا جائے گا۔

میجر محمد اسلم جان - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب والا - میں نے پہلے

بھی عرض کیا تھا کہ ٹریڈ یونین ایکٹ ۱۹۲۶ء غلط ہے۔

وزیر معانت - یہ ٹریڈ یونین ایکٹ نہیں ہے یہ چیز زیر بحث

نہیں ہے۔

Mr. Speaker : I will now put the amendment to the vote of the House.

The question is -

That for sub-para (1) of para 12 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted namely :—

“(1) For terminating employment of a permanent workman, three month’s notice in writing shall be given either by the employer or the workman. Three months wages calculated on the basis of average of wages earned by the workman during the last six months shall be paid in lieu of notice.”

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next motion.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir, I beg to move :

That for sub-para (2) of para 12 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

“(2) For terminating employment of a temporary workman, whether monthly rated, weekly rated, daily-rated or piece-rated, a probationer or badli, fifteen days notice in writing shall be given either by the employer or the workman. Fifteen days wages calculated on the basis of average of wages earned by the workman during the last three months and if the period of employment is less than three months during the same period, shall be paid in lieu of notice”.

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That for sub-para (2) of para 12 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted namely :—

“(2) For terminating employment of a temporary workman, whether monthly rated, weekly-rated, daily-rated or piece-rated, a probationer or badli, fifteen days notice in writing shall be given either by the employer or the workman. Fifteen days wages calculated on the basis of average of wages earned by the workman during the last three months and if the period of employment is less than three months during the same period, shall be paid in lieu of notice.”

Minister for Labour: Opposed.

سیجر محمد اسلم جان (راولپنڈی - ۱) - جناب والا - اس کے متعلق بھی میں جناب وزیر موصوف کی توجہ ایسٹ پاکستان ایمپلائمنٹ آف لیبر سٹینڈنگ آرڈر ایکٹ ۱۹۶۵ء کے سیکشن ۱۹ کے سب سیکشن (۳) کی طرف سبڈول کراؤں گا - جناب والا - میں آپ کی اجازت سے سب سیکشن (۳) پڑھتا ہوں -

“For terminating the employment of a temporary worker by the employer, otherwise than in the manner provided elsewhere in this Act, and if it is not due to the completion, cessation, abolition or discontinuance of the temporary work which he was appointed to perform, one month's notice in the case of monthly-rated workers and 14-days notice in other cases, in writing, shall be given by the employer :

Provided that wages for one month or 14 days, as the case may be, may be paid in lieu of such notice.”

جناب والا - جیسا کہ آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ اگر کوئی عارضی ورکر

ماہواری تنخواہ پر ہے تو اس کو ایک مہینے کا نوٹس ملنا ہے اور اگر وہ یومیہ تنخواہ پر ہے تو اس کو اس کی wages ملتی ہیں تو پھر اس کو ۱۴ دن کا نوٹس دیا جاتا ہے۔ اس سے کم نوٹس statutory provisions کے مطابق نہیں دیا جا سکتا کوئی مالک نہیں دے سکتا یا پھر اس کو ایک مہینے کا نوٹس یا ایک مہینے کی تنخواہ دے جناب وزیر موصوف فرماتے ہیں کہ کارخانہ داروں اور صنعت کاروں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ یہ فرمانے ہیں کہ مالک کا جب جی چاہے عارضی ورکر کو بغیر کوئی تنخواہ دینے یا نوٹس دینے ایک ٹھوکر مارے اور نکال دے۔ اس کے متعلق آپ ہی فرمائیں کہ پہلے تو اس کو عارضی کرنے کے لئے ۹ ماہ کی میعاد رکھی ہے اس کو مستقل نہیں کرتے اور جب جی چاہے اس عرصے میں اس کو پکڑیں اور نکال دیں۔ نہ اس کو نوٹس دیں نہ اس کو تنخواہ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزدوروں پر تشدد کی انتہا ہو رہی ہے۔ یہ ایک ویلفیئر سٹیٹ نہیں ہے جہاں لوگوں کو فوائد ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک مہینے کا نوٹس نہ دو کم از کم ۱۵ دنوں کا نوٹس دیا جائے تاکہ غریب کسی اور جگہ نوکری تلاش کر لے یا اپنے لئے جو بیروزگاری کا زمانہ ہے اس کے لئے کچھ بندوبست کر سکے۔ گریجوٹی بھی اس کے لئے منع کر دی گئی ہے لیکن وہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے لیکن میری عرض یہ ہے کہ غریب مزدوروں پر رحم کیا جائے بغیر نوٹس کے نہ نکالیں ان کو اگر ایسٹ پاکستان کی طرح آپ ایک مہینے کا نہیں دیتے تو کم از کم ۱۵ دن کا نوٹس تو ضرور دیا جائے۔

وزیر محنت (ملک اللہ یار خان)۔ جناب سپیکر۔ حزب اختلاف نے

یہاں دو بار ہماری توجہ مشرقی پاکستان کے احکام جاریہ کی خوبیوں کی طرف دلائی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ مشرقی پاکستان کے قانون کے تحت مزدوروں

کو زیادہ مراعات حاصل ہیں۔ حالانکہ وہاں جو عارضی مزدور ہیں ان کو یہاں سے کم مراعات دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ مستقل اور عارضی مزدور کی کچھ نہ کچھ تعریف قانون میں ہونی ضروری ہے۔ اگر ہم عارضی مزدور کو اسی سطح پر رکھیں جو مستقل مزدور کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عارضی مزدور کے لفظ کی گنجائش اور ضرورت ہی اس قانون میں نہیں رہتی۔ اس لئے عارضی مزدور اور مستقل مزدور میں کچھ نہ کچھ فرق ہونا لازمی ہے دوسرے جناب والا۔ گزارش یہ ہے معزز رکن نے فرمایا ہے کہ مغربی پاکستان کے اس قانون کے تحت مزدوروں پر انتہائی ظلم ہو رہا ہے۔ ان سے نہایت نا انصافی ہو رہی ہے۔ اور زیر بحث قانون کے تحت ان کے تحفظ کے لئے کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا ہے۔ میں ان کی توجہ احکام جاریہ کے قانون کے شیڈول کے پیرا ۱ کی طرف دلاؤں گا۔ جہاں ہم نے عارضی مزدور کی تعریف کی ہے۔ ”عارضی مزدور“ وہ ہے جو ایسے کام پر متعین کیا گیا ہو جو نو ماہ کے اندر اندر ختم ہو جانے والا ہو۔ اس قسم کی تعریف مشرقی پاکستان کے احکام جاریہ کے تحت نہیں دی گئی ہے۔ جس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہے۔ میں جناب قائد حزب اختلاف کی توجہ کے لئے عرض کر رہا ہوں۔ کہ اس وقت مشرقی پاکستان میں نوے فیصد مزدور وہ ہیں جو عارضی تصور کئے جاتے ہیں۔ خواہ وہ دس دس یا بیس بیس سال سے ان کاموں پر لگے ہوئے ہیں۔ جن کاموں کی نوعیت ایسی ہے کہ ان کی تکمیل بیس بیس سال یا طویل مدت تک نہیں ہو سکتی۔ یا این ہمہ ان مزدوروں کو اب تک عارضی تصور کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ ان کے قانون میں عارضی مزدور کی واضح اور غیر مبہم الفاظ میں تعریف نہیں کی گئی۔ ہم نے جو عارضی مزدور کی تعریف غیر مبہم الفاظ میں کی ہے تو اس کا یہ اثر ہوا ہے کہ اس وقت ہمارے صوبہ میں کم از کم ۸۰ فی صد مزدور جو

اس سے قبل عارضی تھے مارچ ۱۹۶۸ کے بعد اس ترمیم کی وجہ سے مستقل مزدور تصور ہو رہے ہیں۔ اور انہیں اب وہ تمام فائدے یا مراعات حاصل ہیں جن سے وہ پہلے محروم تھے اور جو مشرقی پاکستان کے مزدوروں کو حاصل نہیں ہیں۔ کیونکہ وہاں وہ تمام مزدور جو نو ماہ کے بعد نہیں بلکہ نو سال سے کسی ایسے ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ابھی تک عارضی مزدور تصور کئے جاتے ہیں۔ اس لئے میں یہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ اس صوبہ میں مزدوروں کے حقوق کے تحفظ اور انہیں زیادہ سے زیادہ مراعات دینے کے لئے ہم نے مشرقی پاکستان سے زیادہ اچھا اقدام کیا ہے۔
- (تالیاں) -

Mr. Speaker: I will now put the amendment to vote. The question is :

That for sub-para (2) of para 12 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

“(2) For terminating employment of a temporary workman, whether monthly rated, weekly-rated, daily-rated, or piece-rated, a probationer or badli, fifteen days notice in writing shall be given either by the employer or the workman. Fifteen days wages calculated on the basis of average of wages earned by the workman during the last three months and if the period of employment is less than three months during the same period, shall be paid in lieu of notice.”

The motion was lost.

Mr. Speaker: Next amendment by Mian Miraj Din.

Mian Miraj Din (Parliamentary Secretary): Sir, I beg to move :

That for sub-para (3) of para 12 of the Sche-

dule of the Ordinance, the following be substituted namely :—

“(3) whether the employment of any workman is terminated, the wages earned by him and other dues including payment for unavailed leave as defined in clause 1 of Standing Order No. 8, shall be paid before the expiry of the second working day from the day on which his employment is terminated.”

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That for sub para (3) of para 12 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted namely :—

“(3) whether the employment of any workman is terminated, the wages earned by him and other dues including payment for unavailed leave as defined in clause 1 of Standing Order No. 8, shall be paid before the expiry of the second working day from the day on which his employment is terminated.”

As there is no opposition to the amendment, it is carried. Next amendment by Khawaja Muhammad Safdar.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir, I beg to move -

That in sub-para (5) of para 12 of the Schedule of the Ordinance, the words “for reasons other than misconduct” occurring in line 2, be deleted.”

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That in sub-para (5) of para 12 of the Schedule of the Ordinance, the words “for reasons other than misconduct” occurring in line 2, be deleted.”

Minister of Labour : Opposed.

خواجہ محمد صفدر (سیالکوٹ - ۱) - جناب والا - میری اس ترمیم کی غرض و غایت یہ ہے کہ جن فوائد کو اور جن مراعات کو ظاہراً یہ ہنگامی

قانون مزدوروں کو عطا کرتا ہے۔ انکا کچھ نہ کچھ حصہ صحیح معنوں میں ان کو مل جائے۔ اب انہوں نے سب پیرا (۵) میں یہ درج کیا ہے کہ اگر کسی مزدور کو ملازمت سے برطرف کیا جاتا ہے تو اسے گریجویٹی ملے گی اور اگر وہ پراویڈنٹ فنڈ کا ممبر ہوگا تو وہ صرف پراویڈنٹ فنڈ لے سکے گا۔ بشرطیکہ اسے نامعقول رویہ کی بنا پر برخاست نہ کیا گیا ہو۔ نامعقول رویہ کیا ہے۔ اس کے متعلق اس ایوان میں پہلے بھی ذکر اذکار آچکا ہے۔ دراصل وزیر محنت نے کارخانہ دار کے ہاتھ میں نامعقول رویہ کی تلوار پکڑا دی ہے جس سے وہ مزدور کا گنا کاٹ سکتا ہے۔ ہر شخص کے خلاف یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سست روی سے کام کرتا ہے یا وہ عادتاً دیر سے آتا ہے یا احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آپ متعلقہ دفعہ کو دیکھیں ماسوائے برطرفی کے باقی تمام باتوں میں کارخانہ دار سزا دینے میں خود مختار ہے۔ اس نے کوئی انکوائری نہیں کرنی۔ کوئی بیان نہیں لینا۔ کسی کو کوئی جواب نہیں دینا۔ صرف برطرفی کی صورت میں اس نے جواب طلبی کرنی ہے پھر اس میں بھی وہ خود مختار ہے۔ جن لوگوں کو برطرف کیا جائے گا۔ اگر انہیں گریجویٹی کی یہ رعایت جو ایک سال کی سروس کے عوض صرف پندرہ دن کی مزدوری پر مشتمل ہے یا پراویڈنٹ فنڈ اگر وہ اس کارخانہ میں رائج ہے دے دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ آخر یہ مراعات انہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی اور محنت مشقت سے حاصل کی ہوں گی۔ انہیں یہ مراعات نہ دینا کیوں کہ وہ مزدور نامعقول رویہ کی بنا پر برطرف کیا گیا ہے ان کے ساتھ ظلم ہے۔ میں اپنے نہایت ہی محترم دوست وزیر محنت کی خدمت میں، عرض کروں گا کہ وہ مزدوروں کی حالت پر رحم فرمائیں اور میری یہ تجویز قبول فرمائیں۔

Mr. Speaker: The question is:

That in sub-para (5) of para 12 of the Schedule of the Ordinance, the words "for reasons other than misconduct" occurring in line 2, be deleted.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next motion.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir, I beg to move :

That in sub-para (5) of para 12 of the Schedule of the Ordinance, the semi-colon appearing after the word "months" in line 6, be replaced by a full-stop and rest of the para be deleted.

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That in sub-para (5) of para 12 of the Schedule of the Ordinance, the semi-colon appearing after the word "months" in line 6, be replaced by a full-stop and rest of the para be deleted.

Minister of Labour : Opposed.

میجر محمد اسلم جان (راولپنڈی - ۱) - جناب والا - وزیر محنت صاحب نے گریجویٹی کی جو سکیم بنائی ہے یہ سکیم واقعی قابل تحسین ہے لیکن انہوں نے اس کے لئے جو یہاں پر proviso لگا دی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس کے متعلق جو صحیح ہنگامی قانون ہے وہ عرض کروں -

"Where the services of a permanent workman are terminated for reasons other than misconduct, he shall, in addition to the wages payable to him under clause (1), be paid gratuity equivalent to fifteen days wages for every completed year of service or any part thereof in excess of six months....."

اس کے آگے ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کیا ہوا ہے اس کو حذف کر دیا جائے -

“provided that no such gratuity shall be payable in case where the employer has established a Provident Fund to which such workman is a contributor, and the contribution of the employer to such Fund is not less than the contribution made by the workman.”

جیسا کہ ابھی میرے دوست خواجہ محمد صفدر نے فرمایا ہے کہ یہاں پر ایک عجیب شرط لگا دی ہے کہ اگر کسی شخص کو گریجویٹ مل گئی تو ان کی اپنی صنعت یا جہاں پر ان کی اسٹبلشمنٹ ہے اگر وہاں پر کوئی اس کا پراویڈنٹ فنڈ ہے وہ اس پراویڈنٹ فنڈ کا حق دار نہیں ہوتا۔

وزیر محنت - جناب والا - میں ان کی بات کو سمجھ نہیں سکا جس کی ترمیم مقصود ہے یہ اس proviso کو دوبارہ پڑھیں۔

میجر محمد اسلم جان - میں نے وہ proviso پڑھا ہوا ہے اس لئے تو آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو سننے کی تکلیف گوارا فرمائیں تو اس کو بیان کرتا ہوں۔

جناب والا - پراویڈنٹ فنڈ اور گریجویٹ کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پراویڈنٹ فنڈ ایک علیحدہ چیز ہے اور گریجویٹ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ہر سال نوکری مکمل کرنے کے بعد ۱۵ دن کی تنخواہ کا مزدور حق دار ہوتا ہے بشرطیکہ اگر اس کارخانہ میں، پراویڈنٹ فنڈ کی کوئی سکیم نہ ہو۔ اگر کل کو کوئی کارخانہ دار پراویڈنٹ فنڈ کی سکیم بنا دیتا ہے جس پر ایک مزدور اپنی محنت سے کمائی ہوئی تھوڑی سی آمدنی میں سے تھوڑی سی رقم اس لئے دے دیتا ہے کہ اس میں برابر کا حصہ جمع کر دیا جائے لیکن وہ اس پراویڈنٹ فنڈ کا حق دار نہیں ہوتا۔ یا وہ گریجویٹ لے یا وہ پراویڈنٹ فنڈ لے۔ اس کے برعکس مشرقی پاکستان میں ان کے ایکٹ

کی شق ۲۰ کے تحت ایک مزدور پراویڈنٹ فنڈ اور گریجویٹی دونوں کا حق دار ہے شرط وہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ misconduct کی وجہ سے نکالا جائے تو جتنا پراویڈنٹ فنڈ میں اس نے روپیہ دیا ہے وہ اس کو مل جائے گا جتنا کارخانہ دار نے دیا ہے وہ اس کا حق دار نہیں ہوگا۔ وہاں پر گریجویٹی جمع پراویڈنٹ فنڈ دونوں مل سکتے ہیں۔ یہاں اب کڑی شرط لگا دی ہے۔ اس طریقے سے اگر لوگ کچھ روپیہ جس کے متعلق حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ روپیہ کی بچت کی جائے وہ بچت نہیں ہو سکتی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر اتنی کڑی شرط لگانے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ صنعت کار کو ایک اور راستہ کیوں دے دیا گیا ہے۔

جناب والا۔ گریجویٹی کے متعلق یہ ہے کہ یہ اس وقت مل سکتی ہے جب آدمی نوکری خود چھوڑ دے یا مالک اس کو نوٹس دے۔ اگر ایک آدمی یا ایک مزدور کسی حادثہ میں مر جائے یا کسی بیماری کی وجہ سے ان کو قدرتی موت آجائے کیا وہ گریجویٹی کا حق دار نہیں ہے۔ اس کے متعلق کچھ نہیں فرمایا ہے۔ اگر وہاں پر پراویڈنٹ فنڈ ہو تو اس کی بیوی پراویڈنٹ فنڈ کی تو حق دار ہو سکتی ہے جیسے خواجہ صفدر صاحب نے فرمایا ہے کہ یہاں پر loophole صنعت کاروں کو دے دیتے ہیں وہ جیسے چاہیں جس طریقے سے چاہیں misconduct کے اوپر مزدور کو نکال دیں اور وہ کسی چیز کا حق دار نہیں ہوتا۔

He is a habitual late attender Order No : 15. Breach of law applicable to the establishment of

جیسا کہ انہوں نے خود اپنے آرڈر نمبر ۱۵ میں کہا ہے ۔۔۔۔

Minister of Labour : Sir, this is irrelevant to the amendment moved by Khawaja Muhammad Safdar.

میجر محمد اسلم جان - جناب والا - یہ کسی misconduct کی وجہ سے ہے - misconduct کیا ہے

وزیر محنت - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب والا - میجر صاحب کی تقریر غیر ضروری ہے - جو ترمیم زیر بحث ہے وہ صرف proviso کے بارے میں ہے - misconduct کی تعریف ہو چکی ہے - اس وقت میجر اسلم صاحب اپنی تقریر صرف proviso تک محدود رکھیں -

مسٹر سپیکر - proviso کو اڑا دیا جائے -

وزیر محنت - جی ہاں -

میجر محمد اسلم جان - جناب والا - شیڈول کی کلاز ۱۲ (۵) کی لائن ۶ میں "after six months" یہ proviso کے بیچ میں ہی چلا جا رہا ہے - کیونکہ انہوں نے semi-colon دیا تھا -

مسٹر سپیکر - میجر صاحب ملک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ mis-cond-uct کے متعلق اڑانے کی ترمیم پہلے ہے - اس ترمیم کے ذریعہ اس میں proviso کو اڑایا گیا ہے اس کے متعلق آپ تقریر فرمائیں کہ proviso اڑ جانی چاہئے -

میجر محمد اسلم جان - جیسا آپ نے فرمایا ہے درست ہے - اس کلاز کی پہلی دو لائنوں میں یہ ہے کہ for reasons other than misconduct تو وہ misconduct اس میں آ جاتا ہے - کہ other than mis-conducts کیا ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ کہا ہے کہ proviso کو اڑا دیا جائے - جناب والا - میں misconduct کے متعلق دو چار مثالیں صنعتکاروں کی دیتا

ہوں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ "آٹا گندی ہل دی کیوں اے" جس کو چاہیں mis-conduct کا سہارا لے کر نکال دیں۔ اگر آپ کی رولنگ ہے تو مجھے بسر و چشم قبول ہے۔ میں ان کی توجہ مشرقی پاکستان کے ایکٹ کے سیکشن ۲ کی طرف دلاتا ہوں۔ کم از کم یہ اسی کی نقل فرمائیں۔ یہ مزدور کو مراعات دیں نہ کہ ان کو جو ملا ہوا ہے وہ ان سے پھر لے لیا جائے۔

Mr. Speaker : The question is :

That in sub-para (5) of para 12 of the Schedule of the Ordinance, the semi-colon appearing after the word "months" in line 6, be replaced by a full-stop and rest of the para be deleted.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next amendment is from Malik Mubammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Not moving.

Mr. Speaker : The other amendments of Major Muhammad Aslam Jan are similar to those amendments which have been disposed of. We pass on to para 13. The first amendment is No. 54 from Khawaja Muhammad Safdar.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir, I beg to move—

That in para 13 of the Schedule of the Ordinance, the words and comma "in the absence of any agreement between him and the workman in this behalf, ordinarily" occurring in lines 3—5, be deleted.

Mr. Speaker : Amendment moved, the question is -

That in para 13 of the Schedule of the Ordinance, the words and comma "in the absence of

any agreement between him and the workman in this behalf ordinarily" occurring in lines 3-5, be deleted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Next amendment.

Malik Muhammad Akhtar : Sir I beg to move -

That para 13 of the Schedule of the Ordinance, be re-numbered as sub-para (1) of that para and after sub-para (1) as so re-numbered, the following be added, as sub-para (2), namely :-

"(2) No worker employed in commercial or industrial establishment, who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by the employer unless--

(a) the worker has been given three months' notice in writing, indicating the reasons for retrenchment or the worker has been paid in lieu of such notice, wages for the period of notice ;

(b) a copy of the notice in respect of the retrenchment is sent to the Inspector or any other officer authorised by him ; and

(c) the worker has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent of fourteen days' wages for every completed year of service or for any part thereof in excess of six months, or gratuity, if any, whichever is higher.

Explanation—For the purpose of calculation of compensation under this section, wages shall mean the average of the basic wages plus dearness allowance, if any, paid to the worker during the period of twelve months immediately preceding the date of retrenchment."

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That para 13 of the Schedule of the Ordinance, be re-numbered as sub-para (1) of that para and after sub-para (1) as so re-numbered, the following be added, as sub-para (2), namely :—

“(2) No worker employed in commercial or industrial establishment, who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by the employer unless—

(a) the worker has been given three months' notice in writing, indicating the reasons for retrenchment or the worker has been paid in lieu of such notice, wages for the period of notice ;

(b) a copy of the notice in respect of the retrenchment is sent to the Inspector or any other officer authorised by him ; and

(c) the worker has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent of fourteen days' wages for every completed year of service or for any part thereof in excess of six months, or gratuity, if any, whichever is higher.

Explanation—For the purpose of calculation of compensation under this section, wages shall mean the average of the basic wages plus dearness allowance, if any, paid to the worker during the period of twelve months immediately preceding the date of retrenchment.”

Minister of Labour : Opposed Sir.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲) - جناب وزیر با تدبیر نے پورا نمبر ۱۳ کے ذریعے جس کا عنوان ہے Procedure for retrenchment یہ قرار دیا ہے کہ -

“Where any workman is to be retrenched and he belongs to a particular category of workmen, the employer shall, in the absence of any agreement between him and the workman in this behalf, ordinarily retrench the workman who is the last person employed in that category.”

یعنی خواہ عارضی مزدور ہو یا مستقل طور پر کام کرنے والا ہو retrenchment کے سلسلے میں صنعتکار کو یہ حق حاصل ہو گا کہ جو بھی مزدور فہرست میں آخر پر ہو، اس کو retrench کر دے۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ حکومتی اداروں میں بھی اور دیگر خود مختار اداروں میں بھی یہی طریق کار ہے۔ لیکن میں نے اس طریق کار کو اپنانے کے لئے چند شرائط رکھی ہیں کہ سب پورا نمبر 1 کے تحت جس شخص کو بھی کسی صنعتی ادارے سے retrench کیا جائے تو اگر اس کی میعاد ملازمت ایک سال یا اس سے زیادہ ہو تو اس کو تین ماہ کا نوٹس دیا جائے اور اس کو وہ وجوہات بتائی جائیں کہ اسے کیوں retrench کیا گیا ہے تا کہ اسکو کچھ ذہنی تسلی ہو یا یہ کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو صنعتی عدالت میں جا سکے۔ اور اگر میری یہ ترمیم نہ مانی گئی تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی حالت میں نکالا جا سکتا ہے۔ مجھے جناب وزیر محنت پر جو اعتراض ہے وہ ان کے اس لفظ "Permanent" پر ہے۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ انہوں نے یہاں پر اس لفظ کو کیوں استعمال کیا ہے۔ انہوں نے اس لفظ کو یہاں پر استعمال کر کے اس لفظ کے لغوی معنوں کا منہ چڑایا ہے اور اس کو یہاں پر غلط طریقے سے استعمال کیا ہے۔ اگر اس لفظ کو اپنے گھریلو پالتو جانوروں کے لئے بھی استعمال کیا جائے تو ان کے لئے اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا جائے گا کہ جس طرح اس کی وضاحت یہاں پر کی گئی ہے۔ میں نے صرف اتنا کیا ہے کہ اگر کسی کو نکالنا مقصود ہو تو اس کو تین ماہ کا نوٹس دیا جائے تا کہ وہ اس عرصہ کے دوران اپنے لئے ملازمت کا بندوبست کر سکے۔ اور یا پھر اسے اس کے عوض تین ماہ کی تنخواہ دی جائے تا کہ وہ اپنے ہال بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے ڈاکہ زنی، نقب زنی یا کوئی دوسرا پیشہ اختیار نہ

کرے اور اس تین ماہ کی تنخواہ سے اپنے اہل و عیال کے پیٹ بھرنے کا سامان بہم پہنچا سکے۔ میرے اپنے عزیز اور رشتہ دار بھی ایسے ہیں کہ جو بڑے صنعتکار ہیں (میں خود تو ایک عام شہری ہوں)۔ اور یہ بڑے صنعتکار Excess Profit Tax دیتے ہیں۔ یعنی ان کا ٹیکس دو تین لاکھ روپے سے تجاوز کر جاتا ہے۔ تو یہ معاوضہ اسی ٹیکس کی رقم میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ وہ ٹیکس ہے کہ جو بڑے صنعتکار Tax evasion نہیں کرتے اور نوے فیصد ٹیکس کی صورت میں حکومت کو ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے ٹیکس کی اسی رقم میں سے ان عارضی اور مستقل ملازمین کے لئے مراعات مانگی ہیں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کسی کو retrench کرتے ہیں تو کم از کم اس کو اس کے چودہ دن کے واجبات ادا کر دیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جناب وزیر بائڈیر کی لغات میں بعض الفاظ کے معنی کچھ مختلف ہیں۔ چائے اگر وہ اس لفظ "Permanent" کو ترک کر دیں تو میں اپنی تمام ترامیم واپس لے لوں گا۔ مزدور طبقہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے اور اس طبقے کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے آپ ان کو defraud کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں کیوں دھول جھونکنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس سے بڑا فراڈ اور کیا ہو گا کہ ایک طرف تو آپ 'Permanent' کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ نمبر ۱ سے نمبر ۲۰ تک صیح گیٹ میں داخل نہ ہوں۔ اس لئے میں یہ عرض کروں گا کہ ایک فرد جس کا کنبہ پندرہ افراد پر مشتمل ہے۔ جب اس کو آپ ملازمت سے علیحدہ کریں تو وہ رقوم جو کہ انکم ٹیکس کے ذریعے سرکاری خزانے میں جمع ہوتی ہیں۔ انہی میں سے اس کا حق اس غریب کو دیا جائے تاکہ اس کا جوان لڑکا اس بات پر مجبور نہ ہو کہ وہ اپنا اور اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لئے تپ زنی کرے۔ اس لئے میں یہ گزارش

کروں گا کہ جناب وزیر محنت اس لفظ کو حذف کر دیں۔ اس کے علاوہ میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ میں نے یہ ایک comprehensive ترمیم دی ہے لیکن میں جناب وزیر صاحب کے لئے وہ ایک لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وہی بین بجائے والی بات ہو گی۔

وزیر محنت۔ جناب والا۔ یہ ترمیم اس لئے غیر ضروری اور مناسب ہے

کہ۔۔۔

وزیر زراعت (ملک خدا بخش)۔ جناب والا۔ ملک صاحب تقریر بھی کر

لیتے ہیں اور بین بھی بجا لیتے ہیں۔ کیا آپ اس کی اجازت دیتے ہیں۔

مسٹر سپیکر۔ ملک صاحب۔ قائد ایوان یہ دریافت فرما رہے ہیں کہ کیا

آپ بین بجانا بھی جانتے ہیں۔

ملک محمد اختر۔ میں اڑہا کو قابو کرنے کے لئے بین بجاتا ہوں۔

خواجہ محمد صفدر۔ وہ چھوٹی موٹی چیزوں کو قابو میں کرنے کے

لئے بین نہیں بجاتے۔

وزیر محنت (ملک اللہ یار خان)۔ جناب والا۔ معزز رکن نے حسب

عادت یہاں جو فرمایا ہے۔ انہوں نے ان احکام جاریہ کے قانون پر زیادہ

شکایت نہیں کی۔ محض مشرقی پاکستان کے احکام جاریہ کی ایک شق یہاں

رکھ دی ہے۔ حالانکہ ان میں بعض امور ایسے ہیں۔۔۔

Malik Muhammad Akhtar : Point of order. I am sorry to interrupt.

جناب والا۔ یہ کچھ مشرقی پاکستان کے نام سے زیادہ گھبراتے ہیں۔

Mr. Speaker : I don't see how it is a point of order ?

وزیر معنت - جناب والا - ان احکام پر اس سے قبل بحث ہو چکی ہے اور ان کا فیصلہ کیا جا چکا ہے - اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام باتیں غیر ضروری ہیں -

Mr. Speaker : The question is -

That para 13 of the Schedule of the Ordinance, be re-numbered as sub-para. (1), of that para and after sub-para. (1) as so re-numbered, the following be added, as sub-para (2), namely :—

“(2) No worker employed in commercial or industrial establishment, who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by the employer unless—

(a) the worker has been given three months' notice in writing, indicating the reasons for retrenchment or the worker has been paid in lieu of such notice, wages for the period of notice ;

(b) a copy of the notice in respect of the retrenchment is sent to the Inspector or any other officer authorised by him ; and

(c) the worker has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fourteen days' wages for every completed year of service or for any part thereof in excess of six months, or gratuity, if any, whichever is higher.

Explanation—For the purpose of calculation of compensation under this section, wages shall mean the average of the basic wages plus dearness allowance, if any, paid to the worker during period of twelve months immediately preceding the date of retrenchment.”

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next amendment by Khawaja Muhammad Safdar.

Khawaja Muhammad Safdar : Not moving.

Mr. Speaker : The amendment is not moved. There is no amendment in Para 14. Now, we come to Para 15 and the first amendment is by Malik Muhammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : I beg to move:

That in sub-para. (1) of para. 15 of the Schedule of the Ordinance, for the words "three paise in the rupee" occurring in lines 3—4, the words "one per cent" be substituted.

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That in sub-para. (1) of para. 15 of the Schedule of the Ordinance, for the words "three paise in the rupee" occurring in lines 3—4, the words "one per cent" be substituted.

Minister of Labour : Opposed.

Leader of the House نے ایوان میں مسئلہ چھیڑا تھا میں اس کے متعلق عرض کروں گا۔
ملک محمد اختر - جی حسب عادت جناب سپیکر ابھی

عاقبت منزل ما وادی خاموشان است
حالیہ غلغلہ در گنبد افلاک انداز

وزیر زراعت - فارسی مجھے بالکل نہیں آتی جناب والا۔ آج انہوں نے بالکل
بین بجائی ہے کیونکہ میرے لئے فارسی بالکل بین کے برابر ہے۔

ملک محمد اختر - جناب سپیکر - میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب
جناب وزیر با تدبیر punishment دینے پر آگئے ہیں کہ اگر کوئی مزدور
اس آرڈیننس کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو تو وہ تین تین صد اعری

ایک ماہ کی wages میں سے کٹ سکتے ہیں۔ جناب والا۔ تین فی صد wages تو بہت زیادہ ہے یعنی یہ ایک ماہ میں اس کو ایک دن کی wages سے محروم کرنا چاہتے ہیں میں نے یہ کہا ہے کہ تین فی صد کی بجائے ایک فی صد سزا مقرر کر دی جائے اس سے زیادہ نہیں۔

وزیر محنت۔ جناب والا۔ میں ملک صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔ کہ وہ اس provision کا دوبارہ مطالعہ فرمائیں۔ یہاں ہم نے ۳ فیصد تحریر نہیں کیا بلکہ روپے میں سے ۳ پیسہ تحریر کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں۔۔۔

ملک محمد اختر۔ پوائنٹ آف آرڈر۔ جناب والا۔ آپ انہیں ذرا حساب کر کے بتا دیں کہ روپے میں سے تین پیسہ ۳ فی صد ہی بنتا ہے۔
مسٹر سپیکر۔ ملک صاحب۔ میرے خیال میں آپ مجھ سے حساب میں زیادہ ہوشیار ہیں۔

Mr. Speaker : The question is :

That in sub-para. (1) of para. 15 of the Schedule of the Ordinance, for the words "three paise in the rupee" occurring in lines 3-4, the words "one per cent" be substituted.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next amendment.

Malik Muhammad Akhtar : I beg to move -

That in sub-para. (1) (i) of para. 15 of the Schedule of the Ordinance, for the words "as approved by the Chief Inspector of Factories or any other officer concerned" occurring in line 4-6, the words "as prescribed under the rules framed under the said Ordinance" be substituted.

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That in sub-para. (1) (i) of para. 15 of the Schedule of the Ordinance, for the words "as approved by the Chief Inspector of Factories or any other officer concerned" occurring in line 4-6, the words "as prescribed under the rules framed under the said Ordinance" be substituted.

Minister for Labour : Opposed.

ملک محمد اختر - جناب والا - 15-A کے تحت یہ قرار دیا گیا ہے کہ جہاں payment of wages ایکٹ کے تحت کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو چیف انسپیکٹر آف فیکٹریز یا جیسے کوئی دوسرا افسر چاہے وہ اس پر اس کے لئے جرمانہ levy کر سکتا ہے جناب والا - میں جرمانہ levy کرنے کے اختیارات چیف انسپیکٹر آف فیکٹریز کی بجائے یا دوسرے افسر کی بجائے رولز کے تحت قواعد و ضوابط کے ذریعے مقرر کروانا چاہتا ہوں کہ کوئی رولز ریگولیشنز ہوں اور ان کے تحت سزا دی جائے بجائے اس کے کہ ان کو ان کی discretion پر چھوڑ دیا جائے اور وہ جس طرح چاہیں انہیں سزا دیں -

Mr. Speaker : The question is -

That in sub-para. (1) (i) of para. 15 of the Schedule of the Ordinance, for the words "as approved by the Chief Inspector of Factories or any other officer concerned" occurring in line 4-6, the words "as prescribed under the rules framed under the said Ordinance" be substituted."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next amendment No. 59. Yes Khawaja Sahib.

Khawaja Muhammad Safdar : I beg to move -

That in sub-para. (1) (i) of para. 15 of the Schedule of the Ordinance, the words "or any other officer concerned" occurring in lines 5-6, be deleted.

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That in sub-para. (1) (i) of para. 15 of the Schedule of the Ordinance, the words "or any other officer concerned" occurring in lines 5-6, be deleted.

Minister for Labour : Opposed.

خواجہ محمد صفدر (سیالکوٹ - ۱) - جناب والا - میں اس خیال میں تھا - کہ اس ترمیم سے اس ہنگامی قانون میں بہتری پیدا ہوگی - اور جناب وزیر محنت اس کی مخالفت نہیں کریں گے - مختصر سی بات ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس سب پیرا کے تحت اختیارات چیف انسپکٹر آف فیکٹریز کو دیئے گئے ہیں وہ کسی ماتحت افسر یا کسی دوسرے فرد کو منتقل نہ کئے جائیں - اتنی سی بات ہے کہ چیف انسپکٹر آف فیکٹریز تو سارے صوبے کے لئے ایک ہوگا اور وہ جو لسٹ تصدیق کرے گا - یا منظور کرے گا - تو وہ ایک جیسی ہونی چاہئے - اگر مختلف افسران کو مختلف ریجنز میں ایسے اختیارات دے دیئے گئے - تو وہ فہرستیں مختلف ہو سکتی ہے - جن کی رو سے مزدوروں کے خلاف جرمانہ کا قدم اٹھایا جا سکتا ہے - اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لسٹ کسی ایک فرد واحد کو تیار کرنی چاہئے انہوں نے اس مقصد کے لئے چیف انسپکٹر کو رکھا ہے اور گورنمنٹ کو نہیں رکھا - جیسا کہ میرے محترم دوست ملک اختر صاحب نے تجویز کیا تھا کہ as prescribed by rules گورنمنٹ رواز بنائے اور اس کے مطابق فہرستیں تیار کر لیں - لیکن اگر انہیں اصرار ہے تو وہ چیف انسپکٹر کو تو رکھ لیں اور ان باقی چھوٹے افسروں کو جن کو کہ define ہی نہیں کیا گیا ان کے ذمے تو یہ کام نہیں ڈال دیا جائے گا ؟

ملک محمد اختر - ہوائنٹ آف آرڈر - جناب والا - مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ اختیارات کہیں پارلیمنٹری سیکرٹری لیبر کو نہ سونپ دیئے جائیں -

پارلیمنٹری سیکرٹری - میں تو تجویز کرتا ہوں کہ اختیار ملک صاحب

کو سونپ دیئے جائیں -

خواجہ محمد صفدر - جناب والا - میرا خیال تھا کہ ایسے افسر جن کی

تعریف ہی نہیں کی گئی کہ ان کا کیا رتبہ ہوگا ان کو یہاں رکھنا ضروری

نہیں تھا - میں پھر دوبارہ وزیر محنت کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ

ان الفاظ کو حذف ہو جائے دیں -

وزیر محنت - جناب والا - اس شق میں جو الفاظ درج ہیں وہ فی الحقیقت

Payment of Wages Act 1936 کے تحت دیئے گئے ہیں - اور جیسا کہ

خواجہ صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ چیف انسپکٹر سارے صوبے کے لئے

کام نہیں کر سکتے اس لئے اختیارات دوسرے افسروں کو یقیناً سونپے جائیں

گئے اور ان کا یہ کہنا کہ مختلف ریجنز میں جو فہرستیں بنائی جائیں گی

مختلف ہوں گی ، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے -

Mr. Speaker : The question is :

That in sub-para. (1) (i) of para. 15 of the Schedule of the Ordinance, the words "or any other officer concerned" occurring in lines 5-6, be deleted.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next amendment. The Minister for Labour.

Minister for Labour : Sir, I beg to move :

That in sub-para. (2) of para. 15 of the Schedule of the Ordinance after the words and colon-dash "punishment :—" occurring in line 2, the following part (i) be added and subsequent parts re-numbered accordingly, namely :—

"(i) fine in the manner prescribed under the Payment of Wages Act, 1936 (IV of 1936), upto three paise in the rupee of the wages payable to him in a month."

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That in sub-para. (2) of para. 15 of the Schedule of the Ordinance after the words and colon-dash "punishment :—" occurring in line 2, the following part (i) be added and subsequent parts re-numbered accordingly, namely :—

"(i) fine in the manner prescribed under the Payment of Wages Act, 1936 (IV of 1936), upto three paise in the rupee of the wages payable to him in a month."

I think there is no opposition ; the amendment is carried.

Next amendment by Malik Muhammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I beg to move :

That after sub-para. (2) (iii) of para. 15 of the Schedule of the Ordinance, the following be added, namely :—

"(iv) any worker found guilty of misconduct but not dismissed in consideration of any extenuating circumstances, may be discharged, or suspended, as a measure of punishment, without wages as well as subsistence allowance, for a period not exceeding seven days and such period may be within or in addition to the period of suspension of the worker for inquiry, if any, or he may be otherwise punished less severely."

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That after sub-para. (2) (iii) of para. 15 of the Schedule of the Ordinance, the following be added, namely :—

"(iv) any worker found guilty of misconduct but not dismissed in consideration of any extenuating circumstances, may be discharged, or suspended, as a measure of punishment, without wages as well as subsistence allow-

ance, for a period not exceeding seven days and such period may be within or in addition to the period of suspension of the worker for inquiry, if any, or he may be otherwise punished less severely."

Minister for Labour : Opposed.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲) - میرا مقصد یہ تھا کہ قانون بہتر کیا جائے اور اسے مشرقی پاکستان کے لیول پر لایا جائے۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ punishment کو دفعہ ۱۵ میں define کیا گیا ہے۔ اس دفعہ کی تحتی دفعہ (۲) میں یہ لکھا ہے کہ اس کی increment یا promotion روک لی جائے۔ اسے demote کر دیا جائے اور اسے dismiss بھی کیا جا سکتا ہے۔

'if he is found guilty of misconduct.'

تو مجھے بتایا جائے کہ یہ کہاں کی permanency ہے۔ میں تو کہوں گا۔

اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی
دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا

وزیر زراعت - جناب والا - اس سے پہلے "کاکہ" میری سمجھ میں نہیں آیا تھا اور اب "دور" میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔
(تہقہہ)

ملک محمد اختر - میں نے صرف یہ لکھا ہے کہ کسی بیچارے ورکر کو، جس کو باپ دادا سے مزدوری وراثت میں ملی ہے، اگر وہ کبھی misconduct کا مرتکب ہو جائے تو اسے نکالا نہ جائے بلکہ suspend کر دیا اس کی wages روک لیں۔ اگر suspend کریں تو اس کے لئے سات دن رکھیں پھر اس کو واجبات ادا کریں یا نہ کریں لیکن outright dismissal کی میں مخالفت کرتا ہوں۔

وزیر معنت (ملک اللہ یار خان) - میں اپنے دوست ملک صاحب کی توجہ شق ۱۵ (۵) کی طرف دلاتا ہوں جس میں یہ طریق کار دیا گیا ہے کہ کسی مزدور کے خلاف misconduct کے charges ہوں تو اس کے خلاف انکوائری کی جائے۔ انکوائری کے دوران اسے معطل کیا جا سکتا ہے اور اس عرصہ کے لئے اسے کچھ اجرت بھی دی جا سکتی ہے۔ آپ بغور مطالعہ فرمائیں۔ اس میں یہ طریق کار دیا گیا ہے۔

Mr. Speaker : I will now put the amendment to vote. The question is :

That after sub-para. (2) (iii) of para. 15 of the Schedule of the Ordinance, the following be added, namely:—

“(iv) any worker found guilty of misconduct but not dismissed in consideration of any extenuation circumstances, may be discharged, or suspended, as a measure of punishment, without wages as well as subsistence allowance, for a period not exceeding seven days and such period may be within or in addition to the period of suspension of the worker for inquiry, if any, or he may be otherwise punished less severely”.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next amendment by Khawaja Muhammad Safdar.

Khawaja Muhammad Safdar : I am not moving Sir.

Mr. Speaker : Next amendment at Sr. No. 63, by Khawaja Mohd. Safdar.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir, I beg to move -

That in part (j) of sub-para (3) of para 15 of the Schedule of the Ordinance, the semi-colon appearing at the end be replaced by a full-stop and parts (k) and (l) be deleted.

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That in part (j) of sub-para (3) of para 15 of the Schedule of the Ordinance, the semi-colon appearing at the end be replaced by a full-stop and parts (k) and (l) be deleted.

Minister for Labour : Opposed.

خواجہ محمد صفدر (سیالکوٹ - ۱) - جناب والا - آپ حیران ہوں گے کہ اس پیرا میں دس بارہ وجوہات درج ہیں - جن کی بنا پر کسی مزدور کے خلاف misconduct کا چارج عائد کیا جا سکتا ہے - میں نے آخری دو یعنی ہڑتال اور آہستہ روی کو حذف کرانے کے لئے ترمیم پیش کی ہے جناب والا - میری رائے یہ ہے کہ اس صوبہ میں قطعاً کوئی ہڑتال نہیں ہو سکے گی جس کو جائز قرار دیا جا سکے - حکومت نے ان قوانین کے ذریعہ مزدوروں کے لئے ہڑتال کے تمام دروازے بند کر دیئے ہیں - اسی طرح آہستہ روی کے متعلق ہے جیسے ہڑتال کے دروازے بند ہو جائیں گے اس کے لئے بھی ایسا ہوگا - جب بھی کوئی ہڑتال ہوگی وہ خلاف قاعدہ - خلاف ضابطہ اور خلاف قانون ہوگی - اگر اس مفروضہ کو جو پیش کیا گیا ہے تسلیم کر لیں تو ہڑتال کو نا جائز قرار دیا جائے گا - اور اس کو misconduct کی بنیاد بنا دینا دراصل اس بات کی دعوت دینا ہے کہ ہر کارخانہ دار مزدوروں پر ظلم و ستم ڈھائے - لیکن جونہی وہ اس کے خلاف اکٹھے ہو کر آواز اٹھائیں یا go slow کا رویہ اختیار کریں یا ہڑتال کریں تو وہ ان سب کو dismisal کر دیں - اس لئے اگر انہوں نے اس کے لئے کوئی جواز رکھا ہوتا یا کوئی ایسا راستہ رکھا ہوتا کہ وہ go slow جائز طور پر کر سکتے ہیں یا go slow کو بھی جائز قرار دیں اور وہ لوگ ہڑتال جائز طور پر کر سکتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میری تجویز یا ترمیم غیر ضروری ہے نہیں ہونی چاہئے تھی - لیکن جب میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس صوبہ میں

آئندہ نہ کوئی جائز ہڑتال ہوگی اور نہ آہستہ روی کسی صورت میں جائز قرار دی جا سکے گی تو پھر دونوں شقوں کو misconduct کی بنیاد کے طور پر رکھنا میرے خیال میں ہر درجہ کے مزدوروں کے طبقہ کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھنا ہے۔

Mr. Speaker : I will now put the amendment to vote. The question is :

That in part (j) of sub-para (3) of para 15 of the Schedule of the Ordinance, the semi-colon appearing at the end be replaced by a full-stop and parts (k) and (l) be deleted.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next amendment 64. Khawaja Muhammad Safdar.

Khawaja Muhammad Safdar : Sir, I beg to move :

That in sub-para (4) of para 15 of the Schedule of the Ordinance, for the word "is" occurring in line 5, the words "shall be" be substituted.

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That in sub-para (4) of para 15 of the Schedule of the Ordinance, for the word "is" occurring in line 5, the words "shall be" be substituted.

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed.

خواجہ محمد صفدر۔ جناب والا۔ آپ ذرا فقرہ پڑھیں میری ترمیم

لفظی ہے۔

".....The approval of the employer is required in every case of dismissal....."

تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس فقرہ کو اس طرح پڑھا جائے۔

".....The approval of the employer shall be required in every case of dismissal....."

میرا خیال تھا کہ میں نے زبان میں درستی کی ہے حالانکہ
میں انگریزی کو کچھ زیادہ نہیں جانتا ہوں۔

وزیر محنت۔ is کا مطلب بھی shall be ہے۔

خواجہ محمد صفدر۔ لیکن قانون اصطلاح میں shall لکھا جاتا ہے
is نہیں لکھا جاتا۔ میں آپ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ جہاں
تک مجھے معلوم ہے گو میرا علم محدود ہے میں یہ مانتا ہوں لیکن جب
کسی قانون کو draft کرنے ہیں تو لفظ is کو shall کے معنی میں
استعمال نہیں کرتے۔

منسٹر سپیکر۔ لیکن ملک صاحب آپ نے پہلے فقرہ میں یعنی اسی سبب
پیرا (۴) میں shall be made دیا ہے۔

“No order of dismissal shall be made unless
the workman concerned is informed in writing of
the alleged misconduct and is given an opportunity
to explain the circumstances alleged against him.
The approval of the employer is required.....”

It would be better if the words “shall be” are used.

Minister of Labour : That would not make any difference.

Mr. Speaker : I personally feel that if the amendment accepted, it
would not be inconsistent.

Minister of Labour : Even in the present form it is not inconsistent.
But if you feel that “shall be” is more appropriate then I have no
objection.

Mr. Speaker : The question is :

That in sub-para (4) of para 15 of the Schedule
of the Ordinance, for the word “is” occurring in
line 5, the words “shall be” be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Para 16. Amendment No : 65. Malik Muhammad Akhtar.

Malik Muhammad Akhtar : Sir, I have four amendments but I will be moving only one.

Sir, I beg to move :

That for para. 16 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

- “16 (1) A workman occupying residential accommodation provided by his employer, who has resigned or retired, or has been retrenched, discharged or dismissed, or whose services have been terminated, shall vacate such accommodation within a period of six months from the date of his retrenchment, discharge, dismissal or termination of services, as the case may be ; provided that in case of reinstatement of the workman, the employer shall be bound to provide him with similar residential accommodation from the date of such reinstatement or pay him per mensem an allowance in lieu thereof at the rate of three times the wages of the last full working day.
- (2) If a workman, who has been retrenched, discharged or dismissed or whose services have been terminated, fails to vacate any residential premises provided by the employer, within the period specified in clause (1), the employer may lodge a Civil suit in the manner laid down in the West Pakistan Urban Rent Restriction Ordinance, 1959 (VI of 1959) if the retrenched or discharged or dismissed workman is a defaulter.
- (3) Where a workman occupying residential accommodation provided to him by the employer dies, the procedure prescribed

in this Standing Order shall mutatis mutandis and so far as applicable, apply, for evicting any person, who was occupying the premises through such workman, and after his death continues to remain in occupation thereof."

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That for para. 16 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

- "16. (1) A workman occupying residential accommodation provided by his employer, who has resigned or retired, or has been retrenched, discharged or dismissed or whose services have been terminated, shall vacate such accommodation within a period of six months from the date of his retrenchment, discharge, dismissal or termination of services, as the case may be ; provided that in case of reinstatement of the workman, the employer shall be bound to provide him with similar residential accommodation from the date of such reinstatement or pay him per mensem an allowance in lieu thereof at the rate of three times the wages of the last full working day.
- (2) If a workman, who has been retrenched, discharged or dismissed or whose services have been terminated, fails to vacate any residential premises provide by the employer, within the period specified in clause (1), the employer may lodge a Civil suit in the manner laid down in the West Pakistan Urban Rent Restriction Ordinance, 1959 (VI of 1959) if the retrenched or discharged or dismissed workman is a defaulter.
- (3) Where a workman occupying residential accommodation provided to him by the

employer dies, the procedure prescribed in this Standing Order shall mutatis mutandis and so far as applicable, apply, for evicting any person, who was occupying the premises through such workman, and after his death continues to remain in occupation thereof."

Parliamentary Secretary (Labour) Opposed.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲) - جناب سوکڑ - یہ نہایت ہی اہم ترمیم ہے۔ سینڈنگ آرڈرز کے سب سے اہم حصہ پر یعنی یہ اب ڈرامہ کے climax پر پہنچ گئے ہیں اور اس طرح حکومت کے عزائم اب بے نقاب ہو چکے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب وزیر محنت اپنے لاڈلے مزدوروں کے لئے کیا ہی اچھا سیکشن اور قانون لائے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت مزدور کو نوکری سے نکالا جائے خواہ وہ retrenchment کی صورت میں یا ڈسچارج کی شکل میں یا dismissal کی صورت میں ہو تو انہیں دو ماہ کے انڈر انڈر اس مکان یا کوارٹر کو خالی کرنا ہوگا اور اس پر Rent Restriction Act کی دفعات نافذ نہیں ہوں گی۔ جناب والا۔ اس میں مجھے دو اعتراض کرنا ہیں۔

(۱) یہ کہ دو مہینے کی میعاد کم ہے اسے چھ مہینے ہونا چاہئے۔

(۲) یہ کہ ایسا امتیازی سلوک مزدوروں کے ساتھ کیوں برتا جا رہا ہے۔ جبکہ تمام مغربی پاکستان کی آبادی کو Rent Restriction Act کے تحت تحفظ حاصل ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر یہ ذرا سی بھی دانش مندی سے کام لیتے اور free accomodation کے لئے یہ چیز لے آتے تو بہتر تھا اور یہ امتیازی، سلوک نہ ہوتا۔ اب جناب والا۔ خواہ وہ مزدور ہو مینجر ہو یا کلریکل سٹاف میں سے ہو اس کی تنخواہ سے کرایہ تو برابر

کھتا رہا لیکن اس کے بعد اس کو Rent Restriction Act کی دفعات سے مستثنیٰ قرار دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون میں disparity پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ وزیر با تدبیر کا حسن کرشمہ ساز آگے کیا کر رہا ہے کہ جس شخص کی retrenchment ہو جائے یا جو شخص discharge کر دیا جائے اگر وہ اپنا کوارٹر خالی نہیں کرے گا تو جناب والا۔ اس کے خلاف ایک استغاثہ مرتب کیا جائے گا اور وہ استغاثہ علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں دائر کیا جائے گا۔ جناب والا۔ مبارک ہو آپ کو اور مبارک ہو اس حکومت کو کہ ان کے ایسے سرپرست اور دوست مزدوروں کو میسر آگئے۔

ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو

جناب والا۔ میں عرض کروں گا کہ اس دفعہ میں مزدوروں کے خیر خواہ بے نقاب ہو کر رہ گئے ہیں یعنی حکومت نے اگر ایسی ہی پاورز assume کیں تو unauthorised occupants کے نام سے ایک آرڈیننس اور آجائے گا۔

جناب والا۔ ذرا وزیر محنت کی چابکدستی اور کاریگری ملاحظہ فرمائیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دو سو سال سے پارلیمنٹریں چلے آ رہے ہیں انہوں نے مزدوروں کے لئے ایک دفعہ میں ۳۰۲ لگا دی اور پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قانون ہے۔۔۔۔۔

میاں محمد شفیع۔ جناب والا۔ ملک صاحب بڑے جوش و خروش میں تقریر کر رہے ہیں اگر یہ اپنی فیکٹری سے کسی مزدور کو dimiss کریں تو کیا یہ اس کو ۵۔ دن بھی وہاں رہنے دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں رہنے دیں گے۔

ملک محمد اختر - جناب والا - میں اس ہاؤس میں یہ سٹیٹ منٹ دینا چاہتا ہوں کہ میری سابقہ فیکٹری جہاں تھی وہاں ۱۹۰۵ء سے لوگ رہتے ہیں حالانکہ ان لوگوں نے وہ پیشہ چھوڑ دیا لیکن ان کو نہ ہم نے eject کیا نہ ان پر دعویٰ کیا اور یہ گزشتہ ۶۳ برس سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔
(قطع کامیاب)

Since 1905. For the last 63 years. That is my record. (interruptions)

Mr. Speaker : Order please, no interruptions.

Malik Muhammad Akhtar : I belong to an old family of Lahore. I am not a post-independence transporter.

میاں معراج دین (پارلیمنٹری سیکرٹری) - جناب والا - ان کو پتہ ہونا چاہئے کہ میں آزادی کے بعد کا ٹرانسپورٹر نہیں ہوں۔
ملک محمد اختر - جی ہاں آپ اس وقت لاری چلایا کرتے تھے اب آپ مالک ہیں۔

میاں معراج دین - میں ۱۹۳۳ء سے ٹرانسپورٹر ہوں۔

چودھری انور عزیز - جناب سیکرٹری - مزدوروں کے بہت ہمدرد بنتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ وہ اور باتیں بھی کہہ دیتے ہیں۔

ملک محمد اختر - میں جناب والا - خود ایک مزدور ہوں۔ جناب والا - ایک استغاثہ مرتب کیا جائے گا - مجھے جناب والا - یہ قانون منظور ہوا اگر اس استغاثہ پر وزیر محنت یا پارلیمنٹری سیکرٹری کے دستخط ہوتے۔

جناب والا - صنعتکار اس استغاثہ کو علاقہ مجسٹریٹ کے سپرد کرے گا۔ علاقہ مجسٹریٹ اس کو سمن کرے گا اور پھر کیا کیا جائے گا۔ پھر پولیس لگائی جائے گی کہ اس کے ہاں بھونڈے کوں نکلے اور پھر

پہینکو۔ یہ حقائق کی پردہ پوشی کر رہے ہیں۔ یہ مزدوروں سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ مجھے یہ حیرانگی ہے کہ وہ بیان جو وزیر محنت نے دیا کہ مزدوروں کے قانون میں بہتری کی جا رہی ہے میں پوچھتا ہوں کہ کیا انہوں نے قانون کو بڑھے بغیر یہ بیان دیا ہے۔ جناب والا۔ آپ انصاف فرمائیں۔ آپ اس وقت نہایت اولچی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ یہ مزدوروں کے لئے جو تبدیلی کی دفعات ہیں کہ مجسٹریٹ کے پاس استغاثہ جائے گا اور مجسٹریٹ ان کو ڈنڈے مار کر پولیس کے ذریعے سے نکال کر باہر پھینکیں گے تو کیا یہ ان کا قانون ہے۔ آپ کے قانون میں میری ترمیم یہ ہے کہ اگر کسی بیچارے مزدور کو ریٹائر کر دیا جائے اس کے بعد اگر وہ کوارٹر خالی نہ کرے تو اس کے خلاف ویسٹ پاکستان اربن رینٹ رسٹریکشن آرڈیننس کے تحت سول سوٹ کرو۔ یہ میں آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا۔ یہ اس کا حق ہے۔ آپ اس سے کرایہ لیتے ہیں۔ آپ اس کو مفت کی رہائش نہیں دے رہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا کیا جائے۔ جناب وزیر محنت شاید اس آرڈیننس کی جس کا میں نے اوپر حوالہ دیا ہے دفعات سے واقف نہیں ہیں اور یہی حال پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب کا ہے۔ جناب والا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دفعہ متضاد ہے۔ inconsistent ہے۔ جہاں آپ کرایہ وصول کرتے ہیں تو ان کے لئے رہائش کا بھی بندوبست ہونا چاہئے۔ مگر وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ قانون میں ترمیم کر دیں۔ اس کے بعد مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اس کے تحت کارروائی کی جائے اور ایسا طریقہ کار استعمال کیا جائے کہ اگر بد قسمتی سے اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کی بیوہ کے لئے اس کے یتیم بچوں کے لئے کوئی سہولت میسر ہو اور ان کو پولیس ڈنڈے مار کر نہ نکال سکے۔

سٹر سپیکر۔ ملک صاحب Urban Rent Restriction Ordinance

کا جو defaulter ہوتا ہے، کرایہ کا ہوتا ہے۔

Under the West Pakistan Urban Rent Restriction Ordinance, you are not authorized to eject them.

Malik Muhammad Akhtar : In a majority of cases, they pay rent. I have made enquiries from the officers of the trade unions.

لیکن جناب والا - میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر یہی قالون ہے تو ٹھیک ہے - میں جناب والا - پھر کہوں گا کہ آج جیل خالہ جو ۱۰ لاکھ کا مزدوروں کے لئے بنایا گیا ہے کل ان کی تعداد بڑھ کر ایک کروڑ ہو جائے گی -

Mr. Speaker : Would the Minister like to reply ?

ملک محمد اختر - میں نے ان کو لا جواب کر دیا ہے (تمہہ) ویسے وہ اگر بولنا چاہیں تو بول لیں -

چودھری الور عزیز (سیالکوٹ - م) - جناب والا - مجھے کچھ کہنے کی اجازت دی جائے - انگریزی میں ایک لفظ ہے demagogue اس کا اردو زبان میں متبادل لفظ نہیں ہے - ملک صاحب کا علم ماشاء اللہ بہت کافی ہے اس لئے جتنا ہے اس پر انہیں کافی یقین رہتا ہے - جناب والا - یہ جو demagogues ہوتے ہیں ان کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں - ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹھیکریاں لے کر ان کو بھجانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے یتیم ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دیتے ہیں -

Mr. Speaker : Is it about this Ordinance ?

Chaudhri Anwar Aziz : It is very much about it ; I will prove this to be very relevant as far as the amendment of Malik Akhtar is concerned.

دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سڑک پر کھڑے ہو کر شور مچانے ہیں شریف آدمی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے یہی ہو

زیادتی ہو رہی ہے۔ ہم سر رہے ہیں تو پھر شور و غوغا شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات جھکڑے بھی ہو جاتے ہیں تو شریف آدمی اپنی جان بچانے کے لئے اس کو دو آنے دے دیتا ہے۔ جناب والا۔ ملک اختر صاحب نے کچھ باتیں اس آرڈیننس کے متعلق فرمائی ہیں۔ میں پہلے یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان کی ہمدردی بھی اسی قسم کی ہے۔ ہمدردی ان کو ضرور ہے لیکن صرف ۲ منٹ کے لئے کہ اخبار میں ان کی دو منٹ کے لئے سرخی آ جائے لیکن اگر یہ دریافت کیا جائے کہ فیکٹری کیسے چلائی جاتی ہے تو اس کے متعلق میرا خیال ہے کہ ان کو کچھ علم نہیں ہے۔

Malik Muhammad Akhtar : As a factory owner from 1940 to 1945, I have paid two lakhs of rupees as income tax.

Chaudhri Anwar Aziz : Sir, he has only one factory and that is the political factory for manoeuvring.

Malik Muhammad Akhtar : Unfortunately I have been confined to that now.

ملک معراج خالد۔ آج کل کون سی فیکٹری ہے ؟

چودھری انور عزیز۔ اس میں مزدور نہیں ہیں۔ وہ محض پولیٹیکل فیکٹری ہے جس کے یہ ایمپلائر ہیں۔ جناب والا۔ اب یہ آپس میں خرید و فروخت کرنے لگ گئے ہیں۔ آپ ملک اختر کو سمجھائیں کہ ان کی کسی سے ذاتی مخالفت نہیں ہوئی چاہئے۔ جناب والا۔ میں یہ گزارش کرنی چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس سیکشن کے پیراگراف ۱۶ پر غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ جب ان کو نوکری سے نکال دیا گیا ہو تو مزدوروں کو دو مہینے بغیر کسی قسم کا کرایہ دینے یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے کوارٹر میں رہا سکتے ہیں۔ فیکٹری کا مالک اس کو اس لئے مکان دے رہا تھا کہ وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے لیکن اب اس کا وہاں پر کوئی حق نہیں رہا لیکن چونکہ

غریب ہے لہذا سوچا گیا کہ اس کو تکلیف ہوگی نئی لوکری اور لیا مکان ڈھونڈنے میں تو اس لئے اس کو دو مہینے کی مراعات دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ملک اختر صاحب کی ترمیم کے بعد یا ان کی اس ترمیم کے مطابق حالات یہ ہو جائیں گے کہ ایک مزدور کام کہیں کر رہا ہے اور فیکٹری کسی اور میں رہ رہا ہے۔ جناب سپیکر۔ ہر ایک چیز کی implications دیکھنی چاہئیں۔ جذبات میں یونہی بہہ کر بات نہیں کرنی چاہئے۔ اگر ایک آدمی نے ۵۰ مکان بنا رکھے ہیں اپنے مزدوروں کے لئے اور ۵۰ مزدور اس کے پاس کام کرتے ہیں اور وہ پانچ یا چھ کو نکال دیتا ہے۔ لئے پانچ رکھتا ہے تو ان لئے پانچ آدمیوں کے لئے پانچ مکان کہاں سے provide کرے۔ پھر انہوں نے عجیب قسم کی بات کی جو میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ان سے کرایہ لیا جاتا ہے۔ یہاں تو ان مکانوں کی اور ان کوارٹروں کی باتیں ہو رہی ہیں جو مزدور کو بحیثیت نوکر ہونے کے مل والا provide کر رہا ہے۔ اس میں جناب سپیکر۔ کرائے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اس میں تو اس سہولت کا ذکر ہے جو کہ اس کو دی جا رہی ہے۔ کہ اگر اس کو لوکری سے نکال بھی دیا جائے تو اس کو دو مہینے اس بات کے لئے دیئے جاتے ہیں کہ وہ آسانی سے دوسری جگہ روزگار تلاش کر لے۔ ملک اختر صاحب کی جو ترمیم ہے اس کے تحت جناب والا۔ تمام فیکٹریاں اس جھگڑے میں پڑی رہا کریں گی کہ جو ان کے اپنے مزدور ہیں ان کے لئے مکانات نہیں ہوں گے اور جو ملک اختر صاحب کے حق میں شور مچا رہے ہوں گے ان کے پاس مکان ہوں گے تو جناب والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک اختر صاحب کی ترمیم demagogry کا بہترین مظہر ہے اور ملک اختر کی تقریر میں صرف الفاظ ہی الفاظ اور جذبات ہیں اور اس میں کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے۔

Mr. Speaker : The question is -

That for para. 16 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

"16. (1) A workman occupying residential accommodation provided by his employer, who has resigned or retired, or has been retrenched, discharged or dismissed, or whose services have been terminated, shall vacate such accommodation within a period of six months from the date of his retrenchment, discharge, dismissal or termination of services, as the case may be ; provided that in case of reinstatement of the workman, the employer shall be bound to provide him with similar residential accommodation from the date of such reinstatement or pay him per mensem an allowance in lieu thereof at the rate of three times the wages of the last full working day.

(2) If a workman, who has been retrenched, discharged or dismissed, or whose services have been terminated, fails to vacate any residential premises provided by the employer, within the period specified in clause (1), the employer may lodge a Civil suit in the manner laid down in the West Pakistan Urban Rent Restriction Ordinance, 1959 (VI of 1959) if the retrenched or discharged or dismissed workman is a defaulter.

(3) Where a workman occupying residential accommodation provided to him by the employer dies, the procedure prescribed in this Standing Order shall mutatis mutandis and so far as applicable, apply, for evicting any person, who was occupying the premises through such workman, and after his death continues to remain in occupation thereof."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Amendments Nos. 66, 67 and 68 by Malik Mohd. Akhtar are not moved. Next amendment No. 69.

Malik Muhammad Akhtar : I beg to move :

That for para. 17 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted namely :—

“17. No worker, who is a member of any Provident Fund, shall be deprived, due to retrenchment, discharge or termination of service or dismissed in any other manner provided in this Ordinance, other than by way of dismissal for misconduct, of the benefit of that provident Fund including the employers' contribution thereto, if he is entitled to it under the rules of that Fund.”

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That for para. 17 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

“17. No worker, who is a member of any Provident Fund, shall be deprived, due to retrenchment, discharge or termination of service or dismissed in any other manner provided in this Ordinance, other than by way of dismissal for misconduct, of the benefit of that provident Fund including the employers' contribution thereto, if he is entitled to it under the rules of that Fund.”

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲) - جناب سپیکر - ان کا جو اورینجنل قانون ہے اس میں یہ پراویڈنٹ فنڈ کے متعلق کہتے ہیں کہ جس کسی مل ورکر کو ہم فارغ کر دیں گے تو اگر وہ ڈسپان کی خلاف ورزی یا مس کنڈیکٹ کی بنا پر نکالا جائے گا تو وہ صرف اپنے حصے کے پراویڈنٹ فنڈ کا حق دار ہوگا۔ یہ نہایت ہی اہم دفعہ ہے میں نے اپنی ترمیم میں صرف

استعفیٰ کا لفظ یہاں سے نکالا ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلی دو صورتوں میں بے شک اسے پراویڈنٹ فنڈ سے محروم کر دیا جائے لیکن اگر وہ استعفیٰ دے تو پھر اسے اس سے محروم نہ کیا جائے ورنہ یہ چیز جبری لیبر کی صورت میں آجاتی ہے استعفیٰ کے لئے سٹینڈنگ آرڈر میں دفعات موجود ہیں کہ اتنے دن کا نوٹس ہوگا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ استعفیٰ کی صورت میں اسے پراویڈنٹ فنڈ سے محروم نہ کیا جائے۔

وزیر معنت - ہم ترمیم لا رہے ہیں۔

Mr. Speaker : The question -

That for para. 17 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

“17. No worker, who is a member of any Provident Fund, shall be deprived, due to retrenchment, discharge or termination of service or dismissed in any other manner provided in this Ordinance, other than by way of dismissal for misconduct, of the benefit of that provident Fund including the employers' contribution thereto, if he is entitled to it under the rules of that Fund.”

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next amendment No. 70.

Khawaja Muhammad Safdar : Not moving, Sir.

Mr. Speaker : The amendment is not moved. Next amendment.

Minister for Labour : I beg to move -

That in para. 17 of the Schedule of the Ordinance, the full-stop appearing at the end be replaced by a semi-colon and following be added, namely :—

“provided further that in case of resignation

after five years of service a workman shall be entitled to the employer's share of contribution as well."

Mr. Speaker : Amendment moved is -

That in para. 17 of the Schedule of the Ordinance, the full-stop appearing at the end be replaced by a semi-colon and following be added, namely :—

"provided further that in case of resignation after five years of service a workman shall be entitled to the employer's share of contribution as well."

I think there is no opposition ; the amendment is carried.

Next amendment by Khawaja Muhammad Safdar.

Khawaja Muhammad Safdar : Not moving, Sir.

Mr. Speaker : The amendment is not moved. Next amendment.

Khawaja Muhammad Safdar : I beg to move -

That in part (c) of para. 18 of the Schedule of the Ordinance, between the words "after" and "notice" occurring in line 2, the word "giving" be inserted.

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That in part (c) of para. 18 of the Schedule of the Ordinance, between the words "after" and "notice" occurring in line 2, the word "giving" be inserted.

Minister for Labour : Not opposed.

Mr. Speaker : As the amendment is not opposed, it stands carried.
Next amendment.

Malik Muhammad Akhtar : I beg to move -

That after sub-para. (d) of para. 18 of the

Schedule of the Ordinance, the following be added, namely :—

“(e) no Court-fee shall be payable for filing or exhibiting of any complaint, or document of any kind in the Court.”

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That after sub-para. (d) of para. 18 of the Schedule of the Ordinance, the following be added, namely :—

“(e) no Court-fee shall be payable for filing or exhibiting of any complaint, or document of any kind in the Court.”

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲) - جناب سپیکر - میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا یہ ایڈجوڈیکشن جب ہونی ہے تو انہوں نے سینڈلنگ آرڈر کے تحت شکایت کرنی ہے -

Mr. Speaker : What does the Member mean by exhibiting any complaint ?

Malik Muhammad Akhtar : I am sorry, Sir. It is out of order.

Mr. Speaker : Now, we pass on to para 19 and there is no amendment in it. There is an amendment in para 20 by Malik Muhammad Akhtar. He may please move it.

Malik Muhammad Akhtar : I beg to move -

That for para. 20 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

“20. (1) The employer of the industrial and commercial establishment shall personally be held responsible for the proper and faithful observance of the Standing Orders, whether or not the workmen of such establishment are employed through contractors.

- (2) An employer who contravenes any provision of this Ordinance, as applicable to his commercial or industrial establishment, shall, for the first offence, be punishable with fine not exceeding rupees five hundred and in the case of a continuing offence, with a further fine which may extend to fifty rupees for every day after the first during which the offence continues and for each of the subsequent offence with a fine which may extend to rupees five hundred or with simple imprisonment not exceeding one month or with both and in the case of a continuing offence arising out of such subsequent offence with a further fine which may extend to fifty rupees for every day after the first during which such offence continues."

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That for para. 20 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

- "20. (1) The employer of the industrial and commercial establishment shall personally be held responsible for the proper and faithful observance of the Standing Orders, whether or not the workmen of such establishment are employed through contractors.
- (2) An employer who contravenes any provision of this Ordinance, as applicable to his commercial or industrial establishment, shall, for the first offence, be punishable with fine not exceeding rupees five hundred and in the case of a continuing offence, with a further fine which may extend to fifty rupees for every day after the first during which

the offence continues and for each of the subsequent offence with a fine which may extend to rupees five hundred or with simple imprisonment not exceeding one month or with both and in the case of a continuing offence arising out of such subsequent offence with a further fine which may extend to fifty rupees for every day after the first during which such offence continues."

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed.

ملک محمد اختر (لاہور - ۲) - جناب سپیکر - میں اس پر لمبی بات نہیں کرنی چاہتا صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مالک کی ذمہ داری کو پانچ سطروں میں ختم کر کے رکھ دیا ہے۔

"The employer of the industrial and commercial establishment shall personally be held responsible for the proper and faithful observance of the Standing Orders, whether or not the workmen of such establishment are employed through contractors."

جناب والا - میں نے صرف یہ کیا ہے کہ صنعتی یا کمرشل ادارے کے مالک کو ذاتی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ اگر وہ ان تمام سٹینڈنگ آرڈرز کی خلاف ورزی کرے تو اسے جرمانہ کیا جاسکے گا جو ۵۰۰ روپے تک ہوگا اگر وہ خلاف ورزی مسلسل ہو تو اسے پچاس روپے روزانہ جرمانہ ہوگا اور اگر سات دن سے زیادہ ہو تو اسی طرح جرمانہ بڑھتا جائے گا حتیٰ کہ اسے قید محض کی سزا دی جائے گی جو ایک ماہ کی ہوگی۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مزدوروں کا حاسی کون ہے اور مالکان کا کون انہوں نے کاغذ پر جو یہ لکھ دیا ہے یہ کافی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اس پر عمل کرنا ہے تو صنعتی یا تجارتی اداروں کے مالکوں کے لئے یہ سزا رکھنا ضروری ہے۔

وزیر معنت (ملک اللہ یار خان) - جناب والا - میں جناب اختر صاحب کو آرڈیننس کی شق نمبر ۷ کی طرف توجہ دلاتا ہوں جہاں سزاؤں کے بارہ میں تفصیلی طور پر مندرجات کئے گئے ہیں - انہوں نے فرمایا ہے کہ یہاں پانچ لائٹوں میں مالکوں کی ذمہ داری کو ختم کر دیا گیا ہے اور سزاؤں کے بارہ میں کچھ نہیں ہے - حالانکہ کلاز ۷ میں تفصیل کے ساتھ اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے اور اگر وہ ان احکامات کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کے لئے سزائیں تجویز کی گئی ہیں -

Mr. Speaker : The question is -

That for para. 20 of the Schedule of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

“20. (1) The employer of the industrial and commercial establishment shall personally be held responsible for the proper and faithful observance of the Standing Orders, whether or not the workmen of such establishment are employed through contractors.

(2) An employer who contravenes any provision of this Ordinance, as applicable to his commercial or industrial establishment, shall, for the first offence, be punishable with fine not exceeding rupees five hundred and in the case of a continuing offence, with a further fine which may extend to fifty rupees for every day after the first during which the offence continues and for each of the subsequent offence with a fine which may extend to rupees five hundred or with simple imprisonment not exceeding one month or both and in the case of a continuing offence arising out of such

subsequent offence with a further fine which may extend to fifty rupees for every day after the first during which such offence continues."

The motion was lost.

Mr. Speaker : We now pass on to Preamble. There is no amendment in the Preamble. Next clause ; there are amendments by Khawaja Muhammad Safdar and Mr. Hamza.

Mr. Hamza : Sir, I beg to move :

That for sub-section (4) of section 1 of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

"(4) It applies to every Industrial or Commercial establishment wherein five or more workmen are employed or were employed on any day during the preceding twelve months."

Mr. Speaker : Amendment moved is :

That for sub-section (4) of section 1 of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

"(4) It applies to every Industrial or Commercial establishment wherein five or more workmen are employed or were employed on any day during the preceding twelve months."

Parliamentary Secretary (Labour) : Opposed.

میجر محمد اسلم جان (راولپنڈی - ۱) - جناب والا - کلاز ۱ میں تین سب کلاز ہیں اور ایک proviso ہے - آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا آج بڑی ترقی کر گئی ہے - پہلے چھوٹی چھوٹی انڈسٹریل اسٹبلشمنٹ تھیں جہاں ۵ یا ۶ آدمی کام کرتے تھے اب آٹومیٹک مشینری ہے اور جدید قسم کی مشینری

ہے جہاں چار یا پانچ یا زیادہ سے زیادہ دس آدمی کام کرتے ہیں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں ایک ایک آدمی کئی کئی مشینوں کی دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ جہاں پر ۲۵ - ۳۰ یا ۴۰ آدمی کام کرتے ہیں وہاں قانون کا کام لوگوں کو ان کے حقوق دلوانا ہے نہ کہ ان کے حقوق کو چھیننا ہے۔ اس طرح آپ بڑی تعداد کو ان کے حقوق سے محروم کر دیں گے۔ پھر اس قانون کے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ خوش دل مزدور زیادہ کام کرتا ہے۔ ہم مزدوروں کو خوش دل کیوں نہ رکھیں۔ ان کو زیادہ مراعات کیوں نہ دیں تاکہ وہ زیادہ کام کر سکیں۔ جیسا کہ انہوں نے یہاں پر انڈسٹریل اسٹبلسمنٹ رکھی ہے جہاں پر کم از کم ۵۰ مزدور کام کرتے ہیں اس کو یہ سٹینڈنگ آرڈر apply کرے گا۔ یہ سٹینڈنگ آرڈر چھوٹی انڈسٹریز پر apply نہیں کرے گا۔ جو بنیان۔ جرائیں وغیرہ اس قسم کی بنانے والی انڈسٹریز ہے اور جہاں پر ۵۰ سے کم مزدور کام کرتے ہیں۔ اگر یہ ان پر لاگو نہ ہوا تو ان کو تنخواہیں دوسرے حساب سے ملیں گی اور وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ تو مانی ہوئی بات ہے گو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ویلفیئر سٹیٹ بنے مگر اس وقت یہ ویلفیئر سٹیٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی نوکری سے نکل جائے تو unemployment پنشن ملے۔ اس کے بچوں کو مفت تعلیم حاصل ہو۔ یا ہسپتال میں اس کا مفت علاج ہو۔ مگر ہسپتالوں کے متعلق روزانہ اس معزز ایوان میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ڈاکٹر نہیں ہوتے۔ ڈسپنسریز ہیں کہیں ڈسپنسریز بھی نہیں ہوتے۔ ان حالات کے تحت آپ ۵۰ افراد رکھیں یا کم از کم ۵۰ افراد ہونے چاہئیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس تعداد کو بالکل کم کر کے پانچ کر دیں۔ میں وزیر محنت صاحب سے پوچھتا ہوں کہ گورنمنٹ اسٹبلسمنٹ پاکستان میں راولپنڈی۔ لاہور یا کراچی وغیرہ میں بھی نہیں ہو گی وہاں بیس بیس آدمی کام کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی فرم۔

لاہور میں رینکن اسٹبلشمنٹ ہے وہاں بھی ۲۰ یا ۲۵ آدمی کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس تعداد کو کم کر کے پانچ کر دیا جائے تبھی وہ اس سٹینڈنگ آرڈرز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

جناب والا۔ اس کے بعد سب پیرا "سی" میں کہا گیا ہے کہ

"(c) such class or classes of other industrial and commercial establishments as Government may, from time to time, by notification in the official Gazette, specify in this behalf."

گو کہ انہوں نے پہلے انڈسٹریل اسٹبلشمنٹ اور کمرشل اسٹبلشمنٹ میں ۵ اور ۳ کی حد لگا دی ہے اس کے متعلق یہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پر حکومت چاہے۔ جہاں پر انتظامیہ چاہے وہ گزٹ نوٹیفیکیشن کر کے سٹینڈنگ آرڈر لگا سکتی ہے اور یہ تمام پاور انتظامیہ کو دے دی جائے گی۔

Absolute power which will corrupt them absolutely though they are already corrupt.

اس طرح رشوت ستانی کا بازار اور گرم ہو جائے گی۔ صنعت کار کے ساتھ بلیک میانگ شروع ہو جائے گی کسی کو exempt کر دیں گے کسی پر سٹینڈنگ آرڈر لاگو کر دیں گے۔ یا ایک دن لگا کر دوسرے دن اس کو exempt کر دیں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ صدر صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ ان کے اخراجات کیا ہیں ان کے اخراجات اور ان کی تنخواہیں انتظامیہ کے افسران سے کئی کئی گنا زیادہ ہیں۔ یہ اختیارات بجائے انتظامیہ کے اس معزز ایوان کو ہونے چاہئیں کہ ہم جسے چاہیں یا یہ معزز ایوان جسے چاہے۔ مگر جس کو چاہے اس پر یہ سٹینڈنگ آرڈر لاگو ہو یا اس کو exempt کریں۔ یہ اختیارات ان کے پاس نہیں ہونے چاہئیں اس کے بعد proviso ہے اس میں فرمایا ہے۔

"Provided that nothing in this Ordinance shall apply to industrial or commercial establishments carried on by or under the authority of the Central or any Provincial Government, where statutory rules of service, conduct or discipline are applicable to the workmen employed therein."

جناب والا - یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سے پہلے انڈسٹریل اینڈ کمرشل ایمپلائمنٹ سٹینڈنگ آرڈرز میں اس قسم کی کوئی شق یا proviso نہیں - مشرقی پاکستان سٹینڈنگ آرڈرز میں اس قسم کی proviso نہیں یہاں اس قسم کی proviso کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی - ہو سکتا ہے کہ علیحدہ ہنگامی قانون کے تحت ریلوے کو یا گورنمنٹ کی انڈسٹریز کو exempt کیا ہو لیکن یہاں لا محدود اختیارات کیوں دئیے جا رہے ہیں - اس قسم کی مثال وائر ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے لئے ہے - آرڈیننس فیکٹری یا پوسٹ اینڈ ٹیلیگراف یونین جو سنٹر کی ہے یا ٹیچرز یونین ہے - پی - ڈبلیو - ڈی یونین ہے ان کے لئے یہ proviso رکھی ہو گی - سٹینڈنگ آرڈرز کے متعلق ان کو یہ کہوں گا کہ یہ ان کے اپنے رولز ہیں اس لئے وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں -

جناب والا - اب میں جناب وزیر متعلقہ کی توجہ fundamental rights کی طرف دلانا چاہتا ہوں - یہاں پر آئین کی رو سے کہا گیا ہے کہ ہماری بنیادی حق ہے ہم جب چاہیں یونین یا ایسوسی ایشن بنا سکتے ہیں - یہ مزدور کا بنیادی حق ہے جسے چھینا نہیں جا سکتا اگر اس حق کو محدود بھی کر دیا جائے تو یہ انسان کے اس بنیادی حق کو چھین لینے کے مترادف ہو گا - صرف کاغذ پر یونین اور ایسوسی ایشن بنا کر اس سے استفادہ نہ کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو اور اس کی وقعت اس کاغذ کے برابر بھی نہ ہو گی جس پر کہ ایسی ایسوسی ایشن وغیرہ کا نام

لکھا جاتا ہے۔ آئین نے ہمیں جو حقوق دئے ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کرنا ہمارا فرض ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا فرض یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کوئی قانون سازان حقوق کی خلاف ورزی نہ کرے۔ پاکستان دنیا بھر میں دوسرا ملک تھا جس نے کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے کنوینشن نمبر ۸۷ اور نمبر ۹۸ کو rectify کیا ہے یعنی قانونی طور پر ان کے نفاذ کو مان لیا اور ان کی توثیق کی وہ تھا۔

Freedom of Associations, right to organize and collective bargaining.

جناب والا۔ اس proviso کے تحت جو حقوق دئیے گئے تھے اور ہم نے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے کنوینشن کو مانا تھا تو اگر اب ہم ان کو ناجائز قرار دیں یا ان کو چھین لیں تو یہ بات جائز نہ ہو گی۔ حکومت نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم عوام اور مزدوروں کے لئے بہتر سے بہتر قوانین بنا رہے ہیں مگر محسوس ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کے جو مشیر ہیں۔ وہ اس بات پر تل گئے ہیں کہ ”وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا“۔ ان کا خیال ہے کہ وعدے ہوتے رہیں گے اور ان کو وفا نہیں کیا جائے گا۔ آج کم و بیش بیس برس ہو چکے ہیں کہ ہماری جدوجہد جاری ہے کہ ہم بہتر قوانین بنائیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ روز بروز بد سے بد تر بن رہے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس آئی۔ ایل۔ او کی۔۔

Mr. Speaker: No, the Member is not allowed.

مہجر محمد اسلم جان۔ بہت اچھا جناب۔ تو پھر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔

مسٹر سپیکر۔ ملک صاحب۔ کیا آپ جواب دینا چاہتے ہیں؟

وزیر محنت (ملک اللہ یار خان)۔ جناب والا۔ مجھے خواجہ محمد

صنعتی اداروں میں ملازمین کی جو تعداد پچاس تک مقرر کی گئی ہے وہ اس امر کے پیش نظر مقرر کی گئی ہے کہ صنعتی اداروں کے متعلق اس سے قبل ہی بہت سے ایسے قوانین ہیں کہ جن کا اطلاق ان پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر Factories Act, Payment of Wages Act وغیرہ اور یہ قانون جو اس وقت زیر بحث ہے یعنی Commercial and Industrial Employment Act اور Workmen's Compensation Act اور Employment of Children Act ہے۔ تو یہ ان تمام قوانین میں سے چند ایک قوانین ہیں جن کا اطلاق صنعتی اداروں پر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس تجارتی اداروں پر چونکہ سوائے Shops Act کے کسی اور قانون کا اطلاق اس وقت نہیں ہوتا اس لئے صنعتی اور تجارتی اداروں کے مزدوروں کی تعداد میں یہ تفاوت رکھا گیا ہے اور اس کا اطلاق ان صنعتی اداروں پر ہو گا جن میں کام کرنے والوں کی تعداد پچاس یا پچاس سے زیادہ ہو۔ خواجہ صاحب نے جو ترمیم پیش کی ہے اور جس کی تالیف میجر محمد اسلم جان صاحب نے بھی کی ہے کہ جن صنعتی اور تجارتی اداروں میں مزدوروں کی تعداد پانچ یا پانچ سے زیادہ ہو۔ اس قانون کا اطلاق وہاں پر بھی کیا جائے۔ لیکن میری دانست میں گو کہ ہم نے گذشتہ پندرہ بیس سال میں بڑی صنعتی ترقی کی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترقی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم اپنے معاشی یا اقتصادی حالات کو یک قلم فراموش کر دیں اور ان کے جو نتائج ہیں ان کے بارے میں سوچنے کی زحمت ہی نہ کریں اور ان اداروں کو بھی ان قوانین کی زد میں لے آئیں جو کہ میرے خیال میں ان کی زد میں آنے کے قابل نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم صنعتی ترقی کے اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں ہمیں ابھی صنعتی اداروں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔

وزیر محنت - اور جہاں ہم نے مزدوروں کے تحفظ اور ان کی بہبود کے بارے میں خیال رکھنا ہے وہاں ہمیں اس امر کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ صنعتی اور تجارتی اداروں کے مالکان پر اس قدر بوجھ نہ ڈالیں کہ جس سے وہ ان اداروں کو چلانے کے قابل ہی نہ رہ سکیں۔

جناب والا - اس وقت صنعتی اور تجارتی اداروں کو بہت سی دشواریاں بھی پیش آتی ہیں مثال کے طور پر انہیں زرمبادلہ کے سلسلے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ بہت سا ایسا خام مال ہے کہ جو انہیں بیرونی ممالک سے درآمد کرنا پڑتا ہے اور بہت سی ایسی اشیاء بھی ہیں کہ جن کی درآمد پر حکومت نے پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں اور جن کے لئے درآمدی لائسنس بھی جاری نہیں کئے جاتے اور ان اداروں کو اپنی صنعتوں کے لئے بولس و وچرز کے ذریعے خام مال درآمد کرنا پڑتا ہے یعنی اس طرح انہیں مقررہ قیمت سے زیادہ قیمت ادا کر کے خام مال درآمد کرنا پڑتا ہے۔ تو ان تمام مشکلات کو پیش نظر رکھ کر ہم نے اس قانون میں ترمیم کی ہے اور ہمیں چاہئے کہ جس وقت بھی ایسے قوانین میں ترمیم کریں تو ان تمام مسائل اور ان تمام مشکلات کو پیش نظر رکھ کر کریں جو کہ اس وقت ہمیں ملک کے صنعتی اور تجارتی اداروں کی زندگی میں لازماً پیش آتی ہیں۔ اس لئے ہم نے تجارتی اداروں کے ملازمین کے بارے میں متعلقہ قانون میں جو ترمیم کی ہے اور ان کے مزدوروں کی تعداد کو پچاس سے کم کر کے تیس کر دیا ہے یہ ملکی صنعت کی بہتری کی جانب ہی ایک قدم ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ابھی عرض کیا ہے کہ تجارتی اداروں پر سوائے Shops Act کے کسی اور قانون کا اطلاق نہیں ہوتا اور اب بھی سوائے اس قانون کے اور قانون زیر بحث یعنی Commercial and Industrial Employment (Standing Order) Ordinance, 1968 کے اور کسی قانون کا اطلاق نہیں ہو گا۔ اگر ان تجارتی اداروں پر آپ اس کا اطلاق کر دیں کہ جہاں پر پانچ یا پانچ سے

زائد مزدور کام کریں تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گی۔ کیونکہ بہت سے ایسے تجارتی ادارے ہیں کہ جہاں پر مالکان کے خاندان کے افراد کام کرتے ہیں۔ اس لئے ان کے خاندان کے افراد کو اس قانون کی زد میں لانا مناسب نہیں ہے۔

اس کے علاوہ پیچر اسلم جان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ وہ ادارے جو حکومت کے زیر اہتمام چل رہے ہیں یا جو نیم خود مختار ادارے ہیں اور جن کے لئے قانونی طور پر اپنے قواعد و ضوابط بن گئے ہیں۔ ان اداروں پر بھی قانون کا اطلاق کیا جائے۔ تو میں آپ کی وساطت سے ان کی خدمت میں مودبانہ یہ عرض کروں گا کہ جن اداروں میں اس قسم کے قواعد و ضوابط قانونی طور پر مرتب کئے گئے ہیں۔ ان اداروں کے ملازمین کو اس سے قبل ہی، موجودہ احکامات جاریہ کی مراعات سے بہت زیادہ مراعات حاصل ہیں۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کو ان احکامات جاریہ کے تحت مفادات اور مراعات دینے کا فیصلہ کریں تو یہ ان کے مفاد میں نہیں ہو گا بلکہ یہ ان کے لئے نقصان دہ ثابت ہو گا۔ کیونکہ حکومت کی طرف سے ان کو جو مراعات حاصل ہیں وہ مراعات نجی صنعتی اور تجارتی اداروں کے ملازمین کو حاصل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس قانون کے تحت ہم نے مزدوروں کو جو ”اتفاقیہ چھٹیاں“ دی ہیں۔ وہ دس ہیں۔ لیکن صوبائی اور مرکزی حکومتوں کی طرف سے ملازمین کے لئے جو ”اتفاقیہ چھٹیاں“ مختص کی گئی ہیں۔ ان کی تعداد پچیس ہے اس کے علاوہ اس قانون کے تحت ہم نے ایک مرد اور ایک بچے کے لئے ۱۴ دن کی سالانہ چھٹی بھی رکھی ہے۔ لیکن مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے یہ تعداد ۳۰ دن ہے۔ اسی طرح بہت سی مراعات اور فائدے ہیں۔ جو کہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے ملازمین کو یا ان اداروں کو جہاں قانونی طور پر ایسے قواعد مرتب کئے گئے ہیں جہاں ان کو وہ مراعات

حاصل ہیں وہ مراعات اس قانون کے تحت ان مزدوروں کو حاصل نہیں ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا اطلاق ان ملازمین پر بھی کر دیا جائے تو ان کے لئے مضر ثابت ہو گا۔

Mr. Speaker : I will now put the amendment. The question is :

That for sub-section (4) of section 1 of the Ordinance, the following be substituted, namely :—

“(4) It applies to every Industrial or Commercial establishment wherein five or more workmen are employed or were employed or any day during the preceding twelve months.”

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next amendment.

Malik Muhammad Akhtar : Not moving Sir.

Mr. Speaker : Next amendment No. 78.

Malik Muhammad Akhtar : Not moving Sir.

Mr. Speaker : Next amendment No. 79.

Khawaja Muhammad Safdar : Not moving Sir.

Mr. Speaker : Next amendment No. 80.

Khawaja Muhammad Safdar : Not moving Sir.

Mr. Speaker : Next amendment.

Malik Muhammad Akhtar : Not moving Sir.

Mr. Speaker : Next amendment.

Malik Muhammad Akhtar : Not moving Sir.

Mr. Speaker : Next amendment No. 83.

Khawaja Muhammad Safdar : Not moving Sir.

Mr. Speaker : I think the amendment from Major Muhammad Aslam Jan is the same. Now I will put the resolution to the vote of the House.

Khawaja Muhammad Safdar : No Sir, we are opposing it.

Mr. Speaker : Mr. Hamza.

مسٹر حمزہ (لاٹاپور - ۶) - جناب سپیکر - یہ ہنگامی قانون حکومت مغربی پاکستان کی جانب سے جب نافذ کیا گیا یا گورنر صاحب نے اسے نافذ کیا - تو اس سے تین ، چار سال پہلے سے حکومت کے بیشتر ذمہ دار عہدے داران یا وزرا صاحبان مزدوروں کو خوش خبری سنایا کرتے تھے - کہ ایک قانون ایسا آ رہا ہے - جس سے کہ وہ ان کے حقوق کی خوب حفاظت کریں گے - جب یہ قانون نافذ ہوا - اور اس کا مقابلہ جیسا کہ آج ایوان میں مشرقی پاکستان کے اس جیسے قانون کے ساتھ جو کہ وہاں ۱۹۶۵ء میں نافذ کیا گیا - اس سے موازنہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا ہے - کہ ہماری مغربی پاکستان کی حکومت مزدوروں کی بجائے سرمایہ داروں صنعت کاروں یا بڑے بڑے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا - بلکہ ان کے ناجائز حقوق کی حفاظت کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتی ہے - جناب سپیکر - جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ احکام جاریہ ۱۹۶۰ء میں جاری کئے گئے - اور جس کی تعمیل آپ نے اب کی ہے - یہ مشرقی یا مغربی پاکستان میں ایک ہی بنیاد پر نافذ تھا - چونکہ حکومت پاکستان نے ایک آرڈیننس کے ذریعہ سے اسے نافذ کیا تھا - میں حکومت مغربی پاکستان کے ذمہ دار وزیر سے یہ دریافت کرتا ہوں - کہ کیا وجہ ہے کہ اپنے مغربی پاکستان کے مزدوروں کو جو مراعات دینی تھیں وہ دلوانے کی کوشش لہیں کی - وہ مراعات جو کہ مشرقی پاکستان کے مزدوروں کو حاصل ہیں - جناب سپیکر - مجھے یہ علم ہے - جیسا کہ جناب وزیر موصوف نے بتایا تھا - کہ ملک ترقی کر رہا ہے - حکومت ترقی کی جانب بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے - ترقی پذیر ممالک میں سرمایہ کاری کا سب سے اہم ذریعہ جو تصور کیا جاتا ہے یا تو

صارفین کی جیبوں کو کاٹا جائے یا محنت کش کے خون کو چوسا جائے ۔ جناب سپیکر ۔ سرمایہ داروں ، صنعت کاروں یا کاروباری لوگوں کو مختلف صورتوں میں تحفظات دئے جاتے ہیں جیسا کہ پاکستان میں اور مغربی پاکستان میں ہیں بیرونی ممالک سے جو مقابلہ ہوتا ہے ۔ اس کے امکانات امپورٹ ڈیوٹی درآمدی ٹیکس لگا کر ملک کو ختم کیا گیا ہے ۔ صنعت کاروں کو من مانی قیمتیں وصول کرنے کے مواقع مہیا کئے گئے ہیں ۔ اور اس حد تک ان کو مواقع مہیا کئے گئے ۔ کہ صارفین مغربی پاکستان میں چیخ رہے ہیں ۔ قیمتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں ۔ حالانکہ بیشتر خام اشیاء کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں ۔ لیکن تیار شدہ مال کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں ۔ میں اس کو سرمایہ داروں کی ایک لوٹ سمجھتا ہوں ۔ دوسری جانب مزدور جو کہ ان کارخانوں میں کام کرتے ہیں ۔ ان کا حق انہیں نہیں دیا جاتا ۔ سرمایہ کاری کا یہ ایک نرالہ طریقہ ہے ۔ جو ترقی پذیر ممالک میں اور خصوصی طور پر پاکستان میں رائج ہے ۔ اور جسے خاص طور پر مغربی پاکستان کی حکومت نے خود اپنایا ہے ۔ اگر آپ ملک میں صنعتی ترقی لانا چاہتے ہوں یا صنعتی انقلاب لانا چاہتے ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام قوم اپنی ہمت اور اپنی طاقت کے مطابق اس میں حصہ لے ۔ لیکن یہ کون سا نرالہ طریقہ ہے ۔ جس سے آپ کمزوروں کو ان کی ہمت سے بے نیاز ہو کر کہ ان میں طاقت نہیں ہے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں ۔ ان کے پاس ماسوائے منت کے اور کوئی وسیلہ نہیں ہے ۔ منت ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کے پاس فروخت کرنے پر مجبور ہیں ۔ اور اگر آپ ان کو کم سے کم قیمت دیتے ہیں ۔ اس کے باوجود اس چیز کو اکٹھا کر کے اس کی ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے ۔ حکومت ہی ہے جو ان کے حقوق کی حفاظت کر سکتی ہے ۔ لیکن ہمارے ہاں افسوس یہ ہے ۔ کہ یہ سرکل سرمایہ کاری یا ترقی کا ایک ایسا بھوت ہماری حکومت پر مسلط ہے ۔ کہ وہ نہ تو صارفین کے حقوق کا لحاظ رکھتی ہے ۔

اور نہ ہی مزدوروں کی ناگفتہ بہ حالت سے کوئی سروکار ہے۔ جناب سپیکر۔ آپ وہ تمام تقاریر جو کہ مرکزی اسمبلی میں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی صنعتی ترقی کے بارے میں ہوتی رہی ہیں۔ اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے یا ان کا جائزہ لیں گے۔ تو آپ کو یہ پتہ چلے گا۔ کہ مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کے مقابلے میں بہت آگے ہے۔ اگر ملک میں صنعتی ترقی کی ضرورت ہے تو مغربی پاکستان کے مقابلے میں مشرقی پاکستان میں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی incentive یا مراعات کی صنعت کاروں کو ضرورت تھی۔ میرا خیال ہے مشرقی پاکستان میں صنعت کاروں یا کاروباری لوگوں کو زیادہ مراعات کی ضرورت تھی۔ لیکن ہوا کیا ہے۔ مشرقی پاکستان کی حکمرانوں نے وہ مراعات جو احکام جاریہ کے تحت مزدوروں کو دی ہیں وہ مغربی پاکستان سے بدرجہا بہتر ہیں۔

مثال کے طور پر مشرقی پاکستان میں چھٹیوں کی تعداد مغربی پاکستان کے احکام جاریہ کے مقابلے میں یقیناً زیادہ ہیں۔

چودھری انور عزیز۔ کتنی ہیں۔

Khawaja Muhammad Safdar : Almost three times.

مسٹر حمزہ۔ صنعتی اداروں کے متعلق ایسٹ پاکستان فیکٹری ایکٹ کے سیکشن ۷۸ میں یہ دیا گیا ہے۔

“Section 78 of the East Pakistan Factories Act 1965 provides that every worker who has completed one year of continuous service in a factory, shall be allowed during the subsequent period of twelve months leave with wages for a number of days calculated at the rate of -

- (i) if an adult, one day for every twenty-two days of work performed by him during the previous period of twelve months ;

- (ii) if a child, one day for every fifteen days of work performed by him during the previous period of twelve months.

“Provided that a period of leave shall be inclusive of any holiday which may occur during such period.

In this connection it is also added that the workmen employed in East Pakistan in Commercial Establishments under Section 13, 14, 15 and 16 of East Pakistan Shops and Establishments Act, 1965 are allowed the following leave annually :—

Annual leave with pay.

One day for every 18 days work performed.

Festival Hol'day 10 days with full wages every year.

Casual leave 10 days with full wages every year.

The said leave available to the workers in East Pakistan under the above quoted laws available to the workers while the said benefits are not available in West Pakistan.

جناب سپیکر - اس کے علاوہ مشرقی پاکستان میں ملازمت سے علیحدہ کرنے کے لئے تین ماہ کا نوٹس دیا جاتا ہے جبکہ اس قانون کے تحت صرف ایک ماہ کی نوٹس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ تحفیف یا retrenchment کے متعلق مشرقی پاکستان میں مزدوروں کے حقوق کے تحفظات بہتر ہیں۔ وزیر متعلقہ نے فرمایا ہے کہ تمام مزدوروں کو جو ۹ ماہ سے متواتر کارخانہ میں کام کر رہے ہوں جہاں کام کی نوعیت مستقل ہو ہم نے اس ملازمت کو مستقل قرار دیا ہے۔ مشرقی پاکستان کے قانون میں یہ گنجائش موجود نہیں۔ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن اس قانون کا موازنہ کرتے وقت انہوں نے یہ نظر غائر اگر جائزہ لیا ہوتا تو پتہ چلتا کہ ایک غیر مستقل عارضی مزدور یا محنت کش جس کو نوکری سے علیحدہ کیا جائے اسے مشرقی پاکستان میں ایک ماہ کا نوٹس دینا

لازمی ہے۔ یہ رعایت یا تحفظ آپ نے مستقل ملازم کے لئے رکھا ہے۔ گویا مشرقی پاکستان کے غیر مستقل ملازم اور مغربی پاکستان کے مستقل ملازم کا لیول اور معیار ایک ہے ؟

اسی طرح سے جو lay of period ہے اس کے متعلق جناب وزیر محنت نے فرمایا ہے کہ پہلے سات دن کے لئے نصف تنخواہ اور اگلے سات دنوں کے لئے ایک تہائی تنخواہ دی جائے۔ جبکہ مشرقی پاکستان میں lay of میعاد ایک سال میں ۴۵ یوم ہے۔ آپ بتائیں کہ کوئی کارخانہ سال میں کتنی بار بند ہوتا ہے لیکن مشرقی پاکستان میں ایک سال میں ۴۵ یوم کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اور آپ کی دی گئی رعایت کے مقابلہ میں وہ بدرجہا بہتر ہے۔ مراعات جو وزیر محنت نے صوبہ کے مزدوروں کو دلائی ہیں یا دلانے کا دعویٰ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبہ کے مزدور ان کے مستحق نہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر اس ملک کے مزدوروں کی تحریک میں کوئی جان ہوتی اس صورت میں وہ مستحق ہوتے۔ جب تک مزدور اپنے حقوق کی حفاظت کے لئے حکومت کے محتاج ہوں گے آپ یقین کیجئے حکومت ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکے گی ایک ایسی حکومت جو محض حکمران ہی نہیں بلکہ وہ نئے نئے کارخانہ دار اور صنعت کار پیدا کرتی ہے یا خود بننا چاہتی ہے۔ ان حالات میں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کرے۔ اگر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے احکام جاریہ میں مراعات کا کوئی فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے مزدور اپنے حق کے منوانے کی زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ وہاں کے سیاسی حالات یہاں کے سیاسی حالات سے بالکل مختلف ہیں۔ مشرقی پاکستان کی حکومت نے ان کو بھیک نہیں دی ہے۔ جس وقت تک حکمرانوں سے مزدور بھیک مانگتے رہیں گے ان کو ان کے حقوق کی بھی بھی میسر نہیں ہو سکیں

گئے۔ جناب وزیر محنت نے کل ہی میرے اس اعتراض پر کہ آپ نے ایک ہاتھ سے یہ احکام جاری کئے ہیں اور مزدوروں کے ساتھ بڑی فیاضی کا ثبوت پیش کیا ہے اور دوسرے ہاتھ سے دفعہ ۸ کے ذریعہ یہ حقوق یہ اختیارات اور مراعات واپس لے لی ہیں۔ یہ فرمایا تھا کہ ہم نے یہ اختیارات محض اس لئے واپس لئے ہیں کیونکہ بعض اوقات ایسے ہنگامی حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کوئی کارخانہ دار یا کاروباری آدمی احکام جاریہ پر عمل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ مثال کے طور پر ۱۹۶۵ء کی جنگ کے ایام میں اگر یہ قانون نافذ ہوتا یا اس وقت عراضی طور پر معطل نہ کیا جاتا تو کارخانے کھڑے ہو جاتے۔ میں یہ دریافت کرتا ہوں کہ کیا جنگ کے دوران کسی مزدور انجمن کی جانب سے یا مزدوروں کی طرف سے یہ حیثیت طبقہ جنگ میں حصہ لینے سے جی چرانے کی کیفیت دیکھی۔ کیا وہ جنگ میں پورے طور پر ملک کی حفاظت کے لئے حکومت کے ساتھ شامل نہیں تھے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مزدور محض ملک کا وفادار نہیں بلکہ وہ ملک کی سالمیت کی حفاظت کے سلسلہ میں ہمارے حکمرانوں سے بہت زیادہ آگے ہے۔ جنگ کے ایام میں آپ نے مزدوروں کی کوئی شکایت نہیں سنی ہوگی۔ وہ محض محنت ہی نہیں کرتا بلکہ اپنی جان پیش کرنا ایک اعزاز سمجھتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ یہ جنگ جو حکمرانوں کی نا سمجھی کی پیداوار تھی اور یہ جنگ جو بے موقع لڑی گئی اور بلا مقصد لڑی گئی۔

Mr. Speaker : Mr. Hamza is not relevant. He may please be relevant to the law which is under discussion.

مسٹر حمزہ۔ جناب سپیکر۔ اس قانون میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ اس قانون کو یہ جب چاہیں معطل کر سکتے ہیں پیکار و بے معنی بنا

سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جنگ میں ایسی صورت حال نمودار ہو سکتی ہے تو جناب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔۔۔۔

مسٹر سپیکر - خواجہ صاحب آپ بھی اس پر تقریر کریں گے ؟

خواجہ محمد صفدر - جی ہاں۔

مسٹر سپیکر - ملک صاحب آپ تقریر نہیں فرمائیں گے ؟

ملک محمد اختر - جی نہیں۔

Mr. Speaker : The House is adjourned to meet tomorrow at 8.00 a.m.

The Assembly then adjourned (at 1.30 p.m.) till 8.00 a.m. on Wednesday, the 8th May, 1968.

APPENDIX I

(Ref : Starred Question No. 10202)

STATEMENT SHOWING ATTENDANCE OF NOMINATED AND
OFFICIAL MEMBERS OF HYDERABAD MUNICIPAL
COMMITTEE HYDERABAD FROM JUNE,
1965 TO FEBRUARY, 1966.

<i>Names of Official Member</i>	<i>Total No. of meetings</i>	<i>Total attendance</i>	
1. Mr. A.G. Akhund.	...	15	8
2. Mr. Abdul Sami Siddiqi	...	15	10
3. Haji Fariduddin	...	15	8
4. Mr. Manghanmal Kriplani	...	15	X
5. Begum Majida Sultana Bhurgari	...	15	7
6. A.D.M.	...	15	3
7. Dy. Suptd. of Police	...	15	6
8. Assistant Director of Industries	...	15	9
9. Chairman, H.M.C.	...	15	14

STATEMENT SHOWING ATTENDANCE OF OFFICIAL MEMBERS OF HYDERABAD MUNICIPAL COMMITTEE FROM MARCH, 1966 TO SEPTEMBER, 1967

<i>Name of Official Member</i>	<i>Total No. of meetings</i>	<i>Total attendance</i>
1. Chairman, H.M.C.	36	35
2. Director, Town Planning	36	14
3. Consulting Architect	36	15
4. Administrator, Auqaf	36	19
5. Deputy Registrar S.U.	36	7
6. Deputy Director, Health Services	36	X
7. Assistant Registrar, Co-operative Societies	36	18
8. Deputy Director of Schools	36	16
9. Deputy Director, Animal Husbandry	36	7
10. Additional District Magistrate	36	12
11. Assistant Director. Information	36	17
12. E.E.N. WAPDA Electricity	36	18
13. A.S.P./D.S.P.	36	9
14. Assistant Director, Basic Democracies	36	19
15. X.E.N., B. & R.	36	
16. E.E.N.P.H. Engineer Division II	36	

MUNICIPAL COMMITTEE PESHAWAR

<i>(b) Date of Meeting</i>	<i>No. of Official Members who attended the meeting</i>		
10th June 1965	...	3	Members
15th June 1965	...	1	Member
31st July 1965	...	2	Members
31st August 1965	...	2	..
13th September 1965	...	Nil	..
30th September 1965	...	2	..
30th October 1965	...	2	..
15th November 1965	...	3	..
30th November 1965	...	Nil	
30th December 1965	...	2	..
12th March 1966	...	3	..
30th March 1966	...	Nil	
29th April 1966	—	1	Member
29th May 1966	...	1	..
4th June 1966	...	1	..
30th June 1966	...	1	..
30th July 1966	...	1	..
8th August 1966	...	2	Members
29th September 1966	...	1	..
31st October 1966	...	Nil	

30th November 1966	...	1	Member
31st December 1966	...	3	Members
7th January 1967	...	2	"
31st January 1967	...	Nil	
27th February 1967	...	Nil	
30th March 1967	...	Nil	
8th May 1967	...	1	Member
25th May 1967	...	3	Members
27th May 1967	...	Nil	
10th June 1967	...	Nil	
29th June 1967	...	Nil	
28th July 1967	...	3	Members
28th August 1967	...	2	"
30th August 1967	...	2	"
30th September 1967	...	Nil	

**MEETINGS OF K.M.C. HELD FROM JUNE
1965 TO JANUARY, 1966**

Serial No.	Dates of the meetings	Held	Adjourned for want of quorum	No. of Official Members present out of 7	
1	8th June 1965	...	Yes	3	
2	Ditto	...	Do.	3	
3	15th June 1965	...	Do.	4	
4	16th June 1965	...	Do.	4	
5	17th June 1965	...	Do.	3	
6	29th June 1965	Yes	1
7	30th June 1965	...	Yes	...	2
8	Ditto	...	Do.	...	2
9	3rd August 1965	Yes	1
10	Ditto	...	Yes	...	1
11	19th August 1965	...	Do.	...	2
12	15th September 1965	...	Do.	...	3
13	21st September 1965	Yes	...
14	7th October 1965	...	Yes	...	1
15	9th November 1965	...	Do.	...	2
16	1st December 1965	...	Do.	...	2
17	8th December 1965	...	Do.	...	1
18	8th January 1966	Yes	2
19	15th January 1966	Do.	2
20	Ditto	...	Yes	...	1

Note—No meeting of Karachi Municipal Corporation was held during the month of February, 1966.

**MEETINGS OF K.M.C. HELD FROM MARCH,
1966 TO SEPTEMBER, 1967**

Serial No.	Dates of the meetings	Held	Adjourned for want of quorum	No. of official members present out of 24	
1	5th March 1966	...	Yes	..	22
2	28th March 1966	...	Do.	...	12
3	25th April 1966	...	Do.	...	8
4	27th April 1966	...	Do.	...	11
5	9th May 1966	...	Do.	...	12
6	10th May 1966	...	Do.	...	5
7	18th May 1966	...	Do.	...	9
8	23rd May 1966	Yes	3
9	8th June 1966	...	Yes	...	9
10	24th June 1966	...	Do.	...	8
11	27th June 1966	...	Do.	...	9
12	28th June 1966	..	Do.	..	6
13	29th June 1966	...	Do.	...	3
14	5th July 1966	...	Do.	Yes	3
15	19th July 1966	...	Do.	..	7
16	13th August 1966	Yes	3
17	17th September 1966	...	Yes	...	10
18	27th September 1966	Yes	3
19	28th September 1966	...	Yes	...	4

20	12th October 1966	...	Do.	...	8
21	12th November 1966	Yes	10
22	14th November 1966	...	Yes	...	6
23	22nd December 1966	..	Do.	...	10
24	4th January 1967	...	Do.	..	7
25	9th January 1967	...	Do.	...	14
26	27th February 1967	...	Do.	...	14
27	18th March 1967	...	Do.	..	10
28	10th April 1967	Yes	16
29	11th April 1967	...	Yes	...	12
30	5th May 1967	Yes	4
31	6th May 1967	...	Yes	...	2
32	12th May 1967	...	Do.	...	16
33	12th June 1967	Yes	11
34	13th June 1967	...	Yes	...	3
35	14th June 1967	...	Do.	..	10
36	19th June 1967	...	Yes	...	9
37	20th June 1967	...	Do.	...	8
38	22nd June 1967	Yes	18
39	30th June 1967	...	Yes	...	11
40	11th July 1967	...	Do.	...	2
41	12th July 1967	...	Do.	..	8
42	19th July 1967	Yes	3
43	31st July 1967	...	Yes	...	1
44	29th August 1967	Yes	6
45	30th August 1967	...	Yes	...	5
46	26th September 1967	...	Do.	...	12

**STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF MEETINGS
AND ATTENDANCE OF NOMINATED OFFICIALS
(JUNE, 1965 TO SEPTEMBER, 1967)**

Sr. No.	Date of meetings	No. of official member nominated	No. of nominated official members who attended meeting	Adjourned meeting	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	1st July 1965	...	9	2	Nil
2	17th August 1965	...	9	3	—
3	30th September 1965	...	9	4	—
4	10th October 1965	...	9	4	—
5	30th October 1965	...	9	5	—
6	30th December 1965	...	9	5	—
7	5th March 1966	..	13	11	—
8	31st March 1966	...	13	6	—
9	29th April 1966	...	13	3	—
10	16th May 1966	...	13	4	—
11	30th May 1966	...	13	7	—
12	5th June 1966	..	13	2	—
13	30th June 1966	...	13	3	—
14	30th July 1966	...	13	5	—
15	31st August 1966	...	13	8	—
16	30th September 1966	...	13	7	—

17	31st October 1966	..	13	5	Nil
18	30th November 1966	...	13	8	—
19	31st December 1966	..	13	6	—
20	31st January 1967	...	13	6	—
21	28th December 1967	...	13	5	—
22	31st March 1967	..	13	8	—
23	10th April 1967	...	13	5	—
24	10th May 1967	...	13	8	—
25	30th June 1967	...	13	3	1
26	31st July 1967	...	13	8	—
27	31st August 1967	...	13	5	—
28	28th September 1967	...	13	6	—

**NUMBER OF THE NOMINATED OFFICIAL MEMBERS WHO ATTENDED THE MEETINGS OF THE
COMMITTEE SINCE JUNE, 1965 TO SEPTEMBER 1967**

From January 1965 to February, 1966	Number of members who attended the meeting	From March 1966 to September 1966 (Detail of meetings)	Number of members who attended the meeting
1	2	3	4
June, 1965 ... Meeting dated 1st June 1965	...	March, 1966 ... Meeting dated 5th March 1966	13
Meeting dated 28th June 1965	2	March 1966 ... Meeting dated 19th March 1966	8
July 1965 ...	3	April 1966 ... Meeting dated May, 1966 ... Meeting dated 25th May 1966	8
September, 1965 ... Meeting dated 5th September 1965	...	" " " " " "	11

APPENDIX

	1	2	3	4
Meeting dated 9th September 1965	...	2	...	7
Meeting dated 12th September 1965
October 1965	...	3	Meeting dated 25th August 1966	6
November, 1965	...	4	.. August 1966	8
December, 1965	...	2 26th August 1966	5
...	...	3	Meeting 28th September 1966	9
...	...	4 29th September 1966	...
...	...	2	October, 1966	...
...	...	2	November 1966	...
...	...	2	Meeting dated 25th November 1966	5
...	...	2	.. 26th November 1966	2
...	...	3	.. 29th November 1966	1

February, 1966

December, 1966	...	Meeting dated 28th December 1966	...	7
		" 31st December 1966	..	2
January 1967	...			10
February 1967	..	Meeting dated 28th February 1967	...	6
		" 28th February 1967	...	4
March, 1967	...	" 28th February 1967	...	6
April, 1967	...	Meeting dated 18th April 1967	...	11
		" 26th April 1967	...	10
May, 1967	...			14
June, 1967	...			7
July, 1967	...			8
August, 1967	...			12
September, 1967				9

**STATEMENT SHOWING ATTENDANCE OF NOMINATED
AND OFFICIAL MEMBERS OF L.M.C., LAHORE. FROM
JUNE, 1965 TO JANUARY, 1966**

Serial No.	Name of official member	Total number of meetings	Total attendance
1	Mr. Karim Nawaz, Chairman.	7	6
2	Mr. M A. Mughal, Superintending Engineer, Public Health.	7	4
3	Mr. Muhammad Khalik, Superintending Engineer, Public Health.	7	5
4	Divisional Inspector of Schools.	7	4
5	Secretary, Lahore Improvement Trust.	7	3
6	Dr. Abdul Majid, Medical Superintendent.	7	5
7	Hakim Ahmad Shujah, Secretary, Official Language Committee.	7	2

**STATEMENT SHOWING ATTENDANCE OF NOMINATED
AND OFFICIAL MEMBERS OF L.M.C., LAHORE FROM
MARCH, 1966 TO DECEMBER, 1966**

Serial No.	Name of official member	Total number of meetings	Total attendance
1	Chairman, Lahore Municipal Corporation.	10	8
2	Superintending Engineer, Buildings and Roads, Provincial 1st Circle.	10	10
3	Superintending Engineer, Public Health Circle, Lahore.	10	6
4	Divisional Inspector of Schools.	10	7
5	Secretary, Lahore Improvement Trust, Lahore.	10	7
6	Assistant Director, Public Health.	10	5
7	Assistant Director, Basic Democracies	10	7
8	Superintending Engineer, Electricity, 1st Lahore Circle.	10	4
9	Divisional Superintendent, Pakistan Western Railway.	10	8
10	Director, Excise and Taxation, Lahore.	10	7
11	Additional Superintendent of Police, Lahore.	10	4
12	Superintendent Archiological Department.	10	4
13	Regional Director, Radio Pakistan, Lahore.	10	Has not taken oath so far.

**STATEMENT SHOWING ATTENDANCE OF NOMINATED
AND OFFICIAL MEMBERS LAHORE MUNICIPAL
CORPORATION, LAHORE FROM JANUARY,
1967 TO SEPTEMBER, 1967**

Serial No.	Name of official member	Total number of meetings	Total attendance
1	Chairman, Lahore Municipal Corporation.	9	9
2	Superintending Engineer, Buildings and Roads, Provincial 1st Circle.	9	6
3	Superintending Engineer, Public Health Circle, Lahore.	9	3
4	Divisional Inspector of Schools.	9	4
5	Secretary, Lahore Improvement Trust, Lahore.	9	4
6	Assistant Director, Public Health.	9	4
7	Assistant Director, Basic Democracies.	9	6
8	Superintending Engineer, Electricity 1st Lahore Circle.	9	5
9	Divisional Superintendent, Pakistan Western Railway.	9	6
9	Director, Excise and Taxation, Lahore.	9	6
11	Additional Superintendent of Police, Lahore.	9	3
12	Superintendent, Archiological Department.	9	4
13	Regional Director, Radio Pakistan, Lahore.	9	He has not taken oath so far.

APPENDIX II

(Ref : Starred Question No. 10232)

ANNEXURE

APPENDIX A

Statement showing the details of allotment of Industrial Plots in Scheme No. 4, upto 30.6.1967.

S. No.	PLOT NOS.	AREA	NAME OF THE ALLOTTEE
1	2	3	4
1.	L x 1	3 Acres	M/s Latex & Rubber Industry.
2.	L x 2	3 "	M/s National Import & Export Corp.
3.	L x 5	3 "	M/s Clifton Aerated Water Factory.
4.	L s 6	3 "	M/s Shahid Industries.
5.	L x 7	3 "	M/s Intercontinental Industries.

1	2	3	4
---	---	---	---

- | | | | |
|----|--------|-------------------|--|
| 6. | L x 8 | 3 | M/s Kayser Metal Industries. |
| 7. | L x 15 | | |
| | L x 16 | 5.303 Acres each | M/s International Industries Ltd. |
| 8. | L x 7 | 44.00 Acres | M/s Steel Corporation of Pakistan Ltd. |
| 9. | L x 3 | 17531.66 sq. yds. | M/s Silva Industries Ltd. |

Statement showing the details of allotment of Industrial plots after 30.6.1967.

- | | | | |
|----|-------|--------------|-------------------------------|
| 1. | H x 1 | 19.512 Acres | M/s Al-Ata Textile Mills Ltd. |
| 2. | H x 2 | 19.512 " | M/s Globe Textile Mills Ltd. |

APPENDIX 'B'

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF THE ALLOTTEES
ALONG WITH THE NUMBER AND AREA OF THE
PLOTS IN LANDHI - TOWNSHIP.

S. No.	Name of the allottee	Plot & Sector Number.	Area Sq. Yds.	Date of Allotment.
(PLOTS OF 10,000 SQ. YDS. & ABOVE)				
1	M/s. Sikka Bidi Industries.	1	1,000	3-7-57
2	M/s. Ashraf Textile and Printing Factory.	2	1,000	2-10-56
3	M/s. Maulai Drugs & Chemicals.	3	1,000	5-6-57
4	M/s. Bukhari Palace.	4,5 & 6	3,453	26-11-56
(PLOTS OF 600 SQ. YARDS)				
5	M/s. Jupiter Textile Mills.	1	600	13-5-64
6	M/s. Best Thread & General Works	2	600	10-1-57
7	M/s. Best Thread & General Works.	3	600	10-1-57
8	M/s. Ghulam Nabi Lone.	4	600	15-3-66
9	M/s. Ali Mohd Abdul Aziz.	5	600	3-9-56
10	M/s. M.N. Hasan & Sons.	6	600	5-2-57
11	M/s. M.N. Hasan & Sons.	7	600	5-2-57
12	M/s. General Import & Export.	8	600	2-5-58
13	M/s. General Import & Export.	9	600	2-5-58
14	M/s. Palmira Products.	1	400	14-12-57
15	M/s. Palmira Products.	2	400	14-12-57
16	M/s. Palmira Products.	3	400	14-12-57

17	M/s. Palmira Products.	4	400	14-12-57
18	M/s. Bashir Ahmad Handloom Works.	5	400	8-5-61
19	M/s. Gold Filled Leather Works.	6	400	11-8-58
20	M/s. Malbar Bidi Factory.	7	400	
21	M/s. Mohd Ishaque Premier Wire Agency.	8	400	
22	M/s. Noor Industry.	9	400	28-5-56
23	M/s. Oriental Carpet Industry.	10	400	31-12-57
24	M/s. Oriental Carpet Industry.	11	400	31-12-57
25	M/s. Oriental Carpet Industry.	12	400	31-12-57
26	M/s. Haji Brothers.	13	400	31-12-57
27	M/s. Haji Brothers.	14	400	31-12-57
28	Master Mohd Shafi.	15	400	8-5-61

(PLOTS OF 200 SQ. YARDS)

29	M/s. Palmira Products.	1	200	14-12-57
30	M/s. Palmira Products.	2	200	14-12-57
31	M/s. Usman Ghani.	3	200	8-5-61
32	M/s. Ghani Western Industry.	5	200	26-11-58
33	M/s. Ghani Western Industry.	6	200	26-11-58
34	M/s. Ghani Western Industry.	7	200	26-11-58
35	M/s. Ghani Western Industry.	8	200	26-11-58
36	M/s. Ghani Western Industry.	9	209	26-11-68
37	M/s Karachi Silk & Cotton Factory.	10	200	3-7-60
38	M/s. Karachi Silk & Cotton Factory.	11	200	3-3-60

APPENDIX

1255

39	M/s. Karachi Silk & Cotton Factory.	12	200	3-3-60
40	M/s. Capital Confectionary Works.	13	200	13-11-57
41	M/s. Matiur Rehman.	14	200	10-10-66
42	Mr. Abdul Qadir.	15	200	3-10-66
43	M/s. Pak Calico Dying & Printing Works.	17	200	15-6-60
44	M/s. Pak Calico Dying & Printing Works.	18	200	15-6-60
45	Mr. Abdul Rahim & Brothers.	19	200	14-6-60
46	Mr. Abdul Rahim & Brothers.	20	200	14-6-60
47	Mr. Ata Mohd.	21	200	30-9-66
48	Mr. Ata Mohd.	22	200	30-9-66
49	M/s. Cottage Industries.	23	200	13-9-61
50	M/s. Rukkiya Hosiery Works	24	200	26-5-58
51	Mr. Samiullah Khan.	25	200	
52	Haji Niaz Ahmed.	27	200	8-5-61

APPENDIX III

(Ref : Starred Question No. 10305)

Name of the District.	No. and nature of functions held in 1966	No. and name of Chairmen who participated in 1966	No. and nature of functions held in 1967	No. and name of Chairmen who participated in 1967.
Tharparkar.	One. BD Convention on the occasion of Revolution Day.	No registration was made, the exact number of participants of Convention is not known.	One. BD Convention on the occasion of Revolution Day.	105 (list at Annexure "A").
Sukkur	One BD Convention.	The register of the participants for the year 1966 is not forthcoming.	One BD Convention.	Five. 1. Mr. Jan Mohd, Chairman, Union Committee No. 10 Sukkur City. 2. Mr. Abdul Majeed Khan, Chairman, Union Committee Latifabad, Shikarpur.

3. Jam Ahmed Yar Khan,
Chairman, Town Committee
Daharki.

4. Mr. Mohd Siddique Khan,
Chairman, Town Committee
Pano-Akil.

5. Mr. Ramdev, Chairman,
Town Committee, Ghotki.

No register was maintained
but almost all the Chairmen of
Town Committee/Union Com-
mittees participated.

Three.
(1) Divisional BD
Convention.
(2) Divisional BD
Urban Seminar.
(3) Divisional BD
Kural Seminars.

—

Nil

Karachi.

Names were not registered.

BD Convention.

Names were not
registered.

BD Convention

Dadu.

**LIST OF BASIC DEMOCRATS WHO ATTENDED THE BD
CONVENTIONS 1967.**

Mirpurkhas Town.

1.	Haji Muhammad Hayat,	Union	Committee	No. 4
2.	Mr. Sultan Ansari	"	"	4
3.	Mr. Abdul Samad Khan	"	"	4
4.	Ch. Rafique Ahmed	"	"	5
5.	Mr. Badi	"	"	5
6.	Haji Mohiuddin.	"	"	6
7.	Mr. Mohd Irfan.	"	"	6
8.	Mr. Noor Mohd.	"	"	6
9.	Mr. Mohd Ismail	"	"	1
10.	Mr. Dur Mohd	"	"	1
11.	Mr. Abdul Hamid Khan	"	"	1
12.	Mr. Wazir uddin.	"	"	2
13.	Mr. Shakoor Ali.	"	"	3
14.	Mr. Abdul Sattar	"	"	7
15.	Mr. Mohd Rafique	"	"	7
16.	Mr. Shakir Ali	"	"	7
17.	Mr. Abdul Salam Mujahid	"	"	7
18.	Mr. Sattar Bhai	"	"	7
19.	Mr. Pirji Abdul Latif	"	"	7
20.	Mr. Naseer Ali Abbasi Vice-Chairman,	Municipal Committee, Mirpurkhas.		

Taluka Mirpurkhas.

1.	Mr. Kabir	Union	Council	Mirpur old.
----	-----------	-------	---------	-------------

2.	Mr. Muhammad.	Daulatpur
3.	Haji Munnu
4.	Mohd Alam
5.	Mohd s/o Ahmed.
6.	Mr. Nizam uddin	Jhuluri
7.	Mohd Khan
8.	Haji Umed Ali	Balochabad
9.	Mr. Ghulam Rasool Junejo
10.	Mr. Mohd Yousuf.	Khiraho
11.	Mr. Ramzan
12.	Mr. Ashiq Ali	Mirwah
13.	Mr. Bashir Ahmad.
14.	Ali Haider	Khan.
15	Ghulam Mustafa

Taluka Jamesabad.

1.	Mr. Chhu to Khan	Jawariasar
2.	Rais Abdulllah Khan
3.	Khair Mohd
4.	Mohd Yousuf
5.	Wali Mohd
6.	Molvi Fazal
7.	Mohd Ramzan
8.	Rais Khair Mohd Bhurgari.	Bhurgri
9.	Mr. Mubarak
10.	Mr. Nawab Khan

11.	Mr. Abdul Rashid.	Khudadad
12.	Ch. Mohd Sharif
13.	Ch. Mohd Shafi
14.	Ch. Noor Ahmed
15.	Mor Mohd Suleman	Dengan
16.	Wadero Murid

Taluka Umerkot.

1. Chairman, Town Committee, Kunri.
2. Member, Town Committee, Kunri.
3. Chairman, Union Council, Talhi.
4. Mr. Inayat, Member, Union Council, Talhi.
5. Mr. Anwar Aijaz, UC Nabisar.
6. Mr. Ghulam Ahmed.

Taluka Digri.

1. Zahoor Khan Naukot.
2. Abdul Aziz Naukot.
3. Budho Khan, Naukot.
4. Azam Ali Khan D.C.
5. Nazer Ali Gaberlo.
6. Sechedino Gaberlo.
7. Rahim Khan Gaberlo.
8. Mohd Afzal Sofan Shah.
9. Mir Fateh Mohd Soofan Shah.
10. Salim Khan, Soofan Shah.
11. H. Abdul Aziz, Soofan Shah.
12. Umer Din, Soofan Shah.

13. Mohd Asbraf.	Mir Khudabux.
14. Mohd Salim	—do—
15. Abdullah Khan	—do—
16. Ghulam Hussain	—do—
17. Hashmat Ali	—do—
18. Mir Shah Mohd	—do—
19. Haji Jan Mohd	—do—
20. Mumtaz Ali	—do—
21. Mohd Hussain	—do—
22. Mohd Hayat Khan Digri	Town Committee.
23. Niaz Mohd	—do—
24. Mohd Ibrabim	—do—
25. Khan Muhammad	—do—
26. Amir Bux	Union Council Ahori.
27. Abdul Majid	—do—
28. Ali Bux	—do—
29. Ghulam Mohd	—do—
30. Haji Mohd Khan	—do—
31. Moleno	Union Council Gaberlo
32. Bacho Khan	—do—
Taluka Mithi.	
1. Mr. Ahmed Khan	Union Council, Islamkot.
2. Mr. Chain Singh.	Union Council, Mithrio Bhatti.
3. Mr. Naseeruddin Mehrano.	

4. Mr. Sabit Ali. Union Council, K. G. Shah.
5. Mr. Samo. —do—
6. Mr. Nihalchand. Union Council Islamkot.

Taluka Chachro.

1. Mohammad Tahir, Chairman, Parno.
2. Mohd Umer, Member, Parno.
3. Sadher Singh, Kantio.
4. Jan Muhammad, Gadro.
5. Sardar Khan Khensar.

Nagarparkar Taluka.

1. Ahmad Maher, Union Council, Virawah.
2. Sukko Khan, U.C. Virawah.
3. Abban Shah, U.C. Tiggusar.
4. Allahbachyo, Nagarparkar.

Taluka Diplo.

1. Ahmad Muhammad Qazi, Chairman, U.C. Diplo.

APPENDIX 'C'

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF ALLOTTEES
ALONG WITH THE NUMBER AND AREA OF THE
PLOTS IN KORANGI TOWNSHIP.

S. No.	Name of the allottee	Plot No.	Area in Sq. Yds.	Date of allotment.
1	2	3	4	5
SECTOR : 15				
1	Mr. Muzaffarali.	1,2,31,32 & 33	46,667	24-4-65
2	M/s. Ahmed Enterprises.	9	8,250	13-2-67
3	M/s. National Enterprises.	10	10,000	16-11-65
4	Mr. Fasihuddin.	11 & 12	20,000	4-7-66
5	M/s. Plastice.	13 & 14	20,000	29-6-65
6	Begum Nasim Shafi.	15	10,000	7-7-66
7	M/s. Bawa Jute Mills.	17 to 22	60,000	12-10-65
8	M/s. Farooqui Flour & General Mills.	25	10,000	26-2-66
9	M/s. Grasham & Cravan (Pak) Ltd.	27 & 28	20,000	13-6-66
10	M/s. Sultan Industries.	29, 30, 58 59 & 60.	56,667	29-4-65
11	Mr. Sh. Mohd Hussain.	35	8,889	„
12	M/s. Qamar Tiles Ltd.	38 & 39	16,000	5-5-65
13	M/s. Al-Ahram Builders Ltd.	40	8,889	2-9-66
14	M/s. Salateen Syndicate Ltd.	41 & 42	17,778	29-4-65

1	2	3	4	5
15	Mrs. Bilqis Bano Khalilullah.	43, 44 & 45	2,000	18-8-65
16	M/s. Raziki Ink Ltd.	46	8,000	8-7-66
17	M/s. Sinter & Turner (Pak) Ltd.	47 & 48	17,778	29-4-65
18	M/s. Modern Packages Ltd.	49 & 50	17,778	9-10-67
19	M/s. National Electric Industries.	52	8,889	30-7-66
20	M/s. Bengal Fibre Industries Ltd.	53 & 54	17,778	29-4-65
21	M/s. Ghempfar Pak) Ltd.	55 & 56	..	24-5-65
22	Haji Ismail Kasim Director Tyfon Ltd.	57	8,889	3-4-65

SECTOR : 16

23	Mr. Abdul M. Ismail (Gulgee).	1	10,000	24-6-65
24	M/s. Pakistan Steel Products.	3	..	5-6-65
25	M/s. Master Rubber & Tyre Co. Ltd.	4 & 22	18,889	18-11-64
26	M/s. Roeliet & Colman (Pakistan) Ltd.	5, 6, 23 & 24	37,778	2-1-65
27	M/s. Philips Electrical Industries of Pak. Ltd.	7, 8 & 9	29,000	4-3-68
28	M/s. Korangi Roller Flour Mills Ltd.	10 & 11	14,520	27-4-67

1	2	3	4	5
29	M/s. Associated Glass Industries through its Director Mr. Zaheeruddin Pathan.	12 & 13	19,000	26-11-65
30	M/s. Alam Limited.	15	10,000	19-7-66
31	M/s. E.M. Oil Mills & Industries Ltd.	16, 17, 18, 32, 33, 34, 35 & 36	74,444	28-12-64
32	Mr. R.A. Mohammadi.	19	8,889	23-10-64
33	M/s. Master Enterprise Ltd.	20 & 21	17,778	18-11-65
34	M/s. Pakistan Paper Industries Ltd.	26	8,889	11-7-67
35	M/s. Freezit.	27 & 28	17,778	30-9-64
36	M/s. Mercedes Electrical Appliances Co. Ltd.	29	8,889	2-2-64
37	M/s. Firdous Rubber Industries.	30 & 31	16,889	24-12-63
SECTOR : 19				
38	Mst. Bismillah Begum.	2	10,000	8-4-66
39	Mr. Ashfaq Ahmed S/o Aftab Ahmed.	3	10,000	20-11-66
40	M/s. Pyramid Industries.	4	„	1-4-66
41	Ms. Sardar Cold Storage.	5	„	30-11-65

1	2	3	4	5
42	Mr. Khalid Pervez, Managing Partner, Pervez Engg. Industries.	6	,,	16-8-66
43	M/s. Durvesh Trading Co.	7	,,	27-1-65
44	Mr. H.S.M. Ishaq, OBE.	8 & 9	20,000	23-4-65
45	M/s. Eastern Tiles Ltd.	10	10,000	10-12-64
46	M/s. Rehman Metal Industries.	11	,,	5-6-65
47	M/s. Adil Industries.	12 & 32	17,778	30-1-64
48	Haji E. Dossa & Sons.	13	10,000	11-12-62
49	M/s. Zelin Ltd.	14	,,	15-4-63
50	Mr. S.A. Raouf	15	,,	21-9-64
51	M/s. Singer Industries.	16, 17, 18 & 19	40,000	30-6-64
52	M/s. National Aviation Services Ltd.	20	10,000	1-7-65
53	M/s. National Textile Industries.	21	8,889	19-7-66
54	M/s. Farooqui & Co.	22	,,	12-8-66
55	M/s. SABCOS Industries.	23	,,	27-4-66
56	Mr. Moazzamali, Managing Director, PPA.	24	,,	6-11-65

1	2	3	4	5
57	Mr. M. Perwez Aslam.	25	„	3-8-65
58	Mr. M.A. Hashmi.	26	„	10-10-63
59	M/s. Laksons Industries.	27	„	22-10-63
60	Mr. B.A. Durrani.	28	8,889	19-2-64
61	Mr. A.D. Azhar.	29	8,000	5-3-64
62	Mr. Abdur Rehman.	31	„	18-7-63
63	Haji E. Dossa.	33	„	30-11-62
64	M/s. Zelin Ltd.	34	„	2-3-64
65	M/s. Continental Furnishing Co. Ltd.	35	„	18-9-61
66	M/s. Singer Industries.	36, 37, 38 & 39	35,556	13-3-61
67	M/s. SABCO Industries	40	8,889	4-12-64
SECTOR : 20				
68	M/s. Guest Keen & Nettlefolds in Pakistan Ltd.	1 & 16	37,778	4-9-61
69	M/s. Marble Industries.	2 & 17	38,720	13-6-63
70	M/s. Oil & Gas Dev. Corpn.	3, 4, 18 & 19	75,554	11-7-63 2-11-67
71	M/s. Pak Electric Fittings Manufacturer.	7, 8, 22 and 23	„	2-3-64

1	2	3	4	5
72	Mr. Ghulam Abbas Tapal.	9 & 24	37,778	25-11-63
73	Mr. Johnson Ltd.	10 & 25	33,193	27-3-65
74	M/s. Taj Glass Ltd.	11 & 26	37,778	13-1-64
75	M/s. Tobacco International.	12 & 27	37,777	22-10-63
76	M/s. Boots Pure Drug Co. (Pak) Limited.	13	20,000	25-6-65
77	M/s. Amalgamated Foods Ltd.	14	,,	13-3-65
78	M/s. Hussain Bhai Abdul Ali Bandukwala Ltd.	21	17,778	8-3-64
79	M/s. Boots Pure Drug Co. (Pak) Ltd.	28	,,	16-12-64
80	M/s. Star Fabrics Ltd.	29	,,	29-6-66
SECTOR : 21				
81	M/s. Congothene Chemical Industries Ltd.	2	37,752	4-9-65
82	M/s. Mohd Farooq Textile Ltd.	6 & 7	75,556	5-12-66
83	M/s. Mohammedali Rajabali & Sons.	13/B	24,272	11-7-67
SECTOR : 23				
84	M/s. Peck Frean (Pak) Ltd.	1, 2, 3 & 4	35,556	15-2-66

1	2	3	4	5
85	M/s. Mohammadali Industries.	5	8,889	18-5-67
86	M/s. R.B. Avari & Co.	6	..	29-7-66
87	M/s. Rex Industries.	7	7	7-12-66
88	M/s. Standard Industries.	8	8,000	25-6-65
89	M/s. Mohd Ayub.	9	..	17-11-65
90	M/s. Burma Trading.	10	..	17-7-65
91	M/s. Saifuddin & Brothers.	11	..	29-6-65
92	M/s. Imperial Rubber Industries.	12	8,889	24-6-65
93	Mr. Rafiq Ahmed.	13	8,889	30-11-65
94	M/s. Quadri Bros Foundry.	14	..	2-10-65
95	M/s. National Industries.	15	..	9-6-65
96	M/s. Islamuddin Shujaiddin.	16	8,000	5-7-65
97	Mr. A.A. Burni.	17	8,889	16-8-65
98	M/s. Eastern Packages.	18	..	1-5-65
99	M/s. Artven Laboratories.	20	..	3-8-65
100	Mr. Ghulam Rabbani Fiaz.	21	..	7-6-65
101	M/s. Star Construction.	22	8,000	9-7-65
102	M/s. Amirali Halai Inayetali Halai	23	8,889	6-4-65

1	2	3	4	5
103	M/s. SIAL Corporation.	24	„	16-7-65
104	M/s. Globe Chemical & Pharmaceutical.	25	„	20-8-65
105	Mirza Mazimali.	26	„	„
106	M/s. Engineering Enterprise.	27	„	22-7-65
107	M/s. Horological Industries of Pakistan Ltd.	28, 29 & 30	26,667	1-6-65
108	M/s. Metro Garments.	80 81	1112	29-11-65
109	M/s. Raqiyya Hosiery Works	82 & 83	„	20-10-65
110	M/s. Dilshad & Co.	84 & 85	„	8-10-65
111	Mr. Mohd Usman Khan.	86 & 87	„	3-11-65
112	M/s. Mohd Ayub & Co.	88 & 89	„	15-11-65
113	Mr. S. Jamldur Rehman.	90, 91	„	27-10-65
114	Mr. Mizbahuddin Khan.	92 & 93	„	12-11-65
115	M/s. Eastern Chemical Co.	100, 101	„	21-7-67
116	Mr. Razi Haider Naqvi.	102, 103	„	14-3-67
117	Mr. Hasan Ahmed Razi	104 & 105	1111	9-3-67
118	M/s. Super Overseas International Corporation.	106 & 107	„	11-7-66
119	M/s. Mujeeb Plastics.	108 & 109	„	9-7-66

1	2	3	4	5
120	M/s. Safe Printing Works.	110 & 111
121	M/s. Crown Electrical Industrial Corporation.	112 & 113	..	8-2-67
122	Mr. Syed Mohammadali	114 & 115	..	12-4-67
223	M/s. Kashmir International.	116 & 117	..	13-11-66
124	Mr. K.J. (Arrow Electric)	118 & 119	1112	13-2-67
125	Mr. Yousufali.	122 & 123	..	29-12-65
126	M/s. Star Footwear.	126 & 127	..	12-10-65
127	M/s. Tex Dyes & Chemicals.	128 & 129	1112	18-10-65
128	Qari Riyatullah Khan.	130 & 131	..	15-11-65
129	Mr. Mohd Yakoob.	134 & 135	..	29-10-65
130	Mr. Abdul Vakil Khan.	138 & 139
131	M/s. Pak. Chemical Agencies.	140 & 141
132	M/s. Atlas Rubber & Plastic Industries Ltd.	142 & 143	..	12-10-65
133	Mr. Humayun Mirza.	145	556	12-10-75
134	M/s. Efroz Chemical Industries.	146	2,778	7-12-66
135	Mr. Yousuf Ahmed Cheaalwala.	147	..	5-11-65
136	Mr. S. Rematullah.	148	..	12-11-65

1	2	3	4	5
137	Haji Din Mohammed.	149	..	16-10-65
138	M/s. Sirjee Steel Products.	150	..	29-10-65
139	M/s. Delhi Lace & Zari Mills (Partnership Firm) Through their Partner Haji A. Rehman.	152	..	30-9-65
140	M/s. Chaman Cloth Palace	153	..	6-11-65
141	M/s. Farrukh Silk Mills.	154	..	3-4-68
142	Mr. Mohd. Arif, Managing Partner, Taj Mahal Textiles.	155	..	10-11-65
143	Mr. Mohd. Younus, Managing Partner, Saraiya Weaving Mills.	156	..	20-1-67
144	Mr. Hatim Yousuf Ali.	157, 158	5556 5556	19-7-66
145	M/s. Alphace (Pak) Ltd.	161	2222	7-7-65
146	Mr. Mohd Baqir Qureshi.	162	..	7-4-65
147	Mr. Zaur Rehman, Managing Director, Zadam Mouldings Ltd.	163 & 164	..	23-12-65
148	M/s. Maxwell Plastic Industries Ltd.	165 & 166	..	29-10-65
149	M/s. Kazim Hosiery.	167 & 168	..	30-11-65
150	M/s. M. I. Ibrahim & Co.	170 & 171	..	28-10-65

1	2	3	4	5
151	M/s. Ghanisons.	172 & 173	„	29-12-65
152	M/s. Supreme Timber Corporation.	174 & 175	„	10-11-65
153	Mr. Muzaffer Hussain Shaikh.	177	2,222	5-6-65
154	Mr. Masood Mannan.	178	2,778	29-6-65
155	Mr. Mohd Iqbal.	179 & 180	5556	29-10-65
156	Mr. Rejabali, Prop : Alba Industries.	182 & 183	„	18-5-65
157	Mr. Abid Hussain.	189	2,222	17-8-65
158	M/s. Paul Corporation.	190 & 191	5,556	19-7-67
159	M/s. Gujrat Steel Production.	194 & 195	5556	3-4-67
160	Mr. S.M. Rafiq.	196	2778	4-7-67
161	Mr. Kh. Mohd Fazil.	197	„	5-4-68
162	M/s. Alisons Industries.	199	„	16-7-65
163	Mr. Salamatali Khan.	200	„	14-6-65
164	M/s. Sharifuzzeman & Co.	201	„	7-7-65
165	Mr. Saleh Mohd Abdul Karim.	202	„	14-6-65

1	2	3	4	5
166	M/s. Zulqernain Industries.	203	„	3-8-65
167	Mr. S.S. & Co.	204	„	12-11-66
168	Haji Abdul Aziz Zia.	205	„	3-8-65
169	M/s. Salah Bhai Abdul Hassan Tapal.	206	5556	12-10-65
170	M/s. Ahmed Tariq Ahmed Mokhtar.	207	„	15-11-65
171	M/s. East & West Trading Corpn.	208	„	10-1-65
172	M/s. Sh : Mohd Jamit & Sons.	209	„	11-7-65
173	M/s. Rajabali & Co.	210	„	8-10-65
174	M/s. Abdul Hussain Noorbhoy Partner M/s. N. Hassanali.	212	„	30-11-65
175	M/s. General Ceramics Industries.	213	5,000	26-3-65
176	Mr. Mohd Salim.	214	„	7-10-65
177	Khalifa Arif Hakim.	215	5,556	11-3-65
178	Mr. Sadruddin A. Metalwala.	216	„	15-11-65
179	Mr. Sultan Ahmed Siddiqui.	217	„	17-3-65
180	Mr. Akberali Alibhai.	218	„	11-7-66
181	M/s. Salim Industries.	219	„	16-10-65

1	2	3	4	5
182	M/s. Insulite Pak Ltd.	220	„	30-10-65
183	M/s. Shahdin Khurshid Partners.	221	„	24-3-65
184	Mr. Mazherali Zoebali.	222	„	30-11-65
185	Mr. Mohammed Ahmed.	223	„	26-2-65
186	Mr. Abdul Ghani Musavvir.	224	„	17-8-65
187	M/s. Amir Ali Yousuf Ali.	225	„	19-7-66
188	Mr. Mushtaq Ali Khan.	226	„	10-4-67
189	M/s. Fancy Textile Industries.	227	5,000	27-7-65
190	M/s. Rashid Hosiery Mills (Prop: Haji Ahmed Haji Ismail & Co.).	228	5,556	26-2-65
191	Mr. Ahmed Mokhtar.	229	„	23-2-65
192	Mr. Abdul Rehman.	230	„	14-6-63
193	Haji Tar Mohd Haji Karim.	231	„	10-3-65
194	Haji Ahmed Haji Karim & Family.	232	„	10-3-65
195	M/s. Haji Kassim Haji Karim & Family.	233	5556	10-3-65
196	M/s. Abdullah & Sons.	235	„	23-2-65

SECTOR : 24

197	M/s. Seven Up Pak. Ltd.	1	6,667	18-7-66
-----	-------------------------	---	-------	---------

1	2	3	4	5
198	Haji Abdul Aziz.	2	„	25-9-64
199	Mr. Iqbal Abdul Ghaffar.	3	„	23-2-65
200	Malik Mohd Ismail.	4	„	23-10-64
201	M/s. Paramount Hosiery Mills.	5	„	17-11-64
202	M/s. American Refgerator Co.	6	„	19-11-64
203	Mr. Manzoor Hassan.	8	5067	1-12-66
204	M/s. Rotaprint Agency.	9	„	1-12-66
205	M/s. The Premier Commercial Corporation.	10	„	23-1-67
206	M/s. Shamim Akhter Industries.	10/A	„	12-11-66
207	M/s. Osman Brothers.	11	6,667	4-3-65
208	M/s. Mistry Abdul Rehman & Co.	12	„	„
209	M/s. Pakistan Industrial & Commercial Co.	13	„	12-7-66
210	M/s. Lakhani Silk & Cotton Mills.	14	„	15-3-64
211	—do—	15	„	7-6-65

APPENDIX

1277

1	2	3	4	5
212	M/s. Kamran Engineering Industries.	16	„	8-12-66
213	M/s. Nisarsons.	17	„	22-6-65
214	M/s. Karachi Towels Ltd.	18	„	11-12-64
215	Mr. Hassan Nawaz.	19	2,222	27-7-65
216	Mr. Mohammad Ali Prop : Rajus Textile.	20	„	30-11-65
217	M/s. Malik Textile Industries.	21	„	11-4-66
218	Haji Osman Taiyeb.	23	„	5-6-65
219	M/s. Hassanali Saw Mills.	24	„	26-2-65
220	Mr. Shaikh Abdul Naim.	25	„	17-3-65
221	Mr. Abbas Hassan-ali.	26	„	11-7-64
222	Mr. Sattar Baig Meerza.	27	„	20-2-65
223	Mr. Azizur Rehman.	28	„	30-7-66
224	M/s. Zakai & Co.	29	„	12-4-67
225	M/s. Hafizullah & Co.	30	„	17-3-67
226	M/s. Kashmir House.	31	„	12-7-66

1	2	3	4	5
227	M/s. Iqbal Engg : Corporation.	32	„	8-10-65
228	M/s. Abdul Aziz Haji Suleman.	34	„	16-3-64
229	Mr. Abdul Aziz.	35	„	„
230	Mr. A.F. Abdul Rehman.	36	1333	25-3-65
231	M/s. Chevelson Industrial Enterprise, Prop : Salim Ahmed.	37	2222	29-6-65
232	Mr. Dost Mohd Vohra.	38	„	27-7-65
233	M/s. Arsons Printers.	39	„	14-6-65
234	M/s. Central Rubber Industries.	41	„	18-3-65
235	M/s. Indus Basin Co.	43	„	10-4-67
236	M/s. M. Yousuf, Prop : United Footwear.	44	„	23-9-64
237	Mr. Mohammad Yousuf s/o Mohd Sabir.	45	„	23-9-64
238	Mr. Shaikh Nazir Hussain.	46	„	23-9-64
239	Mr. Rahmatullah s/o Haji Abdullah Khan.	47 & 48	4444	3-10-64
240	M/s. Ahmed (Pak) Corporation.	50	2222	28-7-66
241	Mr. Syed Abdul Wadood.	51	„	13-7-66

1	2	3	4	5
242	M/s. International Hosiery Industries.	52	..	18-6-64
243	Mr. Laiq Ahmed.	54	..	23-7-64
244	Mr. Mohd Abdul Qaiyum.	55	1111	1-6-65
245	Mulla Mohd Hassanali.	56	..	11-7-64
246	Mr. Shamim Ahmad Khan Afghani.	57	..	12-3-64
247	Mr. Zahoor Ahmed.	58	..	13-7-64
248	M/s. General Rubber & Plastic Industries.	59	..	29-7-66
249	Mr. Ismail s/o Umer.	60	..	17-6-64
250	Mr. Moosa s/o Abdullah.	61	..	17-6-64
251	Mr. Ibrahim s/o Ismail.	62	..	17-6-64
252	Mr. Haroon s/o Abdullah.	63	..	13-3-64
253	Mr. Kamruddin s/o Badruddin.	64	..	7-6-65
254	Mr. Abdul Raouf s/o Usman.	65	..	3-8-65
255	Mr. Mohd Mobin.	66	..	30-7-64
256	Mr. Mohd Hussain Kokhar	67	..	4-3-65
257	M/s. Steel Equipments Ltd.	68	..	9-10-64
258	Mr. Mohd Ali (Reza Chemical Works).	69	..	17-6-64

1	2	3	4	5
259	M/s. Salahuddin Brothers.	70	„	9-3-65
260	M/s. Haji Hashim Ali Mohd & Co.	71	„	30-6-64
261	M/s. Pak. Trading Co. (Prop : Mst. Fatima Bai).	73	„	7-6-65
262	M/s. Khan & Sons.	74	„	30-7-66
263	Mr. S.N. Kadri.	75	1111	13-7-64
264	Mr. Mohd Jamil Allawala.	76	„	3-9-64
265	Mr. Mohd Usman Ranginwala.	77	„	17-6-64
266	Mr. Mohd Hussain „	78	„	17-6-64
267	Mr. Badruddin Quadri.	79	„	30-7-64
268	Mr. Abdul Wahab.	80	„	17-8-65
269	Mr. Sh. Mohd Sultan.	81	„	6-2-64
270	Mr. Zaferul Hassan.	82	„	9-3-65
271	Mr. Noor Ellahi.	83	„	9-3-65
272	Mr. Abdul Rehim Agerwal.	84	„	3-7-65
273	Mr Abdul Sattar Abdul Latif.	85	„	7-6-65
274	Haji Usman Haji Adam & Co.	86 & 87	2222	30-7-64

1	2	3	4	5
275	Haji Usman s/o Moosa.	88	1111	17-6-64
276	Haji Adam Haji Abdul Karim.	89	„	7-6-64
277	Mr. Abdul Ghaffar.	90	„	30-6-64
278	Mr. Qasimali, Prop : Iqbal Bros Iron & Steel.	91	556	8-8-66
279	M/. Arastoo Chemical & General Industries.	92	556	13-12-67
280	Mr. A. Razzak A, Ranginwala.	93 & 94	1112	18-11-64
281	Mr. Malang Khan.	95	5556	17-6-64
282	Mr. Abdul Latif Khan.	96	„	16-3-64
283	Mr. Babu Ahmed, Prop : Granding Mill.	97	„	18-11-64
284	M/s. Windsor & Co.	98	„	29-6-65
285	Mr. Mohd Aslam.	99	„	25-10-64
286	Miss Mahmuda Khanum.	100	„	17-6-64
287	M/s. Anwer Optics.	101	„	25-7-66
288	M/s. Himaliya Engg. Works.	102 & 103	1112	18-11-64
289	Mr. Niazaddin.	104 & 105	„	23-10-65

1	2	3	4	5
290	M/s. S. Allahnoor Taj Mohd & Co.	106 & 107	„	28-9-64
291	Mr. Sh : Abdul Matin.	108	556	28-9-64
292	Mr. Abdul Haq.	111	„	23-10-64
293	Mr. Syed Vilayetali.	112	„	16-7-65
294	M/s. Iqbal Glass Industry.	113	„	7-6-65
295	Mr. Mohd Ayub.	114	„	27-7-65
296	Mr. Abdul Razzak.	115 & 116	1112	28-9-64
297	Mr. Mohd Yasin.	117	556	25-6-65
298	—do—	118	„	„
299	Mr. Ajmeri Bhai.	119/24	556	16-7-65
300	Mr. Zor Awer Khan.	120	„	14-6-65
301	Mr. Fazalali Prop : Efkey Industries.	121	„	14-6-65
302	Mr. Abdul Jabbar.	122	„	3-8-65
303	Mr. A. Rashid Azim.	123	„	9-6-65
304	Mr. Arif Hussain.	124	„	9-6-65

1	2	3	4	5
305	Mr. Iqbal Ahmed Prop: Lucky Industries	126	„	16-7-65
306	M/s. A.R. Khan & Co.	127	„	3-7-65
307	M/s. Mohd Yasin & Sons.	128	„	7-6-65
308	Mr. Asgherali.	129	„	3-8-65
309	M/s. Rockfield Traders.	130	„	16-7-65
310	M/s. I.K. Traders.	131	„	16-7-65
311	M/s. Diamond Book Binding.	132	„	25-6-65
312	Mrs. Framrose P. Appoo.	133 & 134	1112	29-6-65
313	Haji Hashim H. M. Adenwala.	135 & 136	„	29 6 65
314	Mr. Gulzar Hussain.	137 & 138	„	3-8-65
315	Mr. Haroon s/o Yousuf.	139 & 140	„	27-6-65
316	Mr. Abdul Rahim.	145	556	16-3-64
317	M/s. Zobair Readymade Garments.	146 & 147	1112	3-7-65
318	M/s. Meezy Brothers.	148 & 149	„	14-6-65

1	2	3	4	5
319	M/s. Zeenith Electric Wood Works.	150 & 151	,,	29-6-65
320	M/s. Karachi Band Saw & General Enterprise.	152 & 153	,,	3-7-65
321	Mr. Umer Wali Mohd.	155	556	25-3-65
322	Mrs. Aslam Sajida.	156	,,	23-10-64
323	Mr. Mohd Baqaullah.	157	,,	9-10-64
324	Mr. Mohd Ikhlas Bari.	158	,,	4-12-64
325	M/s. Rehaman Brothers.	159	,,	25-6-65
326	M/s. Soni Iron Works.	164	,,	25-4-65
327	Mr. Niaz Ahmed.	166	,,	18-11-64
328	Mr. Amir Ahmed.	167	,,	16-11-64
329	Mr. Allah Rakha.	168	,,	4-12-64
330	Mr. Mohd Hanif	169 & 170	1112	4-12-64
331	Mr. Abdul Shakoor Khan	171	556	4-12-64
332	Mr. Yousuf A. Toufiq.	172	,,	25-4-65
333	M/s. Mulla Hassanali Ali Bhai Lukdawala & Co.	173&174	1112	19-11-64

1	2	3	4	5
334	M/s. Mustafa Ibrahim Bros.	175	556	29-4-65
335	Mr. Usman Khar.	177&178	1112	19-11-64
336	Mr. Abba Umer Haji.	182&183	„	23-10-64
337	M/s. Ibrahim Haji Hashim & Sons.	184&185	„	12-11-64
338	M/s. Shamim Bros.	186	556	4-11-64
339	Mr. Mohammed Mahir.	188&189	1112	19-11-65
340	Mr. Jalil Khan.	190	556	29-4-65
341	M/s. Picktext Ltd.	213&214	1112	29-4-65
342	Mr. Abdul Qadir.	229&230	„	18-11-64
343	M/s. Fakhri Printing Press.	233	2500	23-2-65
344	Mr. Shafiq Berelvi.	234	2500	24-5-65
345	M/s. Delight Footwear (Export) Industries.	235	2500	26-2-65
346	Mr. S. Ataur Rehman, Prop : Atlas Plastic Industries.	236	1667	8-2-66
347	Haji Mohammad Yousaf.	237	2500	19-2-65
348	M/s. Lakhany Industrial Corpu.	239	2500	25-3-65
349	M/s. Anşari Printing Press.	241	2500	7-7-65

1	2	3	4	5
350	Mr. S. M. Anwer Sethi.	242&243	5000	28-10-64
351	Mr. Mohd Naqi Malik.	244&245	5000	5-10-64
352	M/s. Eastern Chemical Industries.	246&247	„	17-11-64
353	M/s. Ejaz Clothing Industries Ltd	249	2500	18-11-64
354	Mr. Khalil Ahmed Allawala.	250	„	4-12-64
355	M/s. H.Z. Ahmed & Sons.	251	„	23-10-64
356	Mr. Abdul Ghani Kafia, Partner Khybee Industrial Corpn.	252	„	3-12-64
357	Mr. Shaikh Abdul Aziz.	254&255	4200	29-7-64
358	Mr. Ali Reza s/o Sharif Husain.	256	2500	26-2-65
359	M/s. Zafer Printers.	257	„	9-11-64
SECTOR : 27.				
360	M/s. Moin Industries.	1	2,778	8-11-65
361	Mr. Hassanali Mohd. Javeri.	2	„	23-2-65
362	M/s. Siddiqui Brothers.	3	„	31-12-63
363	M/s. Farzana Farooqi.	4	„	3-3-64
364	Begum Brijis Fatima.	5	„	„

1	2	3	4	5
365	Mrs. Premier Silk Mills.	6	2,225	24-9-63
366	M/s. Barrywala Textile.	7	2,778	..
367	M/s. Barrywala Silk Mills.	8	..	4-1-64
368	M/s. Barrywala Industries.	9	..	26-9-63
369	Mr. Mohd. Rafi, Tahir Textile Mills.	10	..	7-3-64
370	M/s. Fresco Industries.	11&12	5,556	21-8-63
371	Haji Mohammad Shafi.	13	2,778	19-7-66
372	Al-Haj Mohammad Hussain.	14
373	Mr. Riazur Rahim.	15&16	5556	3-9-64
374	Mr. Mohammad Rahim.	17&18, 57&58.	11132	..
375	M/s. Islami Biscuit Factory.	19	2,778	3-3-64
376	Mr. Anwer Saghir.	20&21	5,556	12-1-65
377	M/s. Moqsons.	22	2,778	23-11-63
378	Mr. S.A.K. Dehlvi.	23	..	7-7-62
379	M/s. Shaheen Silk Palace.	24&25	5,556	15-5-63
380	M/s. Shahab Textile Printing Mills.	26,27 &28	8,333	18-2-63

1	2	3	4	5
381	M/s. Miswak Brush Work.	29	2,778	17-6-64
382	M's. Venus Textile (VENTEX).	30&31	5,556	26-12-64
383	M/s. National Ice Factory.	32	2,778	21-2-63
384	M/s. Modern Ice Cream.	33	2,222	21-12-63
385	Mr. M.H. Batla.	34&35	5,556	6-12-62
386	M/s. Decent Garments Ltd.	36	2,778	30-6-64
387	M/s. Abdullah & Sons.	37	..	23-4-62
388	M/s. Elphy Trading Corpn.	38&39	5,556	23-10-63
389	M/s. Rashid Brothers Cast Iron Foundry.	40	2,778	24-3-62
390	Mr. Mohd Zobair.	41&42	5,556	5-10-64
391	Mr. Mohammad Ahmed.	43	2,778	2-12-63
392	M/s. H.M. Ismail & Co.	44	..	20-12-63
393	M/s. H. Noorullah.	45	..	4-3-64
394	M/s. Ghulam Mohinuddin & Company.	46	2,225	18-2-64
395	M/s. Bhayani Saw Mills.	47	2,778	3-3-64

1	2	3	4	5
396	M/s. Royal Designers & Printers.	48	„	31-12-63
397	Mr. Saeed Ahmed.	49	„	2-12-63
398	M/s. Automotive Industries.	50	„	2-3-64
399	M/s. Fresco Industries.	51&52	5,556	17-12-63
400	Mr. Rahmatullah Budharbhai.	53	2778	21-12-63
401	M/s. Empire Industries.	54	„	3-3-64
402	Mr. S.M. Yousaf, Prop : United Footwear.	55	„	7-6-63
403	M/s. Pickers & Leather Industries.	56	„	2-3-64
404	Mr. Siddiq Shakoore Jaliawala.	59	„	30-6-64
405	Mr. Khan Mohammad Ahmed.	60	„	20-12-63
406	M/s. Paramount Oil & Chemical Company.	61&62	5556	6-7-63
407	Soofi Mohd. Ishaq Moghal, Prop : Pak. Bent Wood Industrial Works.	63	2778	9-7-66
408	Mr. Mukhtar Ahmed Farooqi.	64	„	17-9-64
409	M/s. Viqar Industries.	65	„	9-8-64

1	2	3	4	5
410	M/s. Shahab Silk Mills.	66,67&68	8334	5-3-64
411	M/s. Shirana Industries.	69,70&71	..	14-10-67
412	Mr. Haroon Rashid S/o Abdul Habib.	73	2222	30-6-64
413	M/s. Eagle Textile Ltd.	75	2778	21-12-63
414	M/s. Pak Carpet Factory.	76	..	22-6-62
415	M/s. International Cotton Waste Company.	77	..	13-5-65
416	—do—	78	..	23-4-62
417	Mr. Allah Rakha Sultan.	79	..	25-6-62
418	M/s. Bavo Laboratories.	80	..	30-6-64
419	M/s. New Way Metal Industries.	82	1667	29-7-66
420	Mr. Allah Ditta Minhas.	84	..	18-11-64
421	Mst. Rafat Jehan Begum.	85	..	13-7-64
422	Mr. Mohd. Yamin.	86	1333	9-6-65
423	M/s. Usmaini Dawakhana.	87	1667	12-10-65
424	M/s. Steel Decorators.	88&89	3333.33	29-4-65

1	2	3	4	5
425	M/s. Safe Glass Industries.	90&91	3334	7-4-65
426	Mr. Suleman Ahmed.	92	1667	26-12-63
427	Mr. Mohd. Aslam.	93	..	7-3-64
428	Mr. Mohd. Noor Mohammad.	95	..	5-10-64
429	M/s. Capital Trading Co.	96	..	18-11-64
430	Mr. Mohammed Aslam.	97	..	30-7-64
431	M/s. Sai & Company.	98	..	15-11-65
432	M/s. Kashmir Corner.	101	..	20-10-65
433	M/s. M. Sharif & Sons.	100	..	11-3-67
434	M/s. Shaikh Industries.	102	..	13-7-66
435	M/s. Sultan Soap Works.	104	..	4-1-64
436	Mr. Mohammad Ahmed.	105	..	23-10-64
437	M/s. Banaras Ribbon Works.	106	..	14-6-63
438	M/s. Anwar Industries.	107	..	28-12-63
439	M/s. D S. Factory.	108	..	4-9-62
440	M/s. Modern Wool House	109	..	21-10-66

1	2	3	4	5
441	M/s. Pak. Japan Metalware Manufacturing.	110	„	21-2-63
442	Sub: Maj. S. Bartar Hussain Naqvi.	111	„	25-7-66
443	Mr. Ibrahim.	113	1334	22-7-63
444	Mr. Mohammed Din.	114	1667	10-7-63
445	Mr. Abdul Qaiyyum.	115	„	11-5-63
446	Mr. Liaquat Gul Agha.	116&117	3334	13-5-63
447	M/s. Oriental Carpet Co.	118	1667	23-4-62
448	M/s. Iran Bokhara Carpet Industries.	119	„	23-11-63
449	M/s. Habib Handicrafts.	120	„	16-10-61
450	M/s. Regal Industries.	121	1111	2-3-64
451	Mr. Noor Mian.	122	„	31-5-63
452	M/s. Brigh Way Traders.	123	„	27-7-65
453	M/s. Produce Import & Export.	124	„	30-11-65
454	Master Zamir Ahmed.	125	„	-9-62
455	M/s. Modern Steel Psoducts.	126	1112	24-11-63

1	2	3	4	5
456	M/s. Al-Rushi Industries.	127	„	17-4-63
457	M/s. M.A. Hakim.	128	„	14-6-63
458	Mr. Matloob Hasan Zaidi.	129	889	28-6-63
459	M/s. Pak. Allied Corpn.	131	1112	5-10-63
460	Mr. Syed Dawood Mir.	132	1111	7-6-65
461	Mr. Nawabali.	133	„	27-6-65
462	M/s. Decent Paint & Varnish Works.	134	1112	23-10-67
463	Mr. S Manzoor Ahmed Wasti.	136	„	16-3-64
464	Mr. Noor Ahmed Haji Habib.	137	„	17-6-64
465	Mst Nergis Begum.	138	„	8-12-63
466	Mst. Feroza Khatoon.	139	„	—do—
467	Mr. Jameel Ahmed.	140	1112	31-8-63
468	Mr. Mohd Khawaja Hussain.	141	„	16-3-64
469	Mr. Mohd Tahir.	142	888	5-3-64
470	Mr. Ahmed Din.	143	1112	16-8-63
471	Mr. Hussain Ahmed.	144	„	28-6-63

1	2	3	4	5
472	Mr. S. Ahmed Din & Co.	145	..	8-8-63
473	Mr. Mohammad Yousuf.	146	..	3-8-63
474	M/s. Mohd. Ishaq & Sons.	147	..	31-8-63
475	Mr. Basbiruddin.	148	..	14-1-64
476	M/s. Haksons.	149	..	28-6-63
477	Haji Rashid Ahmed.	150
478	Mr. Mehboobali.	152	..	3-9-63
479	Mr. Mohd. Sabir.	153	..	25-10-63
480	M/s. Merghub Trading Co.	155	..	15-10-62
481	Mr. Mohammed Ahmed.	156	..	2-8-63
482	Mr. Sultan Feroze.	157
483	Mr. Y. J. Rebman.	159	..	9-6-64
484	Mr. Noor Mohd. Suleman.	162&163	..	3-9-63
485	Mr. Kasim Jan Mohd.	164&165	..	13-7-64
486	Mr. Abdul Karim.	166	556	31-5-63
487	Mr. Mohdali P. Premani.	167

1	2	3	4	5
488	Mr. Ameer Shah.	168	„	16-5-63
489	Mr. Hafiz Babauddin	169	„	24-11-66
490	Dawakhana Usmani, Prop : Hakim S.A. Usmani.	170	„	25-7-66
491	Dara Bomanji Gotla.	171&172	1112	13-7-64
492	Mr. Mohd. Said.	175&176	„	15-10-63
493	Mr. Noorali Haiderali.	177	556	14-6-63
494	Shaikh Khajoo Bhai.	178	„	19-3-64
495	Mr. Dawood S/o Haji Kasim.	179	„	30-7-64
496	Haji Ishtiaq Ahmed.	180	„	27-11-62
497	Mr. Irshadali.	181	„	8-10-65
498	Mr. Qiamuddin.	182	„	3-7-63
499	Mr. Abdul Rehman.	183	„	10-6-66
500	Mr. Abdul Ghafoor.	184	„	3-9-64
501	M/s. Mian Ahmed Essa & Brothers.	185&186	1112	30-1-63
502	Mr. Payarali. D. Lakhani.	187	556	2-3-64
503	M/s. Umer Aboobaker & Sons.	188	„	31-10-63

1	2	3	4	5
504	Mr. Abdul Ali Budharbhai.	189	556	11-11-63
505	Mr. Mohd Zobair.	190	..	19-3-64
506	Mr. Abdul Aziz.	191&192	1112	15-10-63
507	M/s. General Manufacturing Concern.	193	556	27-1-65
508	Mr. Saifur Rehman.	194	..	18-1-63
509	M/s. Bolan Electric Co.	195	..	7-3-64
510	M/s. Mumtaz Ahmed & Co.	196	..	14-6-63
511	Mr. Rustom S/o Jehangir Mehta.	197&198	1112	13-7-64
512	Mr. Nazeer Ahmed.	199	556	8-7-63
513	Mr. Abdul Majeed.	200&201	1112	20-11-62
514	M/s. Abida Khatoon.	202	556	15-10-63
515	Mr. Q. Maqsoodul Haq.	203	..	7-12-62
516	Mr. Mohd Sharif.	204	..	13-5-63
517	Mr. Zor Awer Khan.	204	353	19-6-64
518	Mr. Mohd Haroon.	206	556	19-1-63

1	2	3	4	5
519	Mr. Ghulam Hussain.	207	556	22-10-63
520	M/s. Rashid Timber Mart.	208	„	11-3-63
521	Mr. Mukhtar Ahmed.	209	„	11-11-65
522	Mr. Mahmood Ahmed Siddiqi.	210	„	15-10-63
523	Mr. Mohammad Hanif.	211	„	11-3-63
524	Mr. Ibrahim Ali Mohd.	212	„	31-1-63
525	M/s. S.M. Rafi Haseen Fatima.	214	„	28-11-62
526	Mr. Mohd Zahid.	215	„	27-8-62
527	Mr. Mohd Islam Khan.	216	„	25-10-62
528	Mr. Iqbal Hussain Siddiqi.	217	„	25-9-62
529	M/s. Hasanali Nazerali Bhayani.	218	„	31-8-64
530	Haji Mohammad Yamin.	219	„	7-8-62
531	M/s. Peoples Furniture.	220	„	17-9-64
532	Mr. Shaikh Ghulam Nabi.	221	„	19-10-65
533	Mr. S. Mokhtar Ahmed, Prop : Mumtaz Ali & Sons.	222	„	12-10-65
534	Mr. Nazakat Hussain Jafri.	223	„	19-11-63

1	2	3	4	5
535	Mr. Abdul Latif Khan.	224&272	1112	30-6-64
536	Mr. M.A. Jabbar, Prop : Popular Trading Corpn.	225	556	15-4-67
537	M/s. A.H. Engineering Co.	226	„	29-10-65
538	Mr. Malik Mohammed Akber.	227	„	25-10-65
539	— do —	228	„	
540	M/s. Rizvi Garments	229	„	15-11-65
541	Mr. Mohd Tufail	230	„	29-10-65
542	M/s. Zaki Textile	232	„	7-3-64
543	M/s. Rashi Cotton Mills	233	„	5-3-64
544	M/s. Balkhi Cotton Mills.	234	„	7-3-74
545	M/s. Muneer Cotton Mills	235	„	7-3-64
546	M/s. Sabina Cotton Mills	236	„	5-3-64
547	Mr. Mohammad Ahmed, (Mohammadi Cotton Mills)	237	„	5-3-64
548	M/s. Fouzi Cotton Mills	238	„	5-3-64
549	M/s. Danyal Cotton Mills	239	„	5-3-64
550	M/s. Naseer Cotton Mills	240	„	5-3-64

1	2	3	4	5
551	Mr Sh: Abdul Latif	241	"	19-12-63
552	Mrs. Badrun Nisa	242	"	20-12-63
553	Mr. Abu Baker	243	"	30-11-65
554	Mr. Mohammed Naqi	244&292	1112	3-12-63
555	Col. Habibullah	245&293	"	21-12-63
556	Mr. Shaikh Nazeer Ahmed	246&294	"	30-11-63
557	Mr. Mohammad Rafi	247&295	"	22-11-63
558	Haji Misri Khan	248&296	"	25-11-63
559	Mrs. Rafiq Nisa Begum	246&297	"	2-3-64
560	Mr. Arifali	250	556	16-3-64
561	Mr. Mohd Yasin Khan	251&299	1112	10-1-64
562	M/s. National Flour & Oil Industries.	252&253	"	15-10-63
563	M/s. Manzoor Industries	254	556	15-11-65
564	M/s. Standard Industries.	255	"	3-8-66
565	M/s. Rizwan Steel Decoration.	257	"	1-11-65
566	Mr. Mohammad Amir	259&260	1112	20-12-63

1	2	3	4	5
567	Mst. Inayet Bi	261	556	29-10-65
568	Mr. Saifur Rehman	262	"	9-11-65
569	Mr. Muzafferuddin	263	"	15-10-63
570	M/s. Sabri Industries.	264	"	23-10-65
571	M/s. Celluko Industries	265&266	1112	12-9-63
572	M/s. Cello Sports	267	556	15-7-63
573	Mr. Shaikh Allah Bux	268	"	31-7-63
574	M/s. Ali Hasan Handloom	269	"	28-10-63
575	M/s. Capital Motor Garrage	270	"	16-2-66
576	M/s. Faraghi Engg. Co.	271	"	8-2-66
577	M/s. Yousuf Brothers.	273	556	6-11-65
578	M/s. Rifco Furnishers	273	"	23-10-65
579	Mr. Muhammad Zaki	277&278	1112	27-11-63
580	M/s. Noor Mohammed Industries.	279	556	30-11-65
581	Mr. Ismail	280&281	1112	30-7-64
582	Mrs. Dilshad Showkat Rafji	282&283	"	16-3-64
583	M/s M. A. Haji Moosa	284&285	"	24-5-65
584	Mr. Madar Bux	286	556	30-12-65

1	2	3	4	5
585	M/s. Sabir Trading Co.	287	"	8-10-65
586	Mr. Zamiruddin	288&289	1112	18-12-63
587	Mst. Sughra Jan	290&291	"	30-11-63
588	Mr. Abdul Ghani	298	556	13-3-64
589	Mr. Afrab Ahmed	300	"	16-7-64
590	Mr. S. Azherali	301&302	1112	19-12-63
591	M/s. O. K. Footwear Industries.	303&304	"	30-11-63
592	Mr. Younus Abdul Sattar	305	556	12-10-65
593	Mr. Shaikh Mohd Shafi	306&307	1112	22-11-63
594	Mrs. Zubaida Khatoon	308&309	"	17-6-64
595	Mrs. Gulzar Begum	310&311	"	30-11-63
596	Mr. Amir Mirza	312	556	12-10-65
597	Mst. Saleha Khatoon	313&314	1112	30-12-63
598	M. Abdul Hafiz Qureshi	315&316	"	10-6-63
Sector : 28				
599	M/s. Small Scale Industries. Corporation.	1,2,3,4 19,20,21, & 22	44,431.20	27-2-61
600	M/s. Illahi Industries.	5	5556	29-11-63
601	M/s. Noorsons Furnishing Co.	6,7&8	16112	28-2-64

1	2	3	4	5
602	Mr. Mohd Ayub Khan	9&10	11132	17-9-63
603	M/s. Mazher Salim & Co.	11	5556	16-7-63
604	M/s. Yesrab Textile Industries.	12	"	16-7-63
605	M/s. United Glass Industries.	16	"	18-2-65
606	Mr. Mushtaq Ali Khan	17	"	7-10-65
607	Mr. Asgheraii Pirbhoy	25	"	4-6-65
608	Haji Ishaq Abal Jusab	26	"	5-3-64
609	M/s. G. M. Riza Industries	27	"	2-12-63
610	M/s. Golden Pickers & Leather Industries.	28	5556	29.7.66
611	Mis. American French Polich Mfg. Co. Ltd.	29	„	13.3.64
612	M/s. Nazim Chemical Industries.	30	5000	5.3.64
613	M/s. Cycle Soap Factory	31	5556	29.12.63
614	Mr. Jamil Khan	32	„	17.3.64
615	Mr. Abrar Husain Naqvi.	33	„	„
616	M/s. Myco Footwear Industries.	34	„	10.7.64
617	Mr. Hakimuddin	35	„	4.3.64
618	Mrs. Khatoon M. Hayat	36	„	16.7.64
619	M/s. Qureshi Construction Co.	37 & 55	11,111	1.5.62
620	Mr. Mumtaz Ahmed.	38	5556	13.7.64

1	2	3	4	5
621	Mr. Mohd. Nasiruddin.	39	..	29.7.64
622	Mr. Mushtaq Ali.	40	..	17.3.65
623	M/s. Oriental Carpet Co.	41	..	11.7.66
624	M/s. Crescent Agencies.	42	4,000	2.3.68
625	M/s. Allied Fisheries Corporation.	43	5,556	18.6.64
626	Mr. Badrul Zeman.	44	..	19.6.64
627	M/s. Siddiqui Brothers.	45	..	31.12.63
628	M/s. Qadri Trading Corpn.	46
629	Mr. Syed Haiderali.	47	..	21.12.63
630	Mr. Ruknuddin.	48	5000	6.2.63
631	M/s. Shama Hosiery	49	5556	3.8.66
632	Mr. Hussain Kassimali.	50	..	11.3.65
633	Mrs. Hameed Jehan.	51	..	6.8.66
633	Mrs. Hameed Jehan	51	..	6.8.66
634	Mr. Akberali.	52	..	17.6.66
635	M/s. Bilal Carpet Industries.	53,54, 71 & 72	22,224	..
636	Mr. Abdul Ghafoor	56	5556	31.12.63
637	M/s. Eastern Arts.	57	..	4.2.63
638	Mr. Amir.	58	..	16.7.63

1	2	3	4	5
639	Mr. Mohammad Ishaq.	59	..	31 12.63
640	Mr. Mohammed Ali.	60	..	16 3.64
641	Mr. Abdul Rehman Siddiqi.	61	..	30.6.64
642	Mr. Mohammed Ibrahim	62	..	7.3.64
643	M/s. Globe Mfg. Company.	63	..	11.7.66
644	M/s. United Industries.	64	..	2.3.64
645	M/s. Khaliq Engineering Company.	65	5556	4.3.64
646	Mr. Shaikh Abdul Hanif.	66	..	7.3.64
647	Mr. S.M. Izharul Haq.	67	..	4 7.66
648	M/s. Moonlite (Pak) Ltd.	68 & 69	11,112	28.10.64
649	Brig. Mirza Hamid Hussain	70	5556	2.3.65
SECTOR : 29.				
650	M/s. S.A.M. Engineering Corpora- tion.	1	13334	29.7.66
651	Mr. Munfataji.	2	..	18.9.64
652	Dr. M.M. Siddiq Hassan	3	..	23 10.64
653	Mr. Yousuf Ahmed Dadabhoy	7, 8 & 9	25,334	13.12.64
	Managing Director, Dadabhoy Paper Mills Ltd.		13,334	1.6.65
654	M/s. East Pakistan Enterprise Ltd.	10	13,110	7.10.65

1	2	3	4	5
655	M/s. M. Mushtaq & Sone.	11	13,334	14.10.63
656	M/s. Plywood Crafts.	15	4840	14.7.67
657	M/s. Taj International	17	12223	18.2.65
658	Mr. Mohd Ali Ghazali. Director, Azam Instruments.	18	12222	23.10.64
659	Mr. M.M.G. Rabbani.	20	12223	30.11.65
660	M/s. Premier Industries	21	„	25.3.65
661	M/s. Banaras Saree House.	22	„	25.2.68
662	M/s. Oakistan Rubber Industries Limited.	23	„	22.3.68
663	M/s. General Tractors & Machinery Co. Ltd.	24 & 25	24444	4.3.65
664	Mr. Aziz Hassanali Bros.	26	13223	3.7.65
665	M/s. Atlas Limited.	27	12245	18.6.64
666	M/s. Bokhara Palace Ltd.	31	18100	23.10.64
667	M/s. National Refinery Ltd.	7/B	163 acres 7,89,333 square ards.	22.1.64

APPENDIX IV

(Ref : Starred Question No. 10313)

(a) DISTRICT PROJECT COMMITTEE FOR THE IMPLEMENTATION OF RURAL WORKS PROGRAMME IN HYDERABAD DIVISION.

Sr. No.	Name	Designation	Financial position	Political affiliation
1	2	3	4	5
Hyderabad Division				
1		Deputy Commissioner	—	—
2		Asstt : Director Basic Democracies	—	—
3		Asstt: Commissioner Tando.	—	—
4		Dy. Collector, Hala	—	—
5		Secretary, District Council	—	—
6		Engineer, District Council	—	—
7		Inspector of Schools Hyderabad Division.	—	—
8		District Health Officer Hyderabad.	—	—
9.	Mr. Imdad Ali Shah.	Chairman, Union Council Masu Bhurgri and member Distt : Council.	Sound	Muslim League.

10	Mr. Mir Muhammad Nizamani.	Chairman Council, Haji Sawan	Union	Do.	Do.
11	Mr. Nabi Bakhsh Khan Bhurgri	Chairman Council and member Divisional Council.	Union Kheer Dahi	Do.	Independent
12	Mr. Noor Hussain Talpur.	Chairman Committee	Town Tando Bago.	Do.	Jamait Islami
13	Mir Mumtaz Ali Khan Talpur.	Vice Chairman Council	Distt: Hyderabad.	Do.	Muslim League
14	Mr. Pir Fazal Haq Shab.	Chairman Committee	Town Saidabad.	Do.	Do.
15	Haji Ghulam Hussain Khokhar.	Chairman Council and member Divisional Council.	Union Khokhar	Do.	Do.
16	Haji Abdul Khaliq Soomro.	Chairman Council	Union Jinhan Soomro, and member Dist : Council.	Do.	Do.

Tharparkar District

1	Dy. Commissioner	—	—
2	S.D.M and Chairman Tehsil Council, Mirpurkhas.	—	—
3	S.D.M. and Chairman Tehsil Council Mithi	—	—

4 to 10	Mukhtiarkar of Jamesabad Digri Samaro, Umerkot, Chachro, Nagarparkar and Diplo.	—	—	
11	Executive Engineer, Public Health	—	—	
12	Health Officer, Mir- purkhas.	—	—	
13	District Inspector of Schools Tharparkar	—	—	
14	Executive Engineer Buildings and Roads	—	—	
15	Asstt : Director, Basic Democracies	—	—	
16	Mr. Ali Qatab Shah.	Member Council	Distt : Commissioner has intimated that it is difficult to as- ertain the financial posi- tion of the members.	Member Pakistan Muslim League Party.
17	Mr. Muhammad Hussain Arain	Member Council	Distt : Do.	Do.
18	Mr. Hotchand	Member Council	Distt : Do.	Do.
19	Mr. Khair Muhammad Bhurri.	Member Council	Distt : Do.	Do.

20	Qazi Ahmed Muhammad	Chairman Council Diplo and member Distt : Council	Union	Do.	Do.
21	Mr. Bashir Ahmed	Chairman Council Talhi and member Distt : Council.	Union	Do.	Do.
22	Mr. Muhammad Hessain Talpur.	Chairman Council Bustan and member Distt : Council	Union	Do.	Do.
23	Mr. Lachmans- ingh	Chairman Council, Chachro and Member Distt : Council.	Union	Do.	Do.
24	Mr Jan Muhammad.	Member Council Kehri.	Union	Do.	Do.
25	Mr. Mohammad Hashim.	Member Council	Union	Do.	Do.
26	Mr. Ahmed Khan	Member Council Ahuri.	Union	Do.	Do.
27	Mr. Allah Dad Bhambbro.	Member Council.	Union	Do.	Do.
28	Mr. Ghulam Hussain Mari.	Member Council Satriyuo.	Union.	Do.	Do.
29	Mr. Mir Muhammad Arbab.	Member Council, Khetlari.	Council	Do.	Do.

30 Mr. Iudo Khan Member Distt : Do. Do.
Council.

Coopted Members

31	Mr. Ghulam and M.N.A. Wassan.		Not supplied	Muslim League
32	Mr. Khuda M.N.A. Bux Khan Talpur.		Do.	Do.
33	Rana Chandar- sing.	M.N.A.	Do.	Do.
34	Mr. Muhammad Khan.	M.P.A.	Do.	Do.
35	Mr. Haji Muhammad Bux Khan Talpur.	Vice Chairman Distt : Council.	Do.	Do.
36		Secretay Council.	Distt : Do.	Do.
37		Engineer, Council.	Distt : Do.	Do.

Sanghar District

1 All Officer. Nil Nil

Thatta District

1 Dy. Commissioner — —

2 Executive Engineer
B & R. — —

3 Asstt : Commissioner Nil Nil
Thatta.

APPENDIX

1311

4	Dy. Collector Shahbundar.	Nil	Nil
5	Asstt : Director, B.Ds.	—	—
6	District Inspector of Schools.	—	—
7	Extra Asstt : Director of Agriculture.	—	—
8	Project Engineer Rural Works Programme.	—	—
9	Chief Officer Distt : Council.	—	—
10	Haji Sadiq Ali Memon.	M.N.A.	As regards financial
11	Mr. Bashir Ahmed Shah.	M.P.A.	position of the members
12	Mr. Jamal Khan Leghari.	ex-M.P.A.	of the Distt: Project
13	Mr. Sher Ali Shah.	M.P.A.	Committee it has been
14	Mr. Kadirdino Shah.	Vice-Chairman Distt : Council.	reported that all the members are of sound financial position.
15	Mr. Jamaluddin Kohistani.	Chairman Union Council Jhimpir.	—do— —do—

16	Mr. Mohammad Hussan Qureshi.	Chairman Council Gharo.	Union	--do--	--do--
17	Mr. Abdul Ghani.	Chairman Council, Kotri Allah Rakhio Shah.	Union	--do--	--do--
18	Pir Hussain Mian	Chairmen Council Ketibunder.	Union	--do--	--do--
19	Molvi Abdullah	Chairman Council Sujrawal and Member Divisional Council.	Tehsil	--do--	--do--
20	Fakir Mohd Issa.	Chairman, Committee, purbathoro.	Town Mir	--do--	--do--
21	Mr. Ghulam Dastagir	Chairman Council Darro.	Union	--do--	--do--
22	Khalifo Ghulam Hussain.	Chairman Council, Chuharjamali.	Union	--do--	--do--
23	Khalifo Ghulam Kadir.	Chairman Council Jati and Member Divisional Council.	Union	--do--	--do--

Dadu District

No Committee.

APPENDIX V

(Ref : Starred Question No. 10862)

COPY

Copy of Memorandum No. 915-G/G, dated 16-8-1966 from Mr. Karim Nawaz, Chairman, Lahore Municipal Corporation, to the Commissioner, Lahore Division, Lahore.

Subject : — Investment of Municipal Surplus Money.

Gilt edged securities worth Rs. 30,96,100/- relating to various Government loans as detailed below yielding interest at 3% and 4½% per annum of which face value ranged Rs. 96/62 have been sold to the United Bank Ltd., Lahore at 99% of the face value before maturity and the proceeds placed in fixed deposit @ 5% per annum for a period of 4 years.

Sr. No.	Description of loan.	Date.	Face value.
1.	3% 20 years loan	14-2-1948	18,94,900
2.	3% 20 years loan	20-7-1950	11,00,700
3.	4½% 7 years loan	8-10-60	1,00,500
Total :—			30,96,100

2. The Corporation was getting Rs. 94,139/-P.A. as interest on these securities whereas we will now get yearly interest of Rs. 1,54,805/- raising the net increase of Rs. 29,705/- for the first year after adjustment of the deficit of 1% in the face value of these securities and Rs. 60,666/- for the remaining 3 years. This proposal, is therefore, in the best interest of the Corporation.

3. It is, therefore, requested that sanction may kindly be accorded to the investment of Rs. 30,96,100/- with United Bank Ltd, Lahore for the period of four years from 24-5-1966 in terms of Article 49 of Basic Democracies Order, 1959 read with Section 32 of the Municipal Administration Ordinance, 1960.

ATTESTED

Sd/-

Accountant L.M.C.

(COPY)

COPY MEMORANDUM No. C. VI. 34/10875, dated 2-11-66 from the Commissioner, Lahore Division, Lahore to the Chairman, Lahore Municipal Corporation.

Subject :— Investment of Municipal Surplus Money.

Reference your communications noted in the margin on the subject cited above.

No. 915-G/G dated
16.8.66

No. 918-G/G dated
16.8.66

The requisite sanction cannot be granted as in utter disregard repeated directions, you deposited the amount without prior approval.

ATTESTED

Sd/-

Accountant

L.M.C.

(COPY)

IMMEDIATE
CONFIDENTIAL

Copy of Memorandum No. 138/A/CMC/67/G, dated 5th October, 1967, from the Chairman, Lahore Municipal Corporation to the Commissioner, Lahore Division, Lahore.

Subject :— Investment of Surplus Money.

Reference correspondence resting with your memo No. VII-34/10875, dated 2.11.1966 on the above subject.

2. In the above mentioned communication, sanction to the investment of (1) Rs. 30,96,100/- with United Bank Ltd., (2) Rs. 4 lakhs with the Australasia Bank Ltd., and (3) Rs. 2 lakhs with the Commerce Bank Ltd., was not accorded any you were pleased to observe that the requisite sanction cannot be granted "as in utter disregard of repeated directions you (the Chairman, Lahore Municipal Corporation) deposited the amount without prior approval". These investments pertain to the period of my predecessor, but having gone through the record, I make bold to submit that every thing seems to have been done in good faith and in public interest. The investments, which were made in anticipation of your formal approval were made in anticipation of your formal approval were made with the intention of avoiding the loss of interest.

3. The circumstances leading to the investment of Rs. 30,96,100/- were stated in the then Chairman's memo No. 915-G/G dated 16-8-1966. To recapitulate them for facility of reference it may be stated that the market price of gilt-edged securities of Rs. 30,96,100/- which were sold to the United Bank Ltd., was rapidly falling. Their market value at the relevant time ranged from Rs. 96.62 to Rs. 97.00 ; of these securities worth Rs. 92,95,600/- were yielding interest at 3% and the balance of Rs. 1,05,000/- at 4½%. As against these prevailing securities at 99%. Apparently it appears to be a losing proposition but at the same time he secured from the United Bank Ltd., a higher rate of interest of 5% which was to yield an income of Rs. 1,54,805/- per annum to Lahore Municipal

Corporation as against the old yearly interest of Rs. 94,139/-. In short the Lahore Municipal Corporation has benefitted to the tune of approximately Rs. 2.7 lakhs on this transaction in the remaining period of 5 years in which these securities had to mature .

4. The same consideration apparently existed in the case of other two investments with the Australasia Bank and the Commerce Banks.

5. In the circumstances explained above, it is requested that post-facto sanction of these three investments may kindly be accorded. It may be added that now no investment is made without your prior approval.

The delay in the re-submission of this case is regretted but the case came to my notice recently. I am, however, informed that Sardar Karim Nawaz, the Chairman in whose time these investments were made, wished to talk about this matter personally to the Commissioner (Controlling Authority) but presumably he could not do so.

Sd/-

Accountant

L.M.C.

APPENDIX VI

(Ref : Starred Question No. 10865)

Copy

From

The Commissioner,
Lahore Division,
Lahore.

To

The Deputy Commissioners,
Lahore/Sheikhupura/Sialkot and Gujranwala.
Memo No. C/VI/34/5258-61.
Dated Lahore, the 11th June, 1965.

Subject : INVESTMENT OF SURPLUS FUNDS OF LOCAL
BODIES ETC IN GOVERNMENT SECURITIES.

A copy of Memorandum No. SSS (L-11)/65/676, dated 20.5.65, from the Divisional Savings Officer, Lahore Region, Lahore, alongwith its enclosures is sent herewith for strict compliance.

Sd/-(MAZHAR RAFI) CSP,
Director, BDs
for Commissioner, Lahore Division,
Lahore.

Endst No. C/VI/34/5262, dated Lahore the 11.6.1965.

A copy with a copy of its enclosures is forwarded to the Chairman, Lahore Municipal Corporation for similar necessary action.

Sd/-Director BDs,
for Commissioner, Lahore Division.

A copy of memo letter No. SSS(L-II) 65/676, dated 20th May, 1965 from Sardar Aminullah Khan, Divisional Savings Officer, Lahore Division, 31-Lower Mall, Lahore, addressed to the Commissioner, Lahore Division, Lahore.

Subject : INVESTMENT OF SURPLUS FUNDS OF LOCAL BODIES ETC GOVERNMENT SECURITIES.

A copy of memo No. F. 15 (3)-NS. 3/65, dated the 3rd April, 1965, from the Government of Pakistan, Ministry of Finance, Karachi, received through the Advisor Savings, Government of West Pakistan, Lahore, is enclosed.

It is requested that necessary instructions may kindly be issued to all Deputy Commissioners and the Director, Basic Democracies, Lahore Division, to ensure that all Local Bodies invest 40 per cent of their funds in Savings Certificates as desired by Government.

A we have to achieve the annual target of Rs. 1,50,00,000/- fixed by the Government, for Lahore Division, in respect of Savings Certificates, before the close of the current financial year, it is further requested that these instructions may very kindly be issued at an early date.

A copy of Registered letter No. F. 15 (3)-NS. 3/65, dated 3rd April, 1965 from Central Directorate of National Savings Ministry of Finance Government of Pakistan, Karachi-I.

Memorandum

Subject : INVESTMENT OF SURPLUS FUNDS OF LOCAL BODIES ETC IN GOVERNMENT SECURITIES.

1. The undersigned is directed to enclose a copy of the Ministry of Finance O.M.NO. F.6 (I) IF-N/65, of February, 16th, 1965 on the subject mentioned above and to state that according to paragraph i (ii) thereof, 40% of the surplus funds of Government Corporations, authorities, semi-government institutions and Local Bodies relating to security deposits and contributions of the employees to the provident funds etc should be invested in Government Securities,

2. Savings Certificates are one of the more important Government Securities inas much as they yield profit at the rate of 6% per annum (if invested for 10 years). Since Provident Funds and Security deposits (in the case, at any rate, of permanent suppliers and contractors and their deposits), are in the nature of long term investments. National Savings Officers should ensure that Local Bodies etc. do invest their surplus funds to the extent possible in Savings Certificates.

3. Necessary directions to this effect may be issued to them urgently.

Sd/-B. ZAMA
Chief Director National
Savings and ex-officio
Deputy Secretary.

A copy of letter No. F.6 (1) IFIV/65, dated 16th February, 1965, from Deputy Secretary to Government of Pakistan, Ministry of Finance (Internal Finance Wing), Rawalpindi.

Office Memorandum

Subject : REGULATION OF INVESTMENT OF SURPLUS FUNDS OF LOCAL BODIES ETC.

The undersigned is directed to state that the question of regulating the investment of funds of Government corporations, authorities, semi-government institutions, local bodies etc. has been under the consideration of Ministry of Finance. This question was also considered in the Finance Secretaries Conference held at Rawalpindi on the 24th and 25th September 64 and the following decisions relating to the funds of Local Bodies were taken :—

- (1) All local bodies should keep their funds with the Government in a personal or other deposit account at a treasury or sub-treasury, but at any place where there is an office or establishment of a local body but no treasury, a current account with the National Bank of Pakistan may be opened. In the case of Local Bodies having larger number of transactions with the banks, the Government concerned may authorise the maintenance of a current account with the National Bank of Pakistan, even though a treasury or a sub-treasury was located at that place.
- (2) The surplus funds of local bodies relating to security deposits, contributions of the employees towards provident funds etc. should be invested in Government Securities to the extent of 40%. The balance of 60% in order of preference :

West Pakistan :

1. National Bank of Pakistan.
2. Co-operative Banks.
3. Other Scheduled Banks.

East Pakistan :

1. National Bank of Pakistan.
2. Eastern Mercantile Bank.
3. Other Schedule Banks.

- (3) The National Bank of Pakistan should in handling the cash business of the local bodies act as an agent of the State Bank of

Pakistan and include their cash balances in the cash balance of the Central or Provincial Government concerned.

(4) Accounts of Local Bodies with treasuries or sub-treasuries will both receive any interest but deposit accounts referred to in sub-para (ii) above will get interest from the Bank concerned or from the interest receipts of Government Securities.

(5) All other places where there is no branch of the National Bank, the Local Bodies may be allowed to keep their accounts at any of the banks duly approved for the purpose.

2. The Ministries/Divisions concerned are requested to issue immediately instructions to local bodies under their control bringing to their notice the above Government decisions and also emphasising upon them the need for full compliance.

3. As regards the investment of funds of corporations, authorities, etc. Under the control of the Central Government, the matter is under the active consideration of the Ministry of Finance. Decisions in this regard will be communicated to all Ministries/Divisions, as soon as taken.

4. The Ministries/Divisions concerned may also kindly apprise the Ministry of Finance of the action taken by them in this behalf.

Sd/Deputy Secretary to
Government of Pakistan.

To

All Ministries & Divisions.

Copy forwarded to :

1. All Financial Advisors/Deputy Financial Advisors.
2. Comptroller and Auditor General of Pakistan, Lahore.
3. All Accountant Generals.
4. All Treasuries/Sub-Treasuries.
5. Budget (Mr. Nazir Ahmad, S.O).
6. State Bank of Pakistan (Chief Accountant) Karachi for information and necessary action.

APPENDIX VII

(Ref : Starred Question No. 10867)

(Copy)

NO. SOI (LG)-LMC-3 (36)/67.

GOVERNMENT OF WEST PAKISTAN
BASIC DEMOCRACIES, SOCIAL WELFARE AND
LOCAL GOVERNMENT DEPARTMENT

Dated Lahore, the 14th November, 1967.

From

Mr. S.M. Wasim, CSP.,
Secretary to Government, West Pakistan.

To

The Commissioner,
Lahore Division, Lahore.Subject : DEPOSITS OF LAHORE MUNICIPAL CORPORATION
IN VARIOS BANKS.

Memorandum

As you are aware during the current session of the Provincial Assembly a great hue and cry has been raised on the deposits of the Lahore Municipal Corporation funds in banks. It is found that their investment policy has not been balanced and smacks of discriminations. Government are examining the matter in order to devise ways and means to safeguard against such eventualities. But, in the meantime, you are requested to please direct the Lahore Municipal Corporation to have their investments policy carefully devised and have their deposits more evenly distributed with all the safeguards.

Sd/-

(MUHAMMAD AMIN)
SECTION OFFICER I (LG).

No. SOI (LG)-LMC-3(36)/67, Dated Lahore, the 14th November, 1967.

A copy is forwarded to the Chairman, Lahore Municipal Corporation, Lahore.

Sd/-

(MUHAMMAD AMIN)
SECTION OFFICER I (LG).

(Copy)

D.O. No. PA/52.
COMMISSIONER'S OFFICE,
LAHORE DIVISION.
Dated the 5th February, 1968.

My dear WASIM,

The Lahore Municipal Corporation has invested a very substantial amount in various banks. The amount involved is substantial and any decision taken at a level other than the Government will be open to serious criticism. It is, therefore, desired that a firm policy for the investment of surplus funds of Local Bodies may be devised at the Government level and intimated at any early date. Till the policy is available, I will like the LMC to follow a policy devised by the House after open discussion.

Yours sincerely,

Sd/-

(MUKHTAR MASOOD) TQA., CSP.

Mr. S.M. Wasim, CSP.,
Secretary to Government West Pakistan,
Basic Democracies & L.G. Department,
Lahore.

APPENDIX VIII

(Ref : Starred Question No. 10868).

From

Mr. Mohammad Manzoor Ahmad,
Accounts Officer,
Lahore Municipal Corporation.

To

The Manager,
United Bank Limited,
Lahore.
Memorandum No. 5420/G
Dated Lahore, the 10th November, 1966.

Subject : OPENING OF BANK BOOTH IN TOWN HALL
PREMISES.

Reference your Memo No. AH/84 dated 8-11-1966 on the above subject.

2. The Chairman, Lahore Municipal Corporation, has been pleased to allow to open a booth by your Bank in the Town Hall premises on the following conditions :—

1. The room will be corporation property and the Bank will have no propriety right to it.
2. The monthly rent fixed will be payable in advance every month.
3. The Corporation will have the right to get the booth vacated on three month's notice without assigning any reasons.
4. The plan of the construction will be subject to prior approval from the Corporation before the construction is taken in hand which should be completed within 3 months and in the meanwhile a room will be provided on rent temporarily for 3 months and you will have to shift to new premises within 3 months' time.

3. You may please see the Chief Engineer/Chief Officer, Lahore Municipal Corporation in connection with the selection of the site for construction of the Bank Booth

Sd/-

(M. MANZOOR AHMAD)

Accounts Officer,

Lahore Municipal Corporation.

No. 5421/G Dated Lahore, the 10th November, 1966.

A copy is forwarded for information to :-

1. The Chief Engineer, Lahore Municipal Corporation.
2. The Chief Officer, Lahore Municipal Corporation.

APPENDIX IX

Duplicate

(Ref : Starred Question No. 10869)

ABSTRACT

Expenditure Statement upto 31-12-67

Ward No.	Amount Spent.	Amount due from residents.	Amount recovered	Balance
1	2	3	4	5
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	—	—	—	—
2	40,676/-	20,338/-	—	20,338/-
3	16,922/-	8,461/-	—	8,461/-
4	9,802/-	4,901/-	—	4,901/-
5	17,800/-	8,900/-	—	8,903/-
6	52,600/-	26,300/-	—	26,300/-
7	11,694/-	846/-	—	846/-
8	—	—	—	—
9	—do—	—	—	—
10	—do—	—	—	—
11	42,860/-	21,430/-	—	21,430/-
12	6,600/-	3,300/-	—	3,300/-
13	—	—	—	—do—
14	27,615/-	13,807/-	—	13,807/-
15	35,012/-	17,5026/-	—	17,526/-
16	—	—	—	—
17	43,840/-	21,920/-	—	21,920/-
18	25,987/-	12,994/-	—	12,994/-

APPENDIX

1327

19	—	—	—	—
20	—	—	—	—
21	39,119/-	19,559/-	—	19,559/-
22	11,500/-	5,750/-	—	5,750/-
23	—	—	—	—
24	95,192/-	47,596/-	11,800/-	25,796/-
25	1,04,236/-	52,118/-	—	52,118/-
26	57,389/-	28,694/-	604/-	28,096/-
27	50,999/-	25,499/-	—	25,499/-
28	—	—	—	—
29	—	—	—	—
30	65,779/-	32,889/-	—	32,889/-
31	12,514/-	6,257/-	—	6,257/-
32	7,495/-	3,748/-	—	3,748/-
33	7,716/-	3,858/-	—	3,858/-
34	4,000/-	2,000/-	—	2,000/-
35	59,766/-	29,883/-	1,961/-	27,922/-
36	15,570/-	7,785/-	6,900/-	885/-
37	—	—	—	—
38	35,293/-	17,597/-	—	17,597/-
39	4,892/-	2,446/-	—	2,446/-
40	—	—	—	—
41	—	—	—	—
42	7,571/-	3,786/-	—	3,786/-

1328 PROVINCIAL ASSEMBLY OF WEST PAKISTAN [7TH MAY, 1968

43	31,610/-	15,805/-	—	15,805/-
44	24,051/-	12,025/-	—	12,025/-
45	76,129/-	38,064/-	—	38,064/-
46	3,995/-	1,987/-	—	1,987/-
47	4,162/-	2,081/-	—	2,081/-
48	—	—	—	—
49	29,713/-	14,856/-	—	14,856/-
50	9,239/-	4,619/-	—	4,619/-
Total :	10,89,362/-	5,44,681/-	21,265/-	<u>5,23,416</u>

Ward No. 52 tw 60 does not fall under u/s 81 (3).

STATEMENT OF EXPENDITURE UPTO 31-12-1967

S. No.	Name of street & road constructed under 81 (3).	Ward No.	Name of Chairman	Amount spent.	Amount due from residents.	Amount recovered.	Balance.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pavement in street No. 7 Usman Gunj.	2	Sh. Mohd Saleem.	4245/88	2122/94	—	2122/94	
2	Construction of Mahboob Road Habib Gunj.	"	"	19000/-	9500/-	—	9500/-	
3	Construction of drain and pavement in Moghalan Street No. 9 Farooq Gunj.	"	"	4627/81	2312/91	—	2313/91	
4	Providing B/E pavement in street No. 8 Usman Gunj.	"	"	4920/-	2460/-	—	2460/-	
5	B/E pavement in gali 3 Usman Gunj.	"	"	3851/80	1925/90	—	1925/90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	B/E pavement in Gali No. 9 Usman Gunj.	„	„	4030/66	2015/33	—	2015/33	
7	Providing B/E pavement in Umer street No. 47 Wassan Pura.	3	M. Masood Butt.	4371/54	2185/77	—	2185/77	
8	B/E pavement in Khair Din street.	„	„	1455/-	727/90	—	727/90	
9	B/E pavement in Aziz Street No. 20 Chah Miran.	„	„	4878/55	2439/28	—	2439/28	
10	B/B pavement in Yaqoob street No. 13.	„	„	3225/11	1613/06	—	1613/06	
11	B/E pavement in Hafeez street No. 2 Rahim Road.	„	„	2039/79	1019/89	—	1019/89	
12	B/E Pavement in Masjid street No. 48 Wassanpura.	„	„	950/-	475/-	—	475/-	
13	B/E Pavement in Jamia Masjid street Makhanpura.	4	M. Munawar Bey	4292/61	2146/30	—	2146/30	

14	B/E Pavement in Siraj St. Makhanpura.	"	"	3301/-	1650/50	—	1650/50
15	B/E Pavement in Saeed street Makhanpura.	"	"	2208/-	1104/20	—	1104/20
16	B/E Pavement in Fazal Street No. 7	5	Hajee Afzal.	9822/-	4911/-	—	4911/-
17	B/E Pavement in Jamil street No. 27. Misri Shah.	"	"	4380/-	2193/43	—	2193/43
18	B/E Pavement in Hafiz street No. 2 Misri Shah.	"	"	2040/-	1020/-	—	1020/-
19	B/E Pavement in Pehlgam street No. 36 Misri Shah.	"	"	1558/-	779/-	—	779/-
20	Construction of Akbar Road.	6	M. Mohd Hussain.	48500/-	24250/-	—	24250/-
21	Metalling and sealing of Miran Hussain street.	"	"	2200/-	1100/-	—	1100/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Metalling and sealing of Rafique Rafique Street Chah Miran.	"	"	1900/-	950/-	—	950/-	
23	Construction of drain Dhobi Ghat Chah Miran.	7	Malik Bashir Ahmad	1694/91	847/91	—	847/91	
24	B/E Pavement in street No. 6 Ram Garh.	11	Ch : Nazir Ahmad	1637/24	818/62	—	818/62	
25.	—do— street No. 7	"	"	1857/35	928/28	—	928/28	
26	Construction of Main Bazar Ganj Moghalpura.	"	"	26884/95	13442/48	—	13442/48	
27	Construction of drain & Pavement in Gali No. 25 Ganj Moghalpura.	"	"	4000/-	2000/-	—	2000/-	
28	B/E Pavement street No. 10 Moghalpura.	"	"	4900/-	2450/-	—	2450/-	

29	B/E Pavement street No. 24 Moghalpura.	"	"	3581/16	1790/50	—	1790/50
30	Construction of road from Irrigation Channel to Fire stone Ltd. Baghbanpura.	12	M. Mehraj Din.	6600/-	3300/-	6000/-	—
31	Metallineg and sealing of Nafirabad road.	14	Mian Riaz Ahmad	4778/67	2389/34	—	2389/34
32	Construction of road from Sirtaj Mill to Nafirabad.	"	"	6636/-	3318/-	—	3318/-
33	Construction of foot path and portion of Nafirabad Road.	"	"	9600/-	4800/-	—	4800/-
34	Construction of Aurangzab Road, Shalamar Town.	15	M. Nazir Ahmad	9850/-	4935/31	—	4935/31
35	Construction of Sher Shah Road.	"	"	25181/-	12590/67	—	12590/67
36	B/E flooring in street No. (Dhara mpura) Mustafaabad.	17	Ch. Sardar Ahmed	16219/-	8109/50	—	8109/50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Construction of drain and pavement street No. 1 Scheme Mustafabad.	"	"	2859/38	1429/69	—	1429/69	
38	B/E pavement in Sardar St. No. 42 Mustafa Abad. (Maqbool Park).	"	"	2700/-	1350/-	—	1350/-	
39	B/E pavement in Sardar Street Mustafa Abad.	"	"	3600/-	1800/-	—	1800/-	
40	B/E pavement and drain in St. 16 Gulstan Colony.	"	"	11184/60	5592/30	—	5592/30	
41	Construction of drain and pavement in street No. 2 Scheme No. 2 Mustafa Abad.	"	"	7277/34	3638/67	—	3638/67	

42	B/E flooring in Bishan Street Mustafa Abad.	18	Mian Mohd Ishaq	4746/64	2373/32	—	2373/32
42A	B/E pavement in St. No. 50 Mustafa Abad.	"	"	16389/10	8194/59	—	8194/59
43	B/E pavement in Imam Street No. 51 Mustafa Abad.	"	"	4851/32	2425/66	—	2425/66
44	Metalling and sealing of road from Canal Park to Bunglow of Muratab Ali Shah.	21	Malik Mohd Shafi	13481/10	6740/55	—	6740/55
45	Metalling and sealing of Main Bazar Canal Park.	"	"	25637/52	12818/76	—	12818/76
46	B/E pavement and drain Barkat Street Moti Street, Jewan Hana.	22	Ch. Safdar Ali	11500/-	5750/-	—	5750/-
47	Construction of drain along Main Road Shah Din Scheme Ichhra.	24	Mian Maqbool Ahmad	3900/-	1950/-	2800/-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	Metalling and sealing of Sundar Das Road, Ichhra.	"	"	31680/-	15840/-	—	15840/-	
49	Metalling and sealing of Maqbool Road Ichhra.	"	"	37712/43	18856/22	—	18856/22	
50	Metalling and sealing of Khalid street Pakki Thatbi.	"	"	4000/-	2000/-	—	2000/-	
51	Metalling and sealing of Main Bazar Paki Thatbi.	"	"	17900/-	—	9000/-	—	
52	Metalling and sealing of road in Muslim Colony, Samanabad.	25	Rana Nazar-ur Rehman	10295/-	5147/50	—	5147/50	
53	Metalling and sealing of Aiptageen.	"	"	28189/23	14094/67	—	14094/67	
54	Construction of Rehman Road Muslim Colony.	"	"	27020/26	13510/13	—	13510/13	

54 B	Metalling and sealing of Road in New Samanabad.	"	"	38733/03	19366/52	—	19366/52
55	Metalling and sealing of Road in Fazalia Colony.	26	Mian Mobd Sharif.	6244/06	3122/03	—	3122/03
56	Metalling and sealing of Road in Fazalia Colony.	"	"	9400/25	4700/42	—	4700/42
57	Metalling and sealing of Barkat Shah Street Fateh Sher Road.	"	"	2209/88	11004/94	603/90	—
58	Metalling and sealing of Aslam Street Zaildar Park.	"	"	5946/71	2973/36	—	2873/36
59	Metalling and sealing of Street-A Zaildar Park.	26	Mian Mobd Sharif.	6992/54	3496/27	—	3496/27
60	Metalling and sealing of Street-A Zaildar Park.	"	"	6794/73	3397/37	—	3397/37
61	B/E flooring in Tariq Street No. 27.	27	Mian Abdul Kbalig	8100/-	4050/-	—	4050/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	B/E flooring in Ilam Din Street Bagh Gul Begum.	"	"	21000/-	10500/-	—	20500/-	
63	B/E pavement & drain in Faiz & Chiragh Street Bagh Gul Begum.	"	"	11000/-	5500/-	—	5500/-	
	B/E pavement in Kaleem St :	"	"	10898/03	5449/47	—	5449/47	
64	Metalling and sealing street of Sanda Road.	30	Malik Mohd Hussain	7977/43	3988/72	—	3988/72	
65	Construction of drain in Mallot Road.	"	"	2800/-	1400/-	—	1400/-	
66	Construction of drain in Millat Road.	"	"	3814/69	1907/35	—	1907/35	
67	B/E pavement in Chuhani Road Krishan Nagar.	"	"	12033/87	6016/94	—	6016/94	

68	B/E pavement in Rehmat Street Krishan Nagar.	"	"	4728/28	2364/14	—	2364/14
69	B/E pavement in Zahid St :	"	"	8472/82	4236/41	—	4236/41
70	Construction of Arjen Road.	"	"	25958/-	12976/-	—	12976/-
71	B/E pavement and drain Gali No. 6 Raj Garh.	31	Hafiz-Ullah Butt	8500/-	4250/-	—	4250/-
72	B/E flooring in Amin St : Raj Garh.	"	"	4014/70	2007/35	—	2007/35
73	B/E pavement in Moghal St :	32	Ch. Mohd Hussain	3701/22	1850/61	—	1850/61
74	B/E pavement in Begum St : Lytton Road.	"	"	1600/-	800/-	—	800/-
75	B/E pavement in Affandi St :	"	"	2194/20	109 /10	—	1097/10
76	B/E pavement in Allaulah St :	33	Mohd Akbar Khan	867/21	433/60	—	433/60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	B/E pavement & drain in Jundi St :	"	"	2194/20	1097/10	—	1097/10	
78	B/E pavement & drain in Uneen St :	"	"	4654/57	2337/29	—	2327/29	
79	Metalling and sealing Baroocha St :	34	M. Alla-ud-Din Anjam.	4000/-	2000/-	—	2000/-	
80	Metalling and sealing Katcha Race Course Road.	35	M. Mumtaz Ahmad K.	6504/16	3252/80			
81	Metalling and sealing between Lawrence Road and Birdwood Road.	"	"	17000/-	8600/-	1961/75		
82	Metalling and sealing of lane off Warris Road.	"	"	3716/04	1858/02	—	1858/02	
83	Metalling and sealing of ST. off Gulberg Road.	"	"	5071/50	2535/75	—	2535/75	

84	Metalling and sealing of Road OPP ; Imperial Hotel.	"	"	9950/-	4975/-	—	4975/-
85	Metalling and sealing of Murlidar Rd.	"	"	12525/15	6262/58	—	6262/58
86	Metalling and sealing of Race view Road.	"	"	5000/-	2500/-	—	—
87	B/E flooring in front of Kashana-i-Iqbal Garhi Shahu.	36	Ch. Mohd Iqbal	13800/-	—	6900/-	—
88	B/E flooring in Abu-ul-Qasim St. off Burni Street Garhi Shahu.	"	"	1700/-	885/-	—	885/-
89	Construction of Qazilbash Road.	38	Sh. Mohd Amin	15840/-	7920/-	—	7920/-
90	Metalling and sealing street No. 8-A Mohd Nagar.	"	"	4165/-	2082/50	—	2082/50
91	Metalling and sealing street No. 9 Mohd Nagar.	"	"	4335/-	2117/50	—	2117/50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	Metalling and sealing Rafi Street, Mohd Nagar.	"	"	2720/-	1360/-	—	1360/-	
93	Metalling and sealing street No. 6-A Mohd Nagar. & No. 6.	"	"	8233/-	4116/50	—	4116/50	
94	Metalling and sealing Ram Gali No. 5	39	—, Mohd Aslam Butt.	4892/-	2446/-	—	2446/-	
95	B/E pavement in Heri Street off Abdul Karim Road.	42	Ch. Eid Mohd	5053/-	2526/50	—	2526/50	
96	B/E pavement and drain type I in Maufa Bux Street. off Dil Mohd Road.	"	"	2518/-	1259/-	—	1259/-	
97	Construction of Katcha Hall Road.	43	Sh Inayatullah	31610/-	15805/-	—	15805/-	
98	Construction of drain and pavement in Bhagwan Street.	44	M. Mohd Saeed	18711/77	9355/89	—	9355/89	

98-A Construction of drain and pavement in Makand Street.	44	"	5340/-	2670/-	—	2670/-
98-B B/E pavement & drain type No. 1 in various streets Gowalmandi.	45	Kh. Riaz Mohd.	48120/-	24060/-	—	24060/-
99 B/E pavement in Simla Street No. 90, 91, 93, 94, & 95.	45	Kh. Riaz Mohd	19276/-	9638/-	—	9638/-
100 B/E pavement & drain type No. 1 in pertab Street 89.	"	"	8733/-	4366/50	—	4366/50
101 B/E pavement & drain type No. 1 in Krishana Gali No. 6	"	Hajee Ishaq Hanif.	3995/-	1987/50	—	1987/50
102 B/E pavement in Baj Nath street.	47	Sh. Abdnl Wabid	4162/88	2081/44	—	2081/44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	B/E pavement & drain in various streets Bilal Gupj.	49	M. Munawar Ali	4440/77	2220/34	—	2220/34	
104	B/E pavement & drain in Riaz-ud-Din street.	7848/07	3929/04	—	3929/04	
105	B/E pavement & drain in Cali No. 10 I.D. Hospital	11194/04	5597/07	=	5597/72	
106	Construction of Makhdoom Street Shesh Mehal Road.	6230/54	3115/27	—	3115/27	
107	Reconstruction of drain and metalling of Pir Makki Street.	50	M. Riaz Shaid	9239/18	4619/59	—	4619/59	

APPENDIX X

(Ref : Starred Question No. 10972)

A B S T R A C T

	Rs.
1. Tubewells.	9,55,607.00
2. Reservoirs.	Nil
3. Distribution system.	14,22,514.00
4. Sewerage.	15,62,284.00
5. Drainage.	4,46,343.00
Total :	<u>43,86,784.00</u>

Tubewells

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Sinking	Stage of Construction Provided with 2 Cusecs Pump	Temporarily Commissioned	Percentage of progress	Remarks
1	Ghora Shah Tubewell.	65524.00	Completed	Completed	Commissioned	100%	
2	Shad Bagh, Tubewell.	62923.00	Completed	--do--	--do--	--do--	
3	Gulistan Colony, Tubell.	62923.00	--do--	Not yet installed	Not yet.	65%	
4	Shah Jamal (Sharif ParkT/W	--do--	--do--	--do--	--do--	70%	
5	Garden Town Tubewell.	--do--	--do--	--do--	--do--	55%	
6	Vegetable Market, Tubewell.	61667.00	--do--	--do--	--do--	50%	
7	Tilik Nagar Tubewell.	62923.00	--do--	--do--	--do--	--do--	
8	Badami Bagh, Tubewell.	--do--	--do--	--do--	--do--	55%	
9	Lytton Road Tubewell.	--do--	--do--	--do--	--do--	60%	
10	Ghora Shah.	29865.00	--do--	Provided with 2 Cusecs Pump.	--do--	100%	
11	Shad Bagh.	29940.00	--do--	--do--	--do--	--do--	

12	Krishan Nagar.	59805.00	--do--	Replacement of old pump with 1½ Cusecs pump.	--do--	--do--
13	Samanabad.	65630.00	--do--	--do--	--do--	--do--
14	Nawankot.	--do--	--do--	--do--	--do--	--do--
15	Sanat Nagar.	--do--	--do--	Provided with 2 Cusecs Pump.	Commissioned	--do--
16	Simla Hill.	--do--	--do--	--do--	--do--	--do--
17	Fruit Market.	--do--	--do--	--do--	--do--	--do--
Total :		9,55,607.00				

RESERVOIRS.

NIL.

Supply Mains

Name of Work	Estimated cost in thousand rupees.	Stage of work	Target date of completion	Remarks
1	2	3	4	
1 Extension of W/s in St. No. 30 and 41 on Dilwar Street Chairman.	13.44	Completed	—	
2 Extension of W/s in St. No. 9,41 and 16 Chairman, Lahore.	11.33	—do—	—	
3 Laying of W/s main new tubewell to Ghorey Shah Road to feed kot Khawaja Saced, Dilawar St. and adjacent Abadies.	166.70	—do—	—	
4 Extension of W/s distribution system in new Shad Bagh near S.P. Office.	16.24	—do—	—	
5 Extension of W/s in Bharat Nagar, Pak Nagar.	32.14	—do—	—	
6 Extension of W/s distribution lower Jamal Nagar.	40.00	—do—	—	

7	Extension of W/s distributed Punj Mohal Road, Lahore.	29.70	--do--
8	Extension of W/s distribution Majahid St. Sanda Road.	7.00	--do--
9	Extension of W/s distribution Ghari Shahu.	53.00	--do--
10	Extension of W/s distribution Karim Park Ravi Road, Lahore.	7.01	--do--
11	Extension of W/s distribution Hassan Park Mohni Road Lahore.	9.00	--do--
12	Laying 6" i/d C.I. Pipe in Block No. 3, Dharampura, Lahore.	16.69	--do--
13	Laying W/s scheme Shah Din Scheme Ichhra Lahore.	73.31	--do--
14	Laying P.V.C. Pipe 4" i/d in Salah-ud-Din Street Poonch Raad, Lahore.	11626.00	--do--
15	Water Connection to Hotel Intercontinental, Lahore.	36330.00	--do--

1	2	3	4	5
16 Laying 10" i/d C.I. leading main from tubewell to existing main Windsor Park (Ichhra) Lahore.	22707.00	—do—	—	
17 Laying 10" i/d C.I. Pipe leading main from tubewell to existing main Bilal Gunj, Lahore.	14926.00	—do—	—	
18 Laying 10" i/d C.I. Pipe from new tubewell Ghari Shahu to Mayo Road, Lahore.	28050.00	—do—	—	
19 Laying 4" i/d A.C. Pipe Sardarpura Street No. 96, Ichhra Lahore.	10890.00	—do—	—	
20 Laying 10" i/d leading main at Queen's Road Tube-well.	37620.00	—do—	—	
21 Extension of W/s in Race Course Road Area behind Taj Palace Gulberg Road, Lahore.	25850.00	—do—	—	
22 Special repair to tubewell chamber at Windsor Park, Lahore.	395.00	—do—	—	

23	Providing Watersupply connections to Head Office, L.I.T. The Mall, Lahore.	2380.00	—do—	—
24	Laying watersupply pipe line in Guru Nanak Nagar, Lahore.	30520.00	—do—	—
25	Extension of watersupply on Warris Road.	4330.00	—do—	—
26	Extension of Watersupply pipe line in Block A/I, Gulberg III, Lahore.	11550.00	—do—	—
27	Laying floor under lorry stand post on Race Course Road, Lahore.	3400.00	—do—	—
28	Laying 6" i/d A.C. Pipe for watersupply in Rasool Park.	75510.00	98%	18.3.68
29	Construction of pump House at Sbarif Park, Lahore.	18400.00	85%	31.3.68
30	Providing watersupply connection from Shimla Hill to WAPDA HOUSE, Lahore.	126070.00	85%	31.3.68
31	Providing Watersupply in Shah Din Scheme Ichhra Lahore.	73310.00	65%	31.3.68

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

32	Providing Watersupply in Canal Park, Lahore.	102200.00	5%	26.4.68
33	Providing Watersupply Grid connection from Tubewell No. 4 at Canal Park, Lahore.	187500.00	85%	31.3.68
34	Providing Watersupply in Sadiq Park, Ichhra, Lahore.	22160.00	—do—	—
35	Making Grid connection of Windsor Park tubewell with Ichhra Tubewell at Pakistani Chowk, Lahore.	34130.00	—do—	—
36	Providing watersupply Gotam Street, Ichhra, Lahore.	31200.00	—do—	—
37	Grid connection of tubewell in T Block Gulberg, II with Tubewell in A-I Block Gulberg No. III, Lahore.	35900.00	—do—	—

Total : 14,22,514.00

APPENDIX

133

Sewerage

Sr. No.	Name of work	Estimated cost	Stage of work	Target date of completion	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Desilting of link sewer from Chotta Ravi Pumping station, Lahore.	95,200/-	Completed 60% work.	30-4-68	
2	Repair of damaged parts of link sewer joining section Chotta Ravi to Main outfall Lahore.	52,240/-	Completed.		
3	Providing sewerage scheme in Rasul Park.	99,170/-	Work has since been completed.	16.2.68	
4	Providing sewerage scheme in Guru Nagar.	79,800/-	Completed 80% work.	31.3.68	
5	Providing sewerage scheme in Canal Park.	1,58,000/-	70% work completed.	30.4.68	
6	Providing and fixing manhole covers in Gulberg area.	22,720/-	Work has since been completed Estimate is under sanction in	Completed.	
7	Providing drawing and levelling instruments.	13,200/-	Project Director's office.	—	

1	2	3	4	5	6
8	Providing sewers on Rehmanpura & Zaildar Road Ichhra.	1,28,450/-	The work is yet to be allotted to the contractor.	—	—
9	Providing sewerage in a street of E Block near Main Market Gulberg.	14,684/-	The estimate is under sanction.	—	—
10	Providing sewer in Karmaabad Abadi near Mahbub market.	20,676/-	—do—	—	—
11	Providing sewer on Ichhra road & Abdul Ghani Street	91,470/-	—do—	—	—
12	Construction of Complaint centre & SDO's office at Shah-Jamal Water Works.	36,323/-	—do—	—	—
13	Providing main sewer along Wahdat Road.	1,98,372/-	—do—	—	—
14	Providing main sewer along Goulding road, Lawrence and Mason Road.	1,85,000/-	—do—	—	—
15	Providing sewer along Aluptgen road and surrounding streets.	1,19,560/-	Completed 100%	—	—

APPENDIX

16	Laying sewer in Ramgarh colony.	2,09,627/-	--do--
17	Reconstruction of collapsed sewer in Shad Bagh.	37,400/-	--do--
18	Laying sewer in Taimoor Street Temple Road.	9,870/-	--do--
19	Laying sewer on Katcha Ferozepur road.	24,000/-	--do--
20	Laying sewer in Islamia street McLeod Road.	16,770/-	--do--
21	Laying sewer in Madni street Mustafabad.	25,000/-	--do--
22	Laying sewer in Sahuwari Shalimar Road.	10,000/-	--do--
23	Laying sewer in Willa Lachman Singh.	17,300/-	--do--
24	Sewerage in Swami Nagar.	22,900/-	--do--
25	Constn. of M.H, Chambers on Mall Link Road.	2,342/-	--do--
26	Repair of pumping station Shadbagh.	8,000/-	--do--

1	2	3	4	5	6
27	Disposal of Rain water under Railway culvert, Badmi Bagh.	22,950/-	--do--	—	
28	Disposal of rain water from a dip on Gulberg road near Lahore Cantt. Railway station.	24,780/-	--do--	—	
29	Disposal of water from pond near Gau Shalla, Shish Mahal Hosiery.	20,000/-	--do--	—	
30	Repair of M. Hole and Gully Grating Chamber and Provision of C.I. Man-hole covers & Gully gratings at different places in the city (Infantry road, Gulistan colony).	19,360/-	Completed 100 %	—	
31	Laying pipe sewer in Mumtaz street Durand road.	15,805/-	Completed 95 %	15.4.68.	
32	Sewerage scheme in Karim Park, Katcha Ravi road.	1,66,400/-	Completed 5 %	30.6.68.	

	Yet to be started.		
33 Disposal of pond water in Sanda Killa Hakiman.	78,300/-		
34 Laying sewer on Bahawalpur-Ferozpur road, Mozang Chungi.	39,960/-	—do—	
35 Sewerage scheme in Mahbub Park.	1,54,280/-	—do—	
36 Laying sewer on BECO road & Mahboob Road, Badami Bagh.	1,77,000/-	—do—	
37 Disposal of Rain water on A.R. Khan Road, Samanabad.	28,043/-		Tenders are being called
38 Improvement of drainage in Bank square area.	81,200/-	—do—	
39 Improvement of sewerage on Rattigan road.	54,000/-	—do—	
40 Laying sewer lines in Kamal Gunj.	1,37,250/-	—do—	
41 Providing sewer connection & Construction of Manhole chambers on Aibak road and Pan Market Anarkali.	12,000/-	—do—	
Total :—	<u>15,62,284/-</u>		

APPENDIX XI

(Ref : Starred Question No. 11575)

Jashn-e-Rohi 1968.

Details of Income.

1. Sale of tickets.	1,35,132.00
2. Rent of Stalls.	15,989.66
3. Donation etc.	74,830.45

Total : 2,25,952.11

Details of Expenditure Jashn-e-Rohi 1968.

1. Prizes.	17,770.50
2. Printing of certificates etc.	3,774.00
3. Publicity.	11,376.00
4. Serais Moshera.	3,250.00
5. Urdu Moshera.	11,300.00
6. Hussn-e-Qirrat.	2,000.00
7. Drama.	4,000.00
8. Electricity Charges.	5,000.00
9. Illumination Charges.	19,000.00
10. Qawali.	2,950.00
11. Cultural show for three days.	36,150.00
12. Photography.	4,310.00
13. Tentage & Furniture.	20,000.00
14. Miscellaneous (Telephone, feeding of animal charges etc ;)	11,863.48
	<hr/>
Total :	1,52,763.98
	<hr/>

Note :— Some bills are yet to be settled as some of the items of the expenditure are under examination.

The Names Alongwith Official Designations of the Chairman and Members of the Jashan-i-Rohi Committee of Bahawalpur who organised the Jashan-I-Rohi Held on March, 1968.

1. Khawaja Ghulam Mustafa, PCS, Deputy Commissioner, Bahawalpur (Chairman).
2. Saedar Karim Nawaz Khan PCS, Deputy Commissioner, Rahimyar Khan.
3. Malik Ijaz Hussain, PCS, Deputy Commissioner, Bahawalpur.
4. Mr. Fazal Mahmud, Superintendent of Police Bahawalpur.
5. Sh. Ijaz Ahmad, PCS, Addl : District Magistrate, Bahawalpur (Secretary).
6. Sardar Muhammad Aslam Khan Jalwana, M.N.A. Rahimyar Khan.
7. Makhdumul Mulak Ghulam Miran Shah, M.N. A. Rahimyar Khan.
8. Malik Muhammad Qasim M.N.A. Bahawalnagar.
9. Sardar Muhammad Ayub Khan, M.P.A. Bahawalpur.
10. Mr. Abdul Qayyum Qureshi, M.P.A. Hasilpur.
11. Makhdum Shams-ud-Din Gilani, M P.A. Uch Sharif.
12. Qazi Manzoor Ahmad, PCS, Revenue Assistant, Bahawalpur.
13. Mr. Taj Muhammad Khan Lodhi, Magistrate Sect : 30, Bahawalpur.
14. Hafiz Muhammad Saeed Akhtar, Magistrate Sect : 30, Bahawalpur.
15. Sh. Abdur Rashid, Sub-Divisional Magistrate, Ahmadpur East.
16. Mian Abdur Rashid, Magistrate 1st Class, Bahawalpur.

17. Nawab Zulfiqar Ali Khan Alizai, Dy. Sett : Commissioner, Bahawalpur.
18. Mr. Sultan Jan Khan, Dy. Director, Food, Bahawalpur.
19. Mian Nur Ahma', District Food Controller, Bahawalpur.
20. Mr. Zia-ul-Hassan Qureshi, PCS, AC (G) & Magistrate 1st Class. B Pur.
21. Mr. Ihsan-ul-Haque, Magistrate 1st Class. Hasilpur.
22. Rana Muhammad Afzal, Extra Asstt : Commissioner (UT) Bahawalpur.
23. Mr. Rahim Bakhsh Gill, Dy. Supdt. of Police, H.Qs. Bahawalpur.
24. Mr. Munir Ahmad, Excise and Taxation Officer, Bahawalpur.
25. Mr. B.A. Zaidi, Divisional Savings Officer, Bahawalpur.
26. Mr Z.M. Chaudhry Assistant Director, B.Ds., Bahawalpur.
27. Mr. Tajjamal Hussain, Chairman, M. C. Bahawalpur.
28. Mian Bahadar Sultan, Vice-Chairman, D.C. Bahawalpur.
29. Seth Obaid-ur-Rehman, Vice-Chairman. M C. Bahawalpur.
30. Malik Allah Wasaya, Vice-Chairman M.C. Ahmadpur East.
31. Lt. Fazal Din, Chairman, T.C. Hasilpur.
32. Mr. Habib-ur-Rehman Malik, Assistant Director of Information B. Pur.
33. Makhdum Ghulam Akbar Chairman, Town Committee Uch Sharif.
34. Mian Sardar Ahmad, Khanqa Sharif.

35. Mian Nizam-ud-Din, Haider, Bahawalpur.
36. Sardar Muhammad Afzal Khan Jalwana, Bahawalpur.
37. Sh. Fazal-ur-Rehman, Bahawalpur.
38. Qazi Nawab Ali, Divisional Inspector of Schools, Bahawalpur.
39. M. Altaf Qureshi, Bahawalpur.
40. Syed Farid Hussain Shah, Chairman, U. C. No 1, Bahawalpur.
41. Ch. Ali Muhammad, Chairman, U. C. Yazman.
42. Ch. Muhammad Milkiat, Chairman. U.C. Chak 44/DB.
43. Syed Rafiq Shah, Land Lord, Bahawalnagar.
44. Malik Abdul Hameed Khan. Publicity-cum-Executive Officer, Family Planning, Bahawalpur.
45. Syed Niaz Ahmad Shah, Secretary, Improvement Trust Bahawalpur.
46. Syed Kabir Hussain Shah, Consolidation Officer, Bahawalpur.
47. Sh. Habib Ullah Tehsildar, Bahawalpur.
48. Jam Jan Muhammad Tehsildar, Ahmadpur East.
49. Ch. Majeed Akhtar Tehsildar Hasilpur.
50. S. Hassan Shah Naib Tehsildar, Yazman.
51. S. Altaf Rashid Shah, Naib Tehsildar, Khairpur Tamewali.
52. Mr. Sultan Ahmad Akhtar, Chief Officer, D/C, Bahawalpur.
53. Agha Sikandar Mehdi, A.D. Is. Bahawalpur.
54. Sh. Muhammad Iqbal, Superintendent, Commissioner's Office.

55. Ghazi Abdur Rehman, Teacher, S. D. High School, Bahawalpur.
56. Mr. G. M. Shah, District Health Officer, Bahawalpur.
57. Mian Muhammad Mubarak Abbasi, Dera Nawab Sahib.
58. Mian Ghulam Hussain Daultana, Chairman, U C. Pallah.
59. Sardar Abdullah Khan Babar Chairman. U/C Kotla Musa Khan.

END